

# ردّ قادیانیت

## رسائل

- حضرت مولانا ابو سعید العزیز
- حضرت مولانا عبث الحقی امرتسری
- حضرت مولانا حکیم عبدالغنی
- حضرت مولانا حکیم ولی الدین چلبوی
- حضرت مولانا عبث العظیم صدیقی
- حضرت مولانا محمد الیزن کابرنہ کابچہ
- حضرت مولانا مفتی غلام مرتضیٰ مبانوی
- حضرت مولانا محمد یعقوب رحمانی
- حضرت مولانا سید محمد عرب کئی

# احتساب قادیانیت

جلد ۲۸

عالمی مجلس تحفظِ ختمِ نبوت

حضورى باغ روڈ، ملتان - فون : 061-4783486

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نام کتاب : احتساب کا دیباچہ جلد اول تا تیس (۳۸)

مصنفین : حضرت مولانا ابو عمر عبدالعزیز  
 حضرت مولانا حکیم عبدالغنی  
 حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی  
 حضرت مولانا مفتی غلام مرتضیٰ مہانوی  
 حضرت مولانا عبدالحی امرتسری  
 حضرت مولانا حکیم ولی الدین بھانگلوی  
 حضرت مولانا محمد الدین کابھتہ کاچھ  
 حضرت مولانا محمد یعسوب رحمانی  
 حضرت مولانا سید محمد عرب کئی

صفحات : ۵۰۳

قیمت : ۳۰۰ روپے

مطبع : ناصر زین پریس لاہور

طبع اول : ستمبر ۲۰۱۲ء

ناشر : عالی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان

Ph: 061-4783486

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## فہرست رسائل مشمولہ..... احتساب قادیانیت جلد ۲۸

- ۴ عرض مرتب حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلہ
- ۱..... تبلیغی وفد حضرت مولانا ابو عمر عبدالعزیزؒ
- ۲..... الحق المبین حضرت مولانا حکیم عبدالغنیؒ
- ۳..... مرزائی حقیقت کا انکھار حضرت مولانا عبدالحلیم صدیقیؒ
- ۴..... فتنم نبوت حضرت مولانا مفتی غلام مرتضیٰ بریلویؒ
- ۵..... تذکرۃ العباد (لکھنؤ پتروا بقوال لعل الحداد) حضرت مولانا عبدالحی امرتسریؒ
- ۶..... محکمات ربانی، لنسخ القالیہ قادیانی حضرت مولانا حکیم ہادی الدین ہماچلویؒ
- ۷..... فیملہ قرآنی معروف بہ کذب قادیانی حضرت مولانا محمد الدین کابندکامچہؒ
- ۸..... حقیقت مرزا حضرت مولانا محمد یعسوب رحمانیؒ
- ۹..... الکلام الفصیح فی تحقیق الحیات حضرت مولانا سید محمد عربؒ

المسیح (الملقب بہ اسم تار یحییٰ)

ایتردیہ غلام احمد قادیانی ۱۹۳۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

## عرض مرتب

- الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!
- قارئین کرام! بیچے اللہ رب العزت کے فضل و کرم و احسان سے احتساب قادیانیت کی جلد اول تا بیس (۲۸) پیش خدمت ہے۔ اس جلد میں سب سے پہلے:
- ۱..... تبلیغی تحفہ: جناب مولانا ابو عمر عبدالعزیز نے سوال و جواب پر یہ رسالہ مرتب کیا۔ جمادی الثانی ۱۳۵۱ھ مطابق اکتوبر ۱۹۳۲ء میں اولاً لاہور سے شائع ہوا۔ اس جلد میں پیش خدمت ہے۔
- ۲..... الحق السبین: مولانا حکیم عبدالغنی ناظم، جمہوریہ انوالی ضلع کجرات نے اس کو ۱۹۳۳ء میں مرتب کیا۔ موصوف کے مناقضات مرزا، و اعتقادات مرزا پر بھی دور سائل ہیں۔ لیکن وہ دستیاب نہ ہو پائے۔ اخبار ”روزنامہ احسان لاہور“ کی اشاعت ۲۳ دسمبر ۱۹۳۳ء میں قادیانیوں کے نو سوال شائع ہوئے۔ جس کا مسلمانوں سے جواب طلب کیا گیا تھا۔ مولانا عبدالغنی صاحب نے ”الحق السبین“ کے نام سے ہر سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ جس سے یہ کتاب تیار ہو گئی۔ خوب مطلوباتی اور ثقاہت سے بھرپور کتاب ہے۔ مولانا عبدالغنی صاحب کا ۲۵ مئی ۱۹۶۶ء کو وصال ہوا۔
- ۳..... مرزائی حقیقت کا اظہار: حضرت مولانا عبدالعظیم صدیقی قادری حنفی میرٹھی ماریش میں عرصہ تک قیام پذیر رہ کر خدمت اسلام کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ آپ کی تبلیغ حق سے سینکڑوں بندگان خدا غیر مسلم افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان میں قادیانی بھی تھے جو مولانا شاہ عبدالعظیم صدیقی کی تبلیغ اسلام سے مسلمان ہوئے۔ ان دنوں ماریش میں قادیانیوں کا مربی ایک حافظ قادیانی تھا۔ مولانا شاہ عبدالعظیم صاحب کی لاکار حق کے باوجود کبھی رو برو آنے کی جرأت نہ کر پایا۔ مولانا شاہ عبدالعظیم صاحب نے ایک جلسہ میں اعلان فرمایا کہ میں اب ماریش چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہا ہوں۔ ابیس اعظم نے اس قادیانی مربی کے کان میں پھونک مار دی کہ اب موقع ہے ڈیک پے ڈیک مار کر جہاز قادیان کے سامنے نمبر بنالو۔ اس نے ایسے وقت میں دو پمفلٹ لکھ کر شائع کئے۔ جن دنوں مولانا شاہ عبدالعظیم سفر کے لئے پارکاب تھان پمفلٹوں کی تقسیم ہو گئی۔ آپ نے پمفلٹ لیا۔ بحری جہاز کا سفر تھا۔ جتنے دن جہاز میں رہے ان تمام پمفلٹس کا جواب لکھ دیا۔ قادیانی پمفلٹوں کا نام اظہار حقیقت نمبر ۲۱، ۲۲ تھا۔ مولانا نے سب کا جواب ”مرزائی اظہار حقیقت“ کے نام سے یہ جامع کتابچہ مرتب فرمایا۔ یکم مئی ۱۹۲۹ء کو یہ مکمل ہوا۔ مولانا شاہ عبدالعظیم صدیقی کا ۲۳ مارچ ۱۹۵۳ء کو



وصال ہوا۔ مدینہ طیبہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ زہبہ نصیب!

حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی کے چالیسین حضرت مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم تھے۔ باپ مولانا عبدالعلیم صدیقی نے قادیانیت کے خلاف اوائل میں تحریک اٹھائی۔ بیٹے نے قومی اسمبلی میں ان کو کافر قرار دلوایا۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی سے فقیر کے استاذ محترم مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر کے برادرانہ تعلقات تھے۔ مل کر رد قادیانیت پر کام کیا۔ اس لئے مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت مولانا لال حسین اختر کو ”چچا حضور“ فرمایا کرتے تھے۔ کہاں رہیں اب وہ محبتیں، اب تو عقربنی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔

۴..... ختم نبوت: حضرت مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صاحب میانی ضلع سرگودھا کے رہائشی تھے۔ نامور عالم دین تھے۔ مقولات و مقولات پر ان کو بھرپور گرفت حاصل تھی۔ آپ کی ایک کتاب ”الظفر الرحمانی فی کشف القادیانی“ احتساب قادیانیت کی جلد اٹھائیس (۲۸) میں ہم شائع کر چکے ہیں۔ آپ کا یہ رسالہ بھی اسی جلد میں شائع ہونا چاہئے تھا۔ مگر اس وقت دستیاب نہ ہوا۔ اب اس جلد میں پیش خدمت ہے۔

۵..... تذکرة العباد (لکیلا یفتروا باقوال اهل الحاد): قادیانیوں کو جل کرتے ہیں کہ عذاب آرہے ہیں جو مرزا قادیانی کی تکذیب کی وجہ سے ہیں۔ مصنف نے جواب دیا کہ عذاب کے نزول کے کئی اسباب ہیں۔ نبی کے انکار سے عذاب شیء دگر ہے۔ ورنہ جب بھی عذاب آئے تو کوئی نبی ماننا پڑے گا۔ حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔ مؤلف مولانا عبدالحی بن مولانا محمد عثمان ہیں۔ برقی مطبع امرتسر سے اولاً شائع ہوئی۔ خوب معلوماتی کتاب ہے۔

۶..... محکمات ربانی، لنسخ القایہ قادیانی: حجتہ اللہ علی الارض حضرت مولانا محمد علی موگیلوی نے ”فیصلہ آسمانی“ کتاب مرزا قادیانی کے رد میں تالیف فرمائی۔ قادیانیت کے نفس ناطقہ عبدالماجد قادیانی بھاگلپوری نے ”القائے ربانی بتروید فیصلہ ابوالاحمد رحمانی“ اس کتاب کے رد میں تحریر کی۔ اللہ رب العزت نے فضل کا معاملہ فرمایا کہ عبدالماجد قادیانی کے رشتہ دار حکیم حافظ مولانا ولی الدین پورینی بھاگل پوری نے عبدالماجد قادیانی کی کتاب القایے ربانی کے رد میں ”محکمات ربانی لنسخ القایہ قادیانی“ تحریر کر کے قادیانیوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ یہ کتاب کم از کم ایک صدی قبل کی ہوگی جو اس جلد میں شامل کی جا رہی ہے۔

۷..... فیصلہ قرآنی معروف بہ تکذیب قادیانی: حکیم حافظ مولانا محمد الدین کاہنہ کا چچا لاہور نے ۱۳۳۲ھ مطابق ۱۹۰۴ء مرزا قادیانی کی عین حین حیات یہ کتاب شائع کی۔ ۱۳۳۲ھ میں پہلی بار

شائع ہوئی۔ اب ۱۳۳۳ھ تک سو گیارہ سال بعد اس کی دوبارہ اشاعت ہمارے لئے باعث خوشی ہے۔  
 .....۸ حقیقت مرزا: مولانا محمد یعسوب رحمانی نے اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی حقیقت  
 ناواقف مسلمانوں کی اطلاع کے لئے بیان کی ہے کہ مرزا قادیانی کو محض صاحب شریعت نبی  
 ہونے کا دعویٰ نہیں بلکہ نعوذ باللہ ان کو خدا کا بیٹا اور اس سے بھی بڑھ کر خدا ہونے کا دعویٰ تھا۔ آخر  
 میں مرزا قادیانی کے قصیدہ اعجازیہ کی صربی، نحوی، عروضی غلطیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ ایک صدی  
 قبل کا یہ رسالہ اب دوبارہ یہاں شائع ہو رہا ہے۔ فالحمد لله!

.....۹ الکلام الفصیح فی تحقیق الحیات المسیح (الملقب بہ اسم  
 تاریخی) ابواب تردید غلام احمد قادیانی ۱۹۳۰ء: مولانا مفتی قاری حافظ السید محمد عرب کی  
 حنفی قادری سنوی نے حیات حضرت مسیح علیہ السلام اور رفع جسمانی قرآن کریم سے ثابت کیا ہے  
 اور قادیان مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے کذب و افتراء کے ثبوت میں نہایت روشن دلائل  
 اور محققانہ مباحث درج کئے ہیں۔

غرض احتساب قادیانیت جلد اڑتالیس (۲۸) میں:

.....۱	مولانا ابو عمر عبدالعزیزؒ	کا	۱	رسالہ
.....۲	مولانا حکیم عبدالغنیؒ	کا	۱	رسالہ
.....۳	حضرت مولانا عبدالعظیم صدیقیؒ	کا	۱	رسالہ
.....۴	حضرت مولانا مفتی غلام مرتضیٰ میانویؒ	کا	۱	رسالہ
.....۵	حضرت مولانا عبدالحی امرتسریؒ	کا	۱	رسالہ
.....۶	حکیم مولانا ولی الدین بھنگپوریؒ	کا	۱	رسالہ
.....۷	مولانا محمد الدینؒ کا ہند کا چمہ	کا	۱	رسالہ
.....۸	مولانا محمد یعسوب رحمانیؒ	کا	۱	رسالہ
.....۹	مولانا سید محمد عرب کٹی	کا	۱	رسالہ

گویا ۹ حضرات کے کل ۹ رسائل

احتساب قادیانی کی جلد ۲۸ میں اشاعت پذیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔

اگلی جلد کی اشاعت تک کے لئے طلب اجازت کے ساتھ دعائے خیر کی درخواست کرتا ہوں۔

محتاج دعاء: فقیر اللہ وسایا!

فلحمد لله علی ذالک!

۲۹ رمضان المبارک ۱۳۳۳ھ، بمطابق ۱۸ اگست ۲۰۱۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَارَأَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

# تبلغني تحفة



حضرت مولانا ابو عمر عبدالعزیز

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم!

اس سلسلہ اشاعت ”حرز ایمان“ کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی ہے کہ مرزائی ایجنٹ مرزا صاحب کے اقوال والہامات جو طبع کی صورت میں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اقوال والہامات کو ان کے اصلی رنگ میں ظاہر کر کے امت مسلمہ کو اس گمراہی سے بچایا جائے۔ مرزا قادیانی کے تمام دعویٰ جو خدا کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ آپس میں متضاد ہیں۔

نبوت سے انکار

مرزائیوں کے امیر مولوی محمد علی نے دعوت عمل ص ۲۰ پر ایک سرفی ”دعویٰ نبوت کا غلط اعتراض“ کے ماتحت مرزا قادیانی کا ایک اعلان درج کیا ہے۔ جس سے اس کا مقصد مرزا قادیانی کی نبوت سے انکار ہے۔ ذیل میں منقول ہے: ”اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر کے بعض اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں۔ کہ یہ شخص نبوت کا مدعی، ملائکہ کا منکر، بہشت دوزخ کا انکاری اور ایسا ہی وجود جبرائیل اور لیلۃ القدر اور معجزات اور معراج نبوی سے بکلی منکر ہے۔ لہذا میں اظہار الحق خاص و عام اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اس کو یہ الزام سراسر افتراء ہے۔ نہ میں نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں۔ جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں۔ اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صلی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو گئی۔“ (اعلان ۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء، مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۳۰) کو شائع ہوا۔

نبوت کا دعویٰ

۱..... (داغ البلاء ص ۵، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۶) ”تم سمجھو کہ قادیان اس لئے محفوظ رکھا گیا کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔“

۲..... ”طاعون کو ستر برس تک دنیا میں رہے قادیان کو اس کے خوفناک چاہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور یہ نشان امتوں کے لئے نشان ہے۔“ (دافع البلاء ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰، دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) پر۔ ”سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔“

۳..... اشتہار مرزا قادیانی ”پس میں جبکہ میں اس وقت تک ڈیڑھ سو پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر چشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں تو اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیونکر انکار کروں اور جبکہ خدا تعالیٰ نے یہ میرے نام رکھے ہیں۔ تو میں کیونکر رد کروں اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کلمے کلمے وحی پر ایمان رکھتا ہوں جو مجھے ہوئی۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۳۳۵)

آنحضرت ﷺ کی تو ہیں

(الفضل ۱۷ مئی ۱۹۳۰ء) ”قرآن میں بعض ایسی پیش گوئیاں ہیں۔ جن کا حقیقی مفہوم

رسول اللہ ﷺ پر بھی نہیں کھلا۔“

۲..... (ازالہ اوہام ص ۴۰، خزائن ج ۳ ص ۳۱۱) ”آپ نے امت کے سمجھانے کے لئے خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔“

۳..... ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہیں

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔

(دافع البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا۔ جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا۔“ (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

۲..... (ضمیمہ انجام آختم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) ”حضرت مسیح کی تین نانیاں اور دوادیاں زنا کار تھیں اور کبھی حور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔“



۳..... (حاشیہ کشتی نوح ص ۶۵، خزائن ج ۱۹ ص ۷۱) ”یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے شاید بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔“

۴.....

اینک منم کہ حسب بشارت آدمم  
عیسیٰ کجاست تابنهد پابمنبرم

(ازالہ ادہام ۱۵۸، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

۵..... (اخبار بدر مورخہ ۹ مئی) ”ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام زمین پر آئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی کروڑ مشرک دنیا میں ہو گئے۔ دوبارہ آ کر دنیا میں کیا بتائیں گے کہ لوگ ان کے آنے کے خواہش مند ہیں۔“

۶..... (ضمیر انجام آختم ص ۵، خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹) (الف) ”یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔“

(ب) ”عیسائیوں نے بہت سے معجزات آپ کے لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا آپ کے ہاتھ میں سوا کر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔“

(ضمیر انجام آختم ص ۶، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

بہشت اور دوزخ سے انکار

”دوزخ و بہشت اور ان کے آلام و نعیم کا خارجی و جسمانی وجود نہیں ہے۔ بلکہ صرف ظنی و مثالی وجود ہے۔ جو انسان کی روحانی حالتوں کے اظلال و آثار ہوں۔“ (دیکھو لیکچر مرزا قادیانی اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۶۷، خزائن ج ۱۰ ص ۴۱۳) ”اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا و عملوا الصلحت ان لهم جنت تجرى من تحتها الانهار۔ مرزائی صاحبان کو اختیار ہے کہ وہ خدا کی بات مانیں یا مرزا کی۔ لیکن بات اس کی ماننی چاہئے جو رب العالمین ہے۔

اب مولوی محمد علی مرزا نے انہوں کے امیر جواب دیں کہ بے شک وہ اعلان تو آپ کے حضرت مجدد مرزائے قادیانی کا ہے کہ: ”میں نبوت و رسالت کے مدعی کو کافر جانتا ہوں۔“ لیکن

دوسرے اقوال و دعادی کا مدعی کون ہے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔  
انصاف! انصاف! انصاف! اگر مولوی محمد علی انصاف پسند ہیں تو اس کا جواب دیں یا مرزا ایت  
چھوڑ دیں۔

اپنی عمر کے متعلق قادیانی نبی منشی غلام احمد آنجنہانی کے متضاد بیانات  
کراچی کے مولانا احمد صدیق نے منشی غلام احمد آنجنہانی کی عمر کے متعلق ان کے متضاد  
بیانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذیل کی دلچسپ داستان مرتب کی ہے۔ (زمیندار)  
سوال..... مرزا قادیانی فرمائیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے عمر کے متعلق کوئی وعدہ کیا ہے کہ آپ  
کی عمر کتنی ہوگی؟

جواب..... جی ہاں! ”خداے تعالیٰ نے مجھے صریح الفاظ میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اسی برس کی  
ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۷، جزاں  
ج ۲ ص ۲۵۹) اس الہام سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کی عمر ۷۴ سال سے کم نہ ہونی چاہئے۔ اگر  
۷۴ سال سے کم نکلی تو مرزا قادیانی کا کذب ثابت ہوں گے اور الہام بھی غلط ہوگا۔

موت

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی مئی ۱۹۰۸ء میں مرض ہیضہ میں گرفتار  
ہو کر بمقام لاہور وفات پا گئے۔

پیدائش مرزا قادیانی

سوال..... مرزا قادیانی آپ کب پیدا ہوئے ہیں؟

جواب..... میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکسوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔

(حیات الہی میں ص ۱۵۹ کتاب البریہ ص ۱۳۶، جزاں ج ۳ ص ۱۷۷)

سوال..... مرزا قادیانی اس بات کے گواہ کون کون ہیں کہ واقعی آپ ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوئے؟

جواب..... اے بے باک سندھی ایک گواہ نہیں بلکہ سینکڑوں گواہ اس بات کے ہیں۔ سن کتاب  
مذہب اسلام صفحہ ۷۰۔ کتاب محقق ص ۹ رسالہ سوانح میلہ کذاب صفحہ ۱، کتاب اخبار الحکم  
۱۹۰۳ء، ۱۹۰۸ء اخبار بدر ۱۹۰۲ء، ۱۹۰۶ء اور میرا خلیفہ اول مولوی نور الدین کی کتاب نور الدین  
کے ص ۷۰ پر لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں ہوئی ہے۔

سوال..... اور بھی کوئی حجب گواہ ہے؟

جواب..... ہاں سن! میری کتاب براہین احمدیہ حصہ اول ۶۰ پر لکھا ہے کہ: ”۱۸۳۹ء مطابق ۱۲۵۵ھ دنیا کی تواریخ میں بہت بڑا مبارک سال ہے جس میں خدا تعالیٰ نے مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر قادیان میں وہ موعود مہدی پیدا فرمایا۔ جس کے لئے اتنی تیاریاں زمین و آسمان پر ہو رہی تھیں۔ م ۶۰ اور مسیح موعود کی ولادت اور راجہ رنجیت سنگھ کی موت کا ایک ہی سال میں واقع ہونا مرسلانہ بعثت کے نشانات کا مظہر ثابت ہوتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کسی سلطنت کا تاج تھا جو مسیح موعود کے پیدا ہوتے ہی ۲۷ جون ۱۸۳۹ کو گر کر خاک میں مل گیا۔“

(مسیح موعود کے حالات مرتبہ معراج الدین قادیانی م ۶۰، ۶۱، ملحقہ براہین احمدیہ ایڈیشن اول)

ان مندرجہ تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی آنجنمانی ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوئے اگر کسی مرزائی کو شک ہو تو کافر ہو کر مرے۔

نتیجہ

اب معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۸ء میں مرگئے تو اس حساب سے مرزا قادیانی کی عمر ۶۹ برس کی ہوتی ہے نہ کہ ۷۲ برس کی لہذا الہام غلط اور مرزا قادیانی کا کذب ثابت ہوئے ہائے افسوس جب تقدیر بگڑتی ہے تو اپنا خون ہی دشمن ہو جاتا ہے۔

سوال..... مرزا قادیانی اس وقت ۱۸۹۳ء میں آپ کی کتنی عمر ہوگی؟

جواب..... ”اس عاجز کی عمر اس وقت پچاس برس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔“

(نزدول المسیح ص ۸۷، جزائن ج ۱ ص ۵۵۶ و آئینہ کمالات اسلام ص ۵۷، جزائن ج ۵ ص ۵۷)

اس حساب سے معلوم ہوا کہ ۵۰ + ۱۵ = ۶۵ برس کی عمر ہوتی ہے۔ نہ کہ ۷۲ برس، لہذا

الہام غلط اور مرزا قادیانی کا کذب ثابت ہوئے۔

سوال..... مرزا قادیانی اس وقت ۱۸۹۶ء میں آپ کی کتنی عمر ہوگی۔ بے ایمانی چھوڑ کر جواب دیجئے۔

جواب..... ”اس وقت ۱۸۹۶ء میں میری عمر ۶۳ برس کی ہے۔“

(اعجاز احمدی ص ۳، جزائن ج ۱ ص ۱۰۹)

مرزا قادیانی کی قابلیت دیکھئے کہ ۱۸۹۳ء میں ۵۰ برس کی عمر بتاتے ہیں تو ۱۸۹۶ء میں

۶۳ برس کے بن گئے۔ حالانکہ ۱۸۹۶ء میں مرزا قادیانی کی عمر ۵۷ برس کی ہوتی ہے۔ مگر وہ مرزا  
عی کیا جو جی بول جائے؟

سوال..... مرزا قادیانی اس وقت ۱۹۰۲ء میں آپ کی کتنی عمر ہوگی؟

جواب..... ”۶۰ برس کی عمر جو تخمیناً میری عمر کا اندازہ ہے۔“ (کتاب منکورا لہجی)

۱۹۰۲ء میں مرزا قادیانی اپنی عمر ۶۰ برس کی بتاتے ہیں۔ اور ۱۹۰۸ء میں مر جاتے ہیں تو

اس حساب مرزا قادیانی کی عمر ۶۶ برس کی ثابت ہوتی ہے۔ نہ کہ ۷۲ برس لہذا الہام غلط اور مرزا  
قادیانی کا ذب ثابت ہوئے۔

حل طلب معہ

مرزا قادیانی ۱۸۹۶ء میں اپنی عمر ۶۳ برس کی بتاتے ہیں اور ۱۹۰۲ء میں ۶۰ کی امید ہے

کہ پاپائے قادیان اور حضرت لم سچھ لال بھنگلو اس معہ کو جلد حل کریں گے۔ تم نے بیمار محبت کو بھی  
کیا دیکھا جو یہ کہتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا دیکھا۔

سوال..... اچھا جناب مرزا قادیانی ۱۹۰۲ء میں آپ کی عمر ۶۰ برس کی ہے تو اس وقت ۱۹۰۳ء میں  
آپ کی عمر کتنی ہوگی؟

جواب..... ”اس وقت ۱۹۰۳ء میں میں ستر برس کے قریب ہوں۔“

(تقریر حقیقت الوقایہ، خزائن ج ۳۳ ص ۵۰۲)

مرزائی دوستوں اپنے پورے مشہور نسخہ کو سنیا ۱۹۰۲ء میں ۶۰ برس کی عمر بتاتے ہیں اور ۱۹۰۳ء

پورے ستر برس کے ہو جاتے ہیں جو مجھے تو ایک سال اور لکھتے ہیں دس سال۔

سوال..... مرزا قادیانی اس وقت ۱۹۰۳ء میں آپ کی کتنی عمر ہوگی۔ ایمان داری سے کہنا؟

جواب..... ”اس وقت ۱۹۰۳ء میں میری عمر ۶۵ برس کی ہے۔“ (بعدالت لالہ موتی رام معہ اخبار الحکم

ج ۸ نمبر ۹، مورخہ ۲۶ مارچ ۱۹۰۳ء میں اپنی اے اکثر اسٹینٹ کسٹرو دیکھ بول گورنر سپورٹ جولائی ۱۹۰۳ء)

اور واقعی ٹھیک عمر یہی ہے۔ اس حساب سے معلوم ہوا کہ  $۶۵ + ۳ = ۶۹$  برس کی عمر مرزا قادیانی کی  
ہوتی ہے نہ کہ ۷۲ سال لہذا الہام غلط اور مرزا قادیانی کا ذب ثابت ہوئے۔

سوال..... مرزا قادیانی میں اس وقت ۱۹۰۵ء میں آپ کی عمر کتنی ہوگی۔ ایمان چھوڑ کر کہنا۔

جواب..... ”اب میری عمر ۱۹۰۵ء میں ستر برس کے قریب ہے۔“

(برائین احمد یہ حصہ، مج ۷ ص ۹۷ مطبوعہ ۱۹۰۵ء، خزائن ج ۳۱ ص ۱۵۸)

غرضیکہ مرزا قادیانی:

۱۸۹۳ء میں اپنی عمر ۵۰ برس بتاتے ہیں۔ ۱۸۹۶ء میں اپنی عمر ۶۴ برس بتاتے ہیں۔

۱۹۰۲ء میں اپنی عمر ۶۰ برس بتاتے ہیں۔ ۱۹۰۳ء میں اپنی عمر ۷۰ برس بتاتے ہیں۔

۱۹۰۴ء میں اپنی عمر ۶۵ برس بتاتے ہیں۔ ۱۹۰۵ء میں اپنی عمر ۷۰ برس بتاتے ہیں۔

پھر کلہو کے محل کی طرح ۱۹۰۷ء میں اپنی عمر ۶۸ سال لکھتے ہیں۔

(حقیقت الہوی ۲۰۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۹)

قادیانیو! جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے سمجھنے کے لئے زیادہ عقل کی ضرورت نہیں بلکہ میں مرزا قادیانی کی بات سے ہی مرزا کو کاذب ثابت کرتا ہوں۔

(چشمہ معرفت ص ۵۹، خزائن ج ۲۳ ص ۶۷)

سوال..... مرزا قادیانی یہ آخری سوال ہے اور آپ کو آپ کی منکوحہ آسانی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں سچ بتائیے کہ اس وقت ۱۹۰۷ء میں آپ کی کتنی عمر ہوگی؟

جواب..... ”ادحرام زادے۔ کافر“ سوز جنگلی ”ولد حرام“ من جبکہ تو نے مجھے منکوحہ آسانی کی قسم دی ہے۔ تو اس میں جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ ”وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ خواہ پہلے ہی ہا کرہ ہونے کی حالت میں ہی آجائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آئے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۱۹)

سوال..... تو آپ کو اب تک امید ہے کہ وہ منکوحہ آسانی ضرور آپ کے نکاح میں آئے گی۔

جواب..... ”امید کیسی یقین کامل ہے یہ خدا کی باتیں ہیں۔ ٹلٹی نہیں۔ ہو کر رہیں گی۔“

(اخبار الحکم ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء، تحقیق لائسنس ص ۷۱ ماہ سن)

”اس وقت ۱۹۰۷ء میں میری عمر ۶۸ سال کی ہے۔“

(حقیقت الہوی ص ۲۰۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۹)

تو اب معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کی عمر ۱۹۰۷ء میں ۶۸ برس کی ہے اور ۱۹۰۸ء میں مر جاتے ہیں۔ تو اس حساب سے مرزا قادیانی کی عمر وہی ۶۹ کی ہوتی ہے۔ نہ کہ ۷۴ برس۔ لہذا اللہام ظلہ اور مرزا قادیانی ذلیل کاذب ثابت ہوئے۔

سوال..... مرزا قادیانی بس اب میرا یہ ایک ہی آخری سوال ہے۔ سنئے۔



۱..... آپ نے لکھا ہے کہ: ”ایک دل سے دو ہاتھ نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریقے پر انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔“  
(سنتین ص ۳۱، خزائن ج ۱ ص ۱۳۳)

۲..... ”ظاہر ہے کہ جب ایک ہاتھ میں کوئی جھوٹ ثابت ہو جائے۔ تو پھر دوسری ہاتھوں میں اس پر اعتبار نہیں ہوتا۔“  
(چشمہ معرفت ص ۲۲۲، خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

۳..... ”جھوٹ بولنے سے مرنا بہتر ہے۔“ (تلیخ رسالت ص ۳۰، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۳)

۴..... ”جھوٹ بولنا اور گوکھانا برابر ہے۔“ (حقیقت الہی ص ۲۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵)

اور آپ نے اپنی عمر کے متعلق ایک نہیں بیسیوں ہاتھ بتائی ہیں اور سینکڑوں جھوٹ بولے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا سبب؟

جواب..... سنئے! میں نے اپنی عمر کے متعلق ہر ایک کتاب میں اس لئے اختلاف کیا ہے۔ کہ پیش گوئی کے غلط ہونے پر میرے کذب کی پردہ پوشی کا کام دیں۔ فقط والسلام (ایٹھ البحر) خوب فرمایا ہے مولانا مولوی سید مرتضیٰ حسن صاحب دیوبندی نے کہ ان مرزائیوں اور مرزا کے کفر میں بھی کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔

رسول کریم ﷺ پر اعتراض

مرزا قادیانی دجال کی عمر مطابق الہام کے جب پوری نہ ہوئی تو مرزائی کہتے ہیں کہ: سرور کائنات فخر موجودات حضرت رسول کریم ﷺ کی عمر کے متعلق بھی اختلاف ہوا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قیاس کے مطابق اندازہ لگایا گیا۔ چنانچہ حضرت ﷺ کی عمر بعض ۶۰ برس کی بعض ۶۲ برس کی اور بعض ۶۵ برس کی کہتے ہیں۔ مگر ارباب تحقیق ۶۳ کی کہتے ہیں۔

جب اس اختلاف کی وجہ سے رسول کریم ﷺ پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ تو مسیح موعود غلام احمد کی عمر میں اختلاف کی وجہ سے آپ پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

(المصلح ۱۸ ستمبر ۱۹۳۲ء)

جواب..... مرزائیو! دیکھو مرزا قادیانی لکھتا ہیں کہ: ”ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی حکم امتحان نہیں ہو سکتا۔“ (دفاع الوساو ص ۳۸۸، خزائن ج ۵ ص ۳۸۸)

اور مرزا قادیانی نے اپنی عمر کے پیش گوئی کی ہے کہ: ”اگر مطابق الہام کے میری عمر پوری نہ ہوئی تو میں کاذب ٹھیروں گا۔“ اس لئے مرزا قادیانی کاذب۔

## مرزا قادیانی کا علم غیب

”علم غیب پر مجھے اس طرح قابو حاصل ہے جس طرح سوار کو گھوڑے پر ہوتا ہے۔“

(ضرورت امام ص ۱۳، خزائن ج ۱۳ ص ۲۸۲)

## مرزا قادیانی کی عمر کے اکثر حصہ کی کارگزاری

”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی اور اشتہارات شائع کئے ہیں۔ کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں جمع کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔“

(تزیان القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

ایک اشتہار جو مرزا قادیانی نے حسین کا می سفیر سلطان المعظم استنبول کخلاف چھپوایا تھا۔ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ ناظرین کو اس اشتہار کے تعارف کی چند ان ضرورت نہیں۔ کیونکہ آپ کو اس کے مطالعہ سے پوری پوری واقفیت ہو جائے گی۔ (مؤلف)

## حسین کا می سفیر سلطان روم

”پرچہ اخبار ۱۵ مئی ۱۸۹۷ء ناظم الہند لاہور میں جو ایک شیعہ اخبار ہے۔ سفیر مذکور البصوان کا ایک خط چھپا ہے جو بالکل گندہ اور خلاف تہذیب اور انسانیت ہے اور اس خط کے عنوان میں یہ لکھا ہے کہ سفیر صاحب متواتر درخواستوں کے بعد قادیان میں تشریف لے گئے اور پھر مناسف اور مکدر اور طول خاطر واپس آئے اور پھر یہی ایڈیٹر لکھتا ہے کہ یہ سنا گیا تھا کہ سفیر صاحب کو اس لئے قادیان بلایا تھا کہ ان کے ہاتھ پر توبہ کریں۔ کیونکہ وہ نائب حضرت خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ان افتراؤں کا بجز اس کے کیا جواب دیں کہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ مجھے دنیا داروں اور منافقوں کی ملاقات سے اس قدر بیزاری اور نفرت ہے جیسا کہ نجاست سے۔ مجھے نہ سلطان روم کی طرف کچھ حاجت ہے اور نہ اس کے کسی سفیر کی ملاقات کا شوق ہے۔.....!“

میرے نزدیک واجب استظیم اور واجب الاطاعت اور شکرگزاری کے لائق گورنمنٹ انگریزی ہے جس کے زیر سایہ امن کے ساتھ یہ آسمانی کارروائی میں کر رہا ہوں۔ ترکی سلطنت آج کل تاریکی سے بھری ہوئی ہے اور وہی شامت اعمال بھگت رہی ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ اس کے

زیر سایہ کر ہم کسی راتھی کو پھیلا سکیں۔ شاید بہت سے لوگ اس فقرہ سے ناراض ہوں گے مگر یہی حق ہے یہی باتیں ہیں کہ سفیر مذکورہ کے ساتھ خلوت میں کی گئیں تھیں جو سفیر کو بری معلوم ہوئیں۔ سفیر مذکور نے خلوت کی ملاقات کے لئے خود اسی کی اور اگرچہ مجھ کو اس کی اول ملاقات میں ہی دنیا پرستی کی بدبو آئی تھی۔ اور منافقانہ طریق دکھائی دیا تھا۔ مگر حسن اخلاق نے مجھے بعد مہمان ہونے کے اس کے اجازت دینے کے لئے مجبور کیا۔ نام بردہ نے خلوت کی ملاقات میں سلطان روم کے لئے ایک خاص دعا کرنے کے لئے درخواست کی۔ اور یہ بھی چاہا۔ کہ آئندہ اس کے لئے جو کچھ آسمانی قضاء قدر سے آنے والا ہے۔ اس سے وہ اطلاع پائے۔

میں نے اس کو صاف کہہ دیا کہ سلطان کی سلطنت کی اچھی حالت نہیں ہے اور میں کسفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھتا اور میرے نزدیک ان حالتوں کے ساتھ انجام اچھا نہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جو سفیر کو اپنی بد قسمتی سے بہت بری معلوم ہوئیں۔ میں نے کئی اشارات سے اس بات پر بھی زور دیا کہ رومی سلطنت خدا کے نزدیک کئی باتوں میں قصور وار ہے اور خدا سچے تقویٰ و طہارت اور نوع انسان کی ہمدردی کو چاہتا ہے۔ اور روم کی حالت موجودہ بربادی کو چاہتی ہے تو بہ کر دنا نیک پھل پاؤ۔ مگر میں اس کے دل کی طرف خیال کر رہا تھا کہ وہ ان باتوں کو بہت ہی برا مانتا تھا اور یہ ایک صریح دلیل اس بات پر ہے کہ سلطنت روم کے اچھے دن نہیں ہیں اور پھر اس کا بد گوئی کے ساتھ واپس جانا یہ اور دلیل ہے کہ زوال کے علامات موجود ہیں۔ ماسوا اس کے میرے دعوے مسیح موعود اور مہدی مجبور کے بارے میں بھی کئی باتیں درمیان آئیں۔ میں نے اس کو بار بار سمجھایا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور کسی خونخوئی مسیح اور خونخوئی مہدی کا انتظار کرنا جیسا کہ عام مسلمانوں کا خیال ہے یہ سب بیہودہ قصے ہیں۔

اس کے ساتھ میں نے یہ بھی اس کو کہا کہ خدا نے یہی ارادہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں میں سے مجھ سے علیحدہ رہے گا۔ وہ کاٹا جائے گا بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں تیر کی طرح اس کو لگتی تھیں اور میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کچھ خدا نے الہام کے ذریعے فرمایا تھا۔ وہی کہا تھا۔ اور پھر ان تمام باتوں کے بعد گورنمنٹ برطانیہ کا بھی ذکر آیا اور جیسا کہ میرا قدیم سے عقیدہ ہے۔ میں نے اس کو بار بار کہا کہ ہم اس گورنمنٹ سے ولی اخلاص رکھتے ہیں اور ولی وفادار اور ولی شکر گزار ہیں۔ کیونکہ اس کے ذریعے اس قدر امن سے زندگی بسر کر رہے

کہ کسی دوسری سلطنت کے نیچے ہرگز امید نہیں کہ وہ امن حاصل ہو سکے کیا میں استنبول میں امن کے ساتھ اس دعویٰ کو پھیلا سکتا ہوں کہ میں مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں اور یہ کہ توار چلانے کی سب روایتیں جھوٹ ہیں کیا یہ سن کر اس جگہ کے درندے مولوی اور قاضی حملہ نہیں کریں گے اور کیا سلطانی انتظام بھی تقاضا نہیں کرے گا کہ ان کی مرضی کو مقدم رکھا جائے۔ پھر مجھے سلطان روم سے کوئی فائدہ ان سب باتوں کو سفیر مذکورہ نے تعجب سے سنا اور حیرت سے میرا منہ دیکھتا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے خط میں جو ناظم الہند ۱۵ مئی ۱۸۹۷ء میں چھپا ہے۔ میرا نام نمرود اور شداد اور شیطان رکھتا ہے اور مجھے جھوٹا اور مزور اور مورد غضب الہی قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ سخت گوئی اس کی جائے افسوس نہیں کیونکہ انسان ناپیدائی کی حالت میں سورج کو بھی تاریک خیال کر سکتا ہے۔ اس کے لئے بہتر تھا کہ میرے پاس نہ آتا میرے پاس سے ایسی بد گوئی سے واپس جانا اس کی سخت بد قسمتی ہے اور مجھے کچھ ضرر نہ تھا کہ میں اس کی یادہ گوئی کا ذکر کرتا۔ مگر اس نے پپاداش نیکی ہر ایک شخص کے پاس بدی کرنا شروع کیا۔ اور مثالہ اور امرت سر اور لاہور میں بہت سے آدمیوں کے پاس وہ دل آزار باتیں میری نسبت اور میری جماعت کی نسبت کہیں کہ ایک شریف آدمی باوجود اختلاف رائے کے کبھی زبان پر نہیں لاسکتا۔ افسوس کہ میں نے بہت شوق اور آرزو کے بعد گورنمنٹ روم کا نمونہ دیکھا تو یہ دیکھا اور میں مکرر ناظرین کو اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ مجھے اس سفیر کی ملاقات کا ایک ذرہ شوق نہ تھا بلکہ جب میں نے سنا کہ لاہور کی میری جماعت اس سے ملی ہے تو میں نے بہت افسوس کیا اور ان کی طرف علامت کا خط لکھا کہ یہ کارروائی میرے منشاء کے خلاف کی گئی۔

پھر آخر سفیر نے لاہور سے ایک اگساری کا خط میری طرف لکھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ سو اس کے الحاح پر میں نے اس کو قادیان آنے کی اجازت دی لیکن اللہ جل شانہ جانتا ہے جس پر جھوٹ باندھنا لعنت کا داغ خریدتا ہے کہ اس عالم الغیب نے مجھے پہلے سے اطلاع دے دی تھی کہ اس شخص کی سرشت میں نفاق کی رنگ آمیزی ہے سو ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اب میں سفیر مذکور کا اگساری خط جو میری طرف پہنچا تھا اور پھر اس کا دوسرا خط جو ناظم الہند میں چھپا ہے۔ ذیل میں لکھتا ہوں ناظرین خود پڑھ لیں اور نتیجہ نکال لیں اور ہماری جماعت کو چاہئے کہ آئندہ ایسے اشخاص کے خط سے دستکش رہیں۔ آسانی سلسلہ سے دنیا بیا نہیں کر سکتی۔ الشہر خا کسار مرزا غلام احمد قادیانی

نقل اس خط کی جو سیر نے لاہور سے ہماری ملاقات کی درخواست کے لئے بھیجا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مستطاب معلى القاب قدوة المحققين قطب العارفین حضرت پیر دستگیر مرزا غلام احمد صاحب دام کراماتہ، چون اوصاف جمیلہ و اخلاق حمیدہ آن ذات ملکوتی صفات در شہر لاہور بسمع مہونیت و از مریدان سعادت انتسابان تقاریر و تصانیف عالیہ آن حجتہ مقام بدست احترام و مہونیت رسید لہذا سو دوائے زیارت دیدار ساطع الانوار سوید لے دل ثناء لبریز اشتیاق کردہ است انشاء اللہ تعالیٰ۔ از لاہور بطریق امرتسر بہ خاکپائے روحانیت احتوی سامی خواہم رسید و دریں خصوص تلغراف بر حضور سراسر نور مقدس خواہم کشید فقط حسین کامی سفیر سلطان المعظم۔ (مہر)

نقل اس خط کی جو سیر کی طرف سے ناظم الہند ۱۵ مئی ۱۸۹۷ء میں چھپا ہے۔

بحضور سید السادات العظام و فخر النجباء الکرام مولانا سید محمد ناظر حسین صاحب ناظم اہم اللہ فیوضہ و ظل عاطفتہ، سیدی و مولائی؟ التفات نامہ ذات سائے شہادست بتجلیل و احترام مار سید الحق مہونیت غیر مترقبہ عظمیٰ بخشید۔ فدایت شویم کہ استفسار احوال غرائب اشتمال قادیان و قادیانی رافرمودہ بودید اکنون ما بکمال تمکین ذیلاً بخدمت و الاتہمت عالی بیان و افادہ میکنیم کہ این شخص عجیب و غریب از صراط المستقیم اسلام برگشتہ قدم بردارثہ علیہم الضالین گزارشتہ و تزویر محبت حضرت خاتم النبیین رادرپیش گرفتہ و بزعم باطل خویش باب رسالت را مفتوح دانستہ است شائستہ ہزاران خندہ است کہ فرق دربین نبوت و رسالت ہند اشتہ است و معاذ اللہ تعالیٰ میگوید کہ خدا وند عالم رسول ﷺ راگا ہے۔ در فرقان حمید و قرآن مجید بعنوان خاتم المرسلین معین نہ کردہ است فقط بخطاب خاتم النبیین اکتفاء فرمودہ است۔ القصہ اینکہ اول خود را ولی ملہم میگفت بعدہ مسیح موعود گشتہ آہستہ آہستہ بقول مجرد خود صعود بمرتبہ عالیہ مہدویت



کرده استعین بالله تعالیٰ خود را از خود رائی بیائى معلائی رسالت رساندست بناء علی هذا ظن غالب ما بران است که بترقی پنجمین قدم بر سریر کشداد نمرود تھا وہ کلاه الوهیت بر سرکش خود کہ کان خیالات فاسده و معدن مالیخولیا و هذیانات باطله است میگزارد دو عجب ست کہ شاعر معجز بیان در حق این ضعیف الاعتقاد والبنیان چند سال قبل ازین گویا بطور پیشین گوئی تدوین این شعر در دیوان اشعار آبد ار خود کرده است۔ سال اول مطرب آمد سال دویم خواجہ شد، بخت گریاری کند امسال سید میشود، خلاصہ ازین سخنہادرگزیرید اورا بر شیطنشن ہسریدہ ہارا از ہریشان نویسی معاف دارید عزیزا اسلام را مارا بجناب شریعت مدار مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب و جناب داروغہ عبدالغفور خان صاحب برسانید و سانشمتر یائی خود را گرفتہ بصوب ماروانہ کنید تلکہ از دار الخلافۃ اسلامبول کفش مسجدی مطابق آن بطلبم و در ہر خصوص ہرذات عالی شما تقدیم مراسم احترام کاری کردہ مسارعت براستبتنای طبع عالی می نمایم والسلام!

(الراقم حسین کامی مطبوعہ نیاہ السلام قادیان ۱۲۳۱ھ بمطابق ۱۹۱۴ء مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۱۲۱ تا ۱۲۲)

اشتہار کو شروع سے اخیر تک پڑھنے سے مانگو لیا اور ہدیان کے سوا کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور ایسے ہی دوسرے مکتوبات ہیں جن پر طبع چڑھا کر عوام کو شیطان کے پھندے میں پھنسیا جاتا ہے۔ ہمارے مرزائی بھائی بھی سمجھ چکے ہیں کہ واقعی مرزا قادیانی کذاب تھے۔ لیکن محض تعصب اور عار کی بناء پر ان کی تقلید میں غرق ہیں۔ مگر ان کی عقل دشمنی کا کہاں تک ماتم کیا جائے کہ ابو طالب کی روح دو دوزخ کی تار کو اپنی عمار پر تریخ دے کر اپنے کو ہمیشہ کے لئے خلافت کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔

حالانکہ خدائی ہکار بہانگ دہل تیرہ سو سال سے گونج رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ہم تمہارے لئے تمہارے دین کو کمال کر چکے اور ہم نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور ہم نے تمہارے لئے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔

الحق المبین  
لا یغزوہ

# الحق المبین



حضرت مولانا حکیم عبدالغنی

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

وعلى آله الطاهرين واصحابه اجمعين . اما بعد!

اخبار ”احسان“ جو ایک اسلامی موقر اخبار ہے اس کی اشاعت ۲۳ دسمبر ۱۹۳۳ء میں مرزا نیوں کی طرف سے چند سوالات شائع ہوئے تھے جو یا تو کسی متلاشی حق مرزائی نے تحقیق حق کے لئے لکھے ہیں یا کسی متعصب نے جرح قدح کیلئے۔ بہر کیف ہر صورت میں ان کا جواب باصواب لکھنا ضروری ہے۔

وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور اسلام کی خدمت یہ ہے کہ مرزا نیوں کے ہر قسم کے سوالات کے معقول اور دندان شکن جوابات دیئے جائیں اور ہر فرد مسلم و مرد مومن کو اسلام کی صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ قادیانی مذہب کے عقائد فاسدہ اور خیالات کا سدہ سے پوری طرح واقف کیا جائے تاکہ عام لوگ جو دین سے بے خبر اور ساگی کے سبب مرزا نیوں کی چکنی چڑی باتوں سے ان کے دام تزویر میں پھنس جاتے ہیں وہ مرزائیت کی حقیقت سے واقف ہو کر ان کے پھندے میں نہ آئیں جو لوگ بد قسمتی سے ان کا شکار ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اسلام میں واپس آجائیں۔

تجربہ شاہد ہے کہ اکثر سعید رو میں ایسی ہیں۔ جو ناواہی کی بناء پر مرزائیت کا شکار ہو جاتی ہیں مگر پھر صحیح واقفیت بہم پہنچنے پر دوبارہ صراط مستقیم اختیار کرنے کو عار نہیں سمجھتیں اور علی الاعلان صداقت کو قبول کر لیتی ہیں۔ لہذا ایسے مضامین کی اشاعت نہایت ضروری ہے جو عام فہم الفاظ میں مرزائیت کے ذمہ کاپول ظاہر کریں۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب خالی الذہن ہو کر خلوص نیت سے مطالعہ کر کے حقیقت کو پالے اور مرزا سے قطع تعلق کر کے دوبارہ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذمبین، رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آکر پناہ لے۔

حاشا دکلا: مجھے مرزا قادیانی سے نہ کوئی ذاتی عناد ہے اور نہ دلی پر خاش بلکہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ہاں مطالعہ کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیم اور ان کے تمام دعاوی اسلامی تعلیم کے برخلاف ہیں اور ان کی جماعت بھی تقلید اعلیٰ میں مبتلا ہو کر

فقط راہ پر جارہی ہے۔ صحیح رستہ ہی ہے جو حضور ﷺ نے بتایا تھا انا علیہ واصحابی اور نجات کا دار و مدار بھی آپ ہی کی پیروی اور تابعداری پر منحصر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: "قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین (آل عمران: ۲۲)" ﴿کہو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔﴾ اور شیخ سعدیؒ ارشاد فرماتے ہیں۔

خلاف پیغمبر کسے راہ گزید

ہرگز بمنزل نخواهد رسید

مگر مرزا قادیانی ہیں کہ اپنی ہی تعلیم اور اپنی بیعت کو مدار نجات ٹھہراتے ہیں۔

نعوذ باللہ!

بیس تفاوت راہ از کجاست تا بکجا

ہاں میں مرزا قادیانی کی جماعت کے لئے دل سے چاہتا ہوں کہ وہ اس غلط راستہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائے اور نئی تعلیم کو چھوڑ کر وہی پرانی تعلیم اختیار کرے جو ساڑھے تیرہ سو سال سے چلی آتی ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: تکمل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار" اسی غرض کے لئے چند ایک ٹریکٹ بھی لکھے ہیں اور ان کے سوالات کے

۱ "وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملة کلهم فی النار الا ملة واحدة قالوا من هی یا رسول اللہ لقال ما انا علیہ واصحابی" ﴿میری امت تہتر فرقوں پر متفرق ہوگی۔ سوائے ایک گروہ کے وہ سب دوزخی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ وہ کونسا گروہ ہے جو ہشتی ہے فرمایا جس طریق پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔﴾

(مشکوٰۃ مترجم ج ۱، ص ۷۲، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

۲ مرزا قادیانی لکھتے ہیں: "اب دیکھو خدا نے میری دینی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو لوح کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات ٹھہرایا۔"

(اربعین نمبر ص ۶، خزائن ج ۷، ص ۳۳۵، بر حاشیہ)

۳ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ ہے۔

جوابات بھی لکھتا ہوں کہ شاید کوئی سعید روح ان کے مطالعہ سے ہدایت پا کر سواد اعظم کے ساتھ شامل ہو جائے اور سعادت کونین و ثواب دارین حاصل کرے۔ وما علینا الا البلاغ!

مرزائی سوالات کے جوابات

سوال اول..... آپ کے نزدیک وہ کون سے عقائد ہیں جو اصل الاصول کہلانے کے مستحق ہیں؟

جواب..... اہل السنۃ والجماعت کے نزدیک وہی عقائد اصل الاصول ہیں۔ جو ایمان کی صفتوں کے نام سے مشہور ہیں اور جن سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہے اور مرزاہیت سے پہلے شاید جناب سائل صاحب بھی جانتے ہوں گے اور فقہ کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب نجات المؤمنین میں بھی اختصار کے باوجود صاف طور پر لکھا ہے جو یہ ہے۔

صفت ایمان رب منعم ، ملک ، کتب ، انبیاء

آخر انھن گسور تھیں ، نیکی بدی خدا

ہاں اگر قرآن مجید سے ہی حوالہ مطلوب ہے تو لیجئے۔ وہ بھی سنئے۔ اللہ جل شانہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضللاً بعیداً (النسۃ: ۱۳۶)“ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری اور جو فیض اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور پچھلے دن کا انکار کرتا ہے۔ وہ گمراہی میں دوڑ کر لگا گیا۔

اس آیت کے نیچے مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”پہلے ایمان سے مراد ایمان ظاہری اقرار باللسان ہے اور دوسرے ایمان سے مراد تکمیل ایمانی ہے جس میں تصدیق بالقلب اور اس کے مطابق عمل بھی شامل ہیں۔ چونکہ ذکر منافقین کا تھا۔ اس لئے فرمایا کہ صرف منہ کا ایمان فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔“

۲ ”قال رسول اللہ ﷺ اتبعوا السواد الاعظم فانہ من شد شد فی النار“ ﴿رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو پس تحقیق جو فیض جماعت سے علیحدہ ہوا۔ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔﴾

(مکتوۃ، مترجم، ج ۱ ص ۷۳)



آیت مذکورہ بالا میں ”والبعث بعد الموت“ یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ذکر نہیں آیا۔ اس لئے اس مضمون کی آیت دوسری جگہ سے لکھی جاتی ہے: ”ثم انکم بعد ذلک لمیتون۔ ثم انکم یوم القیمة تبعثون (مؤمنون: ۱۰۵)“ ﴿پھر تم اس کے بعد یقیناً مرنے والے ہو۔ پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔﴾ اس مضمون کی اور بہت سی آیات آئی ہیں۔ جن کے اندراج کی یہاں گنجائش نہیں۔

رہا ”ایمان بالقدر“ کا ثبوت تو اس کے متعلق بھی کئی آیات شریفہ ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”وان تصبہم حسنة یقولوا هذه من عند اللہ ج وان تصبہم سيفة یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ (نساء: ۷۸)“ ﴿اور اگر ان کو بھلائی پہنچی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو دکھ پہنچتا ہے کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے۔ کہو سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔﴾ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بھلائی، برائی یا دکھ کچھ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ کے یہی معنی ہیں۔

نص کی موجودگی میں حدیث شریف کا پیش کرنا، تحصیل حاصل ہے۔ مگر تہم کا حضور ﷺ کا ارشاد بھی سن لیجئے: ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ یوم بارزا للناس فاتاہ رجل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث“ ﴿ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی ﷺ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یا ایک آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر اور (آخرت) میں اللہ کے طے پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔﴾ (بخاری ج ۱، کتاب الایمان، ص ۱۲، مطبوعہ مصر)

یہی حدیث ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے: ”قال یا محمد ما الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ“ ﴿اس نے کہا: اے ﷺ! ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔﴾ (ترمذی، مترجم، جلد دوم، ص ۲۲۷)

یہ عقائد ہیں جو اصل ملامتوں ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے مگر مرزا

قادیانی نے شرک فی التوحید کا ارتکاب بھی کیا اور شرک فی الرسالت کا بھی، تو بین انبیاء کے مرتکب بھی ہوئے اور انکارِ علاماتِ قیامت کے بھی۔ اس لئے ان کی بیرونی سراسر جہالت ہے اور ان کی تابعداری ضلالت۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

رسول قادیانی کی رسالت

بطالت ہے جہالت ہے ضلالت

مرزا قادیانی کے شرک فی التوحید کا ثبوت یہ ہے کہ خود خدا ہے۔ اصل عبارت یہ ہے:

”میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔“

(کتاب المرید ص ۹، خزائن ج ۳ ص ۱۰۳، آئینہ کمالات ص ۵۶۳، خزائن ج ۵ ص ۵۶۳)

شرک فی الرسالت کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات جو حضور ﷺ کی شان میں

نازل ہوئی ہیں۔ مرزا قادیانی خود ان کا مصداق بننے ہیں۔ مثلاً: ”وما ارسلناک الا رحمةً

للعالمین (انجام آہٹم طبع دوم ص ۷۸، خزائن ج ۱ ص ۷۸)“ ”قل ان کنتم تحبون اللہ

فاتبعونی یحبکم اللہ“ (ابن عربین نمبر ۳ ص ۵ طبع دوم، انجام آہٹم ص ۵۱، خزائن ج ۱ ص ۵۲)

اس کے علاوہ اپنی کتاب (نزول آج ص ۹۹، خزائن ج ۸ ص ۳۷۷) پر لکھتے ہیں:

آدمم فیذا صمد مختار

در ہرم جامہ ہمہ ابرار

آنہہ داد است ہر نبی را جلم

داد آن جلم را مرا بتمام

العیسٰ گرجہ بیودہ اند بسہ

من ہرستان نہ کمقرم زکمہ

تو بین انبیاء کا ثبوت یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ”ضمیمہ انجام آہٹم“ میں

ص ۷ پر نہایت کثرت سے الفاظ استہوال کئے ہیں اور ”از الد اولہم“ میں ان کے معجزات کو عمل الترب

(سسریم) قرار دیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس مضمون کو مفصل دیکھنا ہو تو ہمارا رسالہ ”اعتقادات

مرزا“ ملاحظہ فرمائیں۔

سوال دوم..... کیا آپ قرآن مجید میں اختلاف کے قائل ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو پھر یہ آئیہ

شریفہ ”ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا (نساء: ۸۲)“ کو

بد نظر رکھتے ہوئے تطبیق کی صورت آپ کے نزدیک مسئلہ تاریخ و متنح ہے یا کوئی اور طریق؟

جواب ..... قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں۔ خود یہی آیت شہادت دے رہی ہے کہ کلام الہی اختلاف سے مبرا اور منزہ ہے: ”أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدها فيه اختلافا كَثِيرًا (نساء: ۸۲)“ ﴿پھر کیا قرآن میں تدبیر نہیں کرتے اور اگر ہی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے۔﴾

پس اگر کسی کو کہیں اختلاف معلوم ہو تو یہ اس کی سمجھ کا قصور ہے۔ ہاں مرزا قادیانی کے کلام میں بہت سے اختلافات ہیں جو اسی معیار کے مطابق ان کے تمام دعاوی کو باطل ٹھہراتے ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کے اختلاف دیکھنے ہوں تو ہمارا رسالہ ”تاقضات مرزا“ ملاحظہ فرمائیں۔ ناخ منسوخ کے مسئلہ کا یہ فناء نہیں جو آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب کچھ اور ہے کسی عالم سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

سوال سوم ..... قرآن مجید کی وہ کوئی آیت ہے جس سے بطور صراحت اللہ کے باب نبوت غیر تشریحی تابع شریعت محمدیہ مسدود ثابت ہوتا ہے؟

جواب ..... وہ آیت یہ ہے جس سے باب نبوت ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے: ”ما كان محمد اباً احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً (احزاب: ۱۴۰)“ ﴿محمد ﷺ تم میں سے کس مرز کے باپ نہیں ہیں اور لیکن خدا کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔﴾

۱ ..... خاتم النبیین کی تفسیر خود حضور سرایا نو ﷺ نے ارشاد فرمائی ہے: ”لانی نبی بعدی“ (مکتوٰۃ منہج ج ۳ ص ۸۱، مطبوعہ نور الاسلام، امرتسر) یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

۲ ..... مرزا قادیانی نے بھی اس آیت کا ترجمہ و تفسیر یہی کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”مساکن محمد اباً احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين“ محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔

(ازالہ اوہام ص ۶۱۳، خزائن ج ۳ ص ۳۳۱)

۳ ..... مرزا قادیانی اپنے ایک مرید کو خط میں لکھتے ہیں: ”اور ذی ایمان سے سمجھنا چاہئے کہ نبوت آنحضرت پر ختم ہو گئی ہے۔“ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ولكن رسول الله وخاتم النبيين“ اس آیت کا انکار کرنا یا استخفاف کی نظر سے دیکھنا درحقیقت اسلام سے علیحدہ ہونا ہے۔“ (سبح موعود اور ختم نبوت ص ۲، بحوالہ اخبار الحکم نمبر ۶۹ ج ۳ ص ۳ مورخہ ۱۷ اگست ۱۸۹۹ء)

۳..... مرزا قادیانی کے ایک قلمس مرید مولوی محمد علی صاحب لاہوری مفسر قرآن اپنی تفسیر میں اس آیت کا ترجمہ یہی لکھتے ہیں کہ: ”محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔“ (بیان القرآن ج ۳ ص ۱۵۱۵)

رہا یہ امر کہ کیا نبوت غیر تفریحی (ظلی، بروزی وغیرہ) بھی بند ہے سو اس کے لئے بھی مرزا قادیانی کا یہی شعر کافی ہے:

ہست او خیر الرسل خیر الانام  
ہر نبوت را بروشد اختتام

(سراج منیر ص ۷، خزائن ج ۲ ص ۹۵)

اہل السنۃ والجماعت کے نزدیک حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا کسی کو سچائی کہنے والا کافر ہے چنانچہ علامہ اسمعیل حنفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”قال اهل السنة والجماعة لا نبی بعد نبینا لقولہ تعالیٰ: ﴿ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین﴾ وقولہ ﷺ لا نبی بعدی ومن قال بعد نبینا نبی۔ یکفر لانه انکر النصب۔ كذلك لو شك فيه لان الحجة تبين الحق من الباطل ومن ادعى النبوة بعد موت محمد ﷺ لا يكون دعوة الا باطلا“ ﴿اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ اور حضور ﷺ نے فرمایا دیا ہے: ”لا نبی بعدی“ اور جس نے ہمارے نبی ﷺ کے بعد نبی مانا وہ کافر ہے۔ اس لئے کہ اس نے نص کا انکار کیا۔ ایسے ہی اگر کسی نے اس میں شک کیا تو وہ بھی کافر ہے۔ اس لئے کہ دلیل نے حق کو باطل سے واضح کر دیا اور جس نے حضور اقدس ﷺ کے وصال ظاہری کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا دعویٰ باطل ہوگا۔ ﴿

(تفسیر روح البیان ج ۷ ص ۱۸۸)

مرزا قادیانی کے نزدیک بھی آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کافر ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ختم المرسلین ﷺ کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صلی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ ﷺ محمد مصطفیٰ پر ختم ہو گئی۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۳۰، ۲۳۱)

سائل کا جواب تو ہو ہی چکا مگر یہ جواب ادھر وارہ جائے گا اگر اس کے متعلق دوسرے شبہات کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ چنانچہ.....

پہلا شبہ..... یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آنحضرت کے بعد نبوت بند ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نبوت سے معزول کر دیئے جائیں گے؟

جواب..... اس کا جواب ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے بلکہ حضرت ابن عباس کی تفسیر سے دیتے رہیں جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور مرزا قادیانی کے نزدیک مسلمہ اور معتد ہیں وہ آیت ﴿خاتم النبیین﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یرید لو لم اختم بہ النبیین لجعلت لہ ابنہ“ یعنی آیت ﴿خاتم النبیین﴾ میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اگر حضور ﷺ کے وجود گرامی سے نبیوں کو ختم نہ کرتا تو آپ کو بیٹا عطا کرتا (جو آپ کے بعد نبی ہوتا۔) ”ان اللہ لسا حکم ان لا نبی بعدہ لم یعطہ ولدا یصیر رجلاً“ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی تو آپ کو ایسا بیٹا ہی نہیں دیا جو جوانی کو پہنچتا۔ ”وکسان اللہ بکل شیء علیما“ ای کان فی علمہ انہ لا نبی بعدہ۔ یعنی یہ بات پہلے ہی اس کے علم میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وان قلت قد صح ان عیسیٰ علیہ السلام ینزل فی آخر الزمان بعدہ وهو نبی قلت ان عیسیٰ علیہ السلام ممن نبی قبلہ وحين ینزل فی آخر الزمان ینزل عاملاً بشریعة محمد ﷺ ومصلياً التی قبلتہ کانہ بعض امتہ۔ یعنی اگر تو کہے (اعتراض کرے) کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانہ میں نازل ہوں گے اور وہ نبی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ان میں سے ہیں جو آنحضرت ﷺ سے پہلے کے نبی ہیں اور جب آخر زمانہ میں نازل ہوں گے تو شریعت محمدی ﷺ پر عمل کریں گے اور آپ کے قبلہ (خانہ کعبہ) کی طرف ہی (منہ کر کے) نماز پڑھیں گے گویا وہ آپ کی امت کے ایک فرد ہوں گے۔ (تفسیر خازن، جلد سوم ص ۴۸۰)

حضرت ابن عباس نے اس تفسیر میں مندرجہ ذیل امور کا فیصلہ کر دیا ہے۔

.....۱ آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔

.....۲ آپ کی اولاد زینہ کے زندہ نہ رہنے میں بھی خدا تعالیٰ کی یہی مصلحت تھی کہ آپ کے بعد نبوت جاری نہیں۔

ابن ماجہ کی یہ حدیث ”لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً“ یعنی ابراہیم زعمہ ہونے تو ضرور سچے نبی ہوتے جو اکثر مرزائی پیش کیا کرتے ہیں اگرچہ یہ حدیث راوی کے مجروح ہونے کے سبب ضعیف ہے تاہم اس کا جواب بھی ہو گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی لئے زعمہ نہ رہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد باب نبوت مسدود ہے۔

۳..... اور مندرجہ بالا شبہ کا جواب بھی دے دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا ختم نبوت کے منافی نہیں کیونکہ وہ حضور سے پہلے کے نبی ہیں بعد کے نہیں۔

واضح ہو..... کہ مرزا قادیانی کا شبہ کوئی نیا شبہ نہیں ہے اور نہ اس میں مرزا قادیانی کی کوئی جدت ہے بلکہ یہ شبہ مرزا قادیانی سے بہت عرصہ پہلے معتزلی اور جمہی فرقوں کے بعض لوگ پیش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا انکار کر چکے ہیں اور نزول مسیح کی احادیث کو مردود قرار دے چکے ہیں۔ چنانچہ علامہ نوویؒ نے شرح مسلم میں قول صحیح استدلال نقل کر کے نہایت دندان شکن جواب دیا ہے جو یہ ہے: ”وانکر بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا ان هذه الاحاديث مردودة بقوله تعالى ﴿وختام النبیین﴾ وبقوله ﷺ لا نبی بعدی، وباجماع المسلمین انه لا نبی بعد نبینا ﷺ وان شریعته مؤبده الی یوم القیمة لا تنسخ، وهذا استدلال فاسد لانه لیس المراد نزول عیسیٰ انه ینزل نبیاً بشرع ینسخ شرعنا ولا فی هذه الاحادیث ولا فی غیرها شیء من هذا۔ بل صحت هذه الاحادیث هنا وما سبق فی کتاب الایمان وغیرها انه ینزل حکماً مقسطاً یحکم بشرعنا ویحیی من امور شرعنا ما هجره الناس“

”اور معتزلی، جمہی اور ان کے موافق کے بعض لوگوں نے انکار کیا ہے اور انہوں نے

گمان کیا ہے کہ یہ حدیثیں بوجوہات ذیل مردود ہیں:

۱..... خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ”نبیوں کے ختم کرنے والے“ ہیں اور

۲..... آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”میرے بعد کوئی نبی نہیں“ اور

۳..... تمام مسلمانوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ ”ہمارے نبی ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں۔“ اور آپ کی شریعت دائمی ہے قیامت تک منسوخ نہ ہوگی۔

اور یہ استدلال فاسد ہے اس لئے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مراد نہیں کہ وہ تشریحی نبی ہو کر آئیں گے۔ جس سے ہماری شریعت منسوخ ہو جائے گی اور نہ ہی ان حدیثوں اور دوسری حدیثوں میں اس بات کا کوئی ذکر ہے بلکہ ان حدیثوں اور ”کتاب الایمان“ کی حدیثوں سے گزر چکی ہیں، ثابت ہوتا ہے کہ وہ حاکم عادل ہو کر نازل ہوں گے اور ہماری شریعت کے مطابق حکم کریں گے اور ہماری شریعت کے ان امور کو زندہ کریں گے جو لوگوں نے چھوڑ دیئے ہیں۔“

(نووی شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۴۰۳، مطبوعہ ۱۳۰۱ھ مطبع انصاری دہلی)

پس مندرجہ بالا بیان سے دو باتیں ثابت ہوئیں:

اول..... یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا ختم نبوت کے معنی نہیں جو شخص اس قسم کا شبہ کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔

دوم..... یہ کہ مرزا قادیانی کا مقصد احیائے سنت نہیں بلکہ احیائے بدعت ہے جیسا کہ انہوں نے معجزیوں اور جمعوں کا مندرجہ بالا بھولا بسرا عقیدہ دوبارہ زعمہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ بقول شخصے

بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا

دوسرا شبہ..... یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امت مسلمہ میں باب نبوت مسدود ہو جانا تسلیم کر لیا جائے تو کیا آنحضرت ﷺ کے رحمتہ للعالمین ہونے اور اس امت کے خیر الامم ہونے پر زور نہیں پڑتی؟

جواب..... یہ سوال نہایت لغو، بیپودہ اور بتائے فاسد علی الفاسد ہے۔ جس بناء پر یہ شبہ کیا گیا ہے وہ مرزا قادیانی کا ارشاد بے بنیاد ہے جو یہ ہے: ”ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس مذہب میں سلسلہ نبوت نہ ہو، وہ مردہ ہے۔“ (ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۷۷)

تعب ہے کہ یہی مرزا قادیانی جواب اجرائے نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ قبل ازیں ختم نبوت قرآن مجید سے ثابت کر چکے ہیں اور مدعی نبوت پر کفر کا ثبوتی لگا چکے ہیں جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ بس اب ان کا یہ اعتقاد بے بنیاد و محض دروغ بے فروغ اور دعویٰ بلا دلیل ہے جو باطل بلا قال و قیل ہے اور یہ تحریر ان کی تناقض بیانی پر دال ہے۔ جو ان کی ناراستی کی ایک تین مثال ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار۔

ہاں جناب! امت مسلمہ میں باب نبوت مسدود ہو جانے سے حضور ﷺ کے رحمتہ للعالمین پر زور نہیں پڑتی بلکہ باب نبوت کھلا رہنے پر زور پڑتی ہے۔ کیونکہ ایک نبی کا زمانہ اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کوئی دوسرا نبی نہ آجائے۔ جب دوسرا نبی آجاتا ہے تو پہلے نبی کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے پس اگر حضور ﷺ کے بعد باب نبوت مسدود نہ ہو تو آپ کا زمانہ بھی (نعوذ باللہ) مسدود ہو جائے مگر آپ نبی آخر الزماں ہیں اور سرور دو جہاں ہیں۔ آپ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک محمّد ہے جو مرزا قادیانی کے عقیدہ قاسدہ کے رد کرنے کے لئے ایک سدہ ہے۔

سید الکونین ختم المرسلین

آخر آمد بود فخر الاولین

پس باب نبوت مسدود ہونا آپ کی رحمت کے مٹانی نہیں بلکہ آپ کی رحمت اللعالمین کے لئے اسی طرح وسیع ہے جس طرح اپنی ربوبیت کے ساتھ ”عالمین“ کا لفظ استعمال کیا ہے: الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح اپنے محبوب کی رحمت کے ساتھ ”عالمین“ کو وابستہ کیا ہے: وما ارسلنا الا رحمة للعالمین۔ جس کی آنکھیں ہوں دیکھتے اور جس کے کان ہوں سنے۔

حضور ﷺ کا ”رحمتہ للعالمین“ ہونا اجرائے نبوت کا متقاضی نہیں بلکہ قسم نبوت کا مقتضی ہے۔ کیونکہ پہلے نبی اپنی اپنی قوم کے لئے آتے تھے مگر حضور ﷺ تمام قوموں کے لئے مبعوث ہوئے جیسا کہ قرآن مجید شاہد ہے: ”قل یلیہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السموت والارض (اعراف: ۱۵۸)“ ﴿اے پیغمبر کہو، اے لوگو میں تم سب کی طرف (اس) اللہ کا رسول ہوں جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔﴾ دوسری آیت میں یہ ارشاد ہے: ”وما ارسلنا الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ولكن اکثر الناس لا یعلمون (سبا: ۲۸)“ ﴿اور ہم نے تجھے تمام ہی لوگوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔﴾

اس آیت کے متعلق مولوی محمد علی مرزائی، امیر لاہوری پارٹی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ”یہاں اس لفظ ”کافۃ“ کو اختیار کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی رسالت عامہ سے اب کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا گویا اس سے خروج سے روکا گیا ہے کیونکہ کف کے معنی روکنا ہیں۔ یہ آیت بھی قسم نبوت پر دلیل ہے کیونکہ جب کوئی شخص اس رسالت سے باہر نہیں نکل سکتا تو اور رسول کی بھی ضرورت نہیں۔“ (ہامان القرآن، ج ۳ ص ۵۳۹) (فہو المراد..... مؤلف)

نبی کے مبعوث ہونے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دین کی تکمیل ہو سو حضور ﷺ کی بعثت سے یہ غرض بھی بدرجہ نفاذ پوری ہو گئی۔ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دین کو کامل اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ: ۳)“ ﴿آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارا دین اسلام ہونے پر میں راضی ہوا۔﴾ اس آیت کی تفسیر میں مولوی محمد علی صاحب نے لکھتے ہیں۔ ”پس ”اکملت لکم دینکم“ سے مراد یہ ہوتی کہ جو غرض دین سے حاصل ہو سکتی ہے وہ بدرجہ کمال تمہارے اس دین سے حاصل ہوگی۔ اب اس کے



بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں کہ وہ دین کو کامل کرنے کے لئے آئے جیسے پہلے آئے تھے۔“  
(بیان القرآن ج ۱ ص ۵۹۵) (فہو المراد)

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے

جادو وہ جو سر پہ چڑھ بولے

پس حضور ﷺ کی رحمتہ للعالمین یہ ہے کہ:

۱..... آپ تمام دنیا کے لئے مبعوث ہوئے تاکہ سارا جہان آپ کی رحمت سے فیض پائے اور قیامت تک کوئی آدمی اس فیض سے محروم نہ رہے۔

۲..... آپ کی رحمتہ للعالمین یہ ہے کہ آپ کے ساتھ دین کامل ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی جو اس دین میں نہ ہو۔

۳..... آپ کی رحمتہ للعالمین یہ ہے کہ گنہگار سے گنہگار انسان آپ کی تابعداری سے خدا تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے اور مغفرت پاسکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: ”قل ان کنتم تحبون اللہ

فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم (آل عمران: ۳۱)“  
﴿اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لئے بخشش

کرے گا اور گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔﴾  
۴..... آپ کی رحمتہ للعالمین یہ ہے کہ آپ شفیع المرذبین ہیں:

هو الحبيب الذی ترجی شفاعتہ

لکل هول من الاحوال مقتحم

وہ خدا تعالیٰ کے حبیب ہیں، آپ کی شفاعت کی امید رکھی ہوئی ہے۔ ہر خوف میں جو

سختی کے ساتھ آنے والا ہے۔

۵..... آپ کی رحمتہ للعالمین یہ ہے کہ آپ کے مبعوث ہونے کے ساتھ عذاب الہی رک گیا چنانچہ قرآن مجید میں ہے: ”وماکان اللہ لیعذبہم وانت فیہم (انفال: ۳۳)“ ﴿اور اللہ

ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے اور انہما کیہ تم ان میں ہو۔﴾

علامہ سلیمان حنفیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”قد ارسلہ اللہ تعالیٰ رحمة

للعالمین۔ والرحمة والعذاب ضدان، والضدان لا یجتمعان“ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور رحمتہ اور عذاب ایک دوسرے کی ضد ہیں اور دو ضد میں آپس

میں جمع نہیں ہوسکتیں۔ (اس لئے آپ کے) ہوتے ہوئے عذاب کیونکر آسکتا ہے۔

(تفسیر روح البیان ج ۱ ص ۸۴۰)

پس مندرجہ بالا امور سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللعالمین پر باب نبوت کے مسدود ہونے سے کوئی زد نہیں پڑتی۔

کہنے کو مرزا قادیانی کا دعویٰ بھی ہے کہ ”رحمۃ اللعالمین“ ہوں جیسا کہ اسی رسالہ میں اوپر گزر چکا ہے۔ مگر

چہ نسبت خاک را با عالم پاک  
حضور ﷺ کی رحمۃ اللعالمین سے تو تمام دوست دشمن مستفید ہوئے اور عذاب الہی سے بچے۔ مگر مرزا قادیانی کی رحمۃ اللعالمین ملاحظہ ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

..... ”الامراض تشاع والنفوس تضاع یعنی ملک میں بیماریاں پھیلیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی۔“ (حقیقت الوحی ص ۹۳، طبع اول، مئی ۱۹۰۷ء، خزائن ج ۲۲ ص ۹۷)

..... ۲ ”یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے پس یقیناً سمجھو جیسا کہ پیش گوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے۔ ایسے ہی یورپ میں بھی آئے اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں آئیں گے اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی۔“ (حقیقت الوحی ص ۲۵۶، خزائن ج ۲۲ ص ۲۶۸، سطر ۶۹۷)

..... ۳ ”اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو بڑی مدت سے مخفی تھے، ظاہر ہو گئے۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۵۶، خزائن ج ۲۲ ص ۲۶۸)

ایسا ہی اور بھی بہت سے نشان جناب مرزا قادیانی نے اپنی رحمۃ اللعالمین کے لکھے ہیں۔

ببیس تفاوت راہ کجاست تا کجا  
رہا امت کا ”خیر الام ہوتا“ سو یہ شرف بھی امت کو حضور ﷺ کے طفیل حاصل ہوا ہے۔  
صاحب قصیدہ بردہ فرماتے ہیں:

بشری لنا معشر الاسلام ان لنا  
من العناية رکننا غیر منہم  
ہاے گروہ اسلام ہمارے لئے خوشخبری ہو کہ ہمارے لئے خدا تعالیٰ کی عنایت سے  
ایسا رکن ہے (یعنی محمد مصطفیٰ ﷺ) جو خراب دہکتے ہوئے والا نہیں۔ ﴿

لما دعى الله داعينا لاطاعته

باكرم الرسل كنا اكرم الامم

جب خدا تعالیٰ نے آنحضرت کو جو ہمیں خدا کی اطاعت کے لئے بلانے والے ہیں، تمام پیغمبروں سے افضل کہہ کر پکارا تو ہم بھی تمام امتوں سے افضل ہو گئے۔ کسی شاعر نے فارسی میں یہی مضمون اسی طرح ادا کیا ہے۔

چوں خدا پیغمبر مارا رحمت خوانداست

افضل پیغمبران او گشته ما خیر الامم

تفسیر درمنثور میں ہے: ”واخرج ابن مردويه عن ابی بن کعب ان النبى ﷺ قال اعطيت مالم يعط احد من انبياء الله قلنا يا رسول الله ما هو قال نصرت بالرعب واعطيت مفتاح الارض وسميت احمد وجعل لى تراب الارض طهورا وجعلت امتى خیر الامم“ ﴿ابن مردويه نے ابی بن کعب سے، انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: مجھے وہ کچھ دیا گیا جو اور کسی نبی اللہ کو نہیں دیا گیا۔ ہم نے کہا: یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میری نصرت رعب سے کی گئی اور مجھے زمین کی کتبیاں دی گئیں اور میرا نام احمد رکھا گیا اور میرے لئے مٹی پاک بنا کی گئی اور میری امت بہترین امت بنائی گئی۔﴾ (درمنثور ج ۶ ص ۲۱۴ طر ۱۰۷۸)

یہ حدیث مولوی محمد علی صاحب نے بھی اپنی تفسیر، بیان القرآن ج ۱ ص ۳۷۱ میں درج کی ہے اور اس کے نیچے امت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”یہاں ساری امت کی فضیلت کا دوسری امتوں پر ظاہر کرنا مقصود ہے اور اگر اس امت کے معلم مہرکی محمد رسول اللہ ﷺ دنیا کے تمام روحانی معلموں اور مہرکیوں سے افضل ہیں تو کوئی اور وجہ نہیں کہ آنجناب کے شاگرد تمام الانبیاء کے شاگردوں سے افضل نہ ہوں۔“

پس اس بہترین خطاب (خیر الامم) میں وہی خوش قسمت ہو سکتا ہے جو شیخ رسالت کا پروانہ ہو، نہ وہ بد نصیب جو کسی جموٹے مدعی نبوت کا دیوانہ ہو۔

شبہ در شبہ نمبر ۱

اگر کوئی شخص یہاں یہ شبہ پیش کرے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کا کام ہے اگر اس امت میں کوئی نبی نہیں ہوگا تو یہ کام کون کرے گا؟ تو

جواب..... یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو خاتم النبیین بنایا اور آپ کے طفیل اس امت کو ”خیر الامم“ کا عالی مرتبت خطاب عطا فرمایا تو ساتھ ہی علمائے امت کو تبلیغ اسلام کا کام سپرد فرمایا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر (آل عمران: ۱۰۴)“ اور چاہئے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ چونکہ یہ منصب جلیلہ بڑا ممتاز ہے اس لئے حضور ﷺ نے علماء امت کو انبیاء کے وارث فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: ”ان العلماء ورثة الانبياء“ اور دوسری جگہ علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا مثل قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ: ”علماء امتی کانبياء بنی اسرائیل“ یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔

پس جہاں یہ ثابت ہوا کہ ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کا کام علماء امت کے سپرد ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے بعد اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مفسوضہ کام علمائے امت بتوفیق ایزدی بخوبی انجام دیتے رہے، دے رہے ہیں اور دیتے جائیں گے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے: ”ولا تنزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ“ اور ہمیشہ ایک جماعت میری امت میں سے ثابت رہے گی حق پر اور غالب۔ نہیں ضرر پہنچائے گا ان کو وہ شخص کہ مخالفت کرے ان کی، یہاں تک کہ آئے حکم خدا۔ ﴿

پس دوسری حدیث شریف میں یہ ہے کہ: ”ولا تنزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القيامة“ اور ہمیشہ رہے گی ایک جماعت میری امت میں سے لڑے گی حق پر اوراں حاکمہ غالب ہوگی قیامت تک۔ (مشکوٰۃ مترجم ج ۳ ص ۱۲۸)

پس حسب فرمان مصطفوی علمائے اہل سنت والجماعت کا گروہ حق پر ہے جو باطل کے مقابلہ پر ہمیشہ غالب رہا ہے اور انشاء اللہ قیامت تک غالب رہے گا۔

شبه در شبہ نمبر ۲

ممکن ہے مندرجہ بالا جواب کو پڑھ کر یہ شبہ پیش کر دے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام علمائے اسلام کے سپرد ہے اور آنحضرت ﷺ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا کس غرض سے ہے؟

جواب..... یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا کئی وجہ سے ہے۔ چنانچہ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ”اے رب بخشش والے! اور رحمت میں غنی، تو اپنے خادم کو قیامت کے دن اپنے رسول کی امت میں ہونا نصیب فرما۔“

(انجیل برنباس فصل ۲۱۲ آیت ۱۵، ۱۶ ص ۲۹۴)

خدا تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا منظور فرمائی اور نہ صرف امت میں شامل ہونا مقرر فرمایا بلکہ آپ کو طویل عمر عطا فرما کر نشان قیامت مقرر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود اپنا بیان ہے کہ: ”اللہ نے مجھے ہبہ فرمایا ہے کہ میں دنیا کے خاتمہ کے کچھ پہلے تک زندہ رہوں۔“

(برنباس، فصل ۲۲۱ آیت ۶ ص ۳۰۷)

دوسری جگہ ہے: ”میں ہرگز مرانہیں ہوں، اس لئے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا کے خاتمہ کے قریب تک محفوظ رکھا ہے۔“

(برنباس، فصل ۲۲۰ آیت ۱ ص ۳۰۵)

دوسری وجہ: یہ ہے کہ خداوند کریم نے انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا تھا کہ وہ اور ان کی امتیں آنحضرت ﷺ پر ایمان لائیں،۔ اگر آپ ان کے زمانہ میں تشریف نہ لائیں تو آپ کی صفات بیان کر کے اپنی امتوں کو آپ کی تابعداری اور مددگاری کا حکم دیں۔ پس تمام نبی اپنے اپنے زمانے میں یہ عہد پورا کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد پورا کرتے ہوئے جب اپنے حواریوں کو آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی تو خواہش ظاہر کی کہ اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں تو آپ کی تابعداری اور مددگاری کا شرف حاصل کروں۔ چنانچہ ”انجیل برنباس“ میں ہے: ”وہ کیا مبارک زمانہ ہے جس میں کہ یہ (رسول) دنیا میں آئے گا تو مجھے سچا مانو۔ ہر آئینہ میں میں نے اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ عزت و حرمت کو پیش کیا (اسکی تعظیم کی) ہے جیسا کہ اس کو ہر نبی نے دیکھا ہے کیونکہ ان (نبیوں) کو اس (رسول) کی روح بطور پیش گوئی کے عطا کرتا ہے اور جب کہ میں نے اس کو دیکھا میں تسلی سے بھر کر کہنے لگا۔ اے محمد ﷺ اللہ تیرے ساتھ ہو اور مجھ کو اس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں یہ شرف حاصل کر لوں تو یوانبی اور اللہ کا قدوس ہو جاؤں گا۔“

(ملفظ انجیل برنباس فصل ۳۳ آیت ۲۷ ص ۳۱۲ ص ۷۰)

پس آپ کے دوبارہ تشریف لانے کی یہ غرض بھی ہے کہ آپ کی خواہش مذکور پوری ہو جائے کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے نبیوں کی خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔

تیسری وجہ..... یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض خاص کام بھی مقرر ہیں جو

احادیث سے ثابت ہیں جیسے کمر صلیب، قتل و جال وغیرہ جس کے لئے آپ کا تشریف لانا ضروری ہے۔

سوال چہارم..... آیۃ شریفہ ”ولو تقول علینا بعض الاقاول لاخذنا منہ بالیمین۔ ثم لقطعنا منہ الوتین (حاقہ: ۴۴)“ جو بطور دلیل آنحضرت ﷺ کے کوشا عر اور کاہن کہنے والوں کے سامنے پیش کی گئی ہے یہ بطور قاعدہ کلیہ کے ہے یا نہیں؟ اگر نہیں، تو پھر یہ دلیل مخالفین کے لئے کس طرح وجہ تسکین ہو سکتی ہے؟

جواب..... مرزائیوں کے سوا کوئی مفسر اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ آیات بطور قاعدہ کلیہ کے ہیں اور قائل بھی کس طرح ہوتے جبکہ قرآن شریف میں صاف طور پر بیان ہو چکا ہے کہ اب دین مکمل ہو چکا اور آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی جو کھلی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، تو پھر ان آیات کو ”قاعدہ کلیہ“ ٹھہرانے کی کیا ضرورت ہے؟

خیال این و آن حاشانہ گنجد در دل مجنون

بہ لیلیٰ ہر کہ کرد و آشنا محمل نمے داند

بلکہ ان آیات سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی مخصوص ہیں اور آپ کی صداقت کے اظہار کے لئے نازل ہوئی ہیں کیونکہ ”تقول“ میں جو ضمیر ہے وہ اس آیت کو آپ ﷺ کے ساتھ ہی مخصوص کرتی ہے۔ اور لو جو محال کے لئے آتا ہے۔ جیسے لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدنا (انبیاء: ۲۲) آپ کی صداقت کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی جس طرح یہ امر محال ہے کہ خدائے قدوس کے سوا زمین و آسمان میں کوئی اور بھی خدا ہو اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ خدا کا محبوب (نعوذ باللہ) جھوٹ بولے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”ولو تقول علینا بعض الاقاول۔ لاخذنا منہ بالیمین۔ ثم لقطعنا منہ الوتین۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین (حاقہ: ۴۴)“ اور اگر وہ ہم پر بعض باتیں افتراء کے طور پر بنالیتا تو ہم ضرور اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر اس کی رگ جان کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ ﴿

”تفسیر یعقوب چغنی“ میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے: ”بساں کہ حضرت ذوالجلال اول سو گند یاد کرد کہ قرآن کلام من است و سخن کاہن و شاعر نیست۔ باز دلیل قدرت خود را بیان کرد کہ سخن دروغ نیست

وسید عالم ﷺ افتراء نہ کردہ است برما۔ اگر افتراء کرنے ما اورا بعذاب  
 هلاك كردى وهيچ كس اورا از عذاب مانجات نداندے وروز برروزگارے  
 زياده نشدے۔ و دشمنان او هلاك نه شدندے۔ يك كس پيدا شد همه عالم  
 بر كفر بود۔ نور دين مشرق و غرب عالم را بگرفت“

جان کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم یاد فرمائی کہ قرآن میرا کلام ہے۔ کاہن اور شاعر کا  
 کلام نہیں ہے۔ پھر اپنی قدرت کی دلیل بیان کی کہ قرآن شریف جھوٹ نہیں ہے اور سید عالم ﷺ  
 نے ہم پر افتراء نہیں کیا ہے۔ اگر (بالفرض محال..... ناشر) وہ افتراء کرتا تو ہم اس کو عذاب سے  
 ہلاک کرتے اور کوئی آدمی اس کو ہمارے عذاب سے نجات نہ دلا سکتا اور اس کا کام روز بروز ترقی  
 پر نہ ہوتا اور اس کے دشمن ہلاک نہ ہوتے۔ آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جبکہ سارا جہاں کفر سے  
 بھرا ہوا تھا۔ آپ کے دین کے نور نے مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کو روشن کیا۔ پس ثابت  
 ہوا کہ یہ آیات آپ کے لئے مخصوص ہیں۔

رہا یہ امر کہ مخالفین کی اس جواب سے تسل ہوئی یا نہ۔ سو اس کا قرآن شرف میں تو کوئی  
 ذکر نہیں۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن سعید روحوں کے حصہ میں ایمان کی نعمت مقدر تھی۔ وہ اس  
 سے بہرہ یاب ہو گئے اور جو بد بخت ازلی تھے۔ انہوں نے نہ مانا۔ مولوی محمد علی صاحب نے اپنی  
 تفسیر میں ان آیات کے نیچے لکھا ہے کہ ”ان چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرمایا ہے  
 کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر افتراء کرے اور کہے کہ اسے یہ وحی ہوئی ہے حالانکہ اسے وحی نہیں ہوئی تو  
 ایسے شخص کو وہ زیادہ مہلت نہیں دیتا بلکہ جلد اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور اس قانون کو  
 آنحضرت ﷺ کی صداقت پر یہاں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے صادق کے لئے  
 پرکھ رکھی ہے۔ اگر وہ مفتری پر گرفت نہ کرتا تو نبوت کے معاملہ میں امن اٹھ جاتا۔“

(تفسیر بیان القرآن جلد سوم ص ۱۸۸۲)

مولوی محمد علی صاحب کی یہ تحقیق تو قابل داد ہے کہ انہوں نے باوجود ختم نبوت کے قائل  
 ہونے کے ایک ایسا نکتہ معلوم کیا ہے جو تیرہ سو سال سے تمام مفسرین کرام کی نظروں سے اوجھل رہا  
 مگر اس تحریر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ خدا کا یہ قانون ازلی ہے یا بعد میں وضع ہوا؟ اگر ازلی ہے تو پہلے  
 انبیاء کی نسبت کیوں جاری نہیں کیا گیا اور ان میں سے بعض کو کیوں قتل ہونے سے نہیں بچایا گیا۔  
 آپ کے مرزا خدا بخش صاحب نے اپنی کتاب ”عسل مصطفیٰ ج ۱ ص ۳۳۹ میں تسلیم کیا ہے کہ

”بہت سے نبی قتل ہوئے تھے۔“ اور اگر یہ قانون بعد میں وضع ہوا ہے تو کب سے وضع ہوا؟ اور پھر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے وضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ ”قاعدہ کلیہ“ کس طرح ہوا؟

علاوہ ازیں یہ بھی بتایا گیا کہ مفتری کو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی مدت کے بعد گرفت ہوتی ہے اور وہ مدت کونسی نھض سے ثابت ہے اور اگر کوئی مفتری خدا نخواستہ مقررہ میعاد سے زیادہ عمر پا جائے تو کیا اسے سچا تسلیم کر لیا جائے گا؟ امید ہے کہ مولوی صاحب خود یا ان کا کوئی حواری اس گتھی کو سلجھا کر اس کی کوپورا کر دیں گے۔

تاریخی کتابوں سے ظاہر ہے کہ بہت سے جموٹے مدعی اپنے دعوائی بہت عرصہ تک پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور اپنے پیروؤں کی ایک خاصی تعداد چھوڑ کر مرے۔ چنانچہ:

۱..... ابو منصور بانی فرقہ منصور یہ نے (۲۷) ستائیس برس تک نبوت کا دعویٰ کیا اور ہزاروں لاکھوں مرید بنائے۔ (عشرہ کاملہ ص ۱۸)

۲..... ”محمد بن تو مرت نے ۲۳ چوبیس سال تک مہدویت کا دعویٰ کیا اور لاکھوں آدمی اس کے مرید ہوئے۔“ (عشرہ کاملہ ص ۲۰، ۱۹)

۳..... ”عبدالمومن (۳۳) تینتیس سال مہدی کا خلیفہ اور امین المومنین کہلا کر اور بادشاہت کر کے مرا۔“ (عشرہ کاملہ ص ۲۲، ۲۱)

۴..... ”صالح بن طریف نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نیا قرآن اپنے اوپر نازل ہونے کا مدعی تھا۔ (۴۷) سینتالیس سال تک نہایت استقلال اور کامیابی سے اپنے مذہب کی اشاعت اور بادشاہت کرتا رہا۔“ (عشرہ کاملہ ص ۲۲)

۵..... ”عبید اللہ مہدی افریقی نے ستائیس سال تک مہدویت کا دعویٰ کیا اور افریقہ کا فرمانروا رہا۔“ (عشرہ کاملہ ص ۲۳) علیہ القیاس۔ سیلہ کذاب، اسود ہنسی، سجاج بنت حارث، طلحہ بنت خویلد، یحییٰ ثقفی، صافی بن صیاد و احمد بن حسین کوفی، بہبود زنگی وغیرہ کئی جموٹے مدعی کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے مذہب کی اشاعت کرتے رہے۔ آخر کار آنحضرت ﷺ کی اس پیش گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر کے دنیا سے چل بے۔ ”سیکون فی امتی کذا یون ثلاثون کلہم یزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی“ یعنی عنقریب میری امت میں تم میں سے جوئے (آدی) ہوں گے جو سب کے سب گمان کریں گے کہ وہ نبی اللہ ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ (مکتوٰۃ کتاب المغن، فصل ثانی)



الغرض آیات مندرجہ بالا میں آنحضرت ﷺ کے سوا کوئی دوسرا شخص ایسا غیر، تنوعاً و  
شامل نہیں ہو سکتا اور نہ ان کو کسی کے لئے ”قاعدہ کلیہ“ تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ تاہم بغرض محال چند  
صنف کے لئے مان ہی لیں تو پھر مرزائیوں کے لئے کچھ مفید نہیں۔ اس سے مرزا قادیانی کی  
صدائق ثابت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ جموں نے ہی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ بقول مرزا محمود قادیانی مرزا  
قادیانی نے ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کیا اور مئی ۱۹۰۸ء بجارضہ ہیضہ لاہور میں اچانک فوت  
ہو گئے۔ گویا سات ہی سال میں گرفت الہی سے ان کا کام تمام ہو گیا۔ فاعقبہروایا اولی

الابصار

سوال پنجم ..... آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بہ ایں جسد غضری آسمان پر تائیں دم ماننے ہیں یا دیگر انبیاء  
کی طرح فوت شدہ؟ اور ان کی آمد ثانی کے قائل ہیں یا نہیں؟

جواب ..... اس سوال کے اگرچہ بظاہر دو حصے ہیں۔ ایک رفع مسیح بجد غضری بر آسمان اور دوسرا  
نزول مسیح۔ لیکن جواب کے لحاظ سے دونوں میں ایک قسم کا اشتراک ہے۔ مثلاً اگر ”نزول مسیح“  
ثابت کر دیا جائے تو ”رفع مسیح“ خود بخود ثابت ہو جائے گا کیونکہ نزول سے پہلے رفع لازمی ہے۔  
اسی طرح اگر ”رفع“ ثابت ہو جائے تو نزول کا ثابت ہونا کوئی مشکل نہیں مگر چونکہ مسائل نے  
دونوں حصوں کے متعلق سوال کیا ہے اسلئے دونوں حصوں کا علیحدہ علیحدہ جواب لکھا جاتا ہے۔  
(یعنے وکرمہ)

### جواب حصہ اول

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا  
بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جسم غضری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے اور  
تاحال زندہ آسمان پر موجود ہیں۔

ابن مریم زندہ ہے حق کی قسم  
آسمانوں پر ہے اب وہ محترم  
ہے ثبوت اس کا ہمیں قرآن سے  
جو نہ مانے خالی ہے ایمان سے  
قرآن مجید سے ثبوت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا کئی آیات سے ثابت ہے۔ چنانچہ پہلی

آیت یہ ہے۔ ”مکروا ومکر اللہ ط واللہ خیر المکرین (آل عمران: ۵۴)“ یعنی ”یہود نے تدبیر کی (کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں) اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی (کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا) اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔“ اس آیت کے متعلق تفسیر قادری میں لکھا ہے: ”مکروا۔ اور مکر کیا ان لوگوں نے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر دریافت کر لیا تھا۔ اس طرح پر کہ لوگوں کو انہوں نے ابھارا کہ جہاں کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو دفعۃً قتل کر ڈالو اور صحیح یہ ہے کہ انواع و اقسام کے حیوانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور گھر میں قید کر کے رات بھر پہرہ رکھا اور صبح تڑکے اکٹھا ہو کر اپنے سردار کو کہ اس کا نام یہود تھا، گھر میں بھیجا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باہر لائے۔ اس شب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے آسمان پر اٹھالیا۔ جیسے ہی یہود اس گھر میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پایا۔ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پر ڈال دی جب باہر نکلا اور یہ کہنا چاہا کہ عیسیٰ یہاں نہیں ہے۔ وہ لوگ اس سے لپٹ گئے ہر چند وہ کہتا ہی رہا کہ میں فلاں شخص ہوں اور نالہ و فریاد کیا۔ کچھ نہ ہوا سولی پر چڑھا کر لوگوں نے تیر برسا ئے۔“

حق تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا۔ و مکر اللہ ط اور خدا نے مکر کی جزا نہیں دی کہ انہوں نے اپنے ہی یا سردار کو بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر ڈالا اور اللہ خوب بدلہ دینے والا ہے مکاروں کو۔ واللہ خیر المکرین۔ (تفسیر قادری، جلد اول ص ۱۰۹، مطبوعہ ذلکوہ و لکھنؤ)

”تفسیر حقانی“ میں ہے: ”آخر کار یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکام سے شکایتیں کر کے پلاطوس حاکم کو ان کے قتل پر آمادہ کیا اور جاسوس دوڑ گئے۔ حضرت کو ایک جگہ سے گرفتار کر کے لائے اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کیں اور بہت کچھ مکر داؤا ان کے قتل کے لئے کیا مگر خدا کا داؤ سب پر غالب ہے۔ اس نے یہ کیا کہ انہیں یہودیوں میں سے ایک کو حضرت مسیح کی صورت میں کر دیا اور مسیح علیہ السلام کو ملائکہ آسمان پر لے گئے۔ یہود نے مسیح سمجھ کر اس شخص کو سولی دی اور بڑی اذیت سے مارا۔“ (تفسیر حقانی ج ۳ ص ۱۱۲، سطر ۲۰ تا ۲۱)

”تفسیر مواہب“ میں ہے: شیخ الحافظ عماد بن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے اس زمانہ کے بادشاہ کے یہاں لگائی بھجائی کی اور وہ کافر تھا کہ یہاں ایک مرد پیدا ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بادشاہ کی فرمانبرداری سے بہکتا ہے اور رعایا کو فساد پر آمادہ کرتا ہے۔ اور باپ بیٹے کے درمیان نفاق ڈالتا ہے اور وہ زنا سے پیدا ہوا ہے اور ایسی ہی جھوٹی تہمتیں دہشتان خمیشوں نے باندھے۔ یہاں تک کہ وہ بادشاہ برافروختہ ہوا اور آدی بھیجا کہ اس کو پکڑ کر

تو جین و عذاب کے ساتھ سولی دے دے پھر جب ان لوگوں نے گھر گھیرا اور اپنے گمان میں سمجھ چکے کہ ہم نے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کے موکلے سے آسمان کو اٹھالیا اور اس کی شیاہت ایک شخص پر ڈال دی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس مکان میں تھا پھر جب یہ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے اندھیری رات میں اس کو عیسیٰ تصور کیا اور پکڑ کر اہانت کے ساتھ سولی دے دی اور یہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی کہ اپنے نبی کو نجات دے دی اور ان کافروں کو ان کی گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ (تفسیر مواہب الرحمن ج ۳ ص ۲۰۱)

”تفسیر معالم التنزیل“ میں ہے: ”قال الكلبي عن ابی صالح عن ابن عباس فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى عليه السلام وساروا اليه ليقتلوه فبعث الله جبريل فادخله في خوخة في سقفها روزنة فرفعه الى السماء من تلك الروزنة“ ﴿کلبی نے ابی صالح سے اور اس نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ یہود کی ایک جماعت نے عیسیٰ کے قتل پر اتفاق کیا اور اس کو قتل کرنے کے لئے اس کی طرف گئے پس اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا پس اس نے اس کو مکان میں داخل کیا، اس کی چھت میں سوراخ تھا۔ اس سوراخ کی راہ اس کو آسمان پر اٹھالیا۔﴾ (معالم ص ۱۶۲، ۵۷)

مولوی محمد علی صاحب کو مفسرین کی اس تفسیر پر تین اعتراض ہیں:

اول ..... یہ کہ ایک شخص کو یوں دشمنوں کے تصرف سے نکال لینا کہ اسے آسمان پر اٹھایا جائے۔ یہ کوئی باریک مخفی تدبیر نہ ہوئی۔

دوسرا ..... یہ کہ مگر تو اس مخفی تدبیر کو کہا جاتا ہے جو جہالت نقص و فتور سے خالی ہو جب ایک حواری مارا گیا اور اسی صلیب کی موت سے مارا گیا تو یہ تدبیر تو سخت ناقص ہے۔ مسیح تو لعنتی موت سے بچے لیکن ان کی جگہ حواری جو انصار اللہ میں سے تھا۔ اسی لعنتی موت میں گرفتار ہوا۔

تیسرا ..... اور سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہودیوں کی غرض تو پوری ہو گئی کہ مسیح کے کاروبار اور تبلیغ کا خاتمہ ہو گیا اور نبی اسرائیل اس کی ہدایت سے محروم رہ گئے۔ پھر یہ کیسی ناقص تدبیر ہوئی۔ (تفسیر بیان القرآن ج ۱ ص ۳۳۰)

مولوی صاحب کے یہ اعتراض یا تو اجاب بغیر البصیرت پر مبنی ہیں یا عدم تدبیر کا نتیجہ۔ بہر کیف تاریخ و عقوبت سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ اگرچہ یہ سوال قابل التفات نہیں۔ تاہم ان کے جواب نمبر دار لکھے جا رہے ہیں۔

پہلے ..... اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص کو یوں دشمنوں کو تصرف سے نکال لینا یہ کہ اسے

آسمان پر اٹھایا جائے اور کسی انسان کے وہم گمان میں بھی یہ بات نہ آئے۔ ”ہاریک عقلی تدبیر“ نہیں تو اور کیا ہے؟

دوسرے..... اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے جب ایک غدار حواری مارا گیا اور اسی صلیب کی موت سے مارا گیا جس سے اپنے آقا کو مروانا چاہتا تھا اور اسی لعنتی موت میں گرفتار ہوا۔ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطعون ہونا تھا تو اس سے کامل تدبیر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس تدبیر کو ”سخت تقاص“ کہنا ”خیر الما کرین“ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟

بے شک وہ حواری انہیں بارہ حواریوں میں سے تھا۔ جنہوں نے من انصاری الی اللہ کے جواب میں نحن انصار اللہ کہا تھا۔ مگر جب اس نے اپنے نبی سے غداری کی اور اسے چند روپوں کے عوض دشمنوں سے پکڑا وانا چاہا تو پھر وہ اعداء اللہ میں شامل ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے اس کو اپنے کئے کی سزا دی اور وہ کیفر کردار کو پہنچا تو اس میں نقص اور فتور کیا ہوا؟

نوٹ..... یہود کی اس بے ایمانی کا ذکر ”انا جنیل ثلاثہ“ (متی ۲۶: ۱۴-۱۶ مرقس ۱۴: ۱۰-۱۱ لوقا ۲۲: ۴۷-۴۸) میں موجود ہے جو مشہور معروف ہے۔ اس کے علاوہ ”انجیل برناباس“ میں بھی مذکور ہے جو اس طرح پر ہے۔ ”اور یسوع گھر سے نکل کر باغ کی طرف مڑا تا کہ نماز ادا کرے۔ تب وہ اپنے دونوں گھنٹوں پر بیٹھا ایک سومرتہ اپنے منہ کو نماز کے لئے اپنی عادت کے موافق خاک آلود کرتا ہوا اور چونکہ یہود اس جگہ کو جانتا تھا جس میں یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا۔ لہذا وہ کاہنوں کے سردار کے پاس گیا اور کہا اگر تو مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو میں آج کی رات یسوع کو تیرے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا۔ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو اس لئے کہ وہ گیارہ رفیقوں کے ساتھ اکیلا ہے۔ کاہنوں کے سردار نے جواب دیا تو کسی قدر طلب کرتا ہے۔ یہود نے کہا میں نکلے سونے کے۔ پس اس وقت کاہنوں کے سردار نے فوراً اسے روپے مہیا کر دیئے اور ایک فریسی کو حاکم اور ہیرودس کے پاس بھیجا۔ تاکہ وہ کچھ سپاہی بلا لائے۔ تب ان دونوں نے اسے ایک دستہ سپاہ کا دیا۔ اس واسطے کہ وہ دونوں قوم سے ڈرے۔ تب وہیں ان لوگوں نے اپنے ہتھیار لئے اور یروشلیم سے لائیشیوں پر مشعلیں اور چراغ جلائے ہوئے نکلے۔“

(انجیل برناباس فصل ۱۴ ص ۲۹۶)

تیسرے..... اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہود کی عداوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محض تبلیغ دین کی وجہ سے ہی نہ تھی بلکہ آپ کی پیدائش کی وجہ سے تھی۔ حضرت مریم صدیقہ پر انہوں نے (نعوذ باللہ من ذلك) زنا کا بہتان باندھا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ”وبکفر ہم

وقولہم علی مریم بہتاناً عظیماً (نساء: ۱۰۶) اس آیت کے متعلق ”تفسیر حقانی“ میں لکھا ہے۔ ”یہ تالاق فعل ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت صادر ہوا تھا۔ وہ یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے صرف اس کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ اس سے منکر ہو گئے۔ ویکفر ہم سے اس طرف اشارہ ہے۔ سو انہوں نے اس قدرت کاملہ کا انکار کیا اور حضرت مریم پاک دامن پر زنا کی تہمت لگائی کہ اس نے یہ حرامی بچا جتا ہے اور اخیر تک اس لئے یہود حضرت مسیح علیہ السلام کو بنظر حقارت دیکھتے رہے۔“

(تفسیر حقانی، ج ۳ طبع ششم، ص ۲۳۳)

اس کے سوا عیسائیوں کی اپنی شہادت موجود ہے کہ ہیردوس مسیح علیہ السلام کو بچپن میں ہی قتل کرانے کے درپے تھا چنانچہ پادری بارتھ صاحب اپنی کتاب ”مقدس کتاب کا احوال“ حصہ دوم ص ۸ پر لکھتے ہیں۔ ”اس سبب سے ہیردوس کا غضب بھڑکا۔ کیونکہ اس نے چاہا کہ اس بچے (یعنی مسیح علیہ السلام) کو جان سے مارے۔ لیکن چونکہ نہ جانتا تھا کہ وہ کون اور کس گھر میں رہتا ہے اس لئے اس نے بیت لحم اور اس کی سرحدوں کے سبب چھوٹے لڑکوں کو قتل کروا دیا تاکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے مگر اپنی مراد کو نہ پہنچا۔“ (کتاب مذکور طبع ششم ۱۸۹۵ء)

پس یہود نامسعود کی غرض یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بروئے تعصب مجرم قرار دے کر صلیب پر چڑھا کر اپنے عقیدہ کے مطابق (نعوذ باللہ) لعنتی بنائیں اور اپنے دل کا بخار نکالیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو کھڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ (گنتیون ۳-۱۳)

مگر اپنے مقاصد میں نہایت ناکام اور نامراد رہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کا بال بھی بیکانہ ہونے دیا۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے: وما قتلوه وما صلبوه یعنی ”نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ سولی دیا۔“ پس ”خیر المکرین“ کی تدبیر کو ”ناقص“ کہا نہایت بے ادبی اور گستاخی ہے۔ مگر مولوی صاحب معذور ہیں۔ اس قسم کی بے ادبی اور گستاخی مرزا عبیت کی گھٹی میں داخل ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں:

کرہ ہائے تو مارا کرد گستاخ

(براہین احمدیہ ص ۵۵۵، خزائن ج ۱ ص ۶۶۲ شاید در حاشیہ)

نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا  
دوسری آیت یہ ہے: جس سے رفع مسیح مراد تھا تب: ”وقولہم انا قتلنا المسیح

عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و ما قتلوه و ما صلیبوه و لکن شبہ لهم و ان الذین  
اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لهم بہ من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا بل  
رفعه اللہ الیہ ط و کان اللہ عزیزاً حکیماً (نساء: ۱۵۸) ”یعنی یہودیوں کا قول ہے کہ  
”ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے اور نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے صلیب  
پر چڑھایا مگر ان کے لئے اس جیسا بنایا گیا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا،  
وہ شک میں ہیں۔ ان کو اس کا کوئی علم نہیں۔ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور انہوں نے اس کو  
یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔“

اس آیت سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب  
ہونے یا فوت ہونے کے قائل ہیں یا اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس کا علم یقینی نہیں۔ وہ اتباع  
الظن میں گرفتار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا اور وہ غالب ہے۔  
آسمان پر اٹھالینا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں۔ واللہ غالب علیٰ امرہ اور وہ حکمت والا ہے۔ ان کے  
آسمان پر لے جانے میں بھی حکمت ہے۔

”تفسیر عباسی“ میں ہے: ”(و ما قتلوه و ما صلیبوه و لکن شبہ لهم) القی  
شبہ عیسیٰ علی تطیانوس فقتلوه بدل عیسیٰ (وان الذین اختلفوا فیہ) فی  
قتله (ما لهم بہ) بقتله (من علم الا اتباع الظن) الا الظن (و ما قتلوه یقیناً)  
ای یقیناً ما قتلوه (بل رفعه اللہ الیہ) الی السماء (و کان اللہ عزیزاً) بالنقمة  
من اعدائہ (حکیماً) بالنصرة لا ولیائہ“ ﴿اور نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہوں  
نے اسے صلیب پر چڑھایا لیکن ان کے لئے اس جیسا بنایا گیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ  
تطیانوس پر ڈالی گئی پس انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے اس کو قتل کر دیا اور وہ لوگ جنہوں  
نے اس میں اختلاف کیا یعنی اس کے قتل میں۔ ان کو اس کا کوئی علم نہیں یعنی اس کے قتل کا۔ صرف  
گمان کے پیچھے چلتے ہیں یعنی ظن میں ہیں اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو  
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا یعنی آسمان کی طرف اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے دشمنوں  
سے بدلہ لینے میں اور حکمت والا ہے اپنے دوستوں کی مدد کرنے میں۔ ﴿

”تفسیر جلالین“ میں ہے: ”و ما قتلوه و ما صلیبوه و لکن شبہ لهم المقتول  
و المصلوب و هو صاحبہم بعیسیٰ ای القی اللہ علیہ شبہ فظنوه ایاء“ ﴿اور نہ

انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا اور ان کے لئے اس جیسا بنایا گیا یعنی جو مقتول و مصلوب ہوا اور وہ انہیں کا ساتھی تھا جو عیسیٰ جیسا بنایا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس (کے چہرے) پر حضرت عیسیٰ کی شباهت ڈال دی پس یہود نے گمان کیا کہ یہ وہی (عیسیٰ ہی) ہے۔ ﴿  
”تفسیر ابن جریر“ میں ہے:

..... حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا ابو عاصم قال ثنا عيسى عن ابن ابى نجيح عن مجاهد فى قوله (شبه لهم) قال صلبوه رجلا غير عيسى يحسبونه اياه (يعنى ابن ابى نجيح نے مجاہد سے خدا تعالیٰ کے قول شبہ لهم کی تفسیر بیان کی ہے۔ اس نے کہا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے آدمی کو سولی دیا اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی) ہے)

(ابن جریر ج ۶ ص ۱۰۰ سطر ۲۵ و ۲۶)

.....۲ حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثنى حجاج عن ابن جريح عن مجاهد قال صلبوا رجلا شبهوه بعيسى يحسبونه اياه ورفع الله اليه عيسى عليه السلام حيا. یعنی ابن جریر نے مجاہد سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا کہ یہودیوں نے ایک ایسے آدمی کو سولی دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی ہے۔ (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے زندہ اپنی طرف اٹھالیا۔

”تفسیر درمنثور“ میں ہے: ”قوله تعالى: (وقولهم انا قتلنا المسيح..... آية) اخرج عبد بن حميد والنسائي وابن ابى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس، قال لما اراد الله ان يرفع عيسى الى السماء خرج الى اصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين فخرج عليهم من غير البيت ورأسه يقطر ماء فقال ان منكم من يكفر بى اثنى عشر مرة بعد ان آمن بى ثم قال ايكم يلقى عليه شبهى فقتل مكانى ويكون معى فى درجتى فقام شاب من احدتهم سنا فقال له اجلس ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال اجلس ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال انا انت ذاك فالقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة فى البيت الى السماء قال جاء الطلب من اليهود فاخذوا

الشبة فقتلوه وصلبوه..... الخ۔ ایمن مردویہ نے حبر الامت افتخارنا اس حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت کی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھائے۔ اپنے اصحاب کی طرف نکلے اور ایک مکان میں ان کے حواریوں میں سے بارہ آدمی تھے۔ وہ باہر سے اس مکان میں ان کے لئے گئے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکتے تھے۔ پس آپ نے (ان سے) کہا بعض تم میں سے وہ ہیں جس نے میرے ساتھ ایمان لانے کے بعد بارہ دفعہ بے ایمانی کی پھر کہا تم میں سے کون ہے کہ اس پر میری شبیہ ڈالی جائے پس وہ میرے بجائے قتل کیا جائے اور میرے ساتھ درجہ پائے پس ان میں سے ایک چھوٹی عمر کا نوجوان کھڑا ہوا۔ پس آپ نے اس سے کہا کہ بیٹھ جا پھر ان پر (یہ بات) دہرائی پس نوجوان کھڑا ہوا۔ پس آپ نے کہا بیٹھ جا پھر ان پر (وہی بات دہرائی) پس نوجوان کھڑا ہوا۔ پس اس نے کہا ”میں“ پس آپ نے کہا تو ہی ایک آدمی ہے۔ پس اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام گھر کی کھڑکی سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے پس یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طالب آئے اور انہوں نے شبیہ کو پکڑ لیا پس اس کو قتل کیا پھر اس کو صلیب پر چڑھایا۔ ﴿

(تفسیر درمنثور ص ۲۳۸ ط ۲۳۲ ص ۲۸۲)

”تفسیر نیشاپوری“ میں ہے: ”وقیل کان رجل یدعی انه اصحاب عیسیٰ وکان منافقا فذهب الی الیہود ودلہم علیہ فلما دخل مع الیہود لاخذہ القی اللہ شبہہ علیہ فقتل وصلب“ ﴿ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک آدمی تھا جو منافق تھا پس وہ یہودی کی طرف گیا اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا پس وہ یہود سمیت داخل ہوا تا کہ آپ کو پکڑے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی شبیہ اس پر ڈال دی پس وہ قتل کیا گیا اور سولی دیا گیا۔ ﴿ ”(وان الذین اختلفو فیہ لفی شک منہ) قیل ان المختلفین ہم الیہود لما قتلوا الشخص المشبه ونظروا، الی بدنه قالوا ان کان هذا عیسیٰ فاین صاحبنا وان کان صاحبنا فاین عیسیٰ“ ﴿ آیت مندرجہ بالا کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ یہودی ہیں۔ جب انہوں نے شخص مشتبہ کو قتل کیا اور اس کے بدن کی طرف دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا دوست کہا ہے اور اگر یہ ہمارا دوست ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ ﴿

(تفسیر نیشاپوری بر حاشیہ ابن جریر ج ۶ ص ۱۸)

”تفسیر بیضاوی“ میں ہے: ”(وان الذین اختلفوا فیہ) فی شان عیسیٰ



علیہ السلام فانہ لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعض اليهود وكان كاذبا فقتلناه حقا وتردد اخرون وقال بعضهم ان كان هذا عيسى فاين صاحبون فقال بعضهم الوجه عيسى والبدن بدن صاحبنا ﴿یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں ہے جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے اختلاف کیا۔ بعض یہودیوں نے کہا کہ وہ جھوٹا تھا، ہم نے اس کو یقیناً قتل کیا اور دوسروں کو تردد ہوا۔ بعض نے کہا اگر یہ عیسیٰ تھا تو ہمارا دوست کہاں ہے اور بعض نے کہا کہ منہ تو عیسیٰ کا ہے اور بدن ہمارے دوست کا۔﴾ ”بل رفعہ اللہ علیہ رد وانکار لقتله واثبات لرفعه“ یعنی یہ آیت اس کے قتل کا رد و انکار ہے اور اس کے اٹھائے جانے کو ثابت کرتی ہے۔“ (تفسیر بیضاوی قلمی)

”انجیل برناس“ فصل ۲۱۵ میں ہے: ”اور جب کہ سپاہی یہودا کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچے جس میں یسوع تھا۔ یسوع نے ایک بھاری جماعت کے نزدیک آنا سنا۔ تب اس لئے وہ ڈر کر گھر میں چلا گیا اور گیارہوں (شاگرد) سو رہے تھے پس جبکہ اللہ نے اپنے بندے کو خطرہ میں دیکھا۔ اپنے سفیروں جبرئیل اور میکائیل اور رفائیل اور اوریل کو حکم دیا کہ یسوع کو دنیا سے لے لیں۔ تب پاک فرشتے آئے اور یسوع کو دکھن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑی سے لیا پس اس کو اٹھالے گئے اور اسے تیسرے آسمان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ ابد تک اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔“

فصل ۲۱۶..... اور یہودا زور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ہوا جس میں سے یسوع اٹھالیا گیا اور شاگرد سب کے سب سو رہے تھے تب اللہ نے ایک عجیب کام کیا، پس یہودا بولا اور چہرے میں بدل کر یسوع کے مشابہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا کہ وہی یسوع ہے۔ لیکن اس نے ہم کو جگانے کے بعد تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ تاکہ دیکھے معلم کہاں ہے۔ اس لئے ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کہا۔ اے سید تو ہی تو ہمارا معلم ہے پس تو اب ہم کو بھول گیا۔ مگر اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم احق ہو؟ کہ یہودا سحر یوٹی کو نہیں پہچانتے اور اسی اثناء میں کہ وہ کہہ رہا تھا، سپاہی داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ یہودا پر ڈال دیئے اس لئے کہ وہ ہر ایک وجہ سے یسوع کے مشابہ تھا۔

فصل ۲۱۷: پس سپاہیوں نے یہودا کو پکڑا اور اس کو اس سے عراق کرنے ہوئے ہاتھ لیا اس لئے کہ یہودا نے ان سے اپنے یسوع ہونے کا انکار کیا، حالیکہ وہ سچا تھا۔ تب سپاہیوں نے

اسے چھیڑتے ہوئے کہا ہے ہمارے سید تو ڈرنے لگے۔ اس لئے کہ ہم تجھ کو اسرائیل پر بادشاہ بنانے آئے ہیں اور ہم نے تجھ کو محض اس واسطے باعدھا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو بادشاہت کو منظور نہیں کرتا۔ یہود نے جواب میں کہا کہ شاید تم دیوانے ہو گئے ہو؟ تم ہتھیاروں اور چرائوں کو لیکر یسوع ناصری کو پکڑنے آئے ہو۔ گویا کہ وہ چور ہے تو کیا تم مجھی کو باندھ لو گے جس نے تمہیں راہ دکھائی ہے تاکہ مجھے بادشاہ بناؤ۔ اس وقت سپاہیوں کا صبر جاتا رہا تھا اور انہوں نے یہود کو مکوں اور لاتوں سے مار کر ذلیل کرنا شروع کیا اور غصہ کے ساتھ اسے یروشلم کی طرف کھینچنے لے چلے۔

۷۹: تب وہ لوگ اسے حجہ پہاڑ پر لے گئے جہاں کہ مجرموں کو پھانسی دینے کی انہیں عادت تھی اور وہاں اسے (یہودا) کو ننگا کر کے صلیب پر لٹکایا۔ اس کی حقیر میں مبالغہ کرنے کے لئے۔

۸۰: اور یہود نے کچھ نہیں کیا سو اس حج، کے کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس لئے کہ مجرم توفیق گیا اور میں ظلم سے مر رہا ہوں۔

۸۱: میں سچ کہتا ہوں کہ یہود کی آواز اور اس کا چہرہ اور اس کی صورت یسوع سے مشابہ ہونے میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ یسوع کے سب ہی شاگردوں اور اس پر ایمان لانے والوں نے اس کو یسوع ہی سمجھا۔

نوٹ..... مندرجہ بالا اقتباسات میں عبارتوں کے ساتھ جو نمبر دیئے گئے ہیں۔ وہ آیات کے نمبر دیئے ہیں تاکہ اگر کوئی شخص اصل کتاب میں عبارت دیکھنا چاہے تو اسے وقت نہ ہو۔ (ناظم)

مندرجہ بالا آیت اور اس کی تفاسیر اور انجیل کے حوالہ سے روز روشن کی طرح ظاہر و باہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کسی نے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور ان کی جگہ ان کا شبیہ مصلوب ہوا مگر مرزائی صاحبان خواہ مخواہ اس آیت میں مفسرین کے خلاف ذیل کے الفاظ میں اڑ بیٹھے ہیں اور بے جا تاویلات میں پھنس کر انکار کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ:

”صلبہ کی بحث“: پہلا لفظ صلبہ اس کا صحیح معنی تو یہ ہے۔ ”وہ سردار نکر وہ اند اورا (شاہ ولی اللہ صاحب)“ یعنی ”اور نہ سولی پر چڑھایا انہوں نے اس کو۔“ مگر مرزائی صاحبان اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ”سولی پر تو چڑھایا مگر انہوں نے اس کی ہڈیاں نہ

توڑیں۔“ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ ”ماصلبواہ“ میں نفی صرف اس بات کی ہے کہ اس پر موت بذریعہ صلیب وارد نہیں ہوئی۔ نہ اس بات کی کہ وہ لکڑی پر لٹکایا گیا ہو..... الخ۔ (بیان القرآن ج ۵ ص ۵۷)

اس کی تشریح مرزا خدا بخش صاحب نے اپنی کتاب ”عسل مصفی“ میں کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”حضرت مسیح علیہ السلام ہی پکڑے گئے اور وہی مصلوب ہوئے مگر صلیب کی پوری شرائط ان پر نافذ نہیں ہوئیں کیونکہ وہ تین روز تک صلیب پر نہیں لٹکے رہے بلکہ تین گھنٹہ سے زیادہ موت نہیں ملتا کہ وہ اس پر رہے ہوں اور نہ ان کی ہڈیاں توڑی گئیں۔“

(عسل مصفی ج ۱۱ فصل ۱۱ ص ۳۶۹)

قبل اس کے کہ اس کا جواب لکھا جائے۔ یہ دیکھنا ہے کہ مرزائیوں کے اس عقیدہ کا ماخذ کیا ہے؟ سواس کی تلاش کچھ مشکل نہیں۔ مولوی محمد علی صاحب ”بائیکل انسائیکلو پیڈیا“ اور ”یہودی انسائیکلو پیڈیا“ کا نام لیتے ہیں اور مرزا خدا بخش صاحب کا ارشاد یہ ہے: ”یہود اور نصاریٰ جو باہم ایک دوسرے کے لئے مخالف ہیں کہ جن کی دشمنی اور کینہ وری کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ دونوں اس بات پر یک زبان اور متفق ہیں کہ مسیح ناصری ہی پکڑا گیا اور اسی کو صلیب پر چڑھایا گیا اور اسی کو زخم لگے اور وہی مجروح ہو کر اپنے حواریوں سے ملتا رہا اور تبلیغ کی سخت تاکید میں کرتا رہا۔ اب ان دونوں باہم مخالف قوموں کے تو اترا کون توڑ سکتا ہے اور تواریخی ثبوت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر تو اترا قومی کا انکار کریں تو پھر دنیا بھر کے کل علوم سے امن اٹھ جاتا ہے اور ان سب سے دست برداری کرنی پڑے گی اور پھر مسلمانوں کو سخت مشکل پیش آئے گی۔ کیونکہ اگر قومی تو اترا کوئی چیز نہیں تو پھر اسلام کی ایک بات بھی قابل اعتماد نہیں رہ سکتی۔ یہی قومی تو اترا ہی تو ہے جس سے قرآن شریف اور احادیث و اقوال آئمہ مجتہدین مانے اور واجب العمل قرار دیئے جاتے ہیں اگر اس قومی تو اترا کو نہ مانے جائے تو پھر ایک چیز ہمارے ہاتھ میں اس قابل نہیں۔ جس کو محفوظ تسلیم کر سکیں۔ لہذا قومی تو اترا ایک ایسا امر ہے جس کے ماننے میں کسی کو چارہ نہیں۔“ (عسل مصفی ج ۱ ص ۳۶۹)

عبارت مندرجہ بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزائیوں کا یہ عقیدہ یہود اور نصاریٰ کے تو اترا پر مبنی ہے اور مرزائیت یہودیت کے ساتھ اس عقیدہ میں متفق ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہی مرزائی جو بعض اوقات علماے اسلام کو (نعوذ باللہ) یہودی صفت علماء کہا کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں خود یہود کے مشابہت نام رکھتے ہیں۔

یہ ضد امتحان جذب دل کیسا نکل آیا  
میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

شکر ہے کہ آخر کچھ تو انہوں نے مانا نص نہ سہی۔ ”تواتر قومی“ ہی سہی۔ احادیث نہ  
سہی۔ ”تاریخی روایات“ ہی سہی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ”تواتر قومی“ اور ”تاریخی ثبوت“  
کی ان کے دلوں میں کس قدر وقعت ہے؟ کیا ان کے پورے بیانات پر ایمان رکھتے ہیں یا صرف  
اپنے مطلب کا فقرہ لیکر باقی عبارات کو چھوڑ دیتے ہیں۔

ہاں جناب! بے شک ”تواتر قومی“ سے ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر  
چڑھائے گئے۔ لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے صلیب پر جان دے دی چنانچہ۔  
..... انجیل متی میں ہے: ”یسوع پھر بڑی آواز سے چلا یا اور جان دے دی“

(باب ۲۷ آیت ۵۰)

..... ۲ مرقس میں ہے: ”پھر یسوع بڑی آواز سے چلا یا اور دم دے دیا“ (باب ۱۵ آیت ۳۷)

..... ۳ لوقا میں ہے: ”پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح

تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔“ (باب ۲۳ آیت ۴۶)

..... ۴ یوحنا میں ہے۔ ”جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے

دی۔“ (باب ۱۹ آیت ۳۰)

پھر یہ بھی ثابت ہے کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھے چنانچہ

..... ۱ انجیل متی میں ہے: ”فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم

یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔“

(باب ۲۸ آیت ۶، ۵)

..... ۲ مرقس میں ہے: ”اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو۔ تم یسوع ناصری کو جو مصلوب

ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے۔“ (باب ۱۶ آیت ۶)

..... ۳ لوقا میں ہے: ”وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔“ (باب ۲۳ آیت ۲)

پھر یہ بھی ثابت ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے چنانچہ

..... ۱ مرقس میں ہے: ”غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا۔“

(باب ۱۶ آیت ۱۹)

۲..... لو قاس ہے: ”جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔“ (باب ۲۳، آیت ۵۱)

۳..... اعمال میں ہے: ”یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھا دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آکھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔ اے گلیلی مردو! تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔“ (باب اول آیت ۱۱۲۹)

اس کے سوا مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ ”تمام فرقے نصاریٰ کے اسی قول پر متفق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک حضرت عیسیٰ مرے رہے اور پھر قبر میں سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے“ (ازالہ اوہام ص ۲۳۸، خزائن ج ۳ ص ۲۲۵)

مرزا یسوع کیا ان تمام باتوں پر جو قومی تو اتر اور تاریخی روایات سے ثابت ہیں۔ ایمان رکھتے ہو؟ اگر ان تمام باتوں پر تمہارا ایمان ہے تو تمہارا مذہب باطل ہے اور اگر ان سب کو نہیں مانتے تو بھی تم جھوٹے ثابت ہوئے۔ ”افتن منون ببعض الكتب وتكفرون ببعض..... الخ“ یعنی کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ اب تو دونوں طرف سے پھنسنے۔ نہ پائے فرار نہ جائے قرار۔

دو گونہ رنج و عذاب جان مجنوں را

بلائے صحبت لیلی و فرقت لیلی

مرزا یسوع کا یہ کہنا بھی محض دروغ بے فروغ ہے کہ ”مصلوب کو تین دن تک صلیب پر لٹکایا جاتا ہے۔“ اور سچ تین دن تک صلیب پر لٹکے نہیں رہے۔ یہ بات ”ہائیکل“ کی تعلیم کے قطعاً خلاف ہے۔ ”ہائیکل“ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ”اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تم اسے مار کر درخت سے ٹانگ دو تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی رہے بلکہ تم اس دن اسے دفن کر دینا کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تا نہ کہ تم اس ملک کو ناپاک کر دو۔ جسے خداوند تمہارا تم کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔“ اس عبارت سے ثابت ہے کہ مصلوب کو صرف ایک ہی دن صلیب پر لٹکانے کا حکم ہے۔ تین دن تک نہیں پس مرزا یسوع کا یہ لکھنا جھوٹ ہے۔

اب صلب کا تحقیقی جواب لکھا جاتا ہے۔ صلب سے مراد محض ہڈیاں توڑنا ہی نہیں جیسا کہ مرزائیوں کا خیال ہے کیونکہ کئی آدمی لڑائی میں چوٹیں لگنے اور ہڈیاں ٹوٹنے سے مر جاتے ہیں کئی مکان یا درخت سے گر کر چوٹ آنے اور ہڈیاں ٹوٹنے سے مر جاتے ہیں۔ کئی گاڑیوں کے نیچے پکے جاتے ہیں۔ اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں مگر ان میں سے کسی کو مصلوب نہیں کہا جاتا مصلوب صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو صلیب پر لٹکایا جائے۔

پس صلب کا لفظ صلیب پر چڑھانے میں لگانے اور ہڈیاں توڑنے وغیرہ جملہ امور پر حاوی ہے یا بالفاظ دیگر یہ تمام امور اس کے مفہوم میں شامل ہیں اور ”وما صلبوه“ میں ان تمام امور کی نفی کی گئی ہے کہ نہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی نے صلیب پر چڑھایا، نہ میں لگائیں اور نہ ہڈیاں توڑیں۔ غرضیکہ اس کے ساتھ ان امور میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ پس اس نص قطعی سے جہاں یہودیت اور نصرانیت کے ”تواتر قوی“ کا رد ہوا وہاں مرزائیت کے عقیدہ فاسدہ کا بھی قلع قمع ہو گیا۔ ”والحمد لله علیٰ ذالک“

﴿شبهہ لهم﴾ کی بحث: دوسرا لفظ ہے شبہہ لهم اس کا معنی یہ ہے کہ مشتبہ شدہ پرائیساں (شاہ ولی اللہ صاحب) یعنی ”شہد الا گناہ اسطے ان کے۔“ (شاہ رفیع الدین صاحب) مگر مولوی محمد علی صاحب اس کا معنی یہ کرتے ہیں۔ ”وہ ان کے لئے اس جیسا بنایا گیا۔“ (بیان القرآن، ص ۵۷۵) اس کی تشریح مرزا خدا بخش صاحب کے الفاظ میں یہ ہے: ”وہ مشابہ بالمصلوب ہوا۔“ (عسل مصفی، ج ۱ ص ۴۷۰) اور مرزا خدا بخش صاحب، مفسرین پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”بعض مفسر اپنی قلت تدریس سے جملہ ولكن شبہہ لهم سے نکالتے ہیں کہ ایک اور آدمی مسیح کی شبہہ بن گیا تھا۔ حالانکہ یہ امر بالبداهت غلط ہے کیونکہ شبہہ ہم مفعول مالم یسم قاعلہ کی نمبر واحد غائب مستتر ہے۔ جو مسیح کی طرف راجع ہے۔ جو آء معانا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم میں ہے۔ (عسل مصفی ج ۱ ص ۴۷۰) مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں۔ ”اس کے معنی غلطی سے یوں کئے جاتے ہیں کہ کوئی شخص مسیح کا مشابہ بنایا گیا۔ یہ مرتضیٰ غلطی ایک قصہ گو ذہن میں لکھ کر کی گئی ہے۔ ورنہ الفاظ قرآن اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ ضمیر جو شبہہ میں ہے۔ وہ صرف معرفت مسیح کی طرف جاسکتی ہے۔ جن کا ذکر چل رہا ہے اور کسی ایسے شخص کی طرف ہرگز نہیں کی جاسکتی جس کا ذکر قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں۔“ (بیان القرآن ج ۱ ص ۵۷۶، ۵۷۵)

جواب..... مرزائیوں کا دماغ تو اپنا چکرایا ہوا ہے اور قلت تدریس کا الزام مفسرین پر

کاتے ہیں۔ چنانچہ شہدہ میں ضمیر تو ایک ہے مگر مولوی محمد علی صاحب ترجمہ میں دو ضمیریں لاتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں: ”وہ“ ان کے لئے ”اس“ جیسا بنایا گیا۔ مولوی صاحب کا یہ اختراع یا تو انفرادی ہے یا قلمت تدبیر کا نتیجہ۔ خبر کو کبھی ہودو لوں ضمیروں میں سے ایک یقیناً زادہ ہے جس کی قرآنی لفظ شہدہ تو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ پس جب مولوی صاحب کے ترجمہ کی مہارت سے ایک زادہ ضمیر ”وہ“ کاٹ دی جائے تو باقی ترجمہ رہ گیا۔ ان کے لئے اس جیسا بنایا گیا۔ جو صحیح بھی ہے اور انہی کی قلم سے ان کا رد بھی ہے۔ کیونکہ وہ پہلے تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر ضمیر جو شہدہ میں ہے۔ وہ صرف حضرت مسیح کی طرف کی جا سکتی ہے۔ پس بقول مولوی صاحب ان کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ ”ان کے لئے (یہودیوں کیلئے) اس (یعنی حضرت مسیح علیہ السلام) جیسا بنایا گیا، جو مصلوب ہوا۔ (فہو المراد)

ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا مرے حق میں

کیا۔ زلیخا نے خود پاک دامن ماہ کھان کا

مرزا نئے! مفسرین کرام نے تو یہی تفسیر بیان کی ہے کہ جو تمہارے مولوی محمد علی صاحب کے مطلب سے ظاہر ہے پس مفسرین کرام کی نسبت قلمت تدبیر کا جو اثر ام لگایا گیا ہے وہ کہنے والوں کو ہی مبارک ہو۔

﴿رفع﴾ کی بحث: تیسرا القبطیل رفعہ اللہ الیہ ہے اس کے معنی ہیں۔ ”بلکہ برداشت اور اخذ اللہ تعالیٰ بسوئے خود۔“ (شاہ ولی اللہ صاحب) یعنی ”بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے طرف اپنی۔“ (شاہ رفیع الدین صاحب) مگر مولوی محمد علی صاحب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ ”بلکہ اللہ نے اس کو اپنا قرب حطاف فرمایا۔“ (بیان القرآن ج ۱ ص ۵۷۸) اور اس کی تشریح یہ کرتے ہیں بلکہ اللہ نے اسے رفح حطاف فرمایا یعنی بلندی درجات۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۵۷۸) مرزا خدا بخش صاحب اس کی تائید میں لکھتے ہیں۔ ”کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح سے اس آیت ﴿و انسی متوفیک و راضعک﴾ میں وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے مار کر اپنی طرف اٹھاؤں گا تو پھر بل رفعہ اللہ الیہ کو ایقانے وعدہ نہ سمجھنا کیسی نادانی ہے۔ جب پہلی آیت میں وعدہ تھا کہ میں تجھے طبعی موت سے ماروں گا اور حیرتی روح کو عزت کے ساتھ اٹھاؤں گا اور دوسری آیت میں ظاہر کر دیا ہے کہ ہم نے حضرت سے جو وعدہ کیا تھا اس کا ہم نے ایفاء بھی کر دیا کہ کفار نا نجانہ کے ہاتھوں سے قتل نہ ہوئے بلکہ ہم نے ہی اپنے ہاتھ سے مارا اور اپنے پاس یعنی یقینی قرب کے مقام پر بلا لیا۔ (مسئل مصلی ج ۱ ص ۳۲۷)

جواب..... مرزائیوں کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے کہ سیدھی بات بھی الٹی سمجھ لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی بیعت کر کے ایمان تو ان کے سپرد کر ہی چکے تھے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ عقل کو بھی ساتھ ہی دے دیا۔ بات تو یہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ان کا شیوہ مقتول و مصلوب ہوا اور وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے تو وہ گئے کہاں! اس کا جواب قرآن شریف میں یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسان پر اٹھالیا۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”عام طور پر مفسرین نے یہ تعلق قائم کیا ہے کہ حضرت مسیح مقتول و مصلوب نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسان پر اٹھالیا۔“ لیکن ساتھ ہی مرزا قادیانی کی مریدی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بھی لکھ مارا ہے۔ ”مگر یہ معنی رفع کے سراسر خلاف لغت ہیں اور ناقابل قبول۔“

مولوی صاحب کی یہ تحریر سراسر ضمیر فریادی پر مبنی ہے ورنہ مولوی جانتے ہیں کہ رفع کے یہ معنی لغت کے موافق جو قابل قبول ہیں۔ کیونکہ وہ خود اسی تفسیر کے نوٹ نمبر ۹۳ ص ۷۴ میں لکھ چکے ہیں کہ ”رفع“ کا استعمال امام راغب نے چار طرح پر بیان کیا ہے:

- ۱..... اجسام کے متعلق جب ان کو اپنی جگہ سے اوپر اٹھایا جائے۔
- ۲..... عمارت کے متعلق جب اسے اونچا کیا جائے جیسے ”واذ رفع ابراہیم القواعد“
- ۳..... ذکر کے متعلق جب اسے شہرت دی جائے۔
- ۴..... مرتبہ کے متعلق جب اسے شرف دیا جائے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں ان چار معنوں میں سے کونسا معنی مناسب ہے پس صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی قتل و صلب کے ساتھ رفع کا لفظ وارد ہے تو یہاں ان کے جسم کا اٹھایا جانا ہی مطلوب ہے نہ کہ کسی اور امر کا۔ پس مولوی صاحب کا یہی رفع کے معنی قرب اور بلندی درجات کرنا سراسر خلاف لغت اور ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ تفسیر بالرائے ہے جو جملہ مفسرین کے خلاف ہونے کے علاوہ قرآن کے فضاء کے بھی خلاف ہے۔

دور کیوں جائیں خود مولوی صاحب نے اپنی تفسیر میں جسم کے ساتھ رفع کا معنی ”اونچا بٹھانا“ کئے ہیں۔ و رفع ابویہ علی العرش کا ترجمہ یہ لکھا ہے: ”اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا ہے۔“

مولوی صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو مار کر ان کی روح کو تخت پر اونچا بٹھایا تھا یا زندہ؟ اگر زندہ تخت پر بٹھائے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مار کر اٹھانے کا گمان کیسے ہو سکتا ہے اور کس نص سے ثابت ہے؟



مولوی صاحب اور مرزا خدا بخش صاحب نے اپنی مصنفات میں ”رفع“ کے متعلق بلندی درجات کی جو مثالیں تفاسیر اور احادیث سے پیش کی ہیں ان کا جواب صرف اسی قدر کافی ہے کہ حسب تحریر مولوی صاحب ”رفع“ کے ساتھ جس قسم کا لفظ آئے گا اسی طرح کے معنی کے جائیں گے۔ آیت زیر بحث میں چونکہ درجات وغیرہ کا کوئی لفظ موجود نہیں اس لئے یہاں وہ مثالیں پیش کرنا فضول اور عبث ہے۔

سوال..... مولوی صاحب کو اعتراض ہے کہ یہاں ”آسمان“ کا لفظ موجود نہیں اور عام طور پر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ خداوند کریم کی ذات جب جہات سے خالی ہے تو اس کے آسمان پر تسلیم کرنے کا کیا معنی؟

جواب..... بے شک خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات جہات سے خالی ہے مگر اس نے خود اپنی نسبت آسمان کی طرف بیان فرمائی ہے۔ قولہ تعالیٰ: ”امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا۔ (ملک: ۱۶، ۱۷) (از مرزا قادیانی) کیا تم اس سے ڈر رہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے۔ اب آسمان سے عذاب بھیجنے والا سوائے خدا تعالیٰ کے اور کون ہو سکتا ہے؟

اس کے سوا مرزا صاحب کو بھی تسلیم ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان پر ہے جیسا کہ اپنے بیٹے کی بشارت میں لکھتے ہیں: ”اننا نبشرك بغلام حلیم مظهر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء“ ﴿از مرزا قادیانی﴾ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا۔ گویا خدا آسمان سے اترا۔ ﴿

(انجام آٹھم ص ۶۲، خزائن ج ۱ ص ۶۲، حقیقت الوہی ص ۹۵، خزائن ج ۲ ص ۹۹، ۹۸)

پس جب دوز بردست شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کی نسبت آسمان کی طرف ہے تو مولوی صاحب کا اعتراض بھی جاتا رہا کیونکہ آیت زیر بحث سے یہ تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا اور اس کی (یعنی اللہ کی) اپنی نسبت حوالہ جات بالا سے آسمان کی طرف ثابت ہے پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا بھی آسمان کی طرف ثابت ہوا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔

سوال..... مولوی صاحب کو ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ اگر یہ اتانجیل محرف ہے تو انجیل برنباس کے لئے کوئی سند قرآن شریف یا حدیث میں ہے کہ وہ غیر محرف ہے؟ (بیان القرآن ج ۴ ص ۵۷۶)

جواب..... اہل السنّت والجماعت کے نزدیک تو تمام اتانجیل ہلا استثناء محرف اور میل

ہیں۔ (سوائے ان حوالوں کے جو قرآن مجید کے مطابق ہیں) قابل سند نہیں۔  
 ہاں مولوی صاحب میں یہ صفت دیکھی ہے کہ ایک طرف تو بائبل کی تحریف کے قائل  
 ہیں۔ ملاحظہ ہو مولوی قادیانی کی تفسیر کا نوٹ ۱۰۰ ج ۱ ص ۸۰، ۸۱ اور دوسری طرف اسی کے مضامین  
 کو واقعات تاریخی کہہ کر قرآن مجید کے برخلاف سند پیش کرتے ہیں۔ فی الجب ملاحظہ ہو۔  
 (میان القرآن ج ۱ ص ۵۷۶)

بسوخت عقل زحیرت کہ این چہ بوالعجبی است  
 رہا رہا س کا حوالہ دینے اور اقتباس نقل کرنے کا معاملہ سواس کی دو وجہ ہیں:  
 اول..... یہ کہ اس کے اکثر مضامین قرآن مجید کے مطابق ہیں۔ جیسا کہ بعض گزشتہ صفحات میں  
 لکھے جا چکے ہیں۔

دوسری..... یہ کہ مرزا قادیانی نے خود اس کی تصدیق و توثیق کی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو  
 جائز لکھا ہے۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں ”ان سب امور کے بعد ایک اور بات ملحوظ رکھنے کے  
 قابل ہے کہ برہاس کی انجیل میں جو عاتبا لندن کے کتب خانہ میں بھی ہوگی یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح  
 مصلوب نہیں اور نہ صلیب پر جان دی۔ اب ہم اس جگہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ گو یہ کتاب انجیلوں میں  
 داخل نہیں کی گئی اور بغیر کسی فیصلہ کے ردی کر دی گئی ہے۔ مگر اس میں کیا شک نہ ہے کہ یہ ایک پرانی  
 کتاب ہے اور اسی زمانہ کی ہے جبکہ دوسری انجیلیں لکھی گئیں۔ کیا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس پرانی  
 اور دیرینہ کتاب کو عہد قدیم کی ایک تاریخی کتاب سمجھ لیں اور تاریخی کتابوں کے مرتبہ پر رکھ کر اس  
 سے فائدہ اٹھائیں۔“ (کتاب مسیح ہندوستان میں، ص ۱۸، ۱۹، ج ۱ ص ۲۱، ۲۰)

اس ثابت ہوا کہ انجیل برہاس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اور مرزا قادیانی کی مصدقہ  
 کتاب ہونے کی وجہ سے اس کے حوالہ جات اتمام حجت کے طور پر مرزائیوں کے سامنے پیش کئے  
 جاسکتے ہیں۔

”تیسری آیت“ یہ ہے جس سے رفع مسیح ثابت ہے: ”انذال الله يا عيسى انى  
 متوفىع ورفعتك الى مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق  
 الذين كفروا الى يوم القيامة (آل عمران: ۵۵)“ ﴿جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے  
 وفات دینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور ان لوگوں سے پاک کرنے والا  
 ہوں جو کافر ہیں اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ان کو ان پر جنہوں نے انکار کیا، قیامت کے دن  
 تک فوقیت دینے والا ہوں۔﴾

اس آیت سے مرزائی صاحبان تو وقت مسخ ثابت کیا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس سے حیات مسخ اور رفع مسخ ثابت ہوتا ہے۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چار وعدے کئے ہیں:

- ۱..... وفات دینے کا وعدہ۔
- ۲..... اپنی طرف اٹھانے کا وعدہ۔
- ۳..... کافروں سے پاک کرنے کا وعدہ اور۔
- ۴..... ان کے پیروؤں کو فوقیت دینے کا وعدہ۔

یہ چاروں وعدہ مرزائیوں کو بھی مسلم ہے۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب نے بھی اپنی تفسیر کے (نوٹ ص ۳۳۷) میں تسلیم کئے ہیں۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون کونسا وعدہ پورا ہو چکا ہے سو پچھلے دونوں وعدے (کافروں سے پاک کرنے کا اور پیروؤں کو فوقیت دینے کا وعدہ) تو پورے ہو چکنے کی نسبت فریقین کا اتفاق ہے مگر پہلے دونوں میں اختلاف اور یہی دونوں وعدے اصل بحث ہیں۔

مرزائیوں کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مار کر ان کی روح کو اپنی طرف اٹھالیا اس طرح یہ دونوں وعدے پورے ہو گئے۔ ان کے لئے تو بقول مرزا غالب۔

دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

لیکن دراصل یہ خیال کوئی وقعت نہیں رکھتا کیونکہ آیت میں ”مار کر روح کے اٹھانے کا وعدہ نہیں۔“ بلکہ وفات کا وعدہ الگ ہے اور اپنی طرف اٹھانے کا وعدہ الگ، پس اگر بقول مرزائیاں آپ کی وفات ہو چکی ہے تو اٹھانے کا وعدہ پورا نہ ہوا اور خدا تعالیٰ کی شان میں (نعوذ باللہ) بیوقوفی کا الزام آیا حالانکہ خداوند کریم کی ذات والاصفات بے عیب ہے اور ”ان اللہ لا یخلف المیعاد“ اس کی شان میں ہے۔ نیز مرزائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ”وفات کے بعد ہو جب نص قرآن اور حدیث مسیح کے ہر ایک مومن کی روح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔“ (ازالہ اوہام، طبع مجسم ص ۱۶۱، سطر ۱۱، جزا ۱ ص ۳۳۹) تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی جبکہ ان کی روح بھی مرنے کے بعد ہی اٹھائی گئی اور ”رافعک الی کا وعدہ کیا؟“

اصل بات تو یہ ہے کہ مرزائیوں کے سر پر خود فرضی کا بھوت سوار ہے اس لئے قرآن شریف میں تحریف کرتے ہیں اور حدیث شریف کو چھو ہوں کی طرح کتر رہے ہیں جیسا کہ مرزا

قادیانی خود لکھتے ہیں۔ ”پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا پھر میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں صبری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھونھیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۶ طبع پنجم ص ۲۳ حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۱۴۰ حاشیہ)

اگر مرزا قادیانی کی مسیحیت کا قضیہ درمیان میں نہ ہوتا تو ہرگز ایسی جرأت نہ کرتے۔

صحیح بات یہ ہے کہ اٹھانے کا وعدہ تو یقیناً پورا ہو چکا جیسا کہ بل رفعہ اللہ الیہ سے ثابت ہے۔ رہا وفات کا وعدہ سوا۔

## تونی کی بحث

تونی بمسحتی نیند: اگر تونی کے معنی ”نیند“ کے کئے جائیں تو یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے

کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیند کی حالت میں اٹھائے گئے جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں ہے۔

۱۔ اس وعدے کے متعلق بھی ممکن ہے کہ کوئی منچلا مرزائی یہ کہہ دے کہ وفات کا وعدہ بھی

پورا ہو چکا ہے جو فلما توفیتی سے ثابت ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ

جواب قیامت کے دن ہوگا جیسا کہ مرزا قادیانی کو بھی تسلیم ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب حقیقت

الوحی میں لکھتے ہیں: ”کہ قرآن شریف کی اپنی آیات سے ظاہر ہے کہ یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ

السلام سے قیامت کے دن ہوگا۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۱، خزائن ج ۲۲ ص ۲۳) اسی کتاب کے ضمیمے

میں دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ فان عیسیٰ یجیب بهذا الجواب یوم الحساب یعنی

یقول فلما توفیتی فی یوم یبعث الخلق ویحضرون..... (استحسان ۲۳، خزائن ج ۲۲

ص ۶۶۵) رسالہ الوصیت میں لکھتے ہیں۔ ”خدا قیامت کو عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی اپنی

امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانو تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں

ان میں تھا تو ان پر شاہد تھا اور ان کا نگہبان تھا اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر مجھے کیا علم

تھا کہ میرے بعد وہ کس ضلالت میں مبتلا ہوئے۔“ (رسالہ الوصیت ص ۱۳، خزائن ج ۲۰ ص ۳۱۳)

اس عبارت میں اگرچہ معنوی تحریف ہے تاہم ان جملہ عبارات سے ثابت ہوتا ہے کہ

فلما توفیتی کا جواب قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس آیت

کے نزول تک فوت ہو چکے ہیں بلکہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں جس سے صراحتاً آپ کی

وفات ثابت ہو مگر ان کا اٹھایا جانا آیت بل رفعہ اللہ الیہ سے صاف طور پر ثابت ہے۔

..... ”حدثني المثنى قال ثنا عبد الله بن ابي جعفر عن ابيه عن الربيع في قوله ﴿انى متوفيك﴾ قال معنى وفاة المنام رفعه الله في منامه ”یعنی ابن جریر فرماتے ہیں کہ مجھ سے شی نے بیان کیا اس نے کہا ہم سے عبد اللہ بن ابی جعفر نے اپنے باپ سے اور اس نے ربیع سے خدا تعالیٰ کے قول انی متوفیک میں روایت کی۔ کہاوقات کا معنی نیند ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں اٹھایا۔ (ابن جریر، ج ۳ ص ۱۸۳ ط ۱۷)

..... ۲ ..... معالم میں ہے: ”قال ربیع بن انس المراد بالتوفى النوم وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائماً الى السماء معناه انى منيمك ورافعك التى كما قال الله تعالى ﴿هو الذى يتوفكم بالليل﴾ ”ای ینی تم کو یعنی ربیع بن انس نے کہا توفی سے مراد نیند ہے اور عیسیٰ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھالیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں تجھ کو سلانے والا ہوں اور تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”هو الذى يتوفكم بالليل“ یعنی سیراتا ہوں تم کو رات کو۔

(معالم ص ۱۶۲)

..... ۳ ..... خازن میں ہے: ان المراد بالتوفى النوم۔ ومنه قوله عز وجل ﴿الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها﴾ فجعل النوم وفاة وكان عيسى قد نام فرفعه الله وهو نائم لئلا يلحقه خوف فمعنى الآية ﴿انى متوفيك ورافعك التى﴾ ”یعنی توفی سے مراد نیند ہے اور اسی سے ہے قول خدا تعالیٰ کا ﴿الله يتوفى الانفس..... الخ﴾ پس بتایا نیند کو اوقات اور عیسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھالیا اور اٹھالیا کہ وہ نائم تھے تاکہ ان کو خوف لاحق نہ ہو پس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں تجھ کو سلانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔“ (تفسیر خازن جلد ۱ ص ۲۳۰)

توفی بمعنی پورا لیتا: اگر توفی کے معنی پورا لینے کے کہے جائیں تو بھی یہ وعدہ پورا ہو چکا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پورے جسدِ عرضی اٹھائے گئے جیسا کہ ”در مشور“ میں ہے۔

..... ”واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم من وجه آخر عن الحسن في الآية قال ﴿رفعه الله﴾ فهو عنده في السماء ”یعنی ابن جریر نے اور ابن ابی حاتم نے دوسری وجہ سے اس آیت میں جن سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھالیا اور وہ اس کے نزدیک آسمان میں ہے۔ (در مشور ج ۳ ص ۲۱ ط ۲۰)

..... ۲ ..... خازن میں ہے: ”معناه انى قابضك ورافعك التى من غير موت“ یعنی اس

کا معنی یہ ہے کہ میں تجھ کو پورا لینے والا ہوں اور موت کے بغیر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔

(خازن ج ۱ ص ۲۳۰)

۳..... ابن جریر میں ہے: ”حدثنا علي بن سهل قال ثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر الوراق في قول الله ﴿انني متوفيك﴾ قال متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت“ یعنی بیان کیا ہم سے علی بن سهل نے۔ اس نے کہا ہم سے ضمرة بن ربيعة نے ابن شوذب سے بیان کیا اس نے طمر الوراق سے خدا تعالیٰ کے قول ”انني متوفيك“ میں روایت کی۔ کہا میں پورا لینے والا ہوں تجھ کو دنیا سے، اور وفات سے مراد موت نہیں ہے۔

(ابن جریر ج ۳ ص ۱۸۳ سطر ۲۲، ۲۳)

توفی بمعنی موت: اور اگر ”توفی“ کے معنی موت کے کئے جائیں تو بقول نصاریٰ یہ وعدہ بھی پورا ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر کر زندہ کئے گئے اور پھر آسمان کی طرف اٹھائے گئے جیسا کہ ابن جریر میں ہے: ”حدثنا ابن حميد قال ثنا سلمة عن ابن اسحاق قال: النصارى يزعمون انه توفاه سبع ساعات من النهار ثم احياه الله“ یعنی بیان کیا کہ ہم سے ابن حمید نے اس نے کہا ہم سے سلمہ نے اسحاق سے روایت کی اس نے کہا۔ نصاریٰ گمان کرتے ہیں کہ تحقیق اس نے اس کو دن میں سے سات ساتیں مارا پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔

(ابن جریر ج ۳ ص ۱۸۳، سطر ۱۵۱)

اور مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ ”تمام فرقے نصاریٰ کے اسی قول پر متفق نظر آتے ہیں کہ تین دن حضرت عیسیٰ مرے رہے اور پھر قبر میں سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور چاروں انجیلوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۰۲، ۱۰۵، خزائن ج ۳ ص ۲۲۵)

مگر مسلمانوں کے نزدیک ”توفی“ بمعنی موت کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ تشریف آوری پر پورا کیا جائے گا۔

۱..... چنانچہ تفسیر ابن جریر میں ہے: ”قال ابو جعفر واولى هذه الاقوال بالصحة عندنا قال من قال معنى ذلك انى قابضك من الارض ورافعك الى لتواتر الاخبار عن رسول الله ﷺ انه قال ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ثم يعكث في الارض مدة نكرها اختلفت الرواية في مبلغها ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه“ یعنی ابو جعفر نے کہا کہ ان اقوال میں سے بہتر اور صحیح ہمارے نزدیک وہ قول ہے جس نے یہ معنی کیا۔ میں تجھ کو زمین سے پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف

اٹھانے والا ہوں۔ کیونکہ تو اتر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا اور دجال کو قتل کرے گا پھر زمین میں ایک مدت تک رہے گا۔ جس کا ذکر باختلاف الروایات پہنچا ہے پھر مرے گا اور مسلمان اس پر جنازہ پڑھیں گے اور اس کو دفن کریں گے۔ (ابن جریر ج ۳ ص ۱۸۴)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عقیدہ

حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے:

۲..... تفسیر درمنثور میں ہے: ”واخرج اسحق بن بشر و ابن عساکر من طریق

جوهر عن الضحاک عن ابن عباس فی قوله ﴿انى متوفیک ورافعک﴾ یعنی رافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان“ ﴿اسحاق بن بشر نے اور ابن عساکر بطریق جوہر ضحاک سے روایت کی ہے کہ ابن عباس نے ”انى متوفیک ورافعک“ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ تجھ کو اٹھاؤں گا پھر آخر زمانہ میں ماروں گا۔﴾ (درمنثور ج ۳ ص ۳۶ طر ۳۲)

۳..... طبقات ابن سعد میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: ”وان الله رفعه بجسده

وانه حی الان و سیرجع الی الدنیا فینکون فیها ملکا ثم یموت کما یموت الناس“ ﴿اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) بحسد غضری، اٹھالیا ہے اور بے شک وہ اس وقت تک زندہ ہے اور عنقریب دنیا کی طرف رجوع فرمائیں گے پھر اس دنیا میں بادشاہ ہونگے پھر میں گے جس طرح لوگ مرتے ہیں۔﴾

(تہذیب الدینی بحوالہ طبقات ابن سعد، جلد اول، ص ۲۶)

نوٹ..... یہ وہی حضرت ابن عباس ہیں۔ جن کی تعریف خود مرزا قادیانی نے ان الفاظ میں کی

ہے۔ ”حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں اور اس بارے

میں ان کے حق میں آنحضرت ﷺ کی ایک دعا بھی ہے۔“ (ازدادہام ص ۱۰۴، خزائن ج ۳ ص ۲۲۵)

حدیث میں ”رجوع“ کا لفظ

۴..... خود آنحضرت ﷺ نے بھی یہی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں مرے چنانچہ

وہ ارشاد یہ ہے:

۱۔ مرزائی کہا کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ وفات مسیح کے قائل ہیں۔ یہ دونوں روایتیں ان

کے قول کو رد کرتی ہیں۔ (ناظم)

”قال الحسن قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسى لم يموت وانه راجع عليكم قبل يوم القيمة“ ﴿حضرت حسن بصریؒ سے روایت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے یہود سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں مرے اور بے شک وہ قیامت سے پہلے تمہاری (نسل کی) طرف رجوع کرنے والے ہیں۔﴾

(تفسیر ابن جریر ج ۳ ص ۱۸۲-۱۸۳ اور مشور ج ۲ ص ۳۶)

اب اس سے زیادہ معتبر شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نیز اس حدیث میں ”رجوع“ کا لفظ قابل غور ہے۔ مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں۔

”رجوع لوٹ کر جانے کا نام ہے۔ اس کی طرف جس سے ابتداء ہو۔ یا تقییر ابتداء خواہ بلحاظ مکان کے ہے یا فعل کے یا قول کے۔“ (تفسیر بیان القرآن ج ۱ ص ۵۹)

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رجوع مکانی ہے کیونکہ وہ زمین سے ہی آسمان پر اٹھائے گئے اور آسمان سے واپس لوٹ کر زمین پر ہی آئیں گے۔ فہو المراد!

۵..... امام بخاری کا عقیدہ: امام بخاری بھی اپنی تاریخ میں یہی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وفات پائیں گے تو مدینے شریف میں حضور ﷺ کے روضہ مبارک میں دفن کئے جائیں گے۔ عبارت یہ ہے: ”واخرج البخاری لفسی تاریخہ والطبرانی عن عبد اللہ بن سلام قال يدفن عيسى بن مريم مع رسول الله ﷺ وصاحبيه فيكون قبره رابعا“ ﴿بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے عبد اللہ بن سلام سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ﷺ اور آپ کے دونوں اصحابوں کے ساتھ (روضہ اطہر میں) دفن کئے جائیں گے اور ان کی قبر چوتھی ہوگی۔﴾ (در مشور ج ۲ ص ۳۵-۳۶ آخر)

۶..... حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے بھی رسول اللہ ﷺ سے اسی مضمون کی ایک حدیث بیان کی ہے جو یہ ہے: ”عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيسدفن معي في قبوري فاقوم انا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين ابى بكر وعمر“ ﴿عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہا، رسول خدا ﷺ نے فرمایا۔ عیسیٰ ابن مریم زمین کی طرف نازل ہوں گے۔ پس نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور وہ پینتالیس برس زندہ رہیں

۱۔ مرزائی کہتے ہیں کہ امام بخاری بھی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ یہ روایت ان کے قول کو رد کرتی ہے۔ (نام)



گے۔ اور میرے ساتھ میرے مقبرے میں دفن کئے جائیں گے جس میں اور عیسیٰ ابن مریم (قیامت کے دن) ابوبکر اور عمر کے درمیان ایک مقبرہ سے اٹھیں گے۔ ﴿

(مشکوٰۃ باب نزول عیسیٰ فصل تیسری)

نوٹ..... اس حدیث کی صحت پر مرزا قادیانی نے مہر تصدیق جبت فرمائی ہوئی ہے۔ چنانچہ محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”اس پیش گوئی کی تصدیق کے لئے جناب رسول اللہ ﷺ نے پہلے سے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ یقیناً زوج و یولد لہ یعنی وہ صحیح موعود ہو ہی کرے گا نیز صاحب اولاد ہوگا گویا اس جگہ رسول اللہ ﷺ ان سیاہ دل منکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔“

(ضمیمہ انجام آئتم ص ۵۲ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳)

کیوں جناب! مرزا قادیانی نے کس زور سے اس حدیث کی صحت اور صداقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اگر اب بھی کوئی ”سیاہ دل“ نہ مانے اور شبہات میں کوو پڑے تو اس کی مرضی۔

مرزا قادیانی کے نزدیک احادیث سے رفع مسیح ثابت ہے صحیح الحقل اور سلیم الفطرت کو سمجھانے کے لئے تو رفع مسیح کے متعلق کافی سے زیادہ لکھا جا چکا ہے مگر مرزائیوں کی تسلی اور اتمام حجت کے لئے ان کے بھری شہادت بھی پیش کر دی تاکہ شہد شہادا من اہلہا کی مثال بھی ہو جائے اور شاہد کوئی سعید روح تسلیم پا کر راہ راست پر آجائے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”اب پہلے ہم صفائی بیان کے لئے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی رو سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔ وہ دونی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے۔ دوسرے مسیح بن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعض صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ ان ہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔“

(توضیح مرام ص ۴، خزائن ج ۳ ص ۵۲)

اس عبارت میں محض کثید الفاظ قابل غور ہیں مرزا قادیانی نے صاف طور پر تسلیم کیا ہے کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں سے مسیح کا آسمان پر جانا ثابت ہے۔ فہو

المراد والحمد لله على ذلك!

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرزائیوں کو جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے جواب ملتا ہے تو وہ ضد کی بناء پر فلسفہ کی آڑ لیکر فرار کی راہ ڈھونڈتے ہیں اور عموماً یہ دو شے پیش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ:

پہلا شبہ: یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اسی جسم کے ساتھ آسمان پر جانا فلسفہ کی رو سے محال ہے جیسا کہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ”نیا اور پرانا فلسفہ بالاتفاق اس بات کو محال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرۂ زمہریر تک بھی پہنچ سکے بلکہ علم طبعی کی نئی تحقیقاتیں اس بات کو ثابت کر چکی ہیں کہ بعض بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچ کر اس طبقہ کی ہوا ایسی معصوم ہوئی ہے کہ جس میں زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پس اس جسم کا کرۂ ماہتاب یا کرۂ آفتاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۷، خزائن ج ۳ ص ۱۲۶)

جواب..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بخود آسمان پر نہیں گئے کہ ان کو اس قسم کی تکالیف پیش آتیں بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ حکمت بالغہ سے ان کو آسمان پر اٹھالیا اور خدائے تعالیٰ کے اٹھانے میں یہ رکاوٹیں پیش نہیں آسکتیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کو تسلیم ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ”خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بید نہیں کہ انسان مع جسم عنصری آسمان پر چڑھ جائے۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۱۹، خزائن ج ۲۳ ص ۲۲۸)

پس مرزائیوں کا یہ شبہ نہایت لغو اور فضول ہے۔

دوسرا شبہ: یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا قانون قدرت کے برخلاف ہے۔ جواب..... مرزائیوں کا یہ شبہ بھی نہایت بوجہ ہے جو محض قلت تدبر کی وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ اول تو کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں۔ جس نے قانون قدرت کا احاطہ کیا ہو، یا کر سکے پس جب قانون قدرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو اس کے خلاف ہونا کیا معنی؟ دوسرے یہ کہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ ”خدا اپنے بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۹۴، خزائن ج ۲۳ ص ۱۰۴)

پس جب خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے اپنا قانون بدل لیتا ہے تو پھر اعتراض ہی

کیسا؟

الحمد لله! کہ ہم اس کے احسان اور اس کی توفیق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسم کے ساتھ زعمہ آسمان پر اٹھایا جانا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے اور مرزا قادیانی کی کتابوں سے ثابت کر چکے اب نزول صبح کا ثبوت لکھتے ہیں۔ (ہون اللہ تعالیٰ)

## جواب حصہ دوم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے ثبوت میں

پہلے لکھنا چاہئے کہ اگر رفع مسج ثابت ہو جائے تو نزول مسج کا ثابت ہونا کوئی مشکل نہیں اور مرزا قادیانی کا بھی یہی ارشاد ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔ ”اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ مسج کا جسم کے ساتھ آسمان سے اترنا اس کے جسم کے ساتھ چڑھنے کی فرع ہے۔ لہذا یہ بحث بھی کہ مسج اسی جسم کے ساتھ آسمان سے اترے گا جو دنیا میں اسے حاصل تھا۔ اس دوسری بحث کی فرع ہوگی جو مسج جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا تھا جبکہ یہ بات قرار پائی تو اول ہمیں اس عقیدہ پر نظر ڈالنا چاہئے۔ جو اصل قرار داد دیا گیا ہے کہ کہاں تک وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کیونکہ اگر اصل کا کما حقہ تصفیہ ہو جائے گا تو پھر اس کی فرع ماننے میں تامل نہیں ہوگا اور کم سے کم امکانی طور پر ہم قبول کر سکیں گے کہ جب ایک شخص کا جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر چلے جانا ثابت ہو گیا ہے تو پھر اسی جسم کے ساتھ وہ اس آنا اس کا کیا مشکل ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۱۲، خزائن ج ۳ ص ۲۳۶)

سوال اللہ! کہ ہم نے صرف قرآن شریف سے، انجیل سے، حدیث شریف سے، آثار صحابہ سے اور اقوال مفسرین سے حضرت مسج کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت کر چکے ہیں بلکہ مرزا قادیانی سے اقبالی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں پس جب حسب تحریر مرزا قادیانی اصل کا کما حقہ تصفیہ ہو گیا تو پھر فرع کے ماننے میں مرزائیوں کو تامل نہیں ہونا چاہئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سی سعید رو میں اپنے ہیر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماننے میں تامل نہیں کریں گی۔

اس تحریر کے مطابق اگرچہ اب نزول مسج کے متعلق ثبوت بہم پہنچانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرزائی جماعت میں اکثر لوگ جو معمولی حرف شناس ہیں بلکہ جہت سے ناخواندہ ہیں جو مذہبی واقفیت نہیں رکھتے ان کو اس غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا ہے کہ نزول مسج سے مراد یہ نہیں کہ مسج آسمان سے نازل ہو گیا وہی مسج ابن مریم آئے گا جو حضور علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا تھا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس جیسا کوئی اور آدمی مسج موعود ہوگا اور وہ مرزا قادیانی ہیں۔ (نعوذ باللہ من ذلك) حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے جو آنحضرت ﷺ کی تعلیم کے برخلاف ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی روشنی میں مسج تعلیم پیش کی جائے اور بتایا جائے کہ وہی مسج ابن مریم نازل ہوگا جو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔

تاکہ سیاہ روئے شودھرکہ دروغش باش  
 وہ ہی عیسیٰ آئے گا حق کی قسم جو گیا تھا آسمان پر محرم  
 ہے یہ ثابت نص سے اخبار سے با تواتر یار سے اغیار سے  
 ہے قیامت کا نشان اس کا نزول اعتراض فلسفی سب ہیں فضول  
 قرآن مجید سے ثبوت

نزول مسیح کے متعلق پہلی آیت یہ ہے: ”وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (آل عمران: ۴۶)“ ﴿(از مولوی محمد علی صاحب) اور وہ لوگوں سے جمولے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرے گا۔﴾

اس آیت میں حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام کو بشارت دی گئی تھی کہ مسیح لوگوں سے پگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرے گا سو پگھوڑے میں تو لوگوں نے آپ کی باتیں سنیں لیکن ادھیڑ عمر ہونے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھائے گئے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے اپنے وقت پر ضرور پورے ہوتے ہیں اس لئے ادھیڑ عمر میں باتیں کا وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے۔

..... جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں ہے: ”حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال سمعته يعني ابن زيد يقول في قوله ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ قَالَ قَدْ كَلَّمَهُمْ عِيسَى فِي الْمَهْدِ وَسَيُكَلِّمُهُمْ إِذَا قَتَلَ الدَّجَالَ وَهُوَ يَوْمُ مَذْكَهَلٍ“ ﴿مجھ سے یونس نے بیان کیا اس نے کہا ہم کو ابن وهب نے خبر دی اس نے کہا میں نے ابن زید سے سنا وہ اس آیت ویکلم الناس فی المهد وکھلا میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پگھوڑے میں ان سے کلام کیا اور عقرب ان سے کلام کرے گا جس وقت دجال قتل کیا جائے گا اور وہ اس وقت ادھیڑ عمر میں ہوگا۔﴾ (ابن جریر ج ۳ ص ۷۰ ص ۶۶ دور مشور ج ۲ ص ۲۵ ص ۲۹)

.....۲ تفسیر خازن میں ہے: ”وقال الحسن ابن الفضل ﴿وكهلا﴾ يعني ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ بعد نزوله من السماء وفي هذه نص علي انه سينزل من السماء الى الارض ويقتل الدجال“ ﴿حسن بن فضل نے کھلا کی تفسیر میں کہا ہے کہ لوگوں سے ادھیڑ عمر میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد باتیں کرے گا اور یہ اس بات پر نص قطعی ہے کہ وہ عقرب آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوگا اور دجال کو قتل کرے گا۔﴾ (خازن ج ۱ ص ۲۳۵ ص ۱۳)

۳..... تفسیر معالم العقول میں ہے: ”وقیل للحسین بن الفضل هل تجد نزول عیسیٰ فی القرآن قال نعم وقوله ﴿وَكِهْلًا﴾ وهو لم یکتھل فی الدنیا وانما صحناه وکھلاً بعد نزوله من السماء.“ حسین بن فضل سے پوچھا گیا کہ کیا تو عیسیٰ کا نازل ہونا قرآن مجید میں پاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَكِهْلًا﴾ (یعنی وہ اذیت عمر میں لوگوں سے ہاتھیں کرے گا) اور وہ دنیا میں اذیت عمر کا نہیں ہوا اور اس کا بھی اسمیٰ ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہونے کے بعد اذیت عمر کا ہوگا۔ ﴿ (معالم میں ۱۲۳ اسطر ۳)

اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہے کہ وہی عیسیٰ بن مریم نزول فرمائیں گے۔ جو آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ ان کے بجائے کوئی اور شخص نہیں آئے گا اگر کوئی ایرا غیراً، تو خیرا مسیحیت کا دعویٰ کرے تو وہ ناقابل قبول ہے کیونکہ وہ کذاب ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے پہلے ہی انجیل میں خبر دے دی تھی کہ بتیسرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں یا دیکھو وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے۔ تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں لیکن تم خبردار ہو دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے۔

(مرقس باب ۱۳ آیت ۶ و آیت ۲۱ تا ۲۳)

دوسری آیت یہ ہے جس سے نزول مسیح ثابت ہے: ”وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیمة یکون علیہم شھیدا (نساء: ۱۵۹)“ ﴿ اور اہل کتاب میں کوئی نہیں جو اس کے (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے) ساتھ اس کے مرنے سے پہلے ایمان نہ لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ ﴿

یہ آیت بھی صاف طور پر ثابت کر رہی ہے کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے جو آسمان پر بحسد غضری اٹھائے گئے تھے کیونکہ اس آیت سے پہلے آیت بیل رفعہ اللہ الیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے اور اس آیت میں ان کے نزول کا اور اسی آیت سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہؓ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آنے پر استدلال کیا ہے اور اسی استدلال کے جرم میں مرزا قادیانی نے ان کی توہین کرتے ہوئے انہیں ”ناقص الفہم“ قرار دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت یہ ہے: ”عن ابی ہریرہ قال قال رسول

اللہ ﷻ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلاً  
 فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویفیض المال حتی لا یقبلہ  
 احد حتی تكون السجدة الواحدة خیراً من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو  
 ہریرة فاقرعوہ وان شقتم ﴿وان اهل الكتاب الایؤمنن بہ قبل موتہ﴾  
 (بخاری ج ۳ ص ۳۹۰، مسلم ج ۱ ص ۸۷) ﴿ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ہے  
 اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ضرور بالظہور تم میں ابن مریم حکم اور عدل ہو کر  
 نازل فرمائیں گے اور وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ہٹادیں گے اور مال  
 بہت ہوگا یہاں تک کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر  
 ہوگا۔ ﴿پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر تم (اس کا ثبوت) چاہو تو پڑھو: ”وان من اهل الكتاب الایؤمنن بہ قبل موتہ (الآیة)“ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ (مشکوٰۃ باب نزول عیسیٰ علیہ السلام)  
 اس حدیث کی صحت میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ متفق علیہ ہونے کے علاوہ اس  
 قدر مشہور و مقبول ہے کہ شاید ہی کوئی حدیث یا تفسیر کی کتاب ہوگی جس میں یہ درج نہ ہو اور لطف یہ  
 ہوا کہ مرزا خدا بخش مرزائی نے بھی اپنی کتاب عسل مصفی میں نزول مسیح کے ثبوت میں اسی حدیث کو  
 بخاری کے حوالے سے نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اس حدیث سے حضرت مسیح کے نازل ہونے کا صریح  
 ذکر ہے۔“ (ملاحظہ ہو عسل مصفی ج ۱ ص ۲۰۲)

باوجود اس بات کے کہ مرزا خدا بخش نے نقل حدیث میں تھوڑی لفظی تحریف کی ہے کہ  
 ”یضع الجزیة“ کی بجائے یضع الحرب لکھا ہے۔

(دیکھو بخاری مطبوعہ حبیہ مصر ج ۳ ص ۱۷۱ باب نزول عیسیٰ)

تاہم ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی صحت میں تو انکار نہیں  
 کیا۔ مگر مولوی محمد علی صاحب نے نہ صرف اس حدیث سے انکار کیا ہے بلکہ حضرت ابو ہریرہ کے  
 ذمہ یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کے قائل نہیں۔  
 چنانچہ ”بیان القرآن“ جلد اول صفحہ ۵۷۸، ۵۷۹ کے نوٹ ۶۵ میں لکھتے ہیں۔ ”حضرت  
 ابو ہریرہ کی طرف ایک روایت منسوب ہے جس میں نزول ابن مریم کا ذکر کرنے کے بعد انہوں  
 نے فرمایا۔ فاقروا ان شقتم وان من اهل الكتاب..... جو شخص یہ روایت بیان کرتا ہے کہ

۱۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں قسم بتاتی ہے کہ خیر ظاہری معنی پر محمول ہے نہ اس میں کوئی  
 تاویل ہے نہ اس میں کوئی تاویل ہے نہ استثناء۔“ (حملہ البشریٰ ۱۴، خزائن ج ۷ ص ۱۹۲)

نازل ہونے والا ابن مریم تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دوبارہ آئیں گے۔

جواب..... ہم حیران ہیں کہ مولوی صاحب نے دیدہ دانستہ ایسی مشہور معروف حدیث کا کس جرات اور لیری سے انکار کیا اور۔

چہ دلاور است وز نے کہ بکف چراغ دارد  
کی مثال کوچھ کر دکھایا ہے:

اول..... تو ہم مولوی صاحب سے الزامی طور پر پوچھتے ہیں کہ اگر حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دوبارہ آئیں گے۔ تو مرزا قادیانی کا انہوں نے کیا بگاڑا تھا کہ وہ ان کو کم تدر کم درایت اور غلط فہم جیسے نامناسب اور توہین آمیز الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”غرض اس مرثیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کم تدر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی۔ (جیسے ابو ہریرہؓ) وہ اپنی غلط فہمی سے عیسیٰ موعود کے آنے کی پیش گوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آئیں گے جیسا کہ ابتداء میں ابو ہریرہؓ کو بھی یہی دھوکا لگا ہوا تھا اور اکثر باتوں میں ابو ہریرہؓ بوجہ اپنی سادگی اور کمی درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کے آگ میں پڑنے کی پیش گوئی میں بھی اس کو یہی دھوکا لگا تھا اور آیت ”وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته“ کے ایسے لٹے معنی کرتا تھا جس سے سننے والے کو ہنسی آتی تھی کیونکہ وہ اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سب اس پر ایمان لے آئیں گے۔“ (حقیقت الہی ص ۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۳۶)

دوم..... یہ کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ خود دوبارہ آئیں گے۔ جیسا کہ عبارت مندرجہ بالا سے ظاہر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا اب بتائیں کہ آپ سچے ہیں یا مرزا صاحب؟

سوم..... یہ کہ جس حدیث کی بناء پر آپ نے ان کے عقیدہ سے انکار کا استدلال کیا ہے۔ وہ حدیث بھی جب انہی ابو ہریرہؓ سے مروی ہے جو بقول مرزا قادیانی (نعوذ باللہ) کم فہم اور بے عقل تھے تو اس حدیث کا کیا اعتبار؟ اور اس سے استدلال کرنا کیسا؟

چہارم..... یہ کہ مرزا قادیانی کی تحریر بالا سے حضرت ابو ہریرہؓ کی توہین ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ اور جو شخص توہین اصحاب کا مرتکب ہو وہ مجرم ہے یا نہیں؟

جناب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے: ”لا تسبوا اصحابی فلو ان

احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ“ یعنی میرے اصحاب کو برا نہ کہو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی آدمی احد (پہاڑ) کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد کے ثواب کو نہیں پہنچتا اور نہ اس کے آدمے کے برابر بھی۔ (مکتوٰۃ مترجم، ج ۳ ص ۳۶۰)

دوسری جگہ ارشاد ہے: ”اکرموا اصحابی فانہم خیارکم“ یعنی میرے اصحاب کی تعظیم کرو اس لئے کہ وہ تمہارے بہترین ہیں۔ (مکتوٰۃ مترجم، ج ۳ ص ۳۶۳)

پس مرزا قادیانی نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان واجب الاذعان کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں؟ اور جو شخص حضور علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اس کی نسبت آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟

دوسری حدیث..... جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ جس سے ان کے عقیدہ پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ یہ ہے: ”حدثنا ابن حمید قال ثنا سلمة عن ابن اسحاق عن محمد بن سلم الزهري عن حنظلة بن علي الاسلمی عن ابی هريرة قال سمعت رسول الله يقول ليهبطن الله عيسى بن مريم حكما عدلا واماما مقسطاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يناخذه وليسكن الروحاء حاجاً او معتمراً او يدين بهما جميعاً“  
ابن جریر فرماتے ہیں ہم سے ابن حمید نے بیان کیا اس نے کہا ہم سے سلمہ نے ابن اسحاق سے اس نے محمد بن سلم زہری سے اس نے حنظلہ بن علی الاسلمی سے اس نے ابی ہریرہ سے روایت کی ہے اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو ضرور نازل کرے گا جو حکم، عدل اور بادشاہ ہو کر آئیں گے۔ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ہٹا دیں گے اور مال بہت ہوگا یہاں تک کہ کوئی آدمی ایسا نہ پایا جائے گا جو اس کو لے اور وہ روحاء سے حج اور عمرہ یا دونوں کو اکٹھا بجالانے کے لئے ضرور چلیں گے۔

(تفسیر ابن جریر، ج ۳ ص ۱۸۲، ۲۰۷)

اس حدیث میں ”هبوط“ کا لفظ آیا ہے جو قابل غور ہے۔ ہبوط کے معنی ہیں اوپر سے نیچے آنا۔ (مثنی الارب) پس یہ لفظ صاف طور پر ثابت کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے (آسمان سے) نیچے (زمین پر) اتریں گے اور یہی عقیدہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے۔

نوٹ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کی کیفیت حضرت نواس بن



سمعان کی روایت میں درج ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں: ”اذ هبط عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهر و ذتين واضعا يده على اجنحة ملكين“  
یعنی جب عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرق کی طرف سفید منارہ کے نزدیک آسمان سے اتریں گے تو  
دو زرد کپڑے پہنے دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔

(ترمذی مترجم ج ۲ ص ۱۱۹ باب فتدو جال)

مسح کا آسمان سے اترنا مرزا قادیانی کو تسلیم ہے

مرزا قادیانی نے اس حدیث پر بھی مہر تصدیق لگائی ہوئی ہے چنانچہ اپنی بیماری کے متعلق اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی آپ نے فرمایا تھا کہ مسح جب آسمان سے اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اس طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی یعنی مرق اور کثرت یول۔“ (رسالہ تعہید ماہ جون ۱۹۰۶ ص ۱۵ اخبار بدر ۶ جون ۱۹۰۶ء، المخطوطات ج ۸ ص ۴۴۵)  
مرزائی کہا کرتے ہیں کہ حضرت مسح کے آسمان سے اترنے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ مگر یہاں مرزا قادیانی نے خود تسلیم کر کے ”سیاہ دل“ منکروں کے قول کو رد کر دیا ہے۔

صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے پھولوں سے

کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے

تیسری حدیث: جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، یہ ہے۔ ”اخرج احمد ومسلم

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال لیہلن عیسیٰ ابن مریم بفتح الروحاء  
بالحج او بالعمرة او لیثنیتهما جمیعا“ ﴿احمد اور مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے  
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم حج و عمرہ کے لئے یادوں کو ادا کرنے کے  
لئے احرام پاندھیں گے۔﴾ (در مختار ج ۲ ص ۳۳۲ سطر ۱۱)

اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی لکھتے ہیں: ”وهذا یكون بعد نزول عیسیٰ  
علیہ السلام من السماء فی آخر الزمان“ ترجمہ یہ کام حج وغیرہ کا ادا کرنا (عیسیٰ علیہ  
السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد آخر زمانے میں ہوگا۔

(نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۴۰۸، باب جواز التصح فی الحج والقرآن)

مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا۔ لہذا ان کا دعویٰ مسیحیت باطل ہے۔ (ناظم)

اب اس حدیث سے بھی صاف ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ان سے اس قسم کی اور بھی بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ جن کے لکھنے کی اس مختصر سے رسالے میں گنجائش نہیں ہے۔ شہادت کے لئے صرف اسی قدر کافی ہیں۔

حدیث ”امامکم منکم“ کا مطلب: یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے جو بخاری اور مسلم کے علاوہ مسند امام احمد، بیہقی کی کتاب اسما والصفات، مشکوٰۃ اور درمنثور میں بھی درج ہے۔ پوری حدیث اس طرح پر ہے: ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم وامامکم منکم (بیہقی)“ ﴿حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔﴾

اس حدیث کا مطلب نہایت صاف اور واضح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں ابن مریم کے نزول اور امام مہدی کے ظہور کی خبر دی ہے۔ مگر مرزائی اس میں تحریف کر کے اُلٹے معنی کرتے ہیں کہ: ”اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نزول فرما ہوگا اور وہ تمہیں میں سے ایک امام ہوگا۔“ (محل مصنف ج ۱ ص ۲۰۲)

خود مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ: ”بخاری صاحب اپنی صحیح میں صرف امامکم منکم کہہ کر چپ ہو گئے۔ یعنی صحیح بخاری میں صرف یہی صحیح کی تعریف لکھی ہے کہ وہ ایک شخص تم میں سے ہوگا اور تمہارا امام ہوگا۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۳۶، خزائن ج ۳ ص ۱۷۲)

پس اس غلط ترجمہ اور غلط جہی کی بناء پر مولوی محمد علی صاحب حضرت ابو ہریرہؓ کو اپنا ہم خیال سمجھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”جو شخص یہ روایت بیان کرتا ہے کہ نازل ہونے والا ابن مریم تمہارا امام تمہیں سے ہوگا۔ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دوبارہ آئیں گے۔“

(بیان القرآن ج ۱ ص ۵۷۹)

ہم کہتے ہیں کہ جو شخص مندرجہ بالا حدیثوں کی رو سے یہ روایت کرتا ہے کہ نازل ہونے والا ابن مریم آسمان سے اترے گا۔ بادشاہ ہوگا، صلیب کو توڑے گا، خنزیر کو قتل کرے گا، جزیرہ کو منسوخ کرے گا اور نبیؐ روحاء سے احرام باندھ کر حج کرے گا۔ وہ یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھ سکتا کہ نازل ہونے والا ابن مریم تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ لکھنے کو تو مولوی صاحب نے یہ عبارت

لکھ ہی ماری لیکن ثبوت کوئی پیش نہیں کیا اور یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ دعویٰ بلا دلیل باطل ہوتا ہے لہذا مولوی صاحب کی یہ تحریر کوئی وقعت نہیں رکھتی۔

ہم نے اوپر لکھا ہے کہ مرزائیوں کا ترجمہ غلط ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے ترجمہ میں لفظ ”وہ“ زائد ہے جو حدیث کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں اور اسی بناء پر مطلب بھی غلط لیا گیا ہے پس اگر ”وہ نکال دیا جائے تو ترجمہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور مطلب بھی صاف نکل آتا ہے اور حدیث میں واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ جمع کی ہے۔ دلیل اس کی حضرت جابرؓ کی روایت ہے جو یہ ہے: ”وعن جابر قال قال رسول الله فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميزهم تعالٰى صل لنا فيقول لا ان بعضكم علي بعض امرآ اكرم الله هذه الامة“ اور جابر سے روایت ہے اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پس عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امیر امت (امام مہدی) ان سے کہے گا: آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ پس وہ کہیں گے۔ نہیں (میں امامت نہیں کرتا) بے شک تم میں بعض امیر امام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بزرگی عطا فرمائی ہے۔ ﴿

(مکتوٰۃ مترجم ج ۳ ص ۱۲۸، باب نزول عیسیٰ)

یہ حدیث مرزا قادیانی کو بھی تسلیم ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔“ (فتاویٰ احمدیہ، جلد اول ص ۸۲)

پس اس حدیث مندرجہ بالا سے ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ امام نہ ہوں گے بلکہ ان کے سوا کوئی دوسرا شخص امام ہوگا جو اس امت میں سے ہوگا اور وہ امام مہدی ہیں۔ جن کا ذکر دوسری احادیث میں بھی موجود ہے۔ گویا یہ حدیث زیر بحث حدیث کی تفسیر ہے جو ہمارے دعویٰ کی ایک زبردست دلیل ہے۔ اس سے زیر بحث حدیث کا مطلب بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو علیحدہ علیحدہ ہستیاں ہیں جن کی خبر حضور ﷺ نے اس حدیث میں دی ہے۔ فهو المقصود!

اب ہم آیت مذکورہ الصدر کی تفسیر حضرت ابو ہریرہؓ کے سوا دوسرے صحابہ و تابعین کے اقوال سے بیان کرتے ہیں۔

۱۔ دیکھو مکتوٰۃ باب اشراف السانۃ فصل ثانی۔ خود مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ: ”آنحضرت پیش گوئی میں فرماتے ہیں کہ وہ مہدی خلق اور خلق میں میری مانند ہوگا یو اطمی اسمہ واسم ابیہ اسم ابی یعنی میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا اور میرے باپ کے نام کی طرح اس کے باپ کا نام۔“ (ازالہ اوہام طبع اول ص ۱۳۷، ۱۳۸، طبع پنجم ص ۶۵، خزائن ج ۳ ص ۱۷۵)

..... ”واخرج ابن جرير وابن ابی حاتم من طریق عن ابن عباس فی قوله ﴿وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته﴾ قال قبل موت عیسیٰ “  
 ﴿ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے کئی طریقوں سے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں قبل موته سے مراد قبل موت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے تمام اہل کتاب ان کے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔﴾ (درمنثور ج ۲ ص ۲۳۱ طر ۵) ۲..... ”واخرج عبد بن حمید وابن المنذر عن شهر بن حوشب فی قوله:

﴿وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته﴾ عن محمد بن علی بن ابی طالب هو ابن الحنفیة قال: لیس من اهل الكتاب احد الا اتته الملائكة یغربون وجهه ودبره ثم یقال یاعدو واللہ ان عیسیٰ روح اللہ وکذبت علی اللہ وزعمت انه اللہ، ان عیسیٰ لم یمت وانه رفع الی السماء وهو نازل قبل ان تقوم الساعة فلا یبقی یهودی ولا نصرانی الا امن به “ ﴿عبد بن حمید نے اور ابن منذر نے شہر بن حوشب اس آیت میں وان من اهل الكتاب..... الخ حضرت محمد بن علی بن ابی طالب سے جو ابن حنفیہ ہے۔ روایت کی ہے اس نے کہا اہل کتاب میں سے کوئی نہیں کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اس کے منہ اور دہر پر مارتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ اے خدا کے دشمن! بے شک عیسیٰ روح اللہ اور اس کا کلمہ ہے تو نے خدا پر جھوٹ بولا اور گمان کیا کہ وہ (عیسیٰ) اللہ ہے۔ بے شک عیسیٰ نہیں مرے اور بے شک وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہونے والے ہیں پس کوئی یہودی اور نصرانی باقی نہ رہے گا جو ان کے ساتھ ایمان نہ لائے۔﴾ (درمنثور ج ۲ ص ۲۳۱ طر ۲۳۱۸)

..... ۳ ”واخرج عبدالرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن قتادة فی قوله ﴿وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته﴾ قال اذا نزل امننت به الا دیان کلها ویوم القیامة یکون علیہم شهیدا “ ﴿عبدالرزاق اور عبد بن حمید اور ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت قتادہ سے اس آیت وان من اهل الكتاب..... الخ میں روایت کی ہے کہ اس نے کہا۔ جس وقت (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نازل ہوں گے۔ ان کے ساتھ کل فرقوں کے لوگ ایمان لائیں گے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔﴾

(درمنثور ج ۲ ص ۲۳۱ طر ۲۹۰، ۲۹۱)

..... ”واخرج ابن جریر عن ابن زید فی قوله ﴿وان من اهل الكتاب الا

لیؤمنن به قبل موتہ ﴿ قال اذا انزل عيسى عليه السلام فقتل الدجال لم يبق يهودى فى الارض الا امن به ﴾ اور ابن جریر نے ابن زید سے اس آیت (وان من اهل الكتاب..... الخ) میں روایت کی ہے۔ اس نے کہا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ پس دجال کو قتل کریں گے اور کوئی یہودی زمین میں باقی نہ ہوگا جو ان کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ ﴿ (درمنثور ج ۱ ص ۳۳۰)

۵..... ”واخرج ابن جرير عن ابى مالك ﴿وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موتہ﴾ قال ذلك عند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى احد من اهل الكتاب الا امن به ﴿ ابن جریر نے ابی مالک سے اس آیت وان من اهل الكتاب..... الخ) میں روایت کی ہے۔ اس نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے وقت ہوگا۔ اہل کتاب میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو ان کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ ﴿ (درمنثور ج ۱ ص ۳۳۰، ۳۳۱)

۶..... ”واخرج ابن جرير عن الحسن ﴿وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موتہ﴾ قال قبل موت عيسى والله انه الان حيا عند الله ولكن اذا نزل آمنو به اجمعون ﴿ ابن جریر نے حضرت حسن سے اس آیت (وان من اهل الكتاب..... الخ) میں روایت کی ہے اس نے کہا قبل موتہ سے مراد قبل موت عیسیٰ ہے اور خدا کی قسم بے شک وہ اس وقت خدا کے نزدیک زندہ ہے اور لیکن جس وقت وہ نازل ہوگا تمام لوگ اس کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ ﴿ (درمنثور ج ۱ ص ۳۳۱)

اس قسم کی بیسیوں روایتیں ہیں جو صحابہ کرام اور تابعین عظام سے مروی ہیں اور ان سب کے درج کرنے کی اس چھوٹے سے رسالے میں گنجائش نہیں۔ اگر کسی کو زیادہ دیکھنے کی خواہش ہے تو وہ ابن جریر، درمنثور وغیرہ تفاسیر کا مطالعہ کرے۔

یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے پر اعتراض اور اس کا جواب اعتراض..... مولوی صاحب کو اس تفسیر پر بھی اعتراض ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”اور پھر یہودیوں کا حضرت عیسیٰ پر دوبارہ نزول کے وقت ایمان لانا بے معنی ہے اگر دوبارہ نزول فرض بھی کر لیا جائے تو ایمان حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر وہ لائیں گے، نہ حضرت عیسیٰ پر۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے یہ معنی ہوتے کہ اس وقت کے نبی حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ حالانکہ

عام عقیدہ کے مطابق بھی وہ محض مجدد ہو کر آئیں گے۔ نہ نبی ہو کر۔ پھر ان پر ایمان لانے کے کیا معنی؟“

(بیان القرآن ج ۱ ص ۵۷۹)

جواب..... مولوی صاحب کو اپنی تفسیر بالرائے پر اس قدر ناز ہے کہ جا بجا سلف صالحین کے برخلاف صفحات کے صفحات سیاہ کئے ہوئے ہیں۔ خدا جانے وہ بی۔ اے یا ایم۔ اے ڈگری یافتہ نہ تھے یا انہوں نے ایل ایل بی کا امتحان نہ دیا ہوا تھا اس لئے ان کی تفسیر قابل اعتبار نہیں ہے۔ مگر مولوی صاحب کو یاد ہونا چاہئے کہ وہ خیر القرون میں پیدا شدہ، جناب سید المرسلین کے تربیت یافتہ صحابہ کی سند حاصل کئے ہوئے۔ اگر اعتبار کے قابل نہیں تو آپ کا بیان کس طرح قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ درآنحالیکہ آپ ایک موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکے۔ سچ ہے:

خود ستائی تو خوار کرتی ہے بھوت سر پر سوار کرتی ہے  
اس سے ہوتی ہے سلب عقل سلیم مرد کو بے وقار کرتی ہے  
حضرت! اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول تسلیم کر لیں تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی اور جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کی تمام مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی اور یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کہ ”عام عقیدہ کے مطابق وہ مجدد ہو کر آئیں گے۔ نہ نبی ہو کر پھر ان پر ایمان لانے کے کیا معنی؟“ اس کی مثال تو خود آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ مرزا صاحب کو مسیح موعود بھی خیال کرتے ہیں اور مجدد بھی۔ اسی بناء پر آپ ان کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب تمام مرزائی مرزا قادیانی کے ساتھ ایمان لانے کے باوجود مسلمان کہلانے پر اصرار کرتے ہیں اور ان کے خیال میں مرزا قادیانی کے ساتھ ایمان لانا دراصل رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہی ایمان لانا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کیوں مسلمان نہ کہلا سکیں گے۔ درآنحالیکہ وہ حسب فرمان جناب رسول اللہ ﷺ حقیقی مسیح موعود ہوں گے جو آنحضرت ﷺ کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے اور ان کے ساتھ ایمان لانا دراصل رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہی ایمان لانا ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ بہ اور موتہ کی ضمیریں بلکہ اس سے پہلی اور پچھلی آیت میں جتنی واحد غائب کی ضمیریں ہیں سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہیں اس سے کسی اور شخص کا مراد لینا جس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بلاغت اور منشاء کے خلاف ہے اور اس سے رسول اللہ ﷺ بھی مراد نہیں لئے جا سکتے۔ کیونکہ آپ کو اس آیت سے ما قبل و ما بعد کی ضمیر سے

مخاطب کیا گیا ہے پس آپ کی یہ کمال خوش فہمی ہے کہ یہاں رسول خدا ﷺ کو مروا لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی تسلی ہوگئی ہوگی اگر کچھ کسر رہ گئی تو احقر پھر خدمت کو تیار ہے۔

تیسری آیت..... یہ ہے جس سے نزول صحیح ثابت ہے: ”وانہ لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون۔ هذا صراط مستقیم، ولا یصدنکم الشیطن انه لکم عدو مبین (زخرف: ۶۱، ۶۲)“ اور بے شک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لئے نشان ہے پس اس میں شبہ نہ کرو اور میری بیروی کرو۔ یہ راہ سیدھی ہے اور تم کو شیطان نہ روکے بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ ﴿

اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کا تشریف لانا قیامت کی نشانی ہے۔ خدائے عظیم و خبیر کے علم میں تھا کہ کسی زمانہ میں شیطان بعض لوگوں کو اس عقیدہ سے ورغلا کر گمراہ کر دے گا اس لئے اس نے اپنے نبیوں کی معرفت لوگوں کو پہلے ہی متنبہ کر دیا کہ خبردار شیطان کے بہکانے پر اس عقیدہ سے انکار نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ: ”جموٹے اور جموٹے نی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو ہرگز یوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔“ (متی، باب ۲۴، آیت ۲۳، ۲۴، ۲۵، مرقس، باب ۱۳، آیت ۲۲، ۲۳) اور آپ نے دوبارہ آنے کی خبر اس طرح دی تھی: ”اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی چھٹیں گی اور اس آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب یہ باتیں نہ ہوئیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے۔ لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔“

(متی، باب ۲۴، آیت ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، مرقس، باب ۱۳، آیت ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)

اس کے بعد اب قرآن مجید نے دوبارہ صراحت کر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا حق ہے۔ شیطان کا دھوکہ نہ کھانا پس اگر کوئی اب بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی۔ اس آیت کی تفسیر آثار صحابہ سے بھی اس طرح مروی ہے۔ چنانچہ درمشور میں ہے:

..... ”اخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسعود وعبد بن حميد وابن ابى حاتم والطبراني من طرق عن ابن عباس في قوله ﴿وانه لعلم للساعة﴾ قال خروج عيسى قبل يوم القيامة ﴿حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ آپ نے کہا: ﴿وانه لعلم للساعة﴾ کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے خروج ہے۔﴾ (درمنثور ج ۶ ص ۲۱)

.....۲ ”واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ﴿وانه لعلم للساعة﴾ قال اية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة ﴿مجاہد نے ﴿وانه لعلم للساعة﴾ کی یہ تفسیر کی ہے۔ کہا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا خروج قیامت کی نشانی ہے۔﴾ (درمنثور ج ۶ ص ۲۰ ط ۳۲)

.....۳ ”عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن (وانه لعلم للساعة) قال نزول عيسى ﴿حضرت حسن سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد نزول عیسیٰ ہے۔﴾ (درمنثور، حوالہ مذکور ص ۲۳)

.....۴ ”واخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتاده ﴿وانه لعلم للساعة﴾ قال نزول عيسى علم الساعة ﴿حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لئے نشانی ہے۔﴾ (درمنثور ج ۶ ص ۲۱ ط ۳۳)

اس قسم کی اور بھی بہت روایات ہیں مگر ”مشت از خوارے“ اس قدر کافی ہیں۔ شکر ہے کہ مولوی محمد علی صاحب اس آیت پر کوئی خاص اعتراض نہیں کر سکے۔ بلکہ تسلیم کرتے ہیں کہ ”انہ“ میں تفسیر حضرت ابن عباس اور بعض مفسرین کے نزدیک ابن مریم کی طرف جاتی ہے۔ اور ”حضرت عیسیٰ کو ساعت کے لئے نشان تو کہا جاسکتا ہے خواہ نزول عیسیٰ ہی مراد ہو۔“ مگر آخر کار اپنی عادت سے مجبور ہو کر جوش تحریر میں نوک قلم کا ایک کچھو کا ٹکائی گئے کہ ”قیامت کے نشانوں میں اگر ہے تو نزول عیسیٰ ہے نہ خود عیسیٰ۔ مگر یہاں ذکر نزول عیسیٰ کا نہیں بلکہ عیسیٰ کا ہے۔ ہم قرآن شریف میں اپنی طرف سے یہ نہیں بڑھا سکتے۔ کہ عیسیٰ سے مراد نزول عیسیٰ سے لیں۔

(بیان القرآن، ج ۳ ص ۱۶۸۶)

کسی نے صحیح کہا ہے۔

نیش کڑوم نہ از ہے کین است  
عقلانے طمیش میں است



مولوی صاحب کو جب تسلیم ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ساعت کے لئے نشان کہا جاسکتا ہے اور یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ نزول عیسیٰ قیامت کے نشاںوں میں سے ہے تو پھر انکار کس بات کا؟ رہا یہ امر کہ ساعت کا معنی قیامت ہے یا نہیں؟ سو یہ بھی آپ کو لوٹ ۹۳۱ میں تسلیم ہے کہ ساعت کا معنی قیامت ہے اور خاص اسی لوٹ کے اخیر میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ اننا والساعة کھاتین اس میں بھی ساعت کا معنی قیامت ہی تسلیم کیا ہے تو پھر آپ کی زبانی فیصلہ ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کے نشاںوں میں سے ہے اور یہی مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے۔ والحمد لله على ذلك!

چوتھی آیت..... یہ ہے جس سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ تشریف لانا ثابت ہے: ”هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (صف: ۹)“ ”وہ ہے وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک ناخوش ہوں۔“

اس آیت سے بھی مفسرین کرام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر استدلال کیا ہے مگر مرزا یوں پر اتمام حجت کے لئے مرزا قادیانی کی مایہ ناز کتاب ”براہین احمدیہ“ سے تفسیر پیش کرتے ہیں۔ ”یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملکہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام صحیح آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ (براہین احمدیہ ج ۳ ص ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱،

سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور کج ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا۔ اور جلال الہی مگر اسی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔

(براہین احمدیہ ج ۳ ص ۵۰۵ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۶۰۲ حاشیہ)

اب ان حوالوں کے بعد دوسرا کوئی ثبوت بہم پہنچانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی جبکہ مرزا قادیانی خود تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے۔ مگر ممکن ہے کہ کوئی منجلا مرزائی یہ کہہ دے کہ مرزا قادیانی نے اس عقیدہ سے رجوع کر لیا تھا۔ جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں: ”میں نے براہین میں جو کچھ مسیح ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر لکھا ہے وہ صرف ایک مشہور عقیدہ کے لحاظ سے ہے جس کی طرف آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کے خیالات جھکے ہوئے ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۸۳، خزائن ج ۳ ص ۱۹۶)

سو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہی بیان ان کے اسلامی عقیدہ کو چھوڑنے اور نئے مذہب کی بنیاد رکھنے پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ خود اس کی تصریح مندرجہ ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔ ”یہ بیان جو براہین میں درج ہو چکا ہے۔ صرف اس سرسری بھردی کی وجہ سے ہے جو ہم کو قبل از انکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ سے لازم ہے۔ کیونکہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کوئی ولیری نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی ﷺ پر جب تک خدا تعالیٰ کی طرف بعض عبادات کے ادا کرنے کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی، تب تک اہل کتاب کی سنن دینیہ پر قدم مارنا بہتر جانتے تھے اور بروقت نزول وحی اور دریافت اصل حقیقت کے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ سو اسی لحاظ سے حضرت مسیح ابن مریم کی نسبت اپنی طرف سے کوئی بحث نہیں کی گئی تھی۔ اب جو خدا تعالیٰ نے حقیقت امر کو اس عاجز پر ظاہر فرمایا تو عام طور پر اس کا اعلان از بس ضروری تھا۔“

(ازالہ اوہام ص ۸۳، خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

اس عبارت سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں:

۱..... حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ آنے کا عقیدہ جو براہین میں مرزا قادیانی نے لکھا تھا وہ اپنے نبی کے آثار مرویہ کے لحاظ سے تھا۔

۲..... حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا آثار نبویہ سے ثابت ہے۔

۳..... جس طرح حضور ﷺ نے اپنے مولا کریم سے وحی پا کر اپنے پہلے انبیاء کی سنت کو چھوڑ

دیتے تھے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے اپنے رب ”عاج“ سے الہام پا کر حضور ﷺ کے فرمانے ہوئے عقائد کو چھوڑ دیا۔ بس جھگڑا ہی ختم۔ حیرانگی کی بات ہے کہ مرزا کی کس منہ سے کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوئی نئی شریعت نہیں لائے۔ اگلی شریعت میں انہوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی۔

دوسرا جواب..... یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ لکھنا کہ براہین میں جو کچھ آنجناب نے لکھا ہے وہ قرآن شریف کی آیات سے استدلال کر کے لکھا ہے اور ازالہ میں جو کچھ لکھا ہے۔ وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت کو ”مشہور عقیدہ“ کہہ کر ترک کرنا اور اپنے ادہام باطلہ پر عمل کرنا مرزا قادیانی کی ہی شان ہے۔ مسلمان تو کوئی اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔

تیسرا جواب..... یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا براہین کے مضامین کو سرسری کہنا بھی محض دھوکا ہے۔ جس سے نادانوں کی نظر میں خاک جھونکنا مطلوب ہے۔ یا ”دروغ گو را حافظہ نباشد“ کا معاملہ ہے کیونکہ ”براہین احمدیہ“ ایک ایسی کتاب ہے جس کی صحت اور صداقت کے متعلق مرزا قادیانی کو بڑا ناز تھا اور اس کی نسبت وہ بہت کچھ لکھ چکے ہیں چنانچہ:

..... سب سے اول انہوں نے اشتہار انعامی دس ہزار شائع کیا۔ جس کا شخص ابتدائی سطور میں یوں ہے۔ ”انعامی دس ہزار روپیہ ان سب لوگوں کے لئے جو مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان دلائل اور براہین حثانیہ میں جو فرقان مجید سے ہم نے لکھی ثابت کر دکھائیں یا اگر کتاب الہامی کی ان دلائل کے پیش کرنے سے قطعاً عاجز ہونے کا اپنی کتاب میں اقرار کر کے ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دیں۔“ (براہین احمدیہ ص ۱۷، خزائن ج ۱ ص ۴۴)

..... لکھتے ہیں۔ ”کہ اس کتاب میں وہ تمام صداقتیں مرقوم ہیں۔ جن پر اصول علم دین کے مشتمل ہیں اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی وسعت اجتماعی کا نام اسلام ہے۔ وہ سب اس میں مرقوم ہیں۔“ (براہین احمدیہ ص ۱۳۶، خزائن ج ۱ ص ۱۲۹)

..... لکھتے ہیں ”کہ یہ کتاب قرآن شریف کے دقائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے علم حکمیہ اور اس کے اعلیٰ فلسفہ ظاہر کرنے کے لئے ایک عالی بیان تفسیر ہے۔“

(براہین احمدیہ ص ۱۳۷، خزائن ج ۱ ص ۱۳۰)

..... لکھتے ہیں: ”جناب خاتم الانبیاء ﷺ کو خواب میں دیکھا اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آنحضرت ﷺ نے اس

۱۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں: رہنما عاج اور اس کا ترجمہ ”ہمارا رب عاجی ہے۔“

(براہین احمدیہ ص ۵۵۵، ۵۵۶، حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۶۲۳)

کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے۔ جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے۔ جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے دس ہزار روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے۔“

(براہین احمدیہ ص ۲۳۸ حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۲۷۵)  
 ..... لکھتے ہیں: ”اب اس کتاب کا متولی اور مہتمم ظاہر اوباطنا حضرت رب العالمین ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کسی اندازہ اور مقدار تک اس کو پہنچانے کا ارادہ ہے اور صحیح تو یہ ہے کہ جس قدر اس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کئے ہیں۔ یہ بھی اتمام حجت کے لئے کافی ہیں۔“  
 (براہین احمدیہ، ٹائٹل صفحہ ص ۶۷۳، خزائن ج ۱ ص ۶۷۳)

عبارت مندرجہ بالا سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ:

- ۱..... براہین الہامی کتاب ہے جو قرآن شریف کی عالی بیان تفسیر ہے اور غیر متزلزل اور مستحکم ہے۔
- ۲..... اس کا متولی اور مہتمم ظاہر اوباطنا اللہ ہے اور
- ۳..... اس کے مضامین اتمام حجت کے لئے کافی ہیں۔

پس حضرت مسیح علیہ السلام کا دو پارہ تشریف لانا جو اس کتاب میں درج ہے۔ وہ الہامی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اتمام حجت کے لئے کافی ہے۔ بس فیصلہ شد:

ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں

زیلحانے کیا خود پاک دامن ماہ کنعاں کا

سوال ششم..... امت مسلمہ میں باب نبوت مسدود ہو جانا تسلیم کر لیا جائے تو کیا آنحضرت کے رحمتہ للعالمین ہونے اور اس امت کے خیر الام ہونے پر زدنیں پڑتی؟  
 جواب..... اس کا جواب شبہ نمبر ۲ میں پر گزر چکا ہے۔

سوال ہفتم..... کیا محمد وقت یا امام زمان کا بانا اور پچھاننا رکھنا ایمان ہے اور اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی؟

جواب..... امام زمان مجدد وقت کا بانا رکھنا ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ امام نبی نہیں ہوتا۔ (مصل مصلی دم ص ۱۹) کہ اس کا انکار کفر ہوا اور محمد بھی نبی نہیں ہوتا کہ اس کا منکر کافر ہوا اور نہ کسی امام اور مجدد نے اپنے انکار کی وجہ سے کسی کو کافر کہا ہے۔

جن حدیثوں کی بناء پر یہ سوال کیا گیا ہے۔ ان کا مطلب بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مجدد کے کہتے ہیں؟ پس جاننا چاہئے کہ:

امام کی تعریف..... امام کی تعریف یہ ہے: "الامام الموقم بہ انساناً کاننا یقتدی بقوله او فعله او کتاباً" (مفردات امام راغب مطبوعہ مصر ۲۲)

﴿از مولوی محمد علی صاحب﴾ امام وہ ہے جس کی پیروی کی جائے خواہ انسان ہو۔ جس کے قول یا فعل کی پیروی ہو، یا کتاب۔ (بیان القرآن ج ۱ ص ۱۱۳ نوٹ ۱۵۵) امام کی جمع آئمہ ہے۔ ﴿اس تعریف سے معلوم ہوا کہ امام کی دو صورتیں ہیں۔ امام بصورت انسان اور امام بصورت کتاب۔ امام بصورت انسان کی دو قسمیں ہیں۔ امام حق اور امام باطل امام حق وہ ہیں جو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: "وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین (انبیاء: ۷۳)" اور ہم نے انہیں امام بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔"

امام باطل وہ ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: "وجعلناہم ائمة یدعون الی النار و یوم القیامة لا ینصرون (قصص: ۴۱)" ﴿اور ہم نے انہیں امام بنایا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن انہیں مدد نہیں دی جائے گی۔﴾ امامت کی پھر دو قسمیں ہیں۔

۱..... امامت خاص اور

۲..... امامت عام

اول..... امامت خاص جسے امامت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو عطاء کی گئی جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا: "انسی جاعلک للناس اماماً (بقرہ: ۱۲۴)" یعنی "میں ضرور تجھے لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں۔"

اس امامت کے لئے دعویٰ کی بھی ضرورت ہے اور اس کا ماننا بھی فرض ہے۔ کیونکہ یہ امامت دراصل نبوت ہی ہے اور نبوت پر ایمان لانا فرض اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ مگر چونکہ جناب رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے ساتھ ہر قسم کی نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے اب نہ امامت کبریٰ کا وجود باقی ہے اور نہ اس کے دعویٰ کی گنجائش ہے بلکہ اب اگر کوئی

فخص اس امامت (نبوت) کا دعویٰ کرے توہ مجموعاً ہے۔

دوم..... امامت عام جس کو امامت صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس امت مرحومہ میں جاری ہے جو خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے: ”والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماماً (فرقان: ۷۴)“ اور وہ جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ ﴿

اس امامت میں نہ کسی دعویٰ کی ضرورت ہے اور نہ کچھ بننے کی حاجت نہ یہ رکن ایمان ہے اور نہ اس کا انکار کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں اگرچہ بہت سے امام ہو گزرے ہیں مگر نہ کسی نے امامت کا دعویٰ کیا ہے اور نہ اپنے انکار کی وجہ سے کسی کو کافر کہا ہے۔ لوگوں نے خود بخود بخود ان کی اسلامی کارگزاری اور دینی خدمات سے متاثر ہو کر اور ان میں امامت کے آثار پا کر ان کو امام تسلیم کیا ہے اور ان کی پیروی اور تابعداری کو اپنا فرض سمجھا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت امام مہدیؑ بھی خود بخود اپنی امامت و مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ خود انہیں تلاش کر کے ان کی جبراً اور کرباً بیعت کریں گے۔ چنانچہ کتابوں میں قیامت کی علامتوں کے عنوان سے یہ بھی لکھا ہے کہ ”بقیۃ السلف مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے۔ جیسا بیوں کی حکومت خیر تک جو مدینہ منورہ سے قریب ہے۔“ پہنچ جائے گی اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدیؑ کو تلاش کرنا چاہئے تاکہ ان کے مصائب کے دفعیہ کا موجب ہوں اور دشمن کے پنچہ سے نجات دلائیں۔ حضرت امام مہدیؑ اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ مگر اس بات کے ڈر سے کہ مبادا لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کی تکلیف دیں مکہ معظمہ چلے آئیں گے۔ اس زمانہ کے اولیاء کرام و ابدال عظام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدویت کے جھوٹے دعوے کریں گے۔ اور اس اثناء میں کہ مہدی رکن و مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے۔ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور جبراً اور کرباً آپ سے بیعت کر لے گی۔“ (علامات قیامت ص ۵)

اصل حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”عن ام سلمة عن النبی ﷺ قال اختلاف عند موت خلیفة فیخرج رجل من اهل المدينة ہارباً الی مکة فیاتہ ناس من اهل مکة فیخرجونہ وھو کارہ فیبايعونہ بین الرکن والمقام..... الخ“

(مکتوٰۃ باب اشرار السیخ، فصل دوم)

﴿حضرت ام سلمہ نے جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا: خلیفہ (بادشاہ وقت) کے مرنے سے اختلاف واقع ہوگا پس انہیں مدینہ سے ایک آدمی (امام مہدی) لکھے گا جو مکہ کی طرف بھاگنے والا ہوگا پس اہل مکہ سے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو (امامت و خلافت کیلئے) مقرر کریں گے اور وہ مجبور ہوگا پس لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔﴾

پس معلوم ہوا کہ اس امامت کے لئے کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ الحج میں جلا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ اکثر علمائے کرام و فضلاء عظام جو مسجدوں میں امام اور مقتدائے امام ہیں اور موجب ہدایت عوام ہر صبح و شام ہیں۔ امامت کے اس شعبہ سے فائز المرام ہیں جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ (فالحمد لله على ذلك)

رہا بصورت کتاب امام ہونا۔ سو پہلے تو تورات امام تھی۔ جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے: ”ومن قبله كتب موسى اماماً ورحمةً (ہود: ۱۸، احقاف: ۱۲)“

ترجمہ: اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام و رحمت تھی۔

لیکن اب قرآن شریف امام ہے: ”وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين (بنی اسرائیل: ۸۲)“

جس طرح امامت کبریٰ میں انبیاء علیہم السلام شامل ہیں اسی طرح یہ کتابیں بھی شامل ہیں اور جس طرح انبیاء پر ایمان لانا فرض اور ان کا انکار کفر ہے اسی طرح ان کتابوں پر ایمان لانا فرض اور ان کا نہ ماننا کفر ہے۔ مگر جس طرح آنحضرت ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح قرآن مجید خاتم الکتاب السماوی ہے۔

اب حدیث کا مطلب سنو حضور نے ارشاد فرمایا ہے: ”من لم يعرف امام زمانه فقد مات ميته الجاهلية“ یعنی جس شخص نے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ ارشاد نہایت بجا اور درست ہے۔

اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ امامت کبریٰ کے لحاظ سے ہمارے لئے امام زمانہ بصورت انسان آنحضرت ﷺ ہیں اور بصورت کتاب قرآن مجید جیسا کہ پہلے ثابت ہو چکا ہے اور ان کی امامت کا زمانہ قیامت تک وسیع ہے پس جس شخص نے ان کو نہ پہچانا اور ان کی پیروی نہ کی اور مر گیا تو بے شک وہ جہالت کی موت مرا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ امامت صغریٰ کے لحاظ سے امامان حق پہلے بھی بہت سے

ہو کر رہے ہیں جو نہایت کوشش اور سرگرمی سے دینی خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے جو احیائے سنت کا کام کرتے رہیں گے اور امامان باطل بھی ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے جو لوگوں کو پھنسانے اور گمراہ کرنے کے لئے کئی طرح کے خوش نما جال بچھاتے رہے اور بچھاتے رہیں گے۔ پس جس شخص نے امام حق اور امام باطل میں تمیز نہ کی اور بلا تمیز باطل کے نچے میں گرفتار ہوا اور مر گیا تو بے شک وہ جہالت کی موت مرا۔ مولانا رومؒ نے اس حدیث کے مطابق ارشاد فرمایا ہے۔

اے بسا اہلیس آدم روئے بہت

پس بہر دستے نیاید داد دست

یعنی اے مخاطب! بہت سے اہلیس انسان کی صورت ہیں۔ اس لئے ہر کسی کے ہاتھ میں (بلا سوچے سمجھے) ہاتھ نہیں دینا چاہئے۔ سو الحمد للہ کہ اہل سنت والجماعت آنحضرت ﷺ کو امام زمان اور امام الانبیاء مانتے ہیں۔

امام رسل پیشواۓ سبیل

امین خدا مہبط جبرائیل

اور امت کے تمام امامان حق کی دینی خدمات اور اسلامی کارگزاری کا صدق دل سے اعتراف کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائے مغفرت اور خدا تعالیٰ کی رحمت کے خواستگار ہیں۔

آن اماماں کہ کردند اجتہاد

رحمت حق بر مردان جملہ باد

اور امامان باطل کی تمیز کر کے ان کی عیاریوں اور مکاریوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی متنبہ کر کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

تاناہ بخشد خدائے بخشندہ

مجدد کی بحث

اب مجدد کی بابت سنو: جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”ان اللہ عزوجل یبعث لہذہ الامۃ علیٰ راس کل مائۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا“ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ عزوجل اس امت میں ہر صدی کے سر پر ایسا شخص بھیجے گا جو اس کے لئے اس کے دین کو تازہ کرے۔ ﴿



اس حدیث سے یہ تو ثابت ہے کہ اس امت میں مجدد پیدا ہوں گے۔ مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے لئے دعویٰ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ان کا انکار کفر ہے۔ بلکہ مجدد کو بلا دعویٰ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ لوگ خود بخود اس کے مجدد ہونے کا انکار نہ کریں چنانچہ: ”تج الکرامہ“ میں ہے: ”و معلوم نمی شود این مجدد بغلبہ ظن معاصرین دالہ از اہل علم و بقرائن و احوال و انتفاع بعلم او“ یعنی معلوم نہ ہو کہ یہ مجدد ہے۔ مگر اس کے زمانہ کے علماء اور قرائن اور احوال اور اس کے علم سے نفع پہنچنے سے (اس کے مجدد ہونے کا) گمان کریں۔ (تج الکرامہ ص ۱۳۳)

نیز حدیث میں من کا لفظ عام ہے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص بھی دین کو تازہ کرے گا۔ وہ ہی مجدد ہے۔ اس میں کسی زید بکر کی تخصیص نہیں۔ چنانچہ تج الکرامہ ص ۱۳۳ میں مزید ہے: ”پس ہر عالم دیندار خدا پرست و ہر امیر عادل حق دولت کہ احیائے سنن و امامت بدع فرماید و مردم را بسوئے عمل کتاب عزیز و سنت مطہرہ کشد از تمسک محدثات و تعامل منکرات و بدعات باز دارد خدا تعالیٰ بردست او دلہائے مردہ را زندہ کند و گوشہائے کورا شنواد و چشمہائے کور را بینا سازد و طریقہ مرضیہ سلف صلحاء آئمہ ہدی را رواج و رونق بخشد و مجدد دین نبوی و محی سنت مصطفوی است“ یعنی ہر ایک دین دار خدا پرست عالم اور ہر ایک عادل حق دوست امیر جو سنت کو زندہ اور بدعت کو مردہ کرے اور لوگوں کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی طرف کھینچے اور نئی باتوں کو پکڑنے اور نئی باتوں پر عمل کرنے سے منع کرے اور خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مردہ دلوں کو زندہ کرے اور بہرے کا لون کو سننے والے اور اندھی آنکھوں کو دیکھنے والی بنائے اور اگلے بزرگوں اور اماموں کے طریقوں کو رواج اور رونق بخشنے وہ دین نبوی کا مجدد اور سنت مصطفوی کا زندہ کرنے والا ہے۔ ﴿

نیز من کا لفظ واحد کے لئے بھی آتا ہے اور جمع کے لئے بھی اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ مجدد صرف ایک ہی ہو بلکہ ایک وقت میں اور ایک ہی ملک میں بہت سے مجدد ہو سکتے ہیں اور یہ مرزا نیوں کو بھی تسلیم ہے۔ (ملاحظہ ہو عمل مضی جلد اول ص ۱۵۶)

حاصل کلام: امام کی طرح مجدد کے لئے بھی نہ کسی دعویٰ کی ضرورت ہے اور نہ اظہار کی ضرورت بلکہ اس کے علوم ظاہری و باطنی میں کامل و مکمل ہونے اور جلد سنت و واقع بدعت ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ نواب صاحب موصوف لکھتے ہیں: ”ولا بد است کہ عالم باشد

بعلوم دینیہ ظاہرہ و باطنہ و ناصر سنت و قانع بدعت بود“ (یعنی مجدد کے لئے ضروری ہے کہ وہ علوم دینیہ ظاہرہ و باطنہ کا عالم اور سنت کا مددگار اور بدعت کو دور کرنے والا ہو۔) (تج الکرامہ ص ۱۳۳)

کہنے کو تو مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں کہ ”میں مجدد ہوں۔“ (الذوالہ اوہام ص ۶۸، خزائن ج ۳ ص ۱۷۹) مگر صرف زبانی دھوئی کوئی وقعت نہیں رکھتا تا وقتیکہ کوئی کام کر کے نہ دکھایا جائے۔ ہم نے جہاں تک مرزا قادیانی کی تعلیمات اور تصنیفات کو دیکھا ان میں احیائے سنت اور امارت بدعت کا نام و نشان نہیں پایا۔ ہاں اپنی امامت، مجددیت، مہدویت، عیسویت، نبوت، اور الوہیت کا جا بجا راگ گایا ہے جو مرزائیوں کے سوال اہل علم اور طالبان حق کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس سے دین کو کوئی تقویت نہیں پہنچی بلکہ رخنہ اندازی اور تفرقہ بازی پیدا ہوئی ہے۔

اگر مرزائی صاحبان ضد اور تعصب سے علیحدہ ہو کر منصفانہ طور پر غور کریں تو یقیناً وہ اسی نتیجہ پر نکلیں گے۔ لیکن اگر کسی مرزائی کو مرزا قادیانی کی حسن عقیدت کی بنا پر ہماری تحریر غلط معلوم ہو تو وہ مرزا قادیانی کی کوئی ایسی کتاب پیش کرے جو ان کے دعاوی کے بغیر محض دینی علوم پر مشتمل ہو۔ جس سے سنت کی تائید اور بدعت کی تردید کی گئی ہو تو ہم اپنی تحریر واپس لے لیں گے اور اس شخص کو انعام دیں گے۔

یاد دہری صورت میں گزشتہ تیرہ سو سال کے مجددین میں سے چند مجددوں کی ایسی تصانیف پیش کرے یا ان کا نام بتا دے جس میں انہوں نے مرزا قادیانی کی طرح اپنی ہی بڑائی کا اظہار کیا ہو اور انبیاء کی توہین کرنے کے علاوہ اپنے منکرین کو کافر، جال، حرام زادے، ذریعہ البغایا وغیرہ ناجائز اور نامناسب الفاظ سے مخاطب کیا ہو تو بھی ہم انعام دینے کو تیار ہیں۔

اور اگر مرزائی یہ دونوں کام نہ کر سکیں اور انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز نہ کر سکیں گے۔ ”ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا“ تو خدا تعالیٰ کے خوف اور عاقبت کے فکر سے مرزا بیت کو ترک کر کے جناب سرور کائنات و خرموجوات ﷺ کا دامن چکریں۔ تاکہ انجام بخیر ہو۔

من آنچه شرط بلاغ است بانو میگویم

تو خواہ از آن ہند گیر خواہ ملال

سوال ہشتم..... حضرت مسیح موعود کو مجدد ماننے سے آپ کے خیال میں ایمان پر کیا زد پڑتی ہے؟

جواب..... حضرت مسیح موعود کو چھروا ماننے سے ایمان پر کوئی زد نہیں پڑتی بلکہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہی مسیح موعود ہوں جن کے نزول کی خبر آنحضرت ﷺ نے دی ہوئی ہے اور اگر آپ کی مراد مسیح موعود سے مرزا قادیانی ہوں تو اول تو وہ مسیح موعود ہی نہیں اور پھر وہ مجدد بھی نہیں ہو سکتے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔

مجدد کی تعریف ملاحظی قاری نے یہ لکھی ہے: "بین السنة عن البدعة ویکثر العلم ویعز اہله ویقمع البدعة ویکسر اہلہا" یعنی مجدد وہ ہے جو سنت کو بدعت سے ظاہر کرے اور علم کو زیادہ کرے اور اہل علم کی عزت کرے اور بدعت کا قبح کرے اور اہل بدعت کو توڑے۔ (حج الکرامہ ص ۱۳۱)

مگر مرزا قادیانی نے نہ تو سنت کو زعہ کیا ہے اور اہل علم کی عزت و توقیر کی ہے بلکہ اہل اہل علم کی توہین و تحقیر کرنے کے علاوہ ایسی ایسی بدعات بلکہ کفریات جاری کی ہیں کہ توبہ ہی بھلی۔

مثلاً

..... کسی مسلمان نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر کسی ولی اللہ کے منہ سے حقانی اللہ کے درجہ میں پہنچ کر محویت اور بیہوشی کے عالم میں بے اختیار کوئی ایسا کلمہ نکل بھی گیا ہے تو اس پر فخر اور اصرار نہیں کیا۔ بلکہ ہوش میں آکر لاعلمی کا اظہار اور قائل کے واجب القتل ہونے کا اقرار کیا ہے۔ چنانچہ منہوی شریف میں بایزید بسطامی کا واقعہ یوں لکھا ہے۔

بامریداں آن فقیر محتشم

بایزید آمد کہ نک یزداں منم

مریدوں کے ساتھ وہ حشمت والا فقیر بایزید آیا کہ وہ کھو میں خدا ہوں۔

گفت مستانہ عیان آن ذو فنون

لا الہ الا انہا فاعبدون

اس صاحب فنون نے مستی کی حالت میں اعلان یہ کہا میرے سوا کوئی خدا نہیں پس تم

سب میری عبادت کرو۔

چوں گزشت آن حال گفتندش صباح

تو چنیں گفتی واین نبود صلاح

جب وہ حال گزر چکا تو لوگوں نے اس صبح کے وقت کہا تو نے ایسا کہا اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔

گفت ایس بازگر کنم این مشغله

کار و ہادر من ز نید آن دم ہلہ

اس نے کہا اگر میں پھر یہ کام کروں تو چھریوں سے اسی وقت مجھے مار دیتا۔

حق منزه از تن ومن باتنم

چوں چنینی گوئد ببائند کشتنم گوئم

خدا تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور میں جسم دار ہوں جب ایسا کہوں تو مجھے قتل کر دیتا۔

مگر مرزا قادیانی علی اعلان کہتے ہیں: ”میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں

اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔“ اور پھر بجائے اس کو کہ اس کلمہ کفر سے توبہ کرتے اس کو اپنی کتابوں میں شائع کر کے فخریہ طور پر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

(آئینہ کلمات ص ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲

لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“

(ضمیر انجام آہتم ص ۶ حاشیہ، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

..... جہاد کو حرام قرار دے کر آیات جہاد سے انکار کیا ہے۔ چنانچہ (تحدہ گلاز دیہ میں ۲۷، خزائن ج ۷ ص ۷۷) پر لکھتے ہیں۔

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال

دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قتال

و..... علامات قیامت کا جو بھس صریح ثابت ہیں انکار کیا ہے۔ جیسا کہ آگے آتا ہے۔

..... کسی مسلمان نے آج تک توہین انبیاء کا خود ارتکاب کرنا تو درکنار کسی کو مرتکب ہوتے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مگر مرزا قادیانی نے حضرت مسیح کی اعلانیہ توہین کی اور پھر بڑے فخر سے اسے اپنی کتابوں میں شائع کیا چنانچہ لکھتے ہیں۔ نقل کفر کفر نباشد!

”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں ان کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کجغریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کجغری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنا ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر طے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر طے، سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“

(ضمیر انجام آہتم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱ حاشیہ)

اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھتے ہیں۔ ”پس ہم ایسے ناپاک خیال اور منکبر اور راستہ زوں کے دشمن کو ایک بھلاماں آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔“

(ایضاً ص ۹، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۳ حاشیہ) (نعوذ باللہ من هذه الهفوات والخرافات)

اندریں حالات و بنا میری خیالات ایک ایماندار آدمی کے لئے ایسے شخص کو مجھ دانا تو درکنار مسلمان جاننا بھی دشوار ہے اور اس کے مجھ دمانے سے نہ صرف ایمان پر زد ہی پڑتی ہے بلکہ ایمان رہتا ہی نہیں۔

سوال نمبر..... احادیث صحیحہ کی رو سے آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزمان دجال، یاجوج ماجوج وغیرہ کے متعلق مسلمان کو کیا عقائد رکھنے چاہئیں؟

جواب..... نص صریحہ واحادیث صحیحہ کی رو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا دجال، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، مغرب سے سورج کا چڑھنا، امام مہدی کا ظہور اور دیگر علامات قیامت حق ہیں۔ ”چنانچہ ”فقہ اکبر“ میں جو عقائد کی ایک نہایت معتبر اور مسلمہ کتاب ہے لکھا ہے: وخروج الدجال ویاجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء وسائر علامات یوم القیامة علی ما وردت به الاخبار الصحیحة حق کائن“ ﴿دجال اور یاجوج ماجوج کا نکلنا اور سورج کا مغرب کی طرف سے چڑھنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور قیامت کی تمام نشانیاں جو صحیح حدیثوں میں وارد ہیں، حق ہیں۔﴾ (ان کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے)

اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری (جن کو مرزا یوں نے دسویں صدی کا مجدد تسلیم کیا ہے۔ دیکھو عمل مصنف ج ۱ ص ۱۶۵) لکھتے ہیں: ”وخرج الدجال ویاجوج وماجوج كما قال الله تعالى ﴿حتى اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون﴾ ای یسرعون وطلوع الشمس من مغربها كما قال الله تعالى ﴿یوم یاتی بعض ایت ربك لا ینفع نفساً ایمانها لم تكن امنتم من قبل او كسبت فی ایمانها خیراً﴾ ای لا ینفع الکافر ایمانه فی ذلك الحین ای طلوع الشمس من المغرب ولا الفاسق الذی ما کسبت خیراً فی ایمانه توبته یعنی لا ینفع نفساً ایمانها ولا کسبها فی الايمان ان لم تكن آمنتم من قبل او کسبت فیہ خیراً ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء كما قال الله تعالى ﴿وانه﴾ ای عیسیٰ ﴿لعلم للساعة﴾ ای علامة القیمة وقال الله تعالى ﴿وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته﴾ ای قبل موت عیسیٰ بعد نزوله عند قیام الساعة فیصیر الملل واحدة وهی ملة الاسلام الحنیفیة و فی نسخة قدم طلوع الشمس علی البقیة وعلی کل تقدیر فالواو لمطلق الجمعیه والا یترتیب القضیة ان المهدی یتظهر اولاً فی الحرمین الشریفین ثم یاتی بیت المقدس فیاتی الدجال ویحفروه فی ذلك الحال فینزل عیسیٰ من المنارة الشرقیة فی دمشق الشام ویجی الی قتال الدجال فیقتله بضربه فی الحال فانه یدوب كالمح فی الماء عند نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء فیجتمع

عیسیٰ فی المہدی وقد اقيمت الصلوة فيشير المهدى بعيسى بالتقدم فيمتنع معللا بان هذه الصلوة اقيمت لك فاننت اولى بان تكون الامام فى هذه المقام ويقتدى به ليظهر متابعتة لنبينا ﷺ كما اشار ﷺ الى هذا المعنى بقوله لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى..... الخ“ اور وصال اور يا جوج اور ما جوج کا لکنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یہاں تک کہ سب یا جوج اور ما جوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے نکل پڑیں گے یعنی دوڑیں گے اور سورج کا مغرب سے چڑھنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جس دن تیرے رب کے بعض نشان آئیں گے کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی یعنی کافر کو اس کا ایمان اس وقت میں نفع نہ دے گا یعنی سورج کے مغرب سے چڑھنے کے وقت اور نہ فاسق کو اس کی توبہ نفع دے گی۔ جس نے اپنے ایمان میں نیکی نہیں کی یعنی کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا اور نہ ایمان میں اس کا کام آکر وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان میں نیکی نہیں کمائی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ ساعت کے لئے علم ہے۔ یعنی قیامت کا نشان ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے یعنی عیسیٰ کی موت سے پہلے قیامت کے قریب جبکہ وہ نازل ہوں گے۔ آپ کے وقت میں تمام قومیں ایک ہو جائیں گی۔ اور وہ ملت اسلام حنیف ہوگی۔ ایک نسخہ میں سورج کا چڑھنا باقی (علامات) پر مقدم کیا گیا ہے اور ہر تقدیر پر ”واو“ صرف جمع کے لئے ہے۔ ورنہ ترتیب قضیہ اس طرح پر ہے کہ اول امام مہدی علیہ السلام حرمین شریفین میں ظاہر ہوں گے پھر وہ بیت المقدس میں آئیں گے۔ پھر وصال آئے گا پھر وہ اس حال میں ان (امام) کو گھیر لے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دمشق شام میں منارہ شرقیہ سے نازل ہوں گے اور وصال کے جنگ کی طرف آئیں گے۔ اور اس کو ایک ضرب سے اس وقت قتل کریں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے وقت (اس طرح) پکھل جائے گا جیسے پانی میں نمک۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ نماز کے لئے اکٹھے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے ہونے (یعنی امام بن کر جماعت کرانے) کے لئے اشارہ کریں گے۔ وہ انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ اس نماز کی امامت تیرے حصے ہے اور تو بہتر ہے کہ اس جگہ امام ہو اور وہ ان (امام مہدی) کے ساتھ اقتداء کریں گے تاکہ ہمارے نبی ﷺ کی متابعت ظاہر ہو۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی حدیث میں اس بات کی طرح اشارہ کیا ہے۔

اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری بیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ ﴿

(شرح فقہ اکبر، ملاحظی قاری، ص ۳۶ مطبوعہ مجبھائی، دہلی ۱۳۳۰ء)

اس کے سوا خود آنحضرت ﷺ نے علامات قیامت کے متعلق حدیث شریف میں پیش گوئی فرمائی ہے جو یہ ہے: ”عن حذیفة بن اسید الغفاری قال اطلع النبی ﷺ علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون قال نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتی ترو قبلها عشر آیات فنذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم ویاجوج وماجوج وثلاثة خسوف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب و آخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرهم“ ﴿ حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ نبی ﷺ نے ہم پر جھانکا اور ہم آپس میں ذکر کرتے تھے۔ پس آپ نے فرمایا کیا ذکر کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھو گے۔ پھر ذکر کیا دخان و دھواں کا اور دجال کا اور دلہۃ الارض کا اور سورج کے مغرب سے چڑھنے کا اور عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا اور یاجوج ماجوج کا اور تین خسوف کا ایک حنف مشرق کی زمین میں، ایک حنف مغرب کی زمین میں اور ایک حنف جزیرۃ العرب میں اور سب سے آخری نشان ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو زمین حشر کی طرف ہانکے گی۔ ﴿

(مشکوٰۃ باب العلامات، فصل اول)

علامہ ابی الحسنی نے اپنی کتاب شرح فقہ اکبر میں اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو کتاب مذکور ص ۳۶، مطبوعہ مجبھائی دہلی نومبر ۱۹۱۰ء) اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا قادیانی بھی اس حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں؟ سو وہ لکھتے ہیں کہ: ”دخان“ جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کچھ آخر زمانہ سے ہی خاص نہیں ہے۔“

(ازالہ اوہام طبع اول ص ۵۶ طبع بہجیم ۲۱۲)

اس جگہ دخان سے مراد قحط عظیم و شدید ہے جو سات برس تک آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارکہ میں پڑا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے مردے اور ہڈیاں کھائی تھیں۔ لیکن آخری زمانہ کے لئے بھی جو ہمارا زمانہ ہے۔ اس دخان یمن کا وعدہ تھا اس طرح پر کہ قبل از ظہور مسیح نہایت درجہ کی شدت سے اس کا ظہور ہوگا۔ اب سمجھنا چاہئے کہ یہ آخری زمانہ کا قحط جسمانی اور روحانی دونوں طور سے وقوع میں آیا۔ جسمانی طور سے اس طرح کہ اگر اب سے پچاس برس گزشتہ پر نظر ڈالی جائے تو



معلوم ہوگا جیسے اب غلہ اور ہر ایک چیز کا نرخ عام طور پر ہمیشہ کم رہتا ہے۔ اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کہیں نہیں پائی جاتی اور کیوں جناب؟ اب بھی لوگ مردے اور ہڈیاں کھاتے ہیں؟ (ناظم) روحانی طور پر صداقت اور امانت اور دیانت کا قہر ہو گیا ہے اور مکرو فریب اور علوم و فنون مظلمہ و دھان کی طرح دنیا میں پھیل گئی ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۱۳، ۵۱۴، خزائن ج ۳ ص ۳۷۵، ۳۷۶)

۲..... ”دجال“ جس کے آنے کا انتظار تھا۔ یہی پادریوں کا گروہ ہے جو ٹڈی کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۳۹۵، ۳۹۶، خزائن ج ۳ ص ۳۶۶)

”دجال کا گدھاریل گاڑی ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۸۵، خزائن ج ۳ ص ۳۷۰)

۳..... ”دلایۃ الارض علماء اور واعظین ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۸۶، خزائن ج ۳ ص ۳۷۰)

۴..... ”مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا۔ یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت کفر و ضلالت میں ہیں آفتاب صداقت سے منور کئے جائیں گے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۱۵، خزائن ج ۳ ص ۳۷۶، ۳۷۷)

۵..... ”اس جگہ درحقیقت مسیح ابن مریم کا ہی دوبارہ دنیا میں آجانا ہرگز مراد نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہوں۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۸، خزائن ج ۳ ص ۱۲۲)

۶..... یا جوج ماجوج کی نسبت تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ جو دنیا کی بلند اقبال قومیں ہیں جن میں سے ایک انگریز اور دوسرے روس ہیں۔ یہ دونوں قومیں بلندی سے نیچے کی طرف حملہ کر رہی ہیں۔

(ازالہ اوہام ص ۵۰۲، خزائن ج ۳ ص ۳۶۹)

”یا جوج ماجوج کا حال بھی سمجھ لیجئے یہ دونوں پرانی قومیں ہیں ان دونوں قوموں سے

(ازالہ اوہام ص ۵۰۸، خزائن ج ۳ ص ۳۷۳)

مراد انگریز اور روس ہیں۔“

معزز ناظرین! آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی نے حدیث کے معنوں میں تاویل سے کام لیکر کیسی صفائی سے انکار کی راہ اختیار کی ہے۔ آخر کیوں؟ اس لئے کہ ان کا ایمان ہے کہ

انبیاء سے بھی اجتہاد کے وقت امکان ہو و خطا ہے۔ (ازالہ اوہام ص ۲۸۰، خزائن ج ۳ ص ۳۷۱) اور آپ یعنی رسول اللہ ﷺ نے امت کے سمجھانے کے لئے بعض پیش گوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی

(ازالہ اوہام ص ۱۶۹، خزائن ج ۳ ص ۲۰۵)

کھانا بھی ظاہر فرمایا۔“

پس اسی بناء پر وہ کہتے ہیں کہ ”اگر آنحضرت ﷺ پر امن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ

بچہ ناموجود ہونے کسی نمونہ کے ہو بہو تکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دجال کے ستر ہاع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یا جوج ماجوج کی حقیقت تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو اور نہ ولایت الارض کی کیا ماہیت کما ہی ہی ظاہر فرمائی گئی اور صرف اشکلہ قرینہ اور صورت مشابہہ اور امور متشاکلہ کے طرز بیان میں جہاں تک غیب محض کی تفہیم بذریعہ انسانی قوائے کے ممکن ہے۔ اجمالی طور پر سمجھایا گیا ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔“

(ازالہ ابہام ص ۲۸۲، خزائن ج ۳ ص ۴۷۳)

حضرات جس شخص کا یہ ایمان ہو اس کا امام اور مہدی ہونا تو درکنار مسلمان ہونا بھی دشوار ہے۔ اب خداوند کریم بحرمت رسول کریم ایسے عقائد فاسدہ و خیالات کاسدہ سے ہر مسلمان کو بچائے اور ایسے خیالات کے لوگوں سے ہٹائے۔

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے جھوٹے انبیاء سے  
پس ہمارا دوستانہ مشورہ یہ ہے:

حق پر رہ ثابت قدم باطل پہ شیدائی نہ ہو  
گر تجھے ایماں پیارا ہے تو مرزائی نہ ہو

وأخردعوانا ان الحمد لله رب العالمین  
ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

### خاتمہ از مؤلف

خدا یا	قادرا	عاجز	نوازا	ز توصیف	و شائم	بے	نیازا
مرا	بر دین	احمد	دار	شوم	بر سنش	مشغول	وقائم
الہی	ساز	از لطف	و کرامت	طفیم	مصطفیٰ	روز	قیامت
زلطف	تو	توشم	ایں کتابے	پے	گم	کشتگاں	چوں آقا بے
خداوند	کش	مقبول	د منظور	برائے	خلق	سازش	چشمہ نور
ازیں	نفع	رساں	مارا	بگ	دانش	طفیم	روز عقبی
غرض	نقشے	ست	کزمن	دعائے	ہم	کند	ہر کہ بخواند
ممودم	ختم	ایں	را اے	بروز	پنجشنبیں	ماہ	محرم

سنش بد سیزدہ صد چار و پنجا ۱۳۵۴ء

شدم فارغ ازیں الحمد للہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ تَعَلَّمَ حَرْفًا مِنْ حَرْفِي هَذَا بَشْرًا فَلَهُ بِهِ مِائَةُ حَسَنَةٍ  
وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَمِائَتَانِ بَشْرًا فَمِنْ ذَلِكَ عِلْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  
مَنْ تَعَلَّمَ حَرْفًا مِنْ حَرْفِي هَذَا نِسَاءً فَلَهُ بِهِ مِائَتَانِ حَسَنَةٍ  
وَإِنْ كُنَّ بَشْرًا فَمِنْ ذَلِكَ عِلْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

# مرزانی حقیقت کا اظہار



حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مبسملاً وحامداً ومحمداً جل وعلا

ومصلیاً ومسلماً محمداً سلم اللہ علیہ وصلی

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعده . امامبعدا

وجه تحریر

ایک اشتہار بعنوان ”حقیقت کا اظہار“ نظر سے گزرا اگرچہ ایسی بے سرو پا عامیانا تحریر کے جواب کی نہ مجھے فرصت نہ حقیقتاً اس کی کوئی اشد ضرورت۔ مگر محض بدیں نیت کہ مبادا کوئی سادا لوح اس تحریر کے سبب غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ امر واقعہ کے اظہار کی ضرورت ہوئی۔ مشہور صاحب وہی بزرگ ہیں جنہوں نے ”روز مل سینما“ کے مرزائی جلسے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے میرے نام کوئی خط لکھا ہے جس میں مجھ کو مناظرہ کا چیلنج دیا ہے۔ میں بعض ثقہ حضرات کی اس روایت کی بناء پر منتظر تھا کہ وہ خط میرے پاس آئے تو چیلنج دینے والے صاحب پر ان کی خواہش کے مطابق بذریعہ مناظرہ بھی اتمام حجت کر دوں۔ مگر آج تک ان کے اس خط کے انتظاری انتظار میں رہا۔ اب اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنی بڑائی جتانے کے لئے ایک لغو حرکت تھی۔ جب ان کے حقداری جناب مرزا قادیانی، حضرت علامہ علی شاہ صاحب کو دعوت مناظرہ دینے اور ان کو مبالغہ پر مجبور کرنے کے باوجود لا ہونہ پہنچے اور بہانہ بازیاں کیں۔ مولوی ثناء اللہ کو پیش گوئیں کی پڑتال کے لئے قادیان بلایا اور منہ نہ دکھایا تو حیلے کے لئے اتنا جھوٹ بولنا کیا دشوار تھا۔ میں نے ”مارشس“ میں آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جس دینی مسئلہ کو سمجھنا چاہے میرے پاس ”جامع مسجد پورٹ لوئس“ میں دس (۱۰) بجے صبح سے چار (۴) بجے سہ پہر تک کسی وقت آئے اور سمجھ جائے چنانچہ بمنہ تعالیٰ اس عرصے میں روزانہ آنے والوں اور مسائل سمجھنے والوں کا اس قدر ہجوم رہا کہ مجھ کو خواب و خور کی بھی فرصت بدقت ملتی تھی۔ اسی سلسلے میں بہت سے مرزائی بھی آئے اور الحمد للہ کہ جو آئے میرے پاس سے نہ صرف لاجواب ہو کر بلکہ اطمینان پا کر ہی گئے ان میں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ الحمد للہ تابع ہو کر جماعت مسلمین میں شامل ہوئے۔

روشن بھونامی ایک شخص نے یہ پیام بھیجا کہ وہ مع اپنے قریبی رشتہ دار اور چھ سات آدمیوں کے مجھ سے مل کر بعض مسائل کو سمجھنا چاہتا ہے اور اگر اس کا اطمینان خاطر ہو جائے تو مرزائیت سے تابع ہونے کے لئے تیار ہے اپنی بعض مصالحوں کے سبب جامع مسجد میں آنا نہیں

چاہتا بلکہ ترود و دوس میں جناب حاجی وزیر علی صاحب کے مکان پر آسکتا ہے میں نے باوجود مشاغل کثیرہ یہ زحمت بھی گوارا کی اور تقریباً تیس ۳۰ میل کا سفر کر کے وہاں بھی پہنچا روشن بھنوں وہاں بجائے چھ سات کے پچاس ساٹھ آدمیوں کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا بسم اللہ تمہیں جو دریافت کرنا ہے۔ پوچھو۔ اس نے کہا میں خود کچھ نہیں دریافت کرتا بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے حافظ صاحب (انہی مشہور صاحب) سے مناظرہ کریں اور ہم سنیں اور فیصلہ کریں۔

میں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی خواہش ہے مگر وہ آپ کے حافظ صاحب بھی مناظرہ کیلئے تیار ہیں یا نہیں؟ اس لئے کہ میں تو عرصہ سے ان کے خط کے انتظار میں ہوں جس کا انہوں نے جلسہ ”روز مل سینما“ میں اعلان فرمایا تھا۔ میں آپ کی خواہش کے مطابق ان سے مناظرہ کے لئے بھی تیار ہوں بشرطیکہ وہ اپنا دستخطی اقراری خط میرے پاس بھیجیں جس میں یہ لکھیں کہ کن مسائل پر کن شرائط کے ساتھ کس وقت اور کہاں مناظرہ فرمانا چاہتے ہیں؟ ان کا خط آنے کے بعد میں ان شرائط پر غور کروں گا اور جب میری اور ان کی باہم رضامندی سے شرائط مناظرہ تحریری طور سے طے ہو جائیں گے تو ان شرطوں کے مطابق مناظرہ کر لوں گا تا کہ ایک فیصلہ کن صورت آپ کے سامنے آجائے۔ اس کے جواب میں بھنوں نے کہا کہ بہت اچھا آپ اپنی اس بات پر کپے رکھیں کہ میں انہی کی دستخطی اقراری چٹھی جس میں سب شرطیں وغیرہ لکھی ہوں گی آپ کو خود پہنچاؤں گا۔ غالباً بھنوں نے اس بات پر قسم بھی کھائی اور اس وقت رخصت ہوا۔ لیکن کئی ماہ گزر گئے آج تک وہ تحریر نہ آئی تھی نہ آئی۔ اس دوران میں کسی شخص عبدالرحیم اور بھنوں نے مجھے لکھا کہ آپ فلاں جگہ فلاں وقت ہمارے حافظ صاحب سے مناظرہ کے لئے آئیے۔ میں نے اس کے اس وعدے کے بعد ایسے لغو خط کو ردی سمجھ کر پھینک دیا تھا مگر میرے بعض احباب نے مناسب سمجھ کر اس کو اس کا وعدہ یاد دلائیں شاید کے وہ بھول گیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ بذریعہ رجسٹریڈ خطوط اس کو اس کے وعدے کے الفاظ یاد دلائے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اپنے حافظ صاحب کی تحریر نہ بھیجو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ (مدعی ست گواہ چست) تمہارے حافظ صاحب مناظرہ سے گریز کرتے ہیں۔ مگر ان احباب کی ان تحریروں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔

بالآخر برادر دینی اور قینی شیخ عبدالرحیم صاحب کے مکان پر (جو اس سلسلے میں مع اپنے بڑے قبیلے کے مرزائیت سے تائب ہوئے ہیں) میں نے اپنے دوران وعظ میں اس کل مضمون اور رقعہ کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اب میں عنقریب اس جزیرے سے روانہ ہونے والا ہوں۔ مزید اتمام حجت کے لئے تمام مرزائیوں کو یہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے حافظ صاحب اپنے

اعلان کے مطابق مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر وہ موعودہ خط میرے پاس بھیجیں اور مناظرہ کر لیں ورنہ ان کے اس جھوٹ کا سب پر اظہار اور ان کا مناظرہ سے فرار عالم آشکار ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ مرزائی احاطے کی دیوار کے پیچھے سے کسی پردہ نشین نے یہ بانگ بے ہنگام بلند کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیجئے تب ہم شرائط مناظرہ وغیرہ سب لکھ کر بھیجیں گے۔ میں نے اس کے جواب میں فوراً لکھا کر کہا کہ یہ پردے کے پیچھے کون بولتا ہے؟ جس کو بولنا ہو سامنے آئے اور تمیز کے ساتھ جوابات کہنی ہو کہے۔ میری اس لکاکار کے بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ بعض تجزیہ کار احباب نے بعد جلسے بتایا کہ وہ آواز حافظ صاحب موصوف کی ہی تھی پھر میں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں محبت کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کر رہا ہوں مجھے ضرورت نہیں کہ کسی کو مناظرہ کا چیلنج دوں۔ ہاں اگر کوئی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے تو میں بسر و چشم اس کے لئے تیار ہوں۔ اگر مرزائیوں کو تحریری چیلنج دو تو مجھے چاہئے کہ عیسائی، بدھست، سناستی، آریہ سب کو ایسی ہی تحریر بھیجوں ورنہ ان کو باتیں بنانے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد میں چوبیس گھنٹے تک مرزائی حافظ صاحب کی تحریر کا منتظر رہا لیکن چوبیس گھنٹے کا آج تک نہ وہ خط ہے نہ اس کی کوئی خبر۔

مناظرے سے مرزائی حافظ صاحب کا فرار اظہار من الشمس ہو گیا اور شاید خود ان کے فرقے کے لوگوں نے ان کو ان کے جھوٹے وعدے اور جھوٹے اعلان پر پھر میری تقریر کے دوران میں بولنے اور میرے بلانے کے باوجود سامنے نہ آنے پر شرمندہ کیا ہو گا اور ان کو یہ فکرا من گیر ہوئی ہوگی کہ کہیں لگی لگائی روزی ہاتھ سے نہ جاتی رہے اس لئے اب قادیانی فتنہ کی آمدنی بھی برادر مشخ عبدالرحیم کے تابع ہونے کے بعد کم ہو گئی تو مجبور ہو کر جناب حافظ صاحب نے اشک شوئی کے لئے وہی اشتہار بازی کا طریقہ اختیار کیا جو ہمیشہ مرزا قادیانی اور ان کے پیروؤں کا شعار رہا ہے تاکہ ادھر اشتہار کی سرخی میں میرا نام ہونے کے سبب ان کا اشتہار فروخت ہو آمدنی کی صورت نکلے اور ادھر مرزائیوں کو تسلی دینے کا بھی موقع ملے کہ ہم نے اور کچھ نہیں تو بے سرو پا اشتہار ہی دے دیا۔ ان کو یہ تو یقین ہے کہ مسلمانان ”مارشس“ کے پاس کوئی اردو کا پر لیس نہیں۔ کاتب نہیں، پتھر نہیں، پھر جواب چھاپیں گے تو کیونکر؟ پھر میرے متعلق بھی یہ یقین ہو گیا کہ پاپر کاب ہوں اور عدیم القریٰ۔ لہذا اس موقع کو قیمت جان کر اشتہار چھاپا کہ اس بہانے سے مرزائیوں پر عیب جم جائے اور یہ کہنے کا موقع ملے کہ دیکھو ہمارے اشتہار کا کسی نے جواب نہ دیا۔ مگر انہیں معلوم ہو جانا چاہئے کہ الحمد للہ خدام دین خاتم النبیین ﷺ ہر خدمت دین کے لئے ہمیشہ مستعد رہتے ہیں چنانچہ ان کی تحریر کا جواب بھی حاضر ہے۔ وہو ہذا

## .....۱ مرزائی حقیقت کا اظہار

میں یقیناً اسی اصول حکمت سے کام لے کر جس کی ہدایت قرآن حکیم نے فرمائی بہت محبت کے ساتھ بے دینوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں اور بے تعالیٰ کامیاب ہوتا ہوں نہ کسی پر حملہ کرتا ہوں نہ کسی کا دل دکھاتا ہوں جس کا عملی ثبوت اسی سے مل سکتا ہے کہ جزیرہ بھر کے ہر اس پبلک جلسے میں جہاں میں نے تقریر کی ہمیشہ کثرت کے ساتھ غیر مسلم حضرات شرکت فرماتے رہے اور ہر فرقے کے افراد میرے طرز کلام کی داد دیتے ہوئے رخصت ہوئے حتیٰ کہ دو کوائے کے ایک جلسے میں تو ایک پادری صاحب نے بے ساختہ ایسی بینظیر مختصر تقریر فرمائی جو ان کے اسلام سے قریب تر ہونے پر دلالت کر رہی تھی۔ دوسرے ایک انگریز رئیس نے بہت مناسب الفاظ میں طرز تقریر کی داد دیتے ہوئے اس کی تائید کی۔ نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ انہی تقریروں سے متاثر ہو کر اس وقت تک تقریباً پچاس آدمی مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں۔ ہاں چونکہ کفر مرزائیت سے تائب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہی حافظ صاحب پر شاق۔ تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ میں نے تو ہرگز ہرگز کبھی کسی پر حملہ نہیں کیا۔ ہاں جب مرزائیوں کی طرف سے مناظرہ کی چٹھی کی جھوٹی خبر گرما گرمی کے ساتھ مشہور کی گئی تو مجبور ہوا کہ کھلے طور پر لوگوں کو مرزائیت کی حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ اس سلسلے میں بھی جو الفاظ حافظ صاحب کو گراں گزر سکتے ہیں وہ میرے نہیں بلکہ خود مرزا قادیانی کے ہی کلمات ہیں۔ میں صرف ان کا دہرانے والا ہوں۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے۔

..... محمدی بیگم سے نکاح اور اس کے شوہر کے انتقال کی پیش گوئی کے متعلق جناب مرزا قادیانی ارشاد فرماتے ہیں کہ:

الف..... ”اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں

(ضمیمہ انجام آختم ص ۵۳، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸)

گا۔“

ب..... ”یہ تمام امور جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں ایک صادق یا کاذب کی شناخت

(شہادت القرآن ص ۷۵، خزائن ج ۶ ص ۳۷۵)

کے لئے کافی ہیں۔“

ج..... ”اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔“

(حاشیہ انجام آختم ص ۳۱، خزائن ج ۱۱ ص ۳۱)

د..... ”برائے صدق خود یا کذب خود معیاری گردانم“

(انجام آختم ص ۲۲۲، خزائن ج ۱۱ ص ۲۲۲)

یہ ظاہر ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ یہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی اس نکاح کی حسرت اور اپنی

مطلوبہ کا داغ مفارقت مرزا قادیانی دل ہی میں لے کر مر گئے۔ پس اب مرزا کی صاحبان ہی فیصلہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی اپنے قول کے مطابق بد سے بدتر کا ذب اور چھوٹے بنے یا نہیں؟

۲..... پھر ڈاکٹر عبدالکلیم خان صاحب نے جب مرزا نیت سے توبہ کرنے کے بعد یہ پیش گوئی فرمائی کہ: ”صادق کے سامنے شریفنا ہو جائے گا یعنی تین سال کے اندر میرے سامنے مرزا قادیانی مرجائیں گے۔“ (اعلان الحق ۱۲ جولائی ۱۹۰۶ء)

اس کے جواب میں جناب مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار مجریہ ۱۶ اگست ۱۹۰۶ء میں تحریر فرمایا کہ خدا صادق اور کا ذب میں فرق کر کے دکھائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شریہ اور مفتری کے سامنے صادق اور مصلح فنا ہو جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں ایسی ذلت اور لعنت کی موت سے مردوں کے عبدالکلیم خان کی پیش گوئی کی میعاد میں ہلاک ہو جاؤں۔ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۵۹) دنیا کو معلوم ہے کہ مرزا قادیانی اس پیش گوئی کی میعاد یعنی ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو ہیضہ کی اس وہابی بیماری میں جو بقول مرزا قادیانی ان کے مخالفوں کے لئے بصورت عذاب آئی تھی خود ہتلا ہوئے۔ (لاہور میں مرے اور قادیان میں دن کئے گئے)

اب فیصلہ حافظ صاحب اور ان کے رفقاء ہی فرمائیں کہ مرزا قادیانی بقول خود میعاد پیش گوئی کے اندر ذلت اور لعنت کی موت سے مرے اور ان کے مرنے سے صادق اور کا ذب کا فرق ظاہر ہوا یا نہیں؟ میں نے اپنی طرف سے کبھی ان کی شان میں کبھی کوئی سخت کلمہ نہ استعمال کیا اور نہ یہ میری عادت ہے۔ اگر مرزا قادیانی کے ان جملوں میں ان پر سخت سے سخت حملے ہیں تو ان کے ذمے دار خود مرزا قادیانی ہیں نہ کہ میں۔ اگر کوئی مرزا کی ان سے کسی طرح جواب طلب کر سکتا ہے تو ضرور کر لے، میرے حقیقی اعتراض یا بقول حافظ صاحب سخت سے سخت حملے اگر تھے تو یہی۔ مگر میں نے حافظ صاحب کی (نمبر اول) یک رخی دو دورتی اور (نمبر دو) دورنی دو دورتی کو اول سے آخر تک پڑھا۔ ان اعتراضوں کا جواب کہیں بھی نظر نہیں آیا ہاں میری تقریر کے بعض حصص پر اپنی کج فہمی کے سبب قطع و برید کرتے ہوئے اپنے خیال ناقص کا اظہار فرمایا ہے اور جو سوالات اس میں کئے اور جو توجیہیں بیان کیں ان میں صرف اپنے مرزا کی سرغناؤں کی نقالی کی ہے جس کے جواب علمائے اسلام کی طرف سے بارہا دیئے جاتے چکے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکے۔ تاہم شاید تاریخس کے لوگوں کی نظر سے کمتر گزرے ہوں۔ لہذا یہ دیکھتے ہوئے کہ حافظ صاحب کی تحریروں میں بار بار ایک ہی بات کا تکرار ہے۔ مختلف عنوانوں کے ماتحت مختصراً عرض کئے دیتا ہوں شاید کہ اس سے بھی کوئی ہدایت پا جاوے۔



وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

میں نے ابتدائے کلام ہی میں یہ کہہ دیا تھا کہ جماعت حقہ اسلام میں کوئی تفرقہ نہیں ما  
 انا علیہ واصحابی ایک ہی راہ ہے۔ خنی، شافعی، مالکی، حنبلی فرتے نہیں، سب اسی ایک راہ  
 پر چلنے والے ہیں اور یہی وہ سواد اعظم ہے جس کے لئے ارشاد کہ اتبعوا السواد الاعظم  
 فانہ من شدذ فی النار (رواہ ابوداؤد) تم سواد اعظم کی پیروی کرو کیونکہ جو اس سے علیحدہ  
 ہوا، جہنم میں گیا۔ اسی سواد اعظم کو حضور ﷺ نے جماعت فرمایا اور ان اللہ لا یجمع امتی (او  
 قال) امتی علی ضلالۃ وید اللہ علی الجماعۃ ومن شدذ فی النار۔ فرمایا یقیناً  
 اللہ میری امت کو (یا یوں فرمایا) کہ امت محمد ﷺ کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر  
 ہے اور جو علیحدہ ہوا جہنم میں گیا۔

اب اگر مرزائی اجماع امت کے خلاف نئے نئے عقیدے تراش کر اس سواد اعظم  
 وجماعت مسلمین سے الگ ہوں تو وہ اپنا مقام دیکھ لیں۔ حدیث میں بتا دیا گیا ہے۔ معمولی عقل  
 والا انسان بھی اتنی سی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ کہ جماعت کا لفظ تیس کروڑ انسانوں کے گروہ پر صادق  
 آسکتا ہے یا گئے پنے چند مرزائی افراد پر؟

حدیث العلماء ورتۃ الانبیاء میں بھی اس سواد اعظم کے علماء کی شان کا اظہار۔  
 ہاں وہ بے علم مدعیان علم ہے۔ جو اس سواد اعظم سے الگ ہوئے اور ذاتی اغراض کے لئے شرارتیں  
 پھیلاتے ہوئے اپنی اپنی کلڑیاں بناتے ہیں۔ شرمن تحت ادیم السماء کہلائے۔ اس  
 حدیث کے مصداق صحیح حافظ صاحب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، مرزائی فرقہ میں باسانی وہ  
 ان سے ملاقات فرما سکتے ہیں۔ میں نہ کوئی نئی راہ بتاتا ہوں نہ نیا دین سکھاتا ہوں نہ اپنا کوئی نیا فرقہ  
 بناتا ہوں، صرف اسی ما انا علیہ واصحابی والی راہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہی سکھاتا ہوں  
 کہ قرآن کریم و حدیث شریف کے معانی میں مدعیان الہام کے خود تراشیدہ الہام کو دخل نہ دیا  
 جائے بلکہ ان کے وہی معنی سمجھے جائیں جو حضور خاتم النبیین ﷺ نے سمجھے اور اپنے صحابہ کو سمجھائے  
 اور انہوں نے مسلسل ہم تک پہنچائے۔

حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ”انبیاء کے وارث علماء کوئی خاص لوگ ہیں۔“ اور پھر اس کی  
 تشریح فرماتے ہیں کہ ملہم آدمی خدا سے علم پا کر بولتا ہے اور اس کی مزید توضیح کہ العلماء سے مراد  
 مجددین ملہمین ہیں نہ کہ عام مولوی۔ یہ حافظ صاحب کی خود رائی ہے، نہ کہیں قرآن کریم میں اس کا  
 ذکر نہ حدیث شریف میں اس کا بیان۔ الف لام کے متعلق یہ تو تحریر فرمایا کہ اسی بات کو ظاہر کرتا ہے

مگر یہ نہ لکھا کہ کیوں؟ اگر صرف دعوہ پر ہی ہوتی۔ اقسام الف لام کا علم ہوتا تو لکھتے کہ الف لام کیسا ہے؟ اگر عربی تک نہیں پڑھی تو اب تو اردو زبان میں بھی عربی صرف نحو کی کتابیں چھپ گئی ہیں۔ انہی میں دیکھ لیا ہوتا۔ پھر کہیں کتاب وسنت کا یہ حوالہ بھی دیا ہوتا کہ بعد خاتم النبیین ﷺ کسی مدعی الہام کا الہام حجت شرعی بھی ہے۔

### مجددین اور الہام

مجدد کی حدیث حافظ صاحب نے تحریر تو فرمائی۔ اس کے الفاظ کی ترتیب میں ایسا بیہودہ تصرف بھی کیا اور لکھا کہ اس مادہ کل سے جس کی غلطی ایک ادنیٰ معلوم عربی بھی بتا دے۔ مگر معنی میں کچھ تصرف کر کے بھی یہ نہ دکھایا کہ وہ مجدد ملہم ہوں گے اور ان کا علم شرعی حجت بھی ہوگا۔

پھر تعجب کہ اس دور قی کی چند سطروں ہی میں اتنا اتنا تاقض

اول ..... لکھتے ہیں کہ العلماء سے وہ لوگ مراد ہیں جو معرفت الہی کا کامل علم رکھتے ہیں۔

دوم ..... کامل معرفت صرف الہام سے ہوتی ہے۔ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ العلماء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو الہام ہوتا ہے یعنی جنہیں الہام نہیں ہوتا وہ العلماء میں داخل نہیں اور انبیاء کے صحیح وارث نہیں۔

سوم ..... پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جو مولوی ان الہام اپنے والے مجددین کے ساتھ شامل ہوں گے وہ بھی ان مجددین کے طفیل صحیح علم کے وارث ہوں گے۔ یعنی بغیر الہام کے صرف مجددوں کے طفیل میں بھی صحیح علم کے وارث ہو جائیں گے۔

ذرا اپنے جملوں پر نظر ڈال لے کہ ایک دوسرے کا الٹا ہے یا نہیں؟

پھر تعجب اور سخت تعجب ہے کہ مجددین کے ساتھ شامل ہونے اور مجددین کے طفیل سے تو

۱۔ آپ الف لام عہدِ نبوی کا مراد لے سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا معبود علماء دین مصطفیٰ ﷺ ہیں کیونکہ وہ بین الخلق والسامع متعین و معروف ہیں اور وہی وارث ہو بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ وارث اس کو کہتے ہیں جو اپنے مورث کا ترکہ پائے اور حضور ﷺ کا ترکہ علم دین ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے تو یقیناً وارث کے مصداق علماء دین ہوئے اس کا انکار حدیث زیر بحث کی تحریف اور حدیث لا نمودت دینارا ولا درهما کا انکار ہے اور ملہمین تو کسی طرح مراد ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ وہ مسبووق الذکر نہیں جو معبود خارجی قرار دیئے جاسکیں۔ نہ سامع و حکم کے درمیان معروف و معبود کہ بطریق عہدِ نبوی مراد ہو سکتے۔ یہ کہاں کی صدائے بے ہنگام اور تحریف باطل اور ملہمین وادث کا مصداق بھی نہیں ہو سکتے کہ نئے الہامات نبوت کا ترکہ کب ہیں؟ حضور ﷺ کا ترکہ تو کتاب وسنت ہے جیسا کہ خود حدیث شریف میں وارد ہوا۔

صحیح علم کے وارث ہو جائیں اور سید المرسلین خاتم النبیین ﷺ کی صراط مستقیم پر چلنے میں ان کے ساتھ شامل ہونے اور ان صاحب وحی و کتاب کے طفیل ان سے صحیح علم پہ تسلسل روایت لینے کے بعد بھی صحیح علم کے وارث نہ بنیں اور العلماء میں داخل نہ ہو سکیں اور خطرے میں رہیں۔

بریس عقل و دانش ببايد گريست

آیت قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني کو پیش کرتے ہوئے اس کا من گھڑت ترجمہ کرنا اور من اتبعنی کو صرف صحابہ تک محدود کرتے ہوئے بارہ سو برس کے لئے تبلیغ کے دروازہ کو بند سمجھنا۔ اس لئے کہ اس عرصہ دراز میں کسی مجدد نے یہ دعویٰ نہ کیا کہ میرا الہام حجت شرعی ہے اس کو مانو اور جو اس کو نہ مانے گا وہ کافر ہوگا۔ بقول حافظ صاحب اس لئے کوئی عالم بھی صحیح علم کا وارث نہ بنا اور حق پر نہ رہا تو ان کے تبلیغ دین کرنے سے جو مسلمان ہوئے بقول حافظ صاحب وہ بھی حق پر نہ ہوئے۔ غرض اس طرح صرف مرزائی جماعت کے حق پر ثابت کرنے کے لئے حافظ صاحب کا بارہ سو برس کے تمام مسلمانوں کو (معاذ اللہ) حق پر نہ ہونے کا حکم لگا دینا اور صرف مرزائی مبلغین کو اس کا مصداق بنانا ویسی ہی خود رائی ہے جس کے لئے سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ مرزائی صاحبان آریوں اور عیسائیوں کو تو کیا مسلمان بتائیں گے۔ مرزا قادیانی کے زمانہ اور اس کے بعد کے مسلمانوں پر خود مرزا قادیانی اور ان کے بلند اقبال صاحبزادہ نے کفر کا حکم لگایا تھا۔ صاحبزادے کے شاگرد حافظ صاحب استاد سے بھی آگے بڑھے اور انہوں نے پہلوں پر بھی ہاتھ صاف کیا۔ حافظ صاحب نے اشتہار بازی کی جرأت تو کی مگر جہالت کا یہ عالم ہے کہ مذکورہ مؤلف کی تمیز نہیں، طاقت کے لئے لاپرواہی لکھ رہے ہیں۔ مگر حدیث شریف میں خیانت اور بددیانتی اس درجہ دہل و فریب کا یہ عالم کہ صرف ایک جملہ اپنے مزمومہ مطلب کو خواہ مخواہ ثابت کرنے کے لئے نقل کر دیا۔ بعض کو ماننے اور بعض کے ساتھ کفر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اول و آخر کو لکھائی نہیں۔ اس لئے کہ ان جملوں کو لکھتے تو مرزائیت کا سارا پھول کھل جاتا اور مدعیّت نبوت کا کذاب ہونا حدیث نبوی ﷺ سے ظاہر ہو جاتا کیونکہ حضرت ﷺ فرماتے ہیں۔ ”سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ (مسلم، ترمذی، ابوداؤد)“ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہونے والے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین

ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا اس کے مخالف اسے ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم یعنی قیامت آجائے۔ وسیع علم الذیہ، ظلّموا ای منقلب ینقلبون

اس حدیث نے صاف بتا دیا اور پہلے جملے کے معنی نے بالکل کھول دیا کہ یہی گروہ علماء و محمدین، وحی والہام خاتم النبیین پر قائم رہیں گے۔ اپنے الہام کو شرعی حجت نہ بنائیں گے۔ مرزا قادیانی کی طرح نبوت کا دعویٰ کرنا اور اپنے مفروضہ الہام کو وحی درجہ دینا جو قرآن کریم کا ہے، جھوٹوں کا شیوہ ہے۔

اب مرزا قادیانی کو آپ اسی کسوٹی پر پرکھ لیجئے کہ:

الف ..... انہوں نے نبوت و رسالت کا کھلا ہوا دعویٰ کیا کہ: ”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔“  
 ب ..... ”سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں نبی بھیجا۔“

(دافع البلاء ص ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

آپ انہیں غیر تشریحی اور ناقص نبی سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی بے ایمان ہیں۔ اس لئے کہ وہ تو صاف لکھتے ہیں:

۱ ..... ”جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر اور نبی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پھر اپنی وحی میں امر اور نبی کی مثال دے کر آگے لکھا کہ:  
 ۲ ..... ”اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی۔“

(اربعین ص ۶۰۴، خزائن ج ۱۷ ص ۴۳۵)

کہئے اب بھی تشریحی نبوت کے دعویٰ میں کیا کچھ کسر رہ گئی؟ پھر ابھی اور آگے بڑھئے۔  
 اپنی وحی کو قرآن کریم کے جیسا بتایا۔

انچه من بشنوم ز وحی خدا  
 بخدا پاک دانمش ز خطا  
 همچو قرآن منزہ اش دانم  
 از خطاها ہمیں است ایمانم

(نزول اسحٰ ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

پھر اپنے آپ کو سب تشریحی و غیر تشریحی نبیوں کے برابر ٹھہرایا۔

انبیاء گرجہ بودہ اند بسے  
من بعرفان نہ کمترم زکسے  
کم نیم زان ہمہ بروئے یقیں  
ھر کہ گوید دروغ است ولعیں

(نزدول المسیح ص ۱۰۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۷۸)

بلکہ اپنے آپ کو صاحب شریعت اولوالعزم رسول حضرت عیسیٰ بن مریم سے تو صاف  
طور پر بہتر بتایا۔ ان کا مشہور شعر ہے۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو  
اس سے بہتر غلام احمد ہے

(داغ البلاء ص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

کیا اس تیرہ سو برس کے کسی مجدد نے، کسی سچے عالم نے ایسا دعویٰ کیا؟ اپنے الہام کو  
ایسی حجت بتایا؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ پس مرزا قادیانی کے تو دعوے ہی ان کی تکذیب کی بڑی دلیل  
ہیں۔ آپ کہیں ان کی مجددیت کا راگ الاپتے ہیں۔ کہیں امامت کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے چل کر  
نبوت و رسالت غیر تشریحی کا حکم لگاتے ہیں، پھر ان کو فی الجملہ تشریحی بھی مانتے ہیں اس لئے کہ ان  
کے نہ ماننے والوں کو کافر اور باطل پر مشہراتے ہیں۔

ایک عالم فیصلہ کر چکا اور مارشس کے مرزائی بھی عنقریب کر لیں گے۔ مرزا قادیانی تو  
اپنے قول سے خود کفر کے دام میں پھنس چکے ہیں اب وہ کہاں نکل کر جاتے ہیں۔ مجددیت  
وامامت و نبوت کا ذکر تو بعد میں کیا جائے پہلے ان کے ہوا خواہ ان کو کفر کے گڑھے سے تو نکالیں،  
اگر نکال سکتے ہیں۔ باقی آئندہ۔

نوٹ..... قادیانی مبلغ حافظ صاحب نے اپنے فرقے کو حق پر ثابت کرنے کے لئے یہ

آیت لکھی ہے: "قل هذه سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرة انا و من اتبعنی"  
اور اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ اے محمد ﷺ! تو اعلان کر دے کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ یہ  
ہے کہ ہم سب علی بصیرت تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ قادیانی نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے  
آیت کے معنی میں تحریف کی اور من اتبعنی کا ترجمہ (میرے صحابہ) کیا ہاں جو یہ کہ اس کے صاف  
معنی یہ تھے کہ جس نے میرا اتباع کیا اس میں صحابہ کرام بھی داخل تھے۔ تابعین بھی تھے تابعین بھی،  
قیامت تک آنے والے تمام مسلمان فرمانبرداران رسول ﷺ بھی۔ مگر قادیانی مبلغ نے دیکھا کہ صحیح

ترجمہ کیا جائے تو آیت سے صاف طور پر ثابت ہوگا کہ حق پر صرف اہلسنت وجماعت ہیں۔ جن کا دین و اتباع رسول ﷺ ہے اور وہ قرآن وحدیث چھوڑ کر کسی مدعی الہام کے امتی بنا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن تماشایہ ہے کہ اس تحری سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بلکہ یہ نتیجہ نکلا کہ مرزا قادیانی بھی گروہ حق سے خارج ہیں۔ کیونکہ وہ صحابی نہیں اور قادیانی صاحب کے نزدیک آیت میں من آتبعنی سے صرف صحابہ مراد ہیں تو جب مرزا اہل حق سے خارج تو اس کے متبعین کس طرح اہل حق بن گئے۔ آیت کے معنی میں تحریف کر کے بھی مرزائی گروہ باطل ہی میں ہے۔ علاوہ بریں مرزائی مبلغ نے اہل حق صرف ملہمین کو مانا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ خیال تراشیدہ طبع اور زائیدہ فکر مرزائیت ہے اور قرآن وحدیث میں اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ بلکہ کثیر آیات واحادیث کے خلاف ہے۔ یہ تعجب خیز ہے کہ مرزائیوں کے حق پر ہونے کی دلیل مرزائی کا دعویٰ الہام قرار دیا جائے اور یہ دلیل ان کے سامنے پیش کی جائے۔ جو مرزا کو مومن اور مسلم بھی نہیں مانتے تو وہ ظہم من اللہ کیسے تسلیم کریں گے۔ یہ کہاں کی منطق ہے کہ مخالف کے سامنے اپنے اعتقادات کو دلیل بنا کر پیش کر دیا جائے۔ زیادہ تعجب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے الہام نسبت محمدی بیگم وغیرہ کے دیکھنے کے بعد بھی مرزائیوں کی غیرت مرزا کے الہام کا نام لینا گوارا کرتی ہے۔ شرم۔ شرم۔ شرم..... اگر محض دعویٰ الہام کسی کو حق پر ثابت کر سکتا ہو تو بابی، بہائی وغیرہ صدہا گمراہ فرقے الہام کے مدعی ہیں۔ مرزائی ان سب کو حق پر مانیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مبسملاً و حامداً و محمداً جل و علا

و مصلياً و مسلماً محمداً سلم الله عليه و صلي

.....۲ مرزائی حقیقت کا اظہار

مرزا غلام احمد قادیانی اپنے کفر کا فتویٰ خود دے چکے

علمائے اسلام مرزا قادیانی سے ان کے اسلام کا ثبوت کیوں نہ طلب کریں جبکہ مرزا قادیانی اپنے کافر و کاذب و لعنتی ہونے کا فتویٰ خود اپنے قلم سے دے رہے ہیں۔ اس سے قبل ناظرین نے مرزا قادیانی کے نبوت تشریحی بلکہ دوسرے انبیاء سے برابری بلکہ ان سے بہتری کے دعوے تو ملاحظہ کئے۔ اب ایسے دعویٰ کرنے والے کے متعلق علمائے اسلام کے سامنے لا جواب ہو کر مرزا قادیانی نے جو فتوے دیئے۔ وہ بھی دیکھئے اور فیصلہ کیجئے کہ ان دعوؤں کے بعد اپنے ان فتوؤں کے مطابق وہ کیا ہے؟

.....۱ بجواب حضرت مولانا غلام دہگیر صاحب قصوریؒ جناب مرزا قادیانی علیہ ما علیہ اپنے

اشہار مورخہ ۲۰ شعبان ۱۳۱۴ھ میں شائع کرتے ہیں: ”ان پر واضح رہے کہ ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں۔“  
(مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۹۷)

۲..... اشتہار مجریہ ۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء میں علمائے دہلی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔  
” (میں) سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔“  
(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۳۰)

ایک طرف مرزا قادیانی خود اپنے ہی ان فتوؤں کی رو سے کافر، کاذب اور ملعون بنے اس لئے کہ نبوت کا دعویٰ اظہر من الشمس۔ دوسری طرف انہوں نے تمام ان مسلمانوں پر جو مرزا قادیانی کو نبی و مسیح و مہدی و مجدد وغیرہ نہ مانیں، کفر کا فتویٰ دیا اور انہیں کافر کہا۔ چونکہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی مرزا قادیانی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لئے اس فتوے کی رو سے کوئی مسلمان تو کافر نہ ہوا، ہاں بحکم حدیث وہ کفر بھی کر دڑوں نہیں۔ بلکہ ان گنت مسلمانوں کی طرف سے خود مرزا قادیانی ہی پر لوٹا۔ تو اب مرزا قادیانی جس جماعت کے بھی امام بنیں اس کا شمار کفار میں ہی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سواد اعظم سے تو وہ پہلے ہی اپنے آپ کو الگ کر چکے۔ چنانچہ اس کفر کا اظہار مختلف صورتوں میں مرزا قادیانی کے پیروں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔

خاتم التبیین ﷺ

پرستار ان مرزا قادیانی نے حدیث لا نبی بعدی (میرے بعد کوئی نبی نہیں) کے معنی میں تحریف کرنے کے لئے طرح طرح کے حیلے نکالے مگر یہ جرأت آج تک کسی کو نہیں ہوئی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو بھی بدلے اور مندروں اور گرجاؤں کے بتوں کو بھی معبود قرار دے مگر چونکہ مارشلس کے مرزائی حافظ جی کو عظم سے کوئی علاقہ ہی نہیں اس لئے دے کر پورے اشتہار میں اپنی طرف سے اگر کوئی بات نکالی تو وہ بھی ایسی زانی جو مرزا قادیانی کے حمایتی تو کجا خود مرزا قادیانی کو بھی کبھی نہ سوجھی تھی۔ جناب حافظ صاحب مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرنے میں اس درجہ جد سے گزرے کہ لا الہ الا اللہ میں بھی لا کو صرف کمال کی لٹی کرنے والا قرار دے کر یہ مان

۱۔ مرزائی مبلغ نے اپنے فرقہ کے حق پر ہونے کی دلیل بیان کی کہ وہ ایک شخص کو امام اور ملہم مانتے ہیں۔ یہ کس قدر قابل مہملہ بات ہے کسی قوم کی وہمات یا اعتقادات اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہو سکتے ہیں تو دنیا میں کوئی فرقہ باطل پر نہ ہو۔ رافضی، خارجی، بہائی، بابی بلکہ ہنود، مجوس کون اپنا پیشوا ملہم نہیں مانتا تو مرزائیوں کے نزدیک یہ سب حق پر ہوئے۔ پس مرزائی بھی انہیں کے زمرے میں ہوں گے۔

بیٹھے کہ اللہ کے سوا بت خالوں اور گرجاؤں میں دوسرے (معبود بھی) موجود ہیں۔ اگرچہ وہ ایسے کامل نہ سہی جیسا کہ اللہ، مگر بقول حافظ صاحب معبود تو ضرور ہیں۔ (معاد اللہ من ذالک) مشرکین مکہ بھی تو اپنے بتوں کو اللہ کے برابر یا اللہ کے جیسا کامل معبود نہ مانتے تھے۔ بلکہ اللہ سے کم درجے کا ہی معبود گردانتے تھے اور اسی جرم کے سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو مشرک کہا۔ موجودہ زمانہ کے بت پرست بھی تو یہی کہتے ہیں کہ معبود حقیقی تو وہی خدا ہے۔ اس سے کم درجے کے معبود یہ بت بھی ہیں۔

پس اب سوچئے کہ جناب مرزائی حافظ صاحب اور دوسرے بت پرست مشرکین میں کیا فرق رہا؟ حد سے گزرنے کی یہی سزا ہے کہ اول کافر بنے پھر مشرکین کے گروہ میں شامل ہوئے۔ جب کسی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اسلام نے جو کلمہ سکھایا اس میں سب سے پہلے ہر مسلم کو یہی بتایا کہ حقیقی، مجازی، کامل، ناقص کسی صورت کسی قسم کا کوئی وجود ”الہ (معبود)“ کہے جانے کا مستحق سوائے اللہ کے ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں لایعنس الہ غیر اللہ کی نفی کرتا ہے اور اس کلمہ کا ترجمہ یوں ہوتا ہے۔ ”اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔“

سچے مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ جس طرح خدا کے سوا وہ تمام بت یا دوسری چیزیں جن کی پوجا کی جاتی ہے جموٹے اور کسی طرح معبود کہے جانے کے مستحق نہیں، اسی طرح مٹوائے حدیث لائمی بعدی حضور نبی اکرم ﷺ کے بعد جو شخص بھی نبوت و رسالت پانے اور نبی بننے کا دعویٰ کرے وہ ایسا ہی جموٹا نبی اور جموٹا رسول ہے جیسے وہ بت جموٹے ہیں۔

آنے والے عیسیٰ مسیح بن مریم علیہا السلام  
جن کی خبر قرآن عظیم و احادیث میں دی گئی

وہ مسیح بن مریم علیہ السلام جن کے تشریف لانے کی خبر قرآن عظیم و احادیث شریفہ میں دی گئی ہے، نہ حضور خاتم النبیین ﷺ کے بعد نبی بنیں گے۔ نہ یہ دعویٰ فرمائیں گے کہ مجھے اب نبوت و رسالت ملی۔ بلکہ یہ وہی مسیح بن مریم علیہ السلام ہوں گے جو حضور اکرم ﷺ سے پہلے نبی بن چکے اور نبوت و رسالت پا چکے وہی بذات خود دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور حضور خاتم النبیین ﷺ کی خدمت خلافت بجالائیں گے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو حدیث نبوی ﷺ: ”عن ابی ہریرۃ ان النبی ﷺ قال الانبیاء اخوان العلات امہاتہم شتی و دینہم واحد و انی اولی الناس بعیسی بن مریم لانہ لم یکن بینی و بینہ نبی و انہ خلیفتی علی امتی و انہ نازل فانارثہ فاعرفوہ رجل مربوع الی الحمرة



والبیاض علیہ ثوبان مصران کان رأسه یقطر وان لم یصبه بلل فیدق العسلوب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویدعوا الناس الی الاسلام ویهلك الله فی زمانه الملل کلها الا الاسلام (الی ان قال) لیمکت اربعین سنة ثم یتوفى ویصلی علیہ المسلمون ویدفنونه (انہما بن ابی ہبیدہ و احمد و ابو داؤد و ابن جریر و ابن حبان و ابن ابی جریر) "مرزائی دلائل کے خرمین پر یہ حدیث بحلی کا کام کر رہی ہے اس لئے کہ اس میں حضور اکرم ﷺ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ تشریف لانے والے، نازل ہونے والے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہی نبی ہیں جو مجھ سے پہلے نبی بن کر آچکے اور میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہوا، وہی میری امت پر میرے خلیفہ بن کر تشریف لائیں گے۔ ان کا حلیہ بھی بتا دیا اور کام بھی سنا دیا۔

صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کا حوالہ حافظ جلی نے دیا وہ انہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق ہے نہ غلام احمد بن کھسیٹی کی بابت، ان پرانے نبی عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے آنے سے لا نبی بعدی کی حدیث میں تاویل کی ضرورت، نہ کسی دوسری حدیث سے تطبیق کی حاجت۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بہ شان خلافت خاتم نبوت ہوگا، نہ برائے اعلائے اظہار نبوت و رسالت۔ کتمان حق مرزائیوں کی عادت، اہل سنت کو اس حرکت سے سخت نفرت، قرآن کریم کی کسی آیت میں رب نے ہرگز ہرگز یہ خبر دی ہی نہیں کہ کسی نبی کی غلامی سے نعت نبوت و بیعت کی جاتی ہے۔ حافظ جلی کا قرآن عظیم پر کھلا افتراء ہے۔ جس کی سزا ان شہاہ ربی روز جزاء مل جائے گا۔

حافظ جلی کا لافتنی الاعلیٰ کے قول اور اذا هلك کسریٰ فلا کسریٰ بعده... الخ کی حدیث میں جو لا ہے۔ اس کو لا الہ الا اللہ اور لا نبی بعدی کے لاپر قیاس کرنا ایسی کھلی ہوئی جہالت ہے جس کو کوئی اہل علم تو کجا ایک معمولی صرف و نحو جاننے والا بچہ سننے کا بھی روا دار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس کو خبر ہوگی کہ لاکھتی قسم کا ہوتا ہے؟ اور ہر قسم کی پہچان کے لئے کیا کیا قواعد ہیں؟ پھر یہ تو ایک معمولی اردو زبان میں تاریخ پڑھنے والا بھی جانتا ہوگا۔ کہ اگر لا کسریٰ اور لا قیصر کے کلمات میں بھی لا کے معنی وہی لئے جائیں تو بھی واقعات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ یقیناً مخبر صادق کے ارشاد کے مطابق کسریٰ کے کسر ویت کا خاتمہ ہو ہی گیا۔ قیصر بھی ملک شام سے بھاگا اور اقلیم شام اس کے نام سے پاک ہوئی، اب نہ وہ کسر ویت رہی نہ قیصریت۔ بادشاہ ہونا دوسری چیز ہے اور کسریٰ و قیصر کے القاب مخصوص دوسری چیز۔ حافظ جلی کو عربی زبان سمجھنے کا سلیقہ تو کہاں سے ہوگا۔ کسی جاننے والے سے فقہ الباری شرح بخاری میں اس کی تفصیل کا ترجمہ سن لیں تو ان کو کسریٰ و قیصر کے خاتمہ کا حال معلوم ہو جائے گا۔

حضور خاتم النبیین ﷺ کے اخبار بالغیب کے مطابق اس امت میں جموں نے مدعیان نبوت ہمیشہ آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ چونکہ حدیث لانی بعدی ان سب مدعیوں کے دعوؤں کا رد کرنے کے لئے سدسکندری کا کام دیتی ہے۔ اس لئے اس حدیث کے معنی میں تحریف پر ہر مدعی نبوت نے توجہ کی۔ ایک شخص نے اپنا نام ہی لارکھ لیا جس کسی نے اس حدیث سے اس کا رد کیا تو کہنے لگا کہ یہ حدیث سچی ہے مگر تمہیں بڑھنی نہیں آتی۔ اس کو اس طرح پڑھو۔ لانیسی بعدی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لایام کا ایک شخص میرے بعد نبی ہوگا۔ اس طرح ایک عورت کو بھی جنون ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جب اس حدیث کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو کہنے لگی کہ ہاں! یہ صحیح ہے مگر اس میں تو مرد نبی کی لانی کی گئی ہے۔ عورت کے نبی ہونے کی لانی کہاں ہے؟ لانی نبیہ بعدی ہوتا تو تمہارا دعویٰ صحیح تھا۔ اگر غور کیا جائے تو ان کی یہ تحریف مرزائی تحریف سے بڑھیا معلوم ہوتی ہے۔ مگر اس زمانے میں سمجھدار لوگ بکثرت موجود تھے ان کے جموں نے دعوے نہ چل سکے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے زمانے کا جموں نامدی نبوت بھی ہوا تو ایسا کہ جس کو تحریف کرنی بھی نہ آئی۔ اس کے ہوا خواہ بھی ہوئے تو ایسے جن کو اتنا سلیقہ بھی نہیں کہ نبوت منوانے چلے اور شرک تسلیم کر بیٹھے اور ان طرح ان کے جال میں پھنس جانے والے بھی ایسے سیدھے ساوے کہ دین اسلام کے احکام کو تو کیا پہچانتے اتنی تمیز بھی نہیں رکھتے کہ خود غرض، مکار، فریبی، جموں نے دجال اور بے غرض راست باز، سچے خدا پرست کے درمیان ہی فرق کر سکیں۔

وہ حافظ جی جن کو اتنی لیاقت بھی نہیں کہ مبتدا و خبر، قائل و مفعول، مضارع و اسم ظرف بلکہ مذکر و مونث کو بھی پہچان سکے۔ قرآن کریم پر ہاتھ صاف کرنے کی جرات فرماتے ہیں اور مارشس کے بھولے بھالے لوگوں کو جس طرح چاہتے ہیں بھکاتے ہیں۔ حالانکہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”من تکلم فی القرآن بربایہ فاصاب فاخطا (ترمذی)“ جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کی اور اتفاقاً صحیح تفسیر بھی کر دی تب بھی اس نے غلطی کی۔ پھر فرماتے ہیں: ”من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبتوا مقعدہ فی النار (ابوداؤد)“ جس شخص نے بغیر علم کے (اپنی رائے سے) قرآن کی تفسیر کی اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں سمجھ لے۔ آیت کریمہ: ”الیوم اکملت لکم دینکم وانتم علیکم نعمتی“ کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین کی تفسیر بھی موجود ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء دین الہی کی تبلیغ کے لئے آتے ہیں۔ اب چونکہ دین الہی کامل ہو چکا۔ پھر آیت انالہا فخلون میں رب العالمین نے اس کھل قانون دین الہی کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ لہذا اب کسی نبی کی

ضرورت بھی نہیں رہی۔ مگر اس شخص کی عقل میں یہ معنی کیونکر آئیں۔ جس کی آنکھوں کو پہلے ہی سے مرزا قادیانی کی محبت میں ناپینا اور کانوں کو بہرہ بتا دیا گیا ہو۔ حَبِكَ الشَّمْسُ، يَعْمَى وَيَصْمُ - نعمت کا حصر نبوت کے لئے کرنا اور پھر اس کو جاری ماننا حافظ جی کی خود رائی ہے۔ نہ قرآن کریم میں کوئی اس کی دلیل، نہ حدیث میں کہیں اشارہ۔

وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ (الایة) اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (الایة) وَلَا تَسْمُ نِعْمَتِي (الایة) وغیرہ آیات کے معانی میں جس قدر تحریف بھی کی گئی وہ مرزائیوں کی ایجاد ہے۔ نہ ان کے یہ معانی حضور ﷺ نے سمجھے، نہ کسی صحابی نے جانے، نہ تیرہ سو برس کے کسی مسلمان کی سمجھ میں آئے۔ کلمہ صریح خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے جو ایسی خود رائی کو کام میں لائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں کھلے کھلے لفظوں میں فرمادیا کہ: ”مَلِكَانَ مُحَمَّدَ ابَا أَحْمَدَ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ سرکارِ دو عالم ﷺ نے بار بار بکرار مختلف طریقوں پر مختلف کلمات میں یہی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ خاتم النبیین کے معنی خود حضور ﷺ نے صاف صاف بتا دیئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہیں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لانا نبی بعدی۔ کبھی ارشاد ہوا: انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ میں عاقب (سب سے پیچھے آنے والا) ہوں اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بلکہ اس سے بھی زائد وضاحت سے فرمایا تا کہ تشریحی، غیر تشریحی، بروزی، ظلی وغیرہ وغیرہ سب قسم کے دعوؤں کی تکذیب ہو سکے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ پس کوئی شخص بھی کسی قسم کی بھی نبوت کیوں نہ تراش لے، اس تنقیر آں سے وہ پاش پاش ہو ہی جائے گی۔ ایک حدیث میں تو گویا اس امر پر اس قدر تاکید کی وجہ سے بھی خود ہی زبان مبارک سے بیان فرمادی کہ جھوٹے نبی آنے والے ہیں۔ فرمایا: ”سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لانا نبی بعدی (سلم)“ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کذابوں کے صیغہ مبالغہ نے یہ بھی بتا دیا کہ چھوٹے چھوٹے جھوٹوں کا ذکر نہیں، بڑے بڑے جھوٹے تیس ہوں گے۔

۳..... دوورقی میں حافظ جی نے علامہ قاضی عیاض کا قول نقل کر کے اپنی ایک تازہ جہالت کا ثبوت بہم پہنچا دیا اس لئے کہ تمہیں کی تعداد کی متعلق ان کی عبارت بتا رہی ہے کہ اگرچہ ایسے

جھوٹے مدعی نبوت تو بہت گزرے مگر ان میں خاص طور سے وہی داخل جن کا دعویٰ نبوت خوب مشہور ہوا پس جس کے دعوے نے زیادہ شہرت پائی وہی تیس نمبریں مکتبوں میں داخل ہوا۔ اگر مرزا قادیانی کی تشہیر دنیا میں ہنسٹ ان سے پہلے جھوٹے مدعیان نبوت کے زیادہ ہوئی اور ہورہی ہے۔ (جیسا کہ مرزائیوں کا دعویٰ ہے۔) تو یقیناً نہ صرف یہ کہ وہ ان میں داخل ہوں گے۔ بلکہ ان سے اس مقابلے میں نمبر لیتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ممکن ہے کہ جنم کی طرف کی اس دوڑ میں چودھویں صدی میں ہونے کے باوجود پہلی صدی کے مسیلہ سے بھی آگے بڑھ جائیں اور سب جھوٹے مدعیان نبوت میں نمبر اول مرزا قادیانی ہی کا رہے۔ بہر صورت حضور ﷺ کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ قرآن مجید میں حضور ﷺ کے بعد نہ کسی احمد کے آنے کا اشارہ نہ کسی حدیث میں کسی نئے نبی کا استثناء۔ صحابہ نے یہ سمجھا، تیرہ سو برس کے مسلمانوں نے یہی مانا۔ آج اگر حافظ جی اور ان کے مقتدی خدا اور رسول و صحابہ و امت مسلمہ سب سے جدا ہو کر آیات قرآنی کے معنی بگاڑتے اور اپنی مطلب برآری کیلئے خدا اور رسول سے مقابلے کی ٹھانتے ہیں تو اس کے عذاب کے لئے تیار ہیں۔ دنیا میں تو اکثر کافروں کی رسی ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے۔ فمہمل الکافرین امہلہم رویدا۔ لیکن رب قہار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربك لشدید۔ حق کا جو یا آنکھوں والا دیکھے کہ کہاں قرآن کریم کا کھلا ارشاد۔ جس کا لفظی ترجمہ مسلمانوں کے ہر مترجم قرآن میں لکھا ہوا اور کہاں مرزائی لچھے دار فقرہ اور بیچ دار دعوے۔ عقل والا تو فوراً فیصلہ کر لیتا ہے کہ ان آیات و احادیث کے ہوتے ہوئے حضور ﷺ کے بعد نبوت کا ثبوت قرآن کریم سے نکالنا ایسا ہی ہے جیسے کسی عقل کے اندھے بے دین نے آمنت باللہ کے جملے میں کسی بڑھیا کے بلے کا ذکر کیا اور دین کی توہین کر کے اپنا پیٹ انگاروں سے بھرا۔

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

مرزا قادیانی کا دعویٰ ابیت خدا، بلکہ اس سے بھی سوا

مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ (معاذ اللہ) انہیں خدا کی طرف سے الہام ہوا۔

۱..... انت من بمنزلة اولادی (تو مجھ سے ہے بطور میری اولاد کے)

(دافع البلاء ص ۷۰۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷)

۲..... انت منی وانا منک (تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے)

(حقیقت الہی ص ۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۷۷)

۳..... انت منی بمنزلة ولدی (تو مجھ سے بطور میرے بیٹے کے۔)

(حقیقت الہی ص ۸۴، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

- ۴..... اسمع ولدی! (اے میرے بیٹے سن) (البشری ج ۱ ص ۴۹، خزائن ج ۱ ص ۶۹)
- ۵..... انت من ماتنا وهم من فشل (تو ہمارے پانی (نطفہ) سے ہے اور وہ لوگ شکلی سے) (اربعین ص ۳، مطبوعہ ۳۴، خزائن ج ۱ ص ۴۲۳)

میں نے اپنی تقریر میں مرزا قادیانی کی انہی کلمات کا حوالہ دیا اور یہ بتایا کہ خدائے قدوس کی شان کا آیت لم یلد ولم یولد میں بیان، اس کا فرمان کہ لم یقتخذ ولدا۔ مگر جناب مرزا قادیانی نے کھلے لفظوں میں ابھیبت خدا کا دعویٰ کیا، مرزا قادیانی کے حمایتی جناب حافظ جی اپنی دو دورتی میں اس کے متعلق جو مخرقات تحریر فرماتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے مسیحیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت مسیح و حضرت عزیر کی ابھیبت خدا (معاذ اللہ) ثابت کرنے کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم ان کو ایسا حقیقی بیٹا تو نہیں کہتے جیسے کسی انسان کا بیٹا دوسرا انسان ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا ہی بیٹا کہتے ہیں جیسا مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو بنایا اور اسی جرم میں قرآن کریم نے ان کے حق میں یہ حکم نافذ فرمایا کہ: "لقد کفر الذین (الایة)" یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا۔ پس جو جواب اس موقع پر نصاریٰ اور یہود کے لئے ہے وہی جواب مرزائیوں کے لئے ہے۔ اسلامی علم مناظرہ کی کتابیں ایسے جوابوں سے بھری ہیں، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ آیت "فانذروا اللہ کذکر کم ابانکم (الایة)" سے حافظ جی کا استدلال کرنا اور اپنے مقتدا کی اس دریدہ ذہنی پر پردہ ڈالنا ظلمات بعضہا فوق بعض کا مصداق، آیت کا مطلب نہایت سیدھا سادہ صاف کہ خدا کو اسی طرح ہر وقت یاد کرتے رہو، جس طرح تم اپنے محسن باپ کو ہر وقت دل و زبان سے یاد کرتے رہتے ہو اور اشد ذکر اسے اس پر مزید تاکید۔

۱۔ اور حقیقت میں مرزائیوں کا یہ عذر یہود و نصاریٰ سے بہت کمزور ہے کیونکہ مرزا کے لفظ اس معنی کا نقل نہیں رکھتے، کیونکہ اگر ابن اور ولد کے معنی مطیع، مخلص، مستحق، رحمت و شفقت فرض کئے جائیں تو پھر بھولہ کا کیا کام انت و لدی کیوں ناکافی یا مطلب ہے کہ تو مطیع اور مخلص تو نہیں بنو و کرم سے بھولہ مطیع کے قرار پر جاتا ہے جیسے کسی سے کہئے کہ تو بھولہ شریف کے ہے تو یہ اس کی توہین ہوگی۔ اگر یہ معنی ہوں اور مرزا مطیعین و مخلصین میں حیثیت داخل نہ ہوں تو پھر امام دہمد اور صاحب الہام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لامحالہ بہت ہیر پھیر کرنے کے بعد بھی یہ کہنا پڑے گا کہ مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی و صلیبی بیٹا تو نہیں مگر (معاذ اللہ) خدا کے صلیبی بیٹے کے برابر اس کو بیارایا اس کا مطیع ہے، تو اگرچہ مرزا نہ سبھی خدا کے لئے صلیبی بیٹا تو مانا، کوئی ہواب مرزائی یہ بتائیں وہ صلیبی بیٹا کونسا ہے جس کے بھولہ ہونے مرزا کو دعویٰ ہے، مرزائیوں نے جو معانی تراشے ہیں وہ نصرائیوں کے مقولے اس ابن اللہ، یا یہودیوں کے قول عزیر ابن اللہ میں چلتے تو چلتے، مگر مرزا کی عبارت میں کسی طرح چل ہی نہیں سکتے۔

اگر (معاذ اللہ معاذ اللہ) اس آیت سے حافظ جی خدا کا باپ ہونا ثابت کر رہے ہیں تو کچھ تعجب نہیں کہ یہ عرفونہ کما یعرفونہ ابنائہم (وہ لوگ حضور نبی اکرم ﷺ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو) کی آیت سے (توبہ توبہ عیاذ باللہ) سرکارِ دو عالم کو ..... کا ابناء کہہ بیٹھیں گے۔ حدیث کا پڑھنا اور سمجھنا اہل علم کا کام۔ کہاں حافظ جی اور کہاں اس اہم کام کا سرانجام! انہیں جب عیال اور اولاد کے الفاظ کا لغوی فرق بھی نہیں معلوم۔ مثنوی مولانا روم کے شعر سے استدلال تو کیا کرتے اسے موزوں لکھ بھی نہ سکے۔ اس جہالت کے باوجود خدا ہی جانے کہ جواب کی جرأت کس صورت سے ہوئی۔ سچ ہے۔ اذفا تاتک الحیاء فافعل ما شئت! بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن۔ اس دھوکے میں جاہل نہیں شاید کوئی اجہل آجائے تو آجائے، معمولی عقل والا بھی جان لے گا کہ اگر مرزا قادیانی کی مراد وہی معمولی رشتہ تھا جو خالق و مخلوق میں ہوتا ہے۔ تو ان کی ذات کی تحفہ۔ کیا معنی رکھتی ہے۔ پھر مرزا قادیانی نے تو پردہ ہی اٹھا دیا۔ (اس کتاب میں موجود ہیڈنگ ”رزا قادیانی کا دعویٰ الہیت خدا، بلکہ اس سے بھی سوا“ کے ضمن میں لکھی گئی مرزا کی عبارت کے) ۵..... میں تو من ماقتنا (ہمارے پانی یعنی نطفہ سے) تک کہہ ڈالا بلکہ اس سے بھی اور آگے بڑھے اور انما منک (میں تجھ سے ہوں) کہہ کر (معاذ اللہ) اس مطلب کو بھی بڑھا دیا جس کے مضمون سے بھی ایک ایماندار لرزہ میں آجائے۔

### فہم قرآن

گھوئے آیت ”ولقد یسرنا للقرآن“ یہ بالکل صحیح ہے کہ قرآن کریم کے مضامین اس درجہ آسان ہیں کہ حضور ﷺ کے بتانے اور اس ارشاد کے مطابق ان کے صحابہ تابعین و علمائے امت کے سمجھانے سے بہت جلد سمجھ میں آجاتے ہیں لیکن اس کے معنی یہ لینا کہ ہر بے علم جس کو عربی پڑھنی بھی نہ آتی ہو۔ اپنی رائے اور اپنی سمجھ کے مطابق جو معنی چاہے کر لے، جو مطلب چاہے نکال لے، وہی جہل مرکب ہے جس کی خبر جبر صادق حضور اکرم ﷺ نے پہلے ہی دی ہے کہ یفتون بغير علم فضلوا واضلوا بنیر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے۔ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حافظ جی نے اس بیان میں کوئی نیا کمال نہیں دکھایا وہی کہا جو ہمیشہ جہلاء کا شیوہ رہا۔ اس بات کو ایک عاقل بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب تک کوئی شخص ایک زبان ہی کو نہ جانے تو اس زبان کی آسان سے آسان کتاب کو بھی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کسی زبان کے جاننے کے لئے اس زبان کے قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ ورنہ قائل و مفعول و مبتداء و خبر، ماضی و مستقبل و حال و امر میں کیسے تمیز کرے گا؟ اسی کو صرفہ۔ بخوبی کہتے ہیں۔

اردو یا فرنج کے بے جا ترجموں کو پڑھ لینے کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ اس نے معانی قرآن کریم کو پالیا۔ شان نزول آیات و تفسیر نبوی کے مطالعہ کے بغیر یہ نتیجہ نکال لینا کہ صحیح طور سے مطالب قرآن پر عبور ہو گیا۔ ایک جاہلانہ وہم نہیں تو کیا ہے؟

شان نزول آیات ہی سے یہ پتہ چلے گا کہ کونسا حکم مقدم ہے اور کونسا موخر حافظ جی کو ابھی نسخ اور اختلاف کے لغوی فرق کی بھی خبر نہیں تو وہ میرے جملوں کا مطلب کیا سمجھتے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ شاگردوں کی صورت میں آئیں میرے تلامذہ کے زمرہ میں شریک ہو جائیں۔ طالب علموں کی طرح پہلے صرف دعو پڑھیں۔ ادب سیکھیں، جب تفسیر پڑھانے کا وقت آئے گا تو میں ان کو بتا دوں گا کہ نسخ کسے کہتے ہیں اور منسوخ کسے؟ کتنے احکام نسخ ہیں اور کتنے منسوخ؟ نیز یہ بھی سمجھا دوں گا کہ نسخ حکم دوسری چیز ہے اور اختلاف واقعات دوسری چیز۔ وحی الہی قرآن کریم یقیناً اختلاف سے قطعاً پاک، نہ اس کے الفاظ میں اختلاف، نہ معانی میں مخالف، نسخ احکام حکمت ربانی پر دلیل، نسخ کو اختلاف کہنا کسی جاہل نہیں اجہل ہی کا کام ہو سکتا ہے۔

خدا کے کلام میں نہ تو اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں! جھوٹے الہام کی یہی پہچان ہے کہ اس میں اختلاف ہوگا۔ چنانچہ اگر حافظ صاحب کو محبت ہے تو ذیل کی مثال سے دیکھ لیں۔

### اختلاف واقعات گزشتہ

مرزا قادیانی اپنی کتاب (براہین احمدیہ ص ۴۹۸، خزائن ج ۳ ص ۴۰۲) میں فرماتے ہیں: ”اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح بن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر دعدہ کے مطابق تو آیا ہے۔“	مرزا قادیانی اپنی کتاب (براہین احمدیہ ص ۴۹۸، خزائن ج ۳ ص ۴۰۲) میں (جس کے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ بالہام الہی لکھی گئی ہے) فرماتے ہیں: ”جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام حجج آفاق واقعات میں پھیل جائے گا۔“
نوٹ..... ادھر اپنے مسیح ہونے پر اصرار اور ان کی حیات سے انکار	نوٹ..... ادھر انہی مسیح علیہ السلام کا دوبارہ آنا معتبر اور ان کی حیات کی خبر

فاعتبروا یا اولی الابصار

### اختلاف واقعات آئندہ

مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ انہیں الہام ہوا کہ	مرزا قادیانی کوئی جملہ تسلیم ہے کہ پیشین گوئی
--	---

<p>پوری نہیں ہوئی، ملاحظہ ہو۔  پیشین گوئیاں کچھ ایک دو نہیں بلکہ اس قسم کی سو  سے زائد پیشین گوئیاں ہیں..... پھر ان سب کا  ذکر نہ کرنا اور بار بار احمد بیگ کے داماد اور آختم کا  ذکر کرنا کس قدر مخلوق کو دھوکا دینا ہے۔  (تحدہ کلڈ ویہ م ۳۹، خزائن ج ۱۷ ص ۱۵۳)</p>	<p>محمدی بیگم انجام کار تمہارے نکاح میں آئے  کی..... آخر کار ایسا ہی ہوگا۔ خواہ پہلے ہی باکرہ  ہونے کی حالت میں یا..... بیوہ کر کے..... یہ  بات میرے رب کی طرف سے سچ ہے۔ تو  کیوں شک کرتا ہے۔ (ازالہ ادہام ص ۳۹۷،  خزائن ج ۳ ص ۳۰۵) تزوج سے مراد خاص تزوج  ہے جو بطور نشان ہوگا..... اگر میں جموٹا ہوں تو  یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوگی۔ (کتاب مختلفہ مرزا)</p>
<p>لوٹ..... ادھر فی الجملہ تسلیم ہے کہ ہاں خیر محمدی  بیگم سے نکاح اور آختم کی موت کی پیشین  گوئیاں پوری نہیں ہوئیں پھر ان پر مجھے کھسیانہ  کیوں بتاتے ہو جو پوری ہو گئیں انہیں کیوں  نہیں ذکر کرتے؟ (اس کا جواب یہ ہے کہ آپ  ہی نے لکھا تھا کہ یہ میرے سچے یا جموٹے  ہونے کی کوئی چیز ہے)</p>	<p>لوٹ..... ادھر اصرار پر اصرار ہے بلکہ قسم کے  ساتھ اقرار بلکہ اس پورا ہونا ان کے صدق کا  معیار۔</p>

### واقعات خال با اعتبار مرزا قادیانی

<p>مرزا قادیانی آسمانی فیصلہ میں فرماتے ہیں:  ”میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ  اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔“  (ملفوظات ج ۱۰ ص ۱۲۷)</p>	<p>مرزا قادیانی آسمانی فیصلہ میں فرماتے ہیں:  ”میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ  اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔“  (فیصلہ آسمانی ص ۲، خزائن ج ۳ ص ۳۱۳)</p>
<p>یہاں نبوت کا اقرار  ”میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں..... اس نے  مجھے بھی اپنا مکالمہ وخطابہ کا شرف بخشا اور میں  اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی  کتاب پر۔“  (حقیقت الیقینی ص ۲۲، خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰)</p>	<p>یہاں نبوت سے انکار  ”اے لوگو! دشمن قرآن مت بنو اور خاتم النبیین  کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو۔“  (آسمانی فیصلہ ص ۲۵، خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۵)</p>
<p>یہاں اپنے الہام کو قرآن کے جیسا الہام جانا۔</p>	<p>یہاں بعد خاتم النبیین دروازہ وحی نبوت کو بند مانا۔</p>



ہمیں امید ہے کہ ان مثالوں کو دیکھ کر شاید حافظ جی کی سمجھ میں یہ تو آجائے کہ اختلاف اسے کہتے ہیں۔

خدا کے کلام، خدا کے الہام میں اس اختلاف کی مثال مل ہی نہیں سکتی، ہاں شیخ کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو اس مجال میں ہم اشاراً انہیں انہی کی تحریر یا دلداریں کے تحویل قبلہ کا حکم ماننا ہے اپنے ما قبل کے لئے۔ باقی جس میں عقل ہو وہ سمجھ لے۔

بیٹے کی پیش گوئی

حافظ جی ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم نے مرزا قادیانی کے مرمومہ الہام میں تحریف سے کام لیا اور عبارت کے پہلے فقرے کو چھوڑ دیا۔ یعنی انا لنبشرك بغلام مظهر الحق والاعلا كان الله نزل من السماء کہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کے ذریعے خدا کی ذات اور اس کی عظمت کا ایسے رنگ میں اظہار ہوگا کہ گویا خدا آسمان سے اتر آیا۔

(انجام آختم ص ۶۲، خزائن ج ۱۱ ص ۶۲)

ہم اس عبارت پر تنقید نہیں کرتے اس لئے کہ اگر کوئی اہل علم مخاطب ہوتا تو علمی غلطیاں بتاتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حافظ جی کو اتنی بھی خبر نہیں کہ مظہر اسم ہے یا فصل۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ عربی عبارت کے ترجمے میں حافظ جی نے کس قدر تحریف کی۔ ”جس کے ذریعے“ اور ”ایسے رنگ میں“ ان دونوں کلموں کے لئے عربی عبارت میں کوئی لفظ نہیں۔ ہم اصطلاحات نحو کی رو سے عربی عبارت کی ترکیب کرتے ہیں یہ بھی نہیں ظاہر کرتے کہ مشہ کون مشہ بہ کون اور وجہ شبہ کیا؟ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صفت کیا ہے اور موصوف کون؟ ہم اس مضمون کو بھی اس وقت سامنے نہیں لاتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر خدا کے پاس جانے کا عقیدہ رکھنے کے سبب تو مرزائی لوگ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگاتے اور یہ کہتے ہیں کہ خدا کو آسمان پر مان لیا مگر یہاں اللہ کے آسمان سے اترنے کا خود اظہار کیا (معاذ اللہ)۔ ہمیں تو اس وقت صرف اس قدر بتانا ہے کہ ہم نے جو اعتراض کیا وہ صحیح تھا یعنی مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی کہ ان کا ایک بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کی صفت بیان فرمائی کہ گویا خدا آسمان سے اتر آیا۔ ادنیٰ عقل والا بھی سمجھ جائے گا کہ ”مظہر الحق والاعلا“ اور کان اللہ نزل من السماء (مجموعہ اشتہارات جلد دوم ص ۱۰۱) دونوں فقرے اس غلام (لڑکے) کی صفت کا اظہار کر رہے ہیں، پس اس غلام کو اللہ سے تشبیہ دی جانی ظاہر اور اعتراض ثابت۔

دوسرے یہ امر کہ اس پیش گوئی کے مصداق مرزا بشیر محمود صاحب ہیں یا کون؟ اس کا

فیصلہ خود مرزائی قادیانی کی تحریروں سے باسانی ہو سکتا ہے۔ اس پیش گوئی کی خبر ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء کو دی گئی، مگر قدرت خدا! اس جھوٹ کا اظہار اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس وقت کے حمل سے لڑکی پیدا ہوئی نہ کہ لڑکا۔ جب اہل حق نے مرزاجی کو شرمایا اور پیش گوئی کا غلط ہونا بتایا تو جھوٹ سے اشتہار دے ڈالا کہ اس حمل کی شرط نہ تھی۔ وہ موعود بیٹا اس کے قریب دوسرے حمل سے ہوگا۔ آخر ۱۷ اگست ۱۸۸۷ء (مجموعہ اشتہارات ج ۱۱ ص ۱۳۱) کو ایک اشتہار دیا کہ جس میں اعلان کر دیا کہ ۱۶ ذی قعدہ ۱۳۰۴ھ مطابق ۷ اگست ۱۸۸۷ء میں ۱۲ بجے رات کے بعد وہ موعود لڑکا پیدا ہوگا۔ تب قدرت خدا نے یہ تماشا دکھایا کہ چند ہی روز بعد وہ لڑکا مر گیا۔

اب ناظرین فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی نے تو وہ ساری خوبیاں ۷ اگست ۱۸۸۷ء کو پیدائے ہونے والے لڑکے میں بتائی تھیں۔ حافظ جی کہتے ہیں کہ نہیں ان کے مصداق جناب بشیر محمود صاحب ہیں۔ مرزا قادیانی کے الہام کا اختلاف تو ظاہر ہی تھا یہاں گرو اور چیلے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ وہ مرنے والے کو سب کچھ ٹھہرائیں۔ یہ جینے والے کو جنین و چناں بتائیں۔ پھر اور آگے بڑھئے۔ حافظ جی کے ممدوح جناب بشیر محمود صاحب کے اوصاف خود مرزا قادیانی کے ان زبردست ممتاز حواری کی تحریر میں دیکھئے جن کو مرزا قادیانی نے (معاذ اللہ) ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کی جگہ دی، جن کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام اترنے والے ہیں۔ یعنی جناب مولوی محمد احسن صاحب امر وہوی، وہ تحریر فرماتے ہیں۔ ”صاحبزادہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب بوجہ اپنے عقائد فاسدہ پر مصر ہونے کے میرے نزدیک اس بات کے اہل نہیں کہ وہ مرزا قادیانی کی جماعت کے خلیفہ یا امیر ہوں۔ اس لئے میں اس خلافت سے جو شرعی ہے سیاسی نہیں، ان کا عزل کر کے عند اللہ وعند الناس اس ذمہ داری سے بری ہوتا ہوں..... میں یہ بھی اطلاع دیتا ہوں کہ ان عقائد کے باطل ہونے پر حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے مقرر کردہ معتمدین کی بھی کثرت رائے ہے۔ اب جو امیر حضرت کے مقرر کردہ زندہ ہیں۔ ان میں سے ۷ ممبر علی الاعلان ان عقائد سے بے زاری کا اظہار کر چکے اور باقی ۵ میں بھی اغلب ہے کہ ایک صاحب بھی ان عقائد میں صاحبزادہ صاحب کے شامل نہیں۔“

مرزا قادیانی خود حافظ جی کے محبوب جناب صاحبزادہ بشیر محمود صاحب کو موعود نہ بتائیں، ان کے معتمد دست راست ان کے بعد ان کو عاصمی و بد عقیدہ ٹھہرائیں اور امامت سے معزول بتائیں۔ مگر حافظ جی ہیں کہ اپنے پیٹ کی خاطر ان کی تعریف کے ترانے گائیں اور مارشس کے سادہ لوحوں کو بہکائیں۔ ان هذا لشیء عجاب!

## خدائی سرخی کی مہینگیں

حافظ جی میں جب اتنا بھی علم نہیں کہ معمولی لفظوں کے معنی ہی سمجھ لیں تو الہیات کے اس مسئلہ کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ جسم سے پاک رب العالمین کے لئے دستخط کے واسطے ایسی سرخی کی احتیاج تجویز کرنے سے جس کی مہینگیں کپڑوں پر نمودار ہوں، کیسا شرک لازم آتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم سردست یہی کہیں گے کہ:

سخن شناس نئے دلبر اخطا میں جاست

۱۔ افسوس! حافظ صاحب کو مرزا قادیانی کے اس قابل مضحکہ خیز نعت پر شرم نہ آئی اور باطل کی محبت میں انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ خدا نے دستخط کے لئے قلم ہاتھ میں لیا اور سرخی کا ڈوبالیا سرخی زیادہ آگئی تو اس کو چھڑکا اس سے مہینگیں مرزا قادیانی کے کپڑوں پر آگئیں۔ (حقیقت الوقی ص ۲۵۵، خزائن ج ۲۲ ص ۲۶۷) حافظ صاحب کی عقل کیا ہوئی اور مرزا کی محبت نے اس درجہ ان کے دماغ کو خراب کیا کہ انہیں شان الہی میں ایسی باطل بات بھی گوارا ہوگئی جس کو زبان پر لانے کی کوئی کافر بھی جرأت نہ کرے گا۔ یہ خدا کی شان تو کیا ہو سکتی ہے۔ تمیز دار انسان بھی ایسا نہیں کرتا کہ قلم کو اس بے تمیزی سے چھڑکے کہ دوسرے کے کپڑوں پر چھینٹ آئیں۔ یہ خدا کے ساتھ تسخر ہے۔ جس خدا کی یہ شان ہے انذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیكون۔ جو سارے جہان کو کن کے امر سے موجود فرماوے وہ ایک دستخط کے لئے قلم سیاہی کاغذ کا محتاج ہو۔ احتیاج تو الوہیت اور شان واجب کے منافی ہے واللہ غنی عن العلمین اس کے لئے ایسا امر ثابت کرتا جس سے احتیاج لازم آئے اس کی خدائی کا انکار اور کفر ہے۔ پھر قلم کے ہاتھ میں لینے کے لئے ایک ہاتھ اور جسمائیت بھی ماننا پڑے گی کہ مادیات کے ساتھ اقتران و تلمس تجرد بحث کے منافی ہے پید و کافر ہوا۔ تیسرا کفر عظم قدرت کا انکار ہے کہ اس کو خبر نہیں ایک دستخط کے لئے کتنی سیاہی درکار ہے اور یہ اختیار نہیں کہ جتنی درکار ہے۔ قلم میں اتنی ہی آئے بے اختیار و بے طلسمی سے قلم دوات میں ڈالا اور اندامہ واحد سیاحی بھری۔ بعد کو معلوم ہوا کہ یہ تو زیادہ ہے تو یہ قدرت نہ تھی، یہ قلم میں رکی رہتی اور حسب ضرورت کاغذ پر لگتی، اپنی اس مجبوری و بے اختیاری کی وجہ سے زیادہ سیاہی قلم سے نکالنا پڑی، مگر نکالنے کے لئے اتنی تمیز نہ تھی کہ دوات میں واپس کر دی جاتی، نہ یہ سلیقہ تھا کہ دوات میں جھٹکا دیا جاتا کسی اور طرف۔ جھٹکا بھی دیا تو ایسا کہ مہینگیں مرزا قادیانی کے کپڑوں پر گر گئیں۔ یہ شان الہی کے ساتھ تسخر ہے اور کفریات سے لبریز۔ افسوس! مرزا نے اس کی لوح قلب اس قدر مکدر ہوگئی کہ وہ ایسے بے ہودہ کفریات کو تسلیم کرتے ہیں اور حافظ صاحب کا یہ قول کہ مادی سیاہی پر کیا اعتراض ہے خدا نے اتنا بڑا جہان مادی پیدا کر دیا اور زیادہ افسوس ناک جہالت ہے۔ کیا خدا نے جو کچھ پیدا کیا اس سب کا استعمال بھی اس کے لئے ثابت کرنا جائز، جو یہ اعتقاد ہے تو خدا کھانا، پینا، بیہا، کرنا، شادی بی بی بچے والا ہونا سب اس کے لئے ثابت کر دو گے۔ ”تعالی اللہ عما ینتصرون الظالمون علواً کبیراً“ مادیات کا پیدا کرنا کہاں اور کہاں ان کا استعمال کرنے لگنا۔ اس عقل پر ہزار ترف!

## مقابلہ و مناظرہ و مباہلہ اور آخری فیصلہ

مرزا قادیانی مناظرے میں کسی عالم ربانی کے مقابلے کی کبھی تاب ہی نہ لائے۔ مباہلے کے لئے ہماری تقریر میں مرزا قادیانی کے دعاوی کے ذیل میں جب ان کے مذکر سے مَوْنُث بننے کا دعویٰ سامنے آیا تو حافظ جی کو بہت ناگوار ہوا۔ ان کی جھنجھلاہٹ اشتہار کی اس عبارت سے ظاہر۔ کاش اس وقت جب ہم نے بلایا تھا۔ سامنے آتے تو ہم مرزا قادیانی کا سارا کچا چٹا انہی کی کتابوں میں دکھاتے۔

شرم کے مارے اس وقت تو پردہ ہی میں رہے۔ اب کی طرح ہمیں بددعا میں دیتے ہیں تو دیا کریں، ہم الحمد للہ اعلیٰ کلمہ حق کر چکے اور کرتے رہیں گے۔

وَمَاعَلَيْنَا الْاَلْبَلَاغ

نوٹ..... اس مجال میں اس قدر کافی۔ (مرزائی حقیقت کا اظہار) نمبر ۳، دوورقی کا جواب ان شاء اللہ جہاز میں بیٹھ کر لکھیں گے۔ اب وقت بالکل نہیں۔ امید ہے کہ اس جلت کے سبب اگر کچھ سہو ہونا ظہرین اسے معاف فرمائیں۔

محمد عبدالعظیم الصدیقی القادری

بِسْمِ اللّٰهِ وَحَمْدًا وَمُحَمَّدًا جَل وَعَلَا

وَمُصَلِّيًا وَمُسْلِمًا مُحَمَّدًا سَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى

۳..... مرزائی حقیقت کا اظہار

جناب مرزا قادیانی کا ایمان باللہ اور اس کی حقیقت

کسی مدعی مہدویت و مسیحیت میں علامات مہدی و مسیح دیکھنے کی ضرورت اس وقت ہو جبکہ پہلے اس کا راستہ باز اور مسلمان ہونا ثابت ہو جائے۔ زبان سے امنت باللہ..... الخ! پڑھنا، لوگوں کے دکھانے کے لئے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا یا لوفرضانج بدل کے ذریعے حج کرنا یا زکوٰۃ دینا اسلامی عدالت میں کیونکر قبول ہو سکتا ہے۔ جبکہ ان کے کلمات سے صراحت کفر والحاد کا اظہار ہوتا ہے: "لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر (بقرة: ۱۷۷)" "مرزا قادیانی کالاکھ بار امنت باللہ کہتا بھی انہیں مومن نہیں بنا سکتا۔ جبکہ اس خدائے حق و قیوم ملک و قدوس کی شان میں ان کے حسب ذیل کلمات موجود ہیں۔

ایمان باللہ: یہ مجموعہ عالم خدائے تعالیٰ کے لئے بطور ایک اندام واقع ہے۔ "قیوم العالمین (یعنی

خدا) ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ اور بے شمار اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریخیں بھی ہیں۔“ (معاذ اللہ من ذلك)

(توضیح المرام ص ۳۳، خزائن ج ۳ ص ۹۰)

یہ ہے ایمان باللہ یہ خدا کی صفات ہیں اس پر مرزا کو مومن باللہ بتایا جاتا ہے جس سے انہیں (سب سے زیادہ منحوس) کفر بھی شرم بجائے۔ شرم۔

ایمان بالرسول: اللہ کے رسولوں پر ایمان کیسے ظاہر ہو جبکہ انبیاء کی شان میں کھل کھل کر گستاخیاں کرتے اور خود اپنے آپ کو اولوالعزم صاحب شریعت پیغمبروں سے بھی افضل بتاتے ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے۔

عیسیٰ کجاست تا بہ نهد ہا بمنبرم  
اینک منم کہ حسب بشارت آمدم

(ازالہ اوہام ص ۱۵۸، خزائن ج ۳ ص ۱۸۰)

اور بعض مومن پہلے بیان ہوئے بعض آئندہ آتے ہیں پھر غیر انبیاء کو نبی ماننے اور پیغمبر بتاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی سند نہیں۔

ایمان بالملائکہ: ملائکہ پر ایمان کا حال ان اقوال سے ظاہر۔ ”ملائکہ ستاروں کی ارواح ہیں وہ ستاروں کے لئے جان کا حکم رکھتے ہیں۔ لہذا وہ کبھی ستاروں سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جبرائیل جس کا سورج سے تعلق ہے۔..... الخ؟“

(توضیح المرام ص ۷۰، ۸۴، خزائن ج ۳ ص ۷۰، ۹۵)

ایمان بالکتاب: کتاب الہی قرآن کریم کے متعلق ان کا یہ خیال۔

”قرآن دنیا سے اٹھ گیا تھا میں اس کو دوبارہ آسمان سے لایا ہوں۔“

(ازالہ اوہام ص ۳۰، ۳۱ تا ۷۰، خزائن ج ۳ ص ۳۹۳، ۳۹۴، حاشیہ قصص)

پھر جو قرآن لائے اور جس طرح اس کو پیش کیا اس کی کیفیت کچھ ذکر ہوئی کچھ آئندہ آئے گی کہ الفاظ کا بدلنا تو محال تھا معنی پر ہاتھ صاف کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ جو معنی ان کے نفس نے بتائے وہ کئے۔ نہ ان معنی سے غرض رکھی جو صاحب وحی و کتاب ﷺ نے بتائے نہ اس تفسیر سے مطلب جو صحابہؓ نے فرمائی۔

ایمان بالیوم الآخر: یوم الآخر کا ڈر اور خوف، قیامت پر ایمان کی دلیل بننا مگر ان کی پرائیویٹ زندگی ان کی دلیری پر دلالت کرنے والی جس کی طرف سروسٹ اشارہ ہی کافی جب آمنت باللہ..... الخ کے ایک ایک شعبہ میں ان کا یہ حال ہے تو اب نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کو دیکھنا فضول خیال۔

اگر بالفرض واقف ہوں کہ جناب مرزا قادیانی خود ہی حج فرماتے تو بھی ان کلمات کفریہ کے ہوتے ہوئے وہ مسلمان ہی کیسے کہلاتے، مسیح یا مہدی ہونا تو دوسری چیز مسیح بن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں۔ ان کے حج کی شان کا حدیث شریف میں اس طرح بیان، نہ اس میں خواب کا تذکرہ، نہ تعبیر کی ضرورت۔ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لیہلن عیسیٰ بن مریم بفتح الروحاء بالحج والعمرة او بینہما جمیعا (مسند امام احمد)“

مرزا قادیانی نے تو اپنے حرم و موہم الہام سے پیشین گوئی بھی فرمائی کہ ”ہم مکہ میں مریم کے یا مدینہ میں۔“ (سیکڑین ۱۴ جنوری ۱۹۰۶ء، تذکرہ ص ۵۹۱) مگر مرنا تو کجا جانا بھی نصیب نہ ہوا۔

احمد نبی اللہ ﷺ

حضرت سرکار محمد رسول اللہ ﷺ ہی کا نام نامی داسم گرامی احمد ہے اسلئے کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ: ”واذ قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورۃ ومبشرا برسول یتاتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاتہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین (صف: ۶)“ جب مہسلی بن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں، تو رات جو میرے آگے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک (بڑے عظیم الشان) رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد ہی تشریف لائیں گے جن کا نام نامی احمد (ﷺ) ہے پس جب وہ احمد نامی (رسول) دلیلوں کے ساتھ ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

۱..... قرآن کریم نے فلما جاتہم (پس جب وہ ان کے پاس تشریف لائے) کہہ کر یہ جتنا دیا کہ قرآن کریم اترنے کے وقت وہ احمد (ﷺ) آچکے تھے۔

۲..... مبشرا برسول (ایک بڑے عظیم الشان رسول کی بشارت دینے والا ہوں۔) کی تفسیر خود نبی اکرم (ﷺ) نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی (الشرح الہ) عن عرباض بن ساریۃ عن رسول اللہ ﷺ انه قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وساخبرکم باول امری دعوة ابراہیم وبشارة عیسیٰ (الحدیث منقولہ) عرباض بن ساریۃ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم (ﷺ) نے فرمایا کہ میں اس وقت سے اللہ کے نزدیک نبیوں کا ختم کرناے والا لکھا ہوا ہوں، جبکہ یقیناً آدم علیہ السلام اپنی گندمی ہوئی مٹی ہی کی حالت میں تھے تو میں جنہیں اپنا پہلا امیر بناؤں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور مہسلی علیہ السلام کی بشارت۔

بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی جن کے آنے کی

وہی ختم الرسل بعد ان کے احمد مجتبیٰ آئے

۳..... من بعدی (میرے بعد ہی) کی تفسیر بھی حضور انور ﷺ کی زبانی معلوم کیجئے وہی حدیث شریف جو آپ سے پہلے بھی پڑھ چکے اب پھر ملاحظہ فرمائیے۔ ”انسی اولی الناس بعیسیٰ بن مریم..... الخ!“ میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے لئے سب سے اولیٰ ہوں۔ اس لئے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں اور یقیناً وہی قیامت سے پہلے تمہاری طرف اترنے والے ہیں۔ پس دعائے ابراہیم علیہ السلام بشارت عیسیٰ علیہ السلام احمد مجتبیٰ وہی محمد مصطفیٰ ﷺ جو انا احمد کہہ کر اپنا نام ہی بتا رہے ہیں ان کے سوا نہ قرآن کریم نے کسی اور احمد کے آنے کی خبر دی، نہ یہ بتایا کہ انہیں لوگ اسلام کی طرف بلائیں گے۔ یہ قرآن کریم پر افتراء اور کھلا جھوٹ ہے۔ ”فنجعل لعنة الله على الكاذبين“

حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام دونوں حضرات کی تشریف آوری کی کھلی کھلی علامتیں احادیث طیبہ میں بیان فرمادی گئیں نہ وہ سچے اسلام سے دور ہوں گے۔ نہ کوئی سچا عالم ان سے اسلام کا ثبوت مانگے گا۔ نہ ان پر کوئی سچا عالم کفر کا فتویٰ دے گا۔ ان هذا الا بہتان عظیم۔

ہمارے ناظرین جن کو مرزائی حقیقت کی بھی پوری طرح خبر نہیں شاید حیران ہوں گے کہ یہ کیا قصہ ہے پہلے پرچے میں تو حافظ صاحب جناب مرزا قادیانی کی مجددیت و امامت کی تبلیغ فرما رہے تھے پھر مسیحیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب نمبر ۳ میں اول انہیں احمد نبی کہا جا رہا ہے اور پھر مہدی بھی بتایا جا رہا ہے آگے چل کر انہیں کرشن بھی تسلیم کیا گیا آخر یہ معرکہ کیا ہے۔ مرزا قادیانی ہیں یا ایک معجون مرکب؟ حافظ جی کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یا ان کے قوائے دماغی کسی علت کے سبب خیالات پریشان پیش کر رہے ہیں؟

ہم انہیں بتائے دیتے ہیں کہ اس میں بے چارہ حافظ جی کا قصور نہیں۔

درہس آئینہ طوطی صفتش داشته اند

انچہ استاد بگفت است ہماں می گوید

(طوطی کو جیسا سبق پڑھا دیا جاتا ہے وہ اسی کو دہرایا کرتا ہے)

حافظ جی تو ہمارے سامنے آتے، جب ہی انہیں دکھاتے مگر اب ناظرین دیکھیں ہم انہیں بتائے دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا حال ہی یہ ہے وہ اپنے مرمومہ الہاموں میں بھی خدا بننے

ہیں۔ (کتاب البریہ ص ۷۸، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳، آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۴) کبھی خدا کے بیٹے۔ (دافع البلاء ص ۷۰۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) کبھی تھلیٹ کے ایک رکن۔ (توضیح المرام ص ۶۲، خزائن ج ۳ ص ۶۲) کبھی رسول صاحب شریعت۔ (اربعین نمبر ص ۶، خزائن ج ۱۷ ص ۳۵۲) صاحب کبھی نئی غیر شریعت (حقیقت التہذیب و تصحیح) کبھی سب (حقیقت الوہی ص ۱۳۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲) کبھی مہدی، کبھی مجدد کبھی کرشن بلکہ اسی پر بس نہیں۔ کبھی مرد کبھی عورت۔ اگرچہ ہماری تہذیب ہمیں یہ طرفہ تماشہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتی مگر حافظ جی ہمیں جموٹ کا الزام دے رہے ہیں لہذا ہم حوالہ نقل کرنے کے لئے مجبور۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ انہیں الہام ہوا۔

.....۱ ”باپوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے مگر وہ حیض بچہ بن گیا اور ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔“ (تحریر حقیقت الوہی ص ۱۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

(ناظرین سوچ لیں کہ حیض کس کو آیا کرتا ہے)

.....۲ ”خدا نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردے میں پرورش پاتا رہا، پھر جب اس پر دو برس گزر گئے تو جیسا کچھ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے۔ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ (پھر اس صفحے کے آخر میں فرماتے ہیں) پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے دروزہ تاجگور کی طرف لے آئی..... الخ“ (کشتی نوح ص ۳۶، ۳۷، خزائن ج ۱۹ ص ۵۰)

عبارات بالا میں ناظرین کو ایک الجھن رہ گئی ہوگی کہ (مرزا قادیانی کو) حاملہ ٹھہرایا گیا۔ حمل ٹھہرانے کی تفصیلی صورت ذکر نہیں فرمائی گئی اس لئے بقول کے۔

اگر قدر نتواند پسر تمام کند

اس کی تفصیل مرزا قادیانی کے ایک فرزند روحانی نے فرمادی، ملاحظہ کیجئے۔

ٹریکٹ اسلامی قربانی ۳۳ مؤلفہ یار محمد مرزائی مطبوعہ ریاض ہند پریس  
”کشف کی حالت آپ (مرزا قادیانی) پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت (مردانگی) کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا مجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے۔“ (اسلامی قربانی نمبر ۳۳ ص ۱۲) (معاذ اللہ اب بھی اشارہ ہی رہا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ) یہ ہمارے اگر کسی ایسے شخص کے مقابلے میں پیش کی جائیں جس میں غیرت اور شرم کا



خفیف سا نقطہ بھی باقی ہوتا تو غالباً وہ اس کے بعد پبلک کو عمر بھر منہ نہ دکھاتا۔

جناب حافظ جی صاحب شاید ہی غور فرمائیں کہ نمبر ۲۲ دورقی کے ص ۳۲ کالم ۲ سطر ۱۹ کی لغت کس پر پڑی، اور ابدالاباد تک کس پر پڑتی رہے گی؟

ناظرین نے مرزا قادیانی کے مریم و صیسی بننے کا حال تو معائنہ فرمایا اسی پر ان کے آدم و نوح وغیرہ بننے کو قیاس کیا جاسکتا ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ حافظ جی یہ کہتے ہوئے اس امر کا ذرا بھی خیال نہ آیا کہ ان کی تحریر کسی اہل علم کے سامنے بھی جائے گی۔

آئینہ کی مثال دے کر بروز دھمور کے مسئلہ کی تشریح کرتے ہوئے بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے سادہ لوح افراد کی دھوکہ دہی کے لئے کافی سامان بہم پہنچا دیا لیکن آنکھوں والے دیکھتے ہیں کہ وہ جو حسب فرمان بجز صادق علیہ السلام کے آئینہ صفت مظہر بنے جن کے لئے حدیث میں فرمایا گیا کہ: ”من اراد ان ينظر الى آدم عليه السلام وصفوته والي يوسف عليه السلام وحسنه والي موسى عليه السلام وصلابته والي عيسى عليه السلام وزهده والي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلقه فلينظر الي علي بن ابي طالب (بیر الاقطاب ص ۵)“ جو کوئی یہ چاہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی صفوت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی صلابت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کا زہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خلق معائنہ کرے پس اسے چاہئے کہ علی بن ابی طالب کی طرف دیکھے باوجود اس شان مظہر کے سنئے کہ کس صفائی کے ساتھ وہی شیر خدا اعلیٰ مرتضیٰ قرار ہے ہیں: ”الا و انی لست نبیاً ولا یوحی الی“ خبر دار رہنا میں نبی نہیں ہوں نہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

تعب اس پر ہے جس کا مظہر ہونا تو کجا مسلمان ہونے پر بھی کوئی دلیل شرعی نہ قائم ہوتی ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ ”میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں سب نبیوں سے افضل ہوں۔“ (العیاذ باللہ) پھر اجتماع ضدین سونے پر سہاگہ کہ کہ ایک طرف نبی و رسول ہونے کا دعویٰ دوسری طرف کرشن جی کا دتار لینے کا ادا۔

بہ بین تفاوت راہ از کجاست تا بججا

سری کرشن جی اور ان کے روپ

اہل نظر پر غلطی نہیں کہ سری کرشن جی صاحب ہندو جاتی کے ایک بہت بڑے رہبر مانے جاتے ہیں کسی قدیم تاریخی آدم کے حالات معلوم کرنے کے لئے سمجھدار متقیین علوم ہمیشہ پرانے اصلی نسخوں کی تلاش کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سری کرشن جی کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھی

بجائے زمان حال کے مصنفین کی کتابوں کے ہم اسی کتاب کے مقالات کی طرف توجہ کرتے ہیں جو خود کرشن جی کی ذاتی کتاب کہی جاتی ہے یعنی بھگوت گیتا۔ اس میں کرشن جی نے اپنے آپ کو جس روپ میں پیش کیا ہے۔ اس کا خلاصہ ان چند حوالوں کا ملاحظہ سامنے آجائے گا۔

سری کرشن جی کا ایک روپ یا تصویر کا ایک رخ  
بھگوت گیتا میں کرشن جی فرماتے ہیں:

۱..... اس دنیا کا ماں باپ سہارا اور بابا میں ہوں..... سب کا پالنے والا، مالک، گواہ، جائے قرار، جانے پناہ، دوست، باعث پیدائش، باعث خاتمہ، باعث قیام، خزانہ اور پیدائش کا لازوال بیج میں ہی ہوں۔ اے ارجن! میں گرمی دیتا ہوں، میں پانی کو روکتا ہوں، میں برساتا ہوں، میں امرت ہوں۔ (گیتا ۱۰، ۹۲ تا ۱۹۲)

۲..... سب دیوتاؤں اور مہارشیوں کی ابتداء بہر حال مجھ ہی سے ہے جو شخص یہ جانتا ہے کہ میں پرشوی وغیرہ سب لوگوں کا بڑا ایثار ہوں اور میرا جنم یعنی آغاز نہیں ہے وہی انسان میں مودہ سے آزاد ہو کر سب پاپوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ (گیتا ۱۰، ۲۱-۳)

۳..... میں سب جانداروں کا مالک ہوں اور پیدائش سے بالاتر ہوں اگرچہ میرے آتھم سروپ میں کبھی تغیر نہیں ہوتا مگر میں اپنی پرکرتی (خاصیت) میں قائم رہ کر اپنے مایا سے جنم لیا کرتا ہوں۔ (گیتا ۱۰، ۸۲ تا ۸۶)

ناظرین نے اس پہلے روپ یا تصویر کے ایک رخ میں دیکھ لیا کہ سری کرشن جی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ روپ لینے کی حقیقت پر بھی آپ نے غور کر لیا کہ خدا کے اس جسم محدود میں آجانے کا نام روپ لینا یا اوتار بننا بتا رہے ہیں۔

ہم تہہ دل سے جناب مرزا قادیانی کی اس بات کی تصدیق کے لئے تیار ہیں کہ یقیناً ان کے اور کرشن جی کے دعوے یکساں ہیں اور ان دعوؤں کے اعتبار سے وہ یقیناً کرشن جی کہے جاسکتے ہیں۔ بطور تمثیل مرزا قادیانی کا دعویٰ ملاحظہ ہو اور پھر دونوں کے دعوؤں کا مقابلہ کر لیا جائے۔ مرزا قادیانی (کتاب البریہ ص ۷۹، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳) پر فرماتے ہیں۔ ”کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اسی حالت میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں سو میں نے آسمان وزمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا..... پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنيا بمصابیح پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں۔“ وغیرہ ذالک من الخرافات ملخص!

## سری کرشن جی کا دوسرا روپ یا تصویر کا دوسرا رخ

بھاگوت پران میں بھی کرشن جی کی دوسری تصویر اس طرح نظر آتی ہے کہ:

دریا میں کرشن جی ماشان فرما رہے ہیں اور گوبھیاں (خوبصورت عورتیں) بھی نہاری ہیں۔ کرشن جی گوبھیوں کے کپڑے چھپا دیتے ہیں سب کی سب دریا سے برہنہ نکلتی ہیں اپنے کپڑوں کی تلاش کرتی ہیں۔ سری کرشن جی گوبھیوں سے لذت اندوز ہونے کے لئے اپنے بہت سے جسم پیدا کر لیتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ (مخلصا)

سوک رشی سے راجہ پرکشت پوچھتا ہے کہ خدا تو ادتار کے روپ میں اس لئے ظاہر ہوا کرتا ہے کہ سچا دھرم پھیلائے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ دھرم کے تمام اصولوں کے خلاف دوسروں کی عورتوں سے.....؟

رشی جی کرشن جی کے عمل کی تاویل اس طرح فرماتے ہیں کہ ”خود دیوتا بھی بعض اوقات نیکی کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں مگر ان کے گناہ ان کی ذات پر اسی طرح اثر نہیں کرتے جس طرح آگ تمام چیزوں کو جلانے کے باوجود مورد الزام نہیں ہو سکتی۔“

ان دونوں تصویروں کو دیکھتے ہوئے زیادہ بریں نیست کے حسن خیال کی بناء پر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ دونوں غلط ہیں اور وہ محض ایک انسان تھے اور ایسی شرمناک باتیں ہرگز نہ کرتے ہوں گے۔ مگر یہاں تو غور طلب یہ امر ہے کہ تاریخی نقطہ نظر سے بھی دو تصویریں ہمارے سامنے ہیں پس جو حکم بھی دیا جائے گا وہ اسی معلومات کی بناء پر اور اس کے بلکہ صرف اس کے ہوتے ہوئے کون صاحب عقل ان کو نبی بنا سکتا ہے؟ اور اس خدائی خطاب کو ان پر چسپاں کر سکتا ہے؟ درآنحالیکہ خدائی کتاب میں اس کا اعلان ان کی شخصیت پر نہ کیا گیا ہو۔ تصویر کے دوسرے رخ یا کرشن کے دوسرے روپ کے پہلے حصہ کا تعلق مرزا قادیانی سے کیا ہے اس کے متعلق لب کشائی سردست مناسب نہیں معلوم ہوتی لیکن دوسرے روپ کے باب میں سوک رشی جی نے جو کچھ فرمایا اسے دیکھتے ہوئے ہم اس کی تصدیق کرنے میں ذرا تامل نہ کریں گے کہ بے شک کرشن قادیانی جی کے چیلے بھی ان کی بات کو بنانے اور تاویل فرمانے میں ایسے ہی مشتاق ہیں جیسے رشی جی تھے۔ گویا مرزا قادیانی اگر کرشن جی کے ادتار ہیں تو وہ سوک رشی جی کے۔ اس لئے کہ کوئی ضرورت تو ہوگی جس کے لئے مرزا قادیانی نے اپنا یہ معروضہ الہام بیان فرمایا کہ:

..... ﴿اعمل ماشئت قد غفرت لك﴾ ”جو چاہے تو کئے جاہم نے تجھے بخش دیا۔“

۲..... اور حافظ جی جیسے چیلے آسانی نکاح والوں کے متعلق واقعات میں ایسی ہی عجیب و غریب تاویل فرماتے اور بھر حوالہ لکھتے ہیں کہ ”لڑکی ۹.۸ برس کی تھی اس پر نفسانی افتراء..... حماقت ہے۔“

شاید انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی سمجھدار باقی ہی نہیں رہا جو یہ جانتا ہو کہ اگر بالفرض ۹.۸ برس عہ کی عمر مان لی جائے تو ہندوستان اور بالخصوص پنجاب میں اتنی عمر کی اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کی بچیاں کیسی ہوتی ہیں۔

بہر نوع ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ اوتار کہئے، بروز کہئے یا ظہور سے تعبیر کیجئے یا آئینہ کی تصویر کو مثیل بنائیے مرزا جی اپنے دعاوی کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہیں کرشن جی کے ہیں۔ اس لئے کہ:..... کرشن جی نے اوتار یا حلول کا مسئلہ سکھایا۔ مرزا قادیانی نے بھی ”انت منی وانا منک“ (تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔) (حقیقت الہی ص ۷۴، خزائن ج ۳۲ ص ۷۷) کا مفروضہ الہام سنایا۔ پھر خدا کو (معاذ اللہ) تیندوے سے تشبیہ دی اور ہاتھ پیر والا بھی بتایا۔

(توضیح المرام ص ۷۵، خزائن ج ۳۳ ص ۹۰)

۲..... کرشن جی نے تنازع آواگون کا مسئلہ سکھایا مرزا قادیانی نے بھی سب کا بروز مثیل ظہور ہونے کا دعویٰ ایسی ہی شکل میں پیش فرمایا جس کا ترجمہ آسانی کے ساتھ آواگون ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ان کا کرشن ہونا تو درست مگر کرشن ہوتے ہوئے مجدد و مہدی و عیسیٰ بن مریم بلکہ بقول حافظ جی احمد نبی بنادشوار اور ان موحدین کی نورانی قبا کا اس صورت پر جو کرشن نما (یعنی بقول حافظ جی کالی) ہو پھیننا خود اس قبا کے لئے عار۔

ہمیں افسوس ہے کہ کرشن جی کی کوئی تیسری تصویر ہمیں کہیں سے دستیاب نہیں ہوتی، نہ کہیں قرآن کریم میں ان کا ذکر، نہ کسی اور آسانی کتاب میں ان کا بیان، نہ کسی حدیث میں خبر، نہ کسی مستند تاریخ میں کوئی اثر، یہ مانا کہ ہندوستان میں بھی ہادی اور رہبر بلکہ انبیاء و رسل آئے ہوں مگر اس کی کیا دلیل کہ فلاں شخص نبی تھا؟

حافظ جی کو جب قرآن، حدیث، تفسیر، تاریخ کہیں بھی پڑھ نہ ملا تو عجب بے لگی اڑائی کہ فلاں فلاں نے لکھا۔ کہ ”ہندوستان میں ایک کالے رنگ والا نبی تھا جس کا نام کاہن تھا، چونکہ اس کا رنگ کالا بتایا گیا اور کرشن کے معنی بھی کالا، لہذا کرشن نبی تھا۔“

اس بیان پر غالباً ایک معمولی سمجھ رکھنے والا بچہ بھی ہنس پڑے گا اور حافظ جی کی نہیں نہیں

مرزا قادیانی کی قابلیت کی داد دے گا۔ ہمیں افسوس ہے کہ محض بدیں خیال کہ کہیں مارشس کے سادہ لوح اس افسوس میں نہ آجائیں۔ ایسی تحریر پر تنقید کی ضرورت لاحق ہو رہی ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی لغو تحریر پر تبصرہ کرنا بھی شان علمی کے خلاف۔ اس لئے کہ سب سے پہلے تو یہی بات قابل لحاظ کے اس خبر ہی کا کیا اعتبار پھر اگر بالفرض کسی تاریخ سے اس کا پتہ بھی مل جائے تو اس کا کیا ثبوت کہ یہ کرشن جی ہی کے حلق ہے اس لئے کہ نام تو کاہن بتایا گیا نہ کرشن، پھر اگر اس کو علم نہ مانا جائے بلکہ اسم صفت ہی مانیں تو حافظ جی کرشن جی کو کالاتائیں ساری ہندو جاتی تو آج تک ان کو ایسا طبع و خوبصورت مانتی چلی آ رہی ہے کہ گوہمیاں ان پر فدا تھیں بلکہ آج بھی تمہرا میں گنگا کے کنارے بہت سی خدا کی بندیاں اسی امید پر کہ کسی مؤمنی روپ میں ان کے درشن ہو جائیں سب کچھ تجھے کے لئے تیار رہتی ہیں۔

ممکن ہے کہ یہ کاہن وہی یوز آسف ہو جو ہندوستان کے صوبہ سولابت میں راجہ جہنر کے گھر پیدا ہوا شاہزادہ نبی کہلایا، کشمیر گیا وہیں مراد ہیں دفن کیا گیا۔ آج تک اس کی قبر شاہزادہ نبی کی قبر کہلاتی اور اسی نام سے پہچانی جاتی ہے۔ بعض روایتیں اس کے متعلق ایسی بیان بھی کی جاتی ہیں جو اس کی کہانت پر دلالت کر سکتی ہیں۔ (تفصیل حال کے لئے کتاب یوز آسف اور بلوہر مترجمہ مولوی سید عہد انجی مطبوعہ ہاشمی دہلی ص ۳۵۸ کو دیکھا جاسکتا ہے) مرزا قادیانی نے اس قبر کو حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر تصنیف کر ڈالا۔

پھر اور آگے بڑھئے مرزا قادیانی تو نہ کرشن کی نبوت مانتے ہیں، نہ اس کی نبوت کا ظہور، وہ تو صاف فرماتے ہیں کہ: ”میں راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو مذہب کے تمام اداکاروں میں بڑا اداکار تھا۔ پھر آگے چل کر گیتا کوئی الجملہ الہامی کتاب مانتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان (مرزا قادیانی) پر الہام ہوا ہے۔“

یا للجب ہم دید میں تو حید کا جلوہ دکھائیں تو ہم پر اعتراض، یہ گیتا کو الہامی مانیں تو بھی کچھ نہیں۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ نقل بھی کرتے ہیں تو چہ چاہیں کرتے

”کرشن رو دھر کو پال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے۔“

(سیالکوٹ ص ۱۳۳، نثر انج ص ۲۰ ص ۲۲۹)

مرزا قادیانی نے گیتا کا حوالہ دے کر خود واضح کر دیا کہ ان کی مراد کیا ہے؟ گیتا میں

ادتار یاروپ کے معنی آپ نے ابھی ابھی کرشن جی کے بتائے ہوئے دیکھے کہ خدا کے انسانی جسم میں حلول کرنے کو ادتار لینا یاروپ لینا کہا گیا۔ پس مجرد ان کلمات کے استعمال ہی نے انہیں دائرہ توحید سے جدا شرک کے مرض میں مبتلا کر دیا اب ان کا اسلام سے کیا علاقہ رہا۔

تو بہن انبیاء

جناب حافظ جی صاحب کو اس تحریر کے وقت شاید یہ خیال نہ رہا ہو گا کہ جس کے جواب میں وہ اپنی دورتی پیش کر رہے ہیں وہ اگرچہ مارشس سے جا رہا ہے مگر اس کا قلم الحمد للہ! ہزاروں کوس کی مسافت سے بھی ان کی پردہ دری کرنے کے لئے تیار رہے گا اسی لئے بے خوف و خطر فرماتے تھے ہیں کہ: ”مرزا قادیانی نے نیوں کو گالیاں دی ہیں یہ بھی صریح جھوٹ ہے۔“  
ناظرین! ذرا سطور ذیل کو بغور پڑھیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں کہ مرزا قادیانی نے اگر

اپنے ان کلمات میں گالیاں نہیں دیں تو کیا کیا؟

۱..... ”مسح کا بے باپ پیدا ہونا میری نگاہ میں کوئی عجوبہ بات نہیں اب برسات قریب آئی ہے باہر جا کر دیکھئے کتنے کیڑے کوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں۔“ (معاذ اللہ)

(جنگ مقدس ص ۷، خزائن ج ۶ ص ۲۸۰)

۲..... اخبار بدر مورخہ ۹ مئی ۱۹۰۷ء میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں (نہ کہ عیسائیوں کو) ”ایک دفعہ حضرت مسیح زمین پر آئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کئی کروڑ مشرک دنیا میں ہو گئے دوبارہ آکر وہ کیا بتائیں گے کہ لوگ (مسلمان) ان کے آنے کے خواہش مند ہیں۔“ (معاذ اللہ

۳..... ”حق بات یہ ہے کہ آپ (حضرت مسیح علیہ السلام) سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“ (معاذ اللہ یہاں حق بات کہہ کر قرآن میں ذکر کئے ہوئے معجزات کا بھی انکار ہے۔)

(حاشیہ ضمیر انجام آقظم ص ۶، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

۴..... ”آپ (حضرت مسیح علیہ السلام) کے ہاتھ میں مکرو فریب کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔“

(معاذ اللہ) (ضمیر انجام آقظم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

۵..... ”آپ (حضرت مسیح) کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، تین وادیاں اور نائیاں

آپ کی زنا کار اور کسی عورت میں تھیں۔“ (معاذ اللہ) (حاشیہ ضمیر انجام آقظم ص ۷، خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

علماء اسلام نے جب مرزا قادیانی کے ان کلمات پر گرفت کی تو خود مرزا قادیانی ہی کی زبان سے سنئے کہ ان علماء کو (حافظ جی نے تو ہمیں جھوٹا کہا مرزا قادیانی) مفسد و مفتری بتا کر کس انداز سے اپنی بریت کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت مسیح کے بھائی بہن بتا کر مکرر گستاخی کر رہے ہیں۔

”مفسد و مفتری وہ شخص ہے جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا.....  
 مسیح تو مسیح میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے  
 بیٹے ہیں، یسوع کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں یعنی  
 سب یوسف اور مریم کی اولاد تھے۔“ (کشتی نوح ص ۱۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

ہم نہیں جانتے کہ مرزا قادیانی کا اعتقاد وہ ہے جو حافظ جی لکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ  
 السلام بغیر باپ پیدا ہوئے یا یہ جس میں ان کی دادیاں، نانیاں اور حقیقی بھائی، بہن بتائے گئے۔ اگر  
 پہلا ہے تو اس کا مرتبہ حوالہ نمبر اسے ظاہر کہ حضرت مسیح کو برساتی کیزوں سے تشبیہ دی گئی اور اگر  
 دوسرا ہے تو اس کی شان ناظرین نے دیکھ ہی لی کہ دادیاں اور نانیاں بھی بنیں اور انہیں شہنشاہ کالیاں  
 بھی دی گئیں۔

حافظ جی کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بدلتا رہتا تھا پہلے حیات مسیح کے قائل تھے پھر وفات  
 مسیح کا عقیدہ تہنیف کیا۔ ممکن ہے کہ اس عقیدہ میں بھی ایسا ہی سچ ہو۔ بہر صورت دونوں طرح  
 کالیاں دیں گستاخیاں کیں پھر ان سے توبہ بھی نہ کی لہذا جرم ثابت۔  
 یہ داؤ بیچ عقلاء کے سامنے نہ چل سکا ہے نہ چل سکے گا کہ مسیحیوں کو ظلم بنانے کے لئے  
 جواب میں تھیں، اس لئے کہ اخبار بدر اور کشتی نوح ص ۱۶ کے حوالہ نے تو صاف ظاہر کر دیا کہ  
 مسلمانوں کے مقابلہ میں بھی یہی کہا گیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار!

## نکاح آسمانی

محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کے مفروضہ نکاح کے باب میں حافظ جی نے ہمارا اعتراض  
 اس طرح نقل کیا ہے کہ ”نکاح والی پیش گوئی پوری نہ ہوئی۔“ اس کا جواب سیدھا سا تو یہ تھا کہ  
 ”پوری ہو گئی“ مگر چونکہ یہ جواب امر واقعہ کے خلاف تھا لہذا حافظ جی صاحب نے سوک رشی جی  
 کے بروز کی حیثیت سے عجیب و غریب تاویل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے۔

۱..... نکاح کی پیش گوئی صرف اس غرض سے تھی کہ محمدی بیگم کے خاندان کے لوگ جو بے  
 دین تھے ان کو نکاح کا نشان دکھا کر دیندار بنائیں۔

۲..... احمد بیگ (پدر محمدی بیگم) نے توبہ نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔

۳..... پیش گوئی میں توبہ کی شرط تھی توبہ توبہ..... الخ! توبہ سے یہ سب باتیں ٹل گئیں تقریباً سارا  
 خاندان مرزائی بن گیا۔ لہذا توبہ سے نکاح ٹل گیا۔

تقریر اگرچہ طویل ہو جائے مگر ہم مجبور ہیں چونکہ مرزائی پورا حوالہ دیکھ لینے کے بعد بھی ہاتھ بنانے کی عادت رکھتے ہیں اور کسی وجہ سے اگر مختصر حوالہ کا ذکر کر دو تو فوراً جھوٹ کا الزام دیتے ہیں۔ لہذا اس باب میں بھی ہم تفصیل کے ساتھ حوالہ پیش کر کے فیصلہ اہل نظر پر چھوڑتے ہیں۔

جواب اور اس کا ثبوت

محمدی بیگم کے خاندان کے لوگ بے دین نہ تھے اس کا وہی یعنی باپ ایسا دہدار کہ اس کے ساتھ مرزا قادیانی محبت کا اظہار کرتے اور اس کے اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کو حافظ جی کہتے ہیں کہ ”توبہ نہ کی ہلاک ہو گیا۔“

نامہ مرزا قادیانی بہ نام مرزا احمد بیگ صاحب پدز محمدی بیگم مورخہ ۱۷ جولائی ۱۸۹۲ء

مشفق کرمی اخویم مرزا احمد بیگ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

آپ کے دل میں اس عاجز کی نسبت کچھ غبار ہو لیکن خداوند عظیم جانتا ہے کہ اس عاجز کا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے۔ قادر مطلق سے آپ کے لئے دعائے خیر و برکت چاہتا ہوں۔ کس طریق اور کن گفتگوں میں بیان کروں کہ تا میرے دل کی محبت اور غلوں اور بھڑدی جو آپ کی نسبت مجھ کو ہے آپ پر ظاہر ہو جائے۔ ہمیں خدائے قادر مطلق کی قسم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ کو خدا کی نگہیں دارو ہوں گی اور آخر اس جگہ ہوگا۔ ہزاروں پادری شرارت نہیں حماقت سے منتظر ہیں کہ یہ چشمن گونی جموئی نکلے لیکن خدائے تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ جو امر آسمان پر ظہر چکا ہے زمین پر ہرگز بدل نہیں سکتا۔ خدائے تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسمان پر سے مجھے الہام کیا ہے۔

غلام احمد

نامہ مرزا انعام مرزا اعلیٰ شیر بیگ (محمدی بیگم کے بھوپا مرزا کے لڑکے فضل احمد کے خسر) مورخہ ۱۷ مئی ۱۸۹۱ء

مشفق مرزا اعلیٰ شیر بیگ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں آپ کو غریب طبع نیک خیال آدمی اور اسلام پر قائم سمجھتا ہوں، آپ کو ایک خبر سنا تا ہوں آپ کو اس سے بہت رنج گزرے گا۔ میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری تاریخ اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ کہ اس کو خوار کیا جائے ذلیل کیا



جائے۔ روسیاء کیا جائے، اب مجھ کو بچالینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ (اللہ نے نہ بچایا لہذا آپ کیا بچے؟) اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور بچالے گا۔ (اس نے نہ بچایا ثابت ہوا کہ اس کے نہ تھے) (آگے چل کر ایک طویل مہارت لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ) آپ اپنی بیوی سے کہئے کہ وہ اپنے ہمائی کو مجبور کریں، ان کو چھوڑ دینے کی حبیہ کریں تاکہ وہ بہن کے دباؤ سے مجبور ہو کر محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی سے کر دیں اور اگر آپ کی بیوی ایسا نہ کرے گی تو میں اپنے بیٹے فضل احمد سے کہوں گا کہ اپنی بیوی (یعنی) آپ کی لڑکی کو طلاق دے اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو میں اسے قاتل کر دوں گا اور وراثت سے محروم کر دوں گا۔ (فصل مجبوراً شہادت ج ۱ ص ۲۳۸)

(ناظرین انصاف کریں کیا محدود سبب و نیکی کی بھی شان ہوتی ہے؟) ان ہر دو خطوط کے اقتباس نے اگرچہ بہت سی باتوں کو واضح کر دیا مگر ہم سر دست ان امور ہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

۱..... مرزا احمد بیک مسلمان تھے اچھے آدمی تھے، مرزا قادیانی کا دل ان کی طرف سے صاف تھا بلکہ ان سے بے حد محبت تھی۔ لہذا ان کی موت کسی جرم کے سبب سے نہیں ہوئی۔ وہ مسلمان تھے اسلام پر مرے ہاں جرم صرف اس قدر تھا کہ جو ان بیٹی بڑھے بچدین مرزا قادیانی کو کیوں نہ دی۔

۲..... نکاح کی تحریک صرف الہام کے سبب کی گئی ہے۔ نکاح ضرور ہوگا۔ اس لئے کہ پادریوں اور ہندوؤں کے لئے نشان ہے اگر دوسری جگہ ہوگا تو تمکین ہوں گی اور آخر مرزا قادیانی ہی سے ہوگا۔

۳..... اگر نکاح نہ ہوگا تو مرزا قادیانی خوار ذلیل روسیاء ہو جائیں گے۔

بقول مرزا قادیانی نکاح نشان مسیح آخر الزمان ہے اور وہ ظاہر نہ ہوا۔

اور آگے چلئے اور دیکھئے کہ مرزا قادیانی اس نکاح کو مسیح موعود کا نشان بتاتے ہیں۔ محمدی بیگم کے خاندان والوں کی اصلاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کا ذکر کرتے ہوئے کہ مسیح بن مریم دنیا میں اتریں گے شادی کریں گے..... الخ ۱۔ جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

”تزوج سے مراد خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا، جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے گویا اس جگہ رسول اللہ ﷺ ان سیاہ دل منکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔“

(ضمیمہ انجام آختم ص ۵۳، خزائن ج ۱ ص ۲۳۷)

پھر صفحہ ۵۴ پر فرماتے ہیں کہ ”براہین احمدیہ میں بھی اس پیش گوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ تیسری زوجہ جس کا انتظار ہے، یہ ایک چھپی ہوئی پیش گوئی ہے جس کا سراں وقت کھولا گیا۔“

(ضمیمہ انجام آختم ص ۵۴، جزائن ج ۱ ص ۳۳۸)

اب بھی کیا اس کے ثبوت میں کوئی کسر رہ گئی کہ اس نکاح کو مرزا قادیانی مسیح موعود کا نشان بتا رہے ہیں۔ پس بقول مرزا قادیانی اگر یہ نشان ظاہر نہ ہو نکاح نہ ہو تو وہ مسیح موعود نہیں۔ بقول مرزا قادیانی نکاح تقدیر الہی ہے جو ٹل نہیں سکتی وہ ٹل گئی لہذا تقدیر نہ تھی۔ جناب مرزا قادیانی نے متعدد مقامات پر اس مضمون کو ظاہر فرمایا کہ یہ نکاح ہونا خدا کا ایسا وعدہ ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ ان خطوط میں بھی اس کا ذکر۔ یہاں مزید ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے۔ اشتہار نصرت دین مورخہ ۲۴ مئی ۱۸۹۱ء میں فرماتے ہیں۔ ”خدا نے تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار پا چکا ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا خدائے تعالیٰ اس کو بیوہ کر کے میری طرف لائے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۱۹)

تو بی تو بی کی شرط اور اس کا پورا نہ ہونا

اب جناب حافظ جی صاحب کی ان دونوں رکیک تاویلوں پر نظر ڈالنے کے توبہ سے نکاح ٹل گیا احمد بیگ نے توبہ نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔

حافظ جی کو یا تو خبر ہی نہیں یا دیدہ دلیری ہے یا طوطی کی صدا۔ جہاں کہیں بھی اس نکاح کو قسم کے ساتھ منو کہہ کرتے ہوئے وعدہ ربانی بتایا گیا اس کا آسمان پر منعقد ہونا ظاہر کیا گیا وہاں کہیں توبہ کا ذکر تک نہیں آیا اور اگر بالفرض توبہ کو شرط بھی قرار دیا جائے تو عذاب اور بلا کے لئے نہ کہ نکاح کے لئے۔ پھر تو بی تو بی کے سینوں پر نظر ڈالنے کے یہ مؤنث کے صیغے ہیں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی ان کا ترجمہ اور مطلب بیان فرماتے ہیں۔ (حقیقت الوحی ص ۱۸، جزائن ج ۲ ص ۱۹۴)

”اے عورت! توبہ کر توبہ کر کیونکہ تیری لڑکی اور تیری لڑکی کی نانی پر ایک بلا آنے

والی ہے۔“

..... مرزا قادیانی نے خود واضح کر دیا کہ اس کی مخاطبہ محمدی بیگم کی والدہ ہیں ان کے توبہ کرنے سے ان کی والدہ اور محمدی بیگم کی بلائیں ٹلیں گی۔ محمدی بیگم کی نانی پر کیا بلا آنے والی تھی جو ٹلی؟ خبر نہیں محمدی بیگم پر جو بلا آنے والی تھی وہ بقول حافظ جی ٹل گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ محمدی بیگم کی والدہ نے توبہ کی۔

اب سوال فقط اسی قدر باقی رہ گیا کہ جب مرزائی توبہ سے مراد مرزائی بننا لے رہے ہیں تو کیا محمدی بیگم کی والدہ نے مرزائیت کو قبول کیا؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ جب نہیں تو وہ بلا بھی کیوں ٹلی؟ پھر یہ کہتا کہ ”قربا سارا خاندان مرزائی بن گیا۔“ کھلا جھوٹ۔

مرزا احمد بیگ کا اسلام پر مرنا ظاہر۔ حافظ جی کو تسلیم کہ مرزائی نہیں ہوا ان کا داماد محمدی بیگم کا شوہر مرزائی نہیں ہوا۔ محمدی بیگم محمد اللہ مسلمہ ہے بلکہ اس کی اولاد بھی ماشاء اللہ مسلمان وہ اور اس کے قریبی اعزاء و اقرباء سب کے سب بمنہ تعالیٰ اسلام پر قائم اور مرزائیت سے بیزار بلکہ ان علمائے حقانی کے اعوان و انصار جو مرزائیوں سے برسر پیکار۔ پھر بلا ٹلی تو کیوں ٹلی؟

۲..... نکاح بلا ہے؟ عذاب ہے؟ یا کیا؟

مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ ”یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا۔ ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو ایشہمار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں مندرج ہیں۔“

(آئینہ کلمات اسلام ص ۱۸۱، ۱۸۸، ۱۸۹، خزائن ج ۵ ص ۲۸۶)

توبی توبی کے کلمات کو اگر شرط مان بھی لیا جائے تو اس سے بلا ٹلنی چاہئے، نہ کہ رحمت و برکت۔ پس یا تو یوں کہا جائے کہ نکاح نہ تھا بلا تھا۔ (محمدی بیگم کے لئے نہ سہی مرزاجی کے لئے سہی) یا یہ کہئے کہ توبہ کا علاقہ نکاح سے نہ تھا۔ دونوں شکلوں میں ہمارا دعویٰ ثابت۔ ہمارا بیان صرف نفس نکاح کے متعلق تھا کہ:

۱..... اس کو مقدر بتایا گیا۔

۲..... خدا کا نہ ٹلنے والا وعدہ کہا گیا، وہ ٹل گیا۔ لہذا خدا کا وعدہ نہ تھا۔ مقدر نہ تھا اور مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ جھوٹا، الہام جھوٹا۔

۳..... مرزا قادیانی نے کہا کہ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو۔

الف..... مرزا قادیانی ہر بد سے بدتر ٹھہریں گے، مفتری ہوں گے، کذاب ہوں گے۔

ب..... ان کے تمام دعوے جھوٹے ہوں گے۔

ج..... مرزا قادیانی ذلیل ہوں گے، روسیہ ہوں گے، ناک کھٹ جائے گی۔

کسب نے توبہ کی یا نہ کی، عذاب ٹلا یا نہ ٹلا۔ ہمیں نبردست اس سے کچھ غرض نہیں۔ مرزاجی کے دعوے اور یہ امر واقعہ سامنے ہے کہ نکاح نہ ہوا۔ فیصلہ ہم نہیں کرتے خدا نے کیا اور جو ہوتا تھا ہو گیا۔ مرزا قادیانی کو جو بننا تھا بن گئے۔ اگر سادہ لوح افراد کی آنکھیں اب بھی نہ کھلیں تو وہ جانیں۔

## طامعون اور قادیان

جناب حافظ صاحب کی دیدہ دلیری ملاحظہ کیجئے کہ کس جرأت کے ساتھ ہم پر قلعہ بیانی کا الزام لگاتے اور دنیا کی آنکھوں میں کس طرح خاک ڈالنا چاہتے ہیں۔  
حافظ جی لکھتے ہیں کہ ”مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ قادیان میں طامعون نہ آئے گی یہ مولوی صاحب کی بالکل غلط بیانی ہے۔“

ناظرین فیصلہ کریں کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا اس کی تفصیل یہ ہے یا نہیں؟

..... مرزا قادیانی نے مواہب الرحمن میں فرمایا: لنا من الطامعون امان (مواہب الرحمن ص ۲۳، خزائن ج ۹ ص ۲۲۲) ہم لوگوں کے لئے طامعون سے امان ہے۔ ”لنا“ کے مصداق چونکہ دنیا بھر کے مرزائی تھے جب مختلف مقامات سے مرزائیوں کے مرنے کی خبریں آنے لگیں اور محترضین نے اعتراض کیا ہوگا تو فرمایا۔ ”خدا نے سبت کر کے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کو اس (طامعون) کی خوفاک جہاں سے محفوظ رکھے گا کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔“ (دائع البلاغ ص ۱۰، خزائن ج ۸ ص ۲۳۰)

قادیان چھوٹا سا قصبہ اس کی مختصری آبادی مگر جب اس میں بھی یہ حالت ہوئی کہ پیسہ اخبار لاہور مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۰۴ء رقمطراز ہے۔ ”قادیان آج کل پنجاب میں اول نمبر پر طامعون میں جتلا ہے۔ بیس (۲۰) موتوں کا اوسط ہے۔ قصبہ میں بالکل بچی ہوئی ہے۔“ (ناظرین مرزا قادیانی کی مرحومہ الہامی الفاظ خوفاک جہاں کا اس عبارت پیسہ اخبار میں خاص لحاظ رکھیں نیز حافظ جی کے الفاظ بھی یاد رہیں کہ ”جو لوگوں کو بدحواس کر دے۔“ اس لئے کہ اس کی تفصیل بالچل کے لفظ میں موجود ہے) پھر جب قادیان میں اس قدر طامعون پھیلے کہ ۳۶۳۔ اموات کی رپورٹ عام اخباروں میں شائع ہوئی تو مرزائی کو خود تسلیم کرنا پڑا۔ چنانچہ لکھتے ہیں: الحکم قادیان ۱۰ مارچ ۱۹۰۷ء۔ ”آج کل طامعون بہت بڑھتا جاتا ہے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ (اس آگ لگنے پر خاص توجہ رہے بدحواسی شاید کسی اور چیز کا نام ہوگا۔) میں اپنی جماعت کے لئے خدا سے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بجائے رکھے۔“ مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔

مانگا کریں گے اب سے دعا بھریار کی

آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ

مگر قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جب قرآنی نازل ہوتا ہے تو بدوں کے ساتھ نیک

بھی لپیٹے جاتے ہیں۔

سامعین کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ہم نے تذکرہ میں یہ بھی بتایا تھا کہ مرزا قادیانی نے اپنے گھر کو وسیع کرنے اور بڑھانے کے لئے چندہ مانگنے کا حیلہ بناتے ہوئے بھی لکھا تھا کہ ہمارا گھر طاعون سے محفوظ رہے گا لہذا اس میں بہت سے آدمیوں کے رہنے کی جگہ کرنے کے لئے بڑا بنانے کی ضرورت اور اس لئے روپیہ کی حاجت۔ پس لاؤ چندہ!!!

گھر تو اس بہانے سے بن گیا چندہ بھی خاطر خواہ مل گیا اب حافظ جی تو لکھتے ہیں کہ آج تک اس گھر کا جو با بھی طاعون سے نہ مرا۔ مگر مرزا قادیانی (حقیقت الہوی کے ص ۳۲۹، خزائن ج ۲۲ ص ۳۳۲) پر اعتراف فرماتے ہیں کہ ”جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو میر صاحب کے بیٹے اسحاق کو تیز چپ ہوا اور سخت گھبراہٹ شروع ہو گئی اور دونوں طرف ران میں ہلکتیاں لکل آئیں۔“

حافظ جی شاید اس کی بھی تاویل فرمادیں کہ گھر سے مراد ہے وہ خاص کمرہ جس میں مرزا قادیانی سوتے تھے بلکہ کمرہ سے مراد بھی وہ چار پائی جس پر وہ آرام فرماتے تھے بلکہ چار پائی سے بھی ان کا جسم یعنی مرزا قادیانی کے جسم میں حلول کر گیا وہ طاعون سے نہ مرا۔

یہ سوک رشی کی تاویلات کا نمونہ ہے وہ فرمائے جائیں۔ حیراں دتہ و عبد الکریم کی روحیں اب دنیا میں آ کر نہ بتائیں گی کہ وہ خود مرزا قادیانی کے گھر ہی میں طاعون سے مرے تھے۔ محمد افضل و برہان الدین و محمد شریف و نور احمد وغیرہ خاص خاص مرزائی اب بول ہی نہیں سکتے کہ وہ کس درجہ کے فدائی تھے اور قادیان ہی میں مرزا قادیانی کی دیکھتی آنکھوں طاعون ہی سے ہلاک ہوئے۔ (دیکھو ذکر الکریم ص ۹۱)

مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری سے مرزا قادیانی کا آخری فیصلہ

ہم حیران ہیں کہ حافظ جی کے جھوٹ کہاں تک جتائے جائیں ہم نے ہرگز اپنی تقریر میں مبالغہ کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اس آخری فیصلہ اور دعا کو یاد دلایا جس کی تصدیق میں مرزا قادیانی نے اس عالم کو چھوڑا۔

مرزا قادیانی نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے باب میں اشتہار دیا جس کا عنوان ہی یہ بتا دے گا کہ یہ فیصلہ تھا نہ کہ مبالغہ۔ عنوان یہ ہے: ”مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ“ سارا اشتہار پڑھ جائیے لیکن ایک جگہ بھی اگر مبالغہ کا لفظ مل جائے یا کہیں یہ بھی لکھا ہوا نظر آئے کہ اس دعا کے مقابلے میں مولوی صاحب موصوف بھی کبھی دعا فرمائیں جیسا کہ ڈوٹی اور دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں مرزا قادیانی نے لکھا تو ہم ذمہ دار۔ پھر مزید ثبوت کے لئے جناب مرزا قادیانی کے حکم سے ان کے رشتہ دار نے جو حکم نامہ جناب مولوی صاحب موصوف کے نام

جاری کیا اس کی عبارت ملاحظہ فرمائیے جو اس مضمون کو بالکل ہی واضح کر دیتی ہے۔

مولوی ثناء اللہ صاحب نے ”حقیقت الوہی“ کی اس دعوت عام کو دیکھ کر جو تمام علمائے اسلام کو مرزا قادیانی کی طرف سے دی گئی تھی مرزا قادیانی کو لکھا کہ ”کتاب حقیقت الوہی بھیجئے تاکہ میں مہبلہ کی تیاری کروں۔“ اس کے جواب میں انہیں بحکم مرزا قادیانی لکھا جاتا ہے کہ ”آپ کا خط حضرت مسیح موعود کی خدمت میں پہنچا جس کے جواب میں آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف حقیقت الوہی بھیجئے کا ارادہ اس وقت ظاہر کیا گیا تھا جس وقت مہبلہ کے واسطے لکھا گیا تھا کہ مہبلہ سے پہلے پڑھ لیتے مگر چونکہ آپ نے اپنے واسطے تعین عذاب کی خواہش ظاہر کی اور بغیر اس کے مہبلہ سے انکار کرے اپنے لئے فرار کی راہ نکالی اس واسطے مشیت ایزدی نے آپ کو اور راہ سے پکڑا اور حضرت حجۃ اللہ مرزا قادیانی کے قلب میں آپ کے واسطے ایک دعا کی تحریک کی اور دوسرا طریق اختیار کیا۔“ اس عبارت سے ناظرین نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ دوسرا طریق مہبلہ نہیں بلکہ تعین عذاب بصورت دعا ہے اور مشیت ایزدی کے مطابق یہی آخری فیصلہ ہے۔ اس دعا کا اثر فیصلہ کر دے گا کہ اس باب میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔

مرزا قادیانی کی دعا

”اے میرے آقا! اے میرے بھیجئے والے!..... میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا واسن پکڑ کر تیری جناب میں ملتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفید اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں دنیا سے اٹھالے۔“

(مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۹)

ہم نے اس دعا کے اثر کا ذکر کیا جو دنیا نے دیکھ لیا مگر اس سے زیادہ شرمناک جھوٹ اور کیا ہوگا کہ حافظ جی اب تک اس کو مہبلہ کہے جاتے ہیں حالانکہ مرزا قادیانی کے انتقال کے بعد جب تمام ہندوستان میں اس دعا کی صداقت کا تذکرہ ہوا اور تمام اہل بصیرت نے حقیقت کو جان لیا تو تمام مرزائی ٹولی نے پورا زور لگایا۔ آخر تین سو روپیہ کا انعام مقرر کیا اور یہی چیلنج دیا کہ ”یہ فیصلہ نہ تھا مہبلہ تھا۔“ مرزائی خلیفہ نمبر ۱ کے وکیل منشی قاسم علی صاحب میدان مقابلہ میں آئے۔ سردار بچن سنگھ بی۔ اے پلیڈر فریقین کی طرف سے مسلمہ حکم مقرر کئے گئے۔ منشی قاسم علی صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب میں مباحثہ و مناظرہ ہوا، آخر انجام مبلغ تین سو روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے بحکم حکم مرزائیوں سے وصول کیا اور غیر جانب دار حکم نے یہ فیصلہ دیا۔ (تحریر میں گو قدرے طوالت ہو جائے مگر ہم اس کے بعض کلمات بحسنہ لکھ دیتے ہیں۔)

”میں صاف اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرزا قادیانی کے اس جہان قانی سے بحیات مولوی ثناء اللہ صاحب رحلت فرمانے سے مرزا قادیانی کی دعا مندرجہ اشتہار خدائے تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس قبولیت کا اظہار خود مرزا قادیانی نے اپنی زبان مبارک سے کیا۔

۱۵ مارچ ۱۹۰۷ء والا اشتہار بحکم خداوندی مرزا قادیانی نے دیا تھا۔ خدائے الہامی طور پر جواب دیا تھا کہ میں نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی۔“

(ملفوظ دستخط سردار بچن سنگھ بی۔ اے۔ پلیڈر ۲۱ مارچ ۱۹۱۲ء)

سردار بچن سنگھ کے فیصلہ کے مطابق ہی نہیں ایسے خدائی فیصلہ کی رو سے جس کو سارے عالم نے دیکھ لیا ہم بھی اس کی بڑے زور سے تائید کرتے ہیں مرزا جی کی اور دعائیں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں مگر یقیناً خدائے مرزا قادیانی کی یہ دعا ضرور قبول کی اور دنیا کو دکھا دیا کہ اس مقابلے میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ مرزا قادیانی ہیضہ میں مبتلا ہوئے، لاہور میں مر گئے، قادیان میں دفن ہوئے اور مولوی ثناء اللہ قلعہ مرزا نیت پر گولہ باری کے لئے اب تک موجود۔

ڈاکٹر عبدالحکیم اور مرزا قادیانی

حافظ جی ہماری شکایت کرتے ہیں کہ: ”ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی کی طرف اشارہ کیا اور حقیقت کو بے نقاب نہیں کیا۔“ ہمیں افسوس ہے کہ وہ ہمارے بلانے کے باوجود بھی دیوار کے پیچھے ہی رہے اگر سامنے آجاتے تو ہم ”بے نقاب“ بھی کر دیتے۔

ناظرین نے حافظ جی کی نمبر ۳ دورتی میں دیکھا کہ جتنے دعوے بھی انہوں نے کئے ثبوت کسی ایک کا بھی نہیں دیا۔

۱..... کیا مرزا قادیانی کے وہ الفاظ وصیت نامہ لکھے جن میں انہوں نے یہ تحریر فرمایا کہ وہ فلاں تاریخ سے تین برس کے اندر مر جائیں گے۔

۲..... یہ حوالہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کب اور کن الفاظ میں اپنی سابقہ پیش گوئی میں ترمیم کی؟ اب حافظ جی کی یہ تمنا ہے کہ ہم ہی ان کا نقاب اٹھائیں تو یہ لیجئے ناظرین ملاحظہ کریں کہ نقاب کے اندر کیا ہے؟

پہلے یہ معلوم کیجئے کہ مرزا قادیانی اپنی عمر کے متعلق خود ہی کیا ارشاد فرماتے ہیں:

”میری عمر کے چالیس برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آپہنچا۔ (تریاق القلوب ص ۶۸، خزائن ج ۵ ص ۲۸۳)“ (یعنی ۱۳۰۰ھ میں مرزا قادیانی کی عمر چالیس برس کی ہوئی)

(تریاق القلوب ص ۱۳، خزائن ج ۵ ص ۱۵۲ حاشیہ) پر فرماتے ہیں کہ خدائے ان پر الہام

کیا "میں (خدا) تجھے (مرزا کو) اسی برس یا چند سال زیادہ اس سے کچھ کم مردوں گا۔" (اب یہ مرحومہ الہام بھی ایک لطیفہ ہے مرزا قادیانی کا الہام کرنے والا ایسی ہی خمینی انکل کی باتیں کہا کرتا ہے۔) اس جگہ تمیز نہ تھا تصریح کے ساتھ اور ملاحظہ کیجئے۔

"آخری زمانہ اس سچ مرحومہ (مرزا قادیانی) کا دنیا ال نبی نے ۱۳۳۵ھ میں لکھا ہے جو خدائے تعالیٰ کے اس الہام سے مشابہ ہے جو میری عمر کی نسبت بیان فرمایا ہے۔"

(حقیقت الوقی ص ۲۰۰، خزائن ج ۲۲ ص ۳۰۸)

پس ان دونوں مرحومہ الہاموں کی رد سے مرزا قادیانی کو ۱۳۳۵ھ میں ہمر (۳۵+۲۰) = ۵۵ سال مرنا چاہئے تھا۔ یہی ان کا اعلان بھی بقول ان کے خدا کا الہام اور دنیا ال نبی کی دی ہوئی خبر۔ ان اقوال کے دیکھنے کے بعد اب فیصلہ بہت آسان ہو گیا اس لئے کہ اس میں تو غالباً کسی کو مجال انکار ہی نہیں کہ مرزا قادیانی ۱۳۲۶ھ میں مرے یعنی اپنی میعاد مقررہ سے (۱۳۳۵-۱۳۲۶=۹) پورے ۹ برس پہلے، اس کا سبب مرزا قادیانی بتائیں یا نہ بتائیں ہم بتائے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم نے اعلان الحق ص ۵۰۴ پر جولائی ۱۹۰۶ء کو یہ اعلان کیا کہ "صادق کے سامنے شریفنا ہو جائے گا یعنی (۳) سال کے اندر مرے سامنے مرزا قادیانی مرجائیں گے۔"

اس کے جواب میں مرزا قادیانی اپنے اشتہار مجریہ ۱۶ اگست ۱۹۰۶ء میں فرماتے ہیں: "میں سلامتی کا شہزادہ ہوں کوئی مجھ پر غالب نہیں آسکتا، بلکہ خود عبدالحکیم خاں میرے سامنے آسانی عذاب سے ہلاک ہوگا۔" (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۵۰) (بقیہ عبارت مرزائی حقیقت کا اظہار نمبر ۱ میں ملاحظہ کیجئے)

اس میں مرزا قادیانی نے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے مرنے کی پیش گوئی کس صفائی کے ساتھ کی اس لئے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے غضب میں آکر اس وقت سے ۱۴ مئی کی میعاد بتائی۔ جس کے جواب میں مرزا قادیانی فیصلہ فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ الہام ہوا کہ اشتہار تبصرہ ۵ نومبر ۱۹۰۷ء درمیان میں عمارت محذوف (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۹۱) "اپنے دشمن ڈاکٹر عبدالحکیم سے کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ کرے گا میں تیری عمر بڑھا دوں گا یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ جولائی ۱۹۰۷ء سے ۱۴ مئی تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیشین گوئی کرتے ہیں۔ سب کو جھوٹا کر دوں گا اور تیری عمر بڑھا دوں گا جو تیری موت چاہتا ہے وہ خود تیری آنکھوں کے زور و اصحاب قتل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا تجھ سے لڑنے والے اور تیرے پر حملہ کرنے والے سلامت نہیں رہیں گے۔ تیرے مخالفوں کا اغوا تیرے ہی



ہاتھ سے مقدر تھا۔“ اور آگے بڑھے اور ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء کا بدر دیکھنے کے انتقال سے دو دن پہلے بھی جناب مرزا قادیانی اسی مضمومہ الہام کو اپنی صداقت کا معیار بتا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس الہام میں دو خاص وعدہ ہیں اور ان کا خدا کی طرف سے ہونا بتا کید بیان کیا جا رہا ہے۔

۱..... (مرزا قادیانی) کی عمر بڑھا دوں گا۔

۲..... (مرزا قادیانی کا دشمن ڈاکٹر عبدالحکیم) اصحاب فیل کی طرح نابود ہوگا، ان کا خزاو نانا (مرزا قادیانی کے) ہاتھ میں مقدر تھا۔

پس کیا مرزا قادیانی کی عمر بڑھی؟ نہیں بلکہ ۹ برس پہلے مرے۔

کیا ڈاکٹر عبدالحکیم خان مرزا قادیانی کے سامنے مرے؟ اس لئے کہ ان کا مرنا اور نانا ہونا مرزا قادیانی کے ہاتھ سے مقدر تھا۔ نہیں بلکہ وہ اب تک زندہ ہیں اور مرزا نیت کے انہدام میں مصروف۔ لہذا یہ الہام جھوٹا ہوا اور سچے جھوٹے کا فرق ظاہر۔

تھوڑی دیر کے لئے اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پیش گوئی میں کوئی مزید ترمیم کی ہو نیز اگر برائے چندے یہ مان بھی لیا جائے کہ مرزا قادیانی نے اپنے تمام سابقہ مضمومہ الہاموں کے خلاف اپنے مرنے کی میعاد بھی تین سال بیان کر دی ہو تب بھی یہ الہام جھوٹے، ان کی عمر نہ بڑھی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم ان کے سامنے نہ مرے بلکہ مرزا قادیانی ان کو اچھا بھلا چھوڑ کر چل دیئے۔

پس وہ مفتری، کاذب اور شریر ثابت ہوئے، حافظ جی کی اور دلیری دیکھئے۔

چہ دلاور ست دزدرا کہ بکف چراغ دارد

ہم سے پوچھتے ہیں (آخری صفحہ کے حاشیہ کی سطر کو ذرا غور سے پڑھئے) ”اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں ڈاکٹر مرے گا؟“ ہم جواب دیں یا ناظرین خود جواب دے لیں گے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہاں ہاں اسی میں لکھا ہے کہ ”عبدالحکیم میرے سامنے آسمانی عذاب سے ہلاک ہوگا۔“ اسی میں لکھا ہے کہ ”وہ خود تیری آنکھوں کے سامنے اصحاب فیل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا۔“ ہمیں یقین ہے کہ اب ہمارے ناظرین ہی ان سے کہہ دیں گے کہ آنکھیں ہوں تو دیکھو ننان جنکں جواب اس کو کہتے ہیں۔

حافظ جی کے متعلق تو ہمیں امید نہیں ہاں ہمارے وہ جھوٹے بھالے افراد جو ان کے بہکاوے میں آکر مرزا نیت کا فکار ہو گئے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس ہدایت نامہ ہی کے ذریعے بحول اللہ وقوتہ ہدایت پا جائیں تو اچھا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔

## التحقیق الصحیح فی حیات المسیح امام بخاری پر اعتراض کی تہمت

حافظ جی کو ان کے مزمومہ مجدد کی وراثت میں اور کچھ ملایا نہ ملا مگر اس کا ہم نے ضرور اندازہ لگا لیا کہ جھوٹ کا ورثہ ان کو کافی مقدار میں نصیب ہوا اسی لئے وہ ایسے بیان کے متعلق بھی جھوٹ بولتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے جس کے سننے والے ان کے پڑوس ہی میں بہت سے موجود ہیں۔

ہم نے ”متوفیک“ کے معنوں (حافظ جی نے اسی طرح لکھا ہے) کے متعلق بخاری پر اعتراض ہرگز نہیں کیا۔ بلکہ حضرت امام بخاریؒ کی ذمہ داری کے متعلق یہ بیان کیا کہ وہ اپنی صحیح میں جہاں سند صحیح کے ساتھ احادیث کو ذکر فرماتے ہیں وہاں تعلیقات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ (حافظ جی تو شاید تطبیق کی اصطلاح کو بھی نہ جانتے ہوں گے۔) حضرت ابن عباسؓ کا وہ قول جو امام بخاری نے نقل کیا اور مرزائی اس کو بڑی شدومد سے دلیل میں لاتے ہیں اس کو امام صاحب نے مستند احادیث میں داخل نہیں فرمایا بلکہ تعلیقات ہی کے ضمن میں ذکر کیا اور امام بخاریؒ کی تعلیقات و آثار موقوفہ علی الصحابہ کے متعلق علامہ سخاویؒ ”فتح المغنیف“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایات میں صحت کی ذمہ داری لے کر امام بخاریؒ جس چیز کو نقل فرماتے ہیں وہ صرف وہی احادیث ہیں جن کی سند انہوں نے بیان فرمائی: ”دون التعلیق والاثار الموقوفة علی الصحابہ“ نہ کہ تعلیقات اور وہ آثار جو کہ صحابہ پر موقوف ہیں۔“ بقول سخاوی، امام بخاری ان کی ذمہ داری ہی نہیں لیتے۔

ہمارے اس کہنے کو ”امام بخاری پر اعتراض“ سے تعبیر کرنا ایک کھلا افتراء ہے۔ امام بخاریؒ روایت میں بے حد محتاط جانتے تھے کہ اس اثر ابن عباس کے راوی ایسے مستند نہیں ہیں جیسے اور ان احادیث کے جو انہوں نے ذکر فرمائی اس لئے انہوں نے ان کو سند ذکر ہی نہیں فرمایا کہ ان پر ذمہ داری رہے۔

اب وہ جرح ملاحظہ کیجئے جو اس اثر کے راوی پر علماء رجال نے فرمائی ہم نے اپنی طرف سے بے ثبوت نہ کچھ کہا، نہ کہیں احادیث و آثار کی جانچ پڑتال کتب اسمائے رجال سے ہوتی ہے اور اس کا یہ طریق۔

قسطلانی نے اس اثر کے اسناد کو اس طرح ذکر فرمایا: ”وقال ابن عباسؓ فمارواه ابن ابی حاتم من طریق علی بن طلحة عنه فی قوله تعالیٰ یا عیسیٰ انی

متوفيك معناه مميتك“ یعنی اس اثر کو حضرت ابن عباسؓ سے علی ابن طلحہؓ روایت کرتے ہیں لہذا قواعدن رجال کے مطابق علی بن طلحہ کو دیکھا جائے گا کہ ان کی کیفیت کیا ہے؟

۱..... میزان میں موجود کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ”کہ اشیاء منکرات“ دجیم کہتے ہیں کہ علی ابن طلحہ نے ابن عباسؓ سے تفسیر سنی ہی نہیں۔

۲..... خلاصہ میں کہا گیا۔ قسویٰ فرماتے ہیں کہ علی بن طلحہ اضعیف ہے۔

۳..... تقریب میں ہے علی بن طلحہ سالم مولیٰ نبی عباس سکن حمص ارسل عن ابن عباس ولم یرہ من السادۃ پس جو چھوٹی عمر میں ابن عباس سے جدا ہوئے ان سے تفسیر کو سنا ہی نہیں۔ منکرات کے راوی اور پھر ضعیف، ایسے راوی کی روایت سے استناد اور صاف صاف صریح آیات قرآن کریم اور امام بخاری ہی کی روایت کردہ اصح احادیث کے معنی کو بدلنا مرزا فی فریب اور دھوکہ نہیں تو کیا ہے۔ پھر اگر ابن عباس ہی کے قول سے استناد ہے تو ان کے بتائے ہوئے پورے معنی کو ماننا صرف ایک لفظ کو لینا لا تقریو اصولوۃ (نماز کے قریب ہی نہ جاؤ) کو ماننا اور وا تم سکاری (در انحالیکہ تم نشے میں ہو) کو چھوڑنا تو مننون ببعض و تکفرون ببعض نہیں تو کیا ہے؟

ابن عباس ہی کی بات ماننے میں تو دل ماشاء آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ انہوں نے متوفیک کے معنی ممیتک کس مطلب سے کہے اور وہ اس وعدہ ممیک کے پورا ہونے کا وقت کب بتا رہے

ہیں۔ (در منثور نمبر ۳۶ ج ۲) عن ابن عباس قال قوله عزوجل یعیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیٰ قال انی رافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان۔ ابن عباسؓ سے مروی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان انسی متوفیک ورافعک کے متعلق فرمایا ”میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اور پھر آخر زمانہ میں تمہاری توفیٰ کرنے والا ہوں۔“ یعنی چونکہ واؤ ترتیب کے لئے نہیں ہوتا لہذا ابن عباس اس امر کے قائل ہیں کہ پہلے رفع ہو گیا اور توفیٰ آخر زمانہ میں ہوگی اور زیادہ تفصیل

دیکھئے طبقات کبریٰ مطبوعہ یورپ ج ۱ ص ۲۶ پر موجود ہے۔ ”اخبیرنا هشام ابن السائب عن ابيه عن ابي الصالح عن ابن عباس“ (اس سند کے بعد ایک طویل اثر کو ذکر فرمایا جس میں حضرت عیسیٰ کے اٹھانے جانے کا مفصل حال ہے اس کا آخری جملہ یہ ہے) ”ان اللہ

رفعه (ای عیسیٰ بن مریم علیہما السلام) بجسده وانه حی الان وسیرجع الی الدنیا فیکون فیہا ملکا ثم یموت کما یموت الناس“ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے جسم کے ساتھ اٹھالیا یقیناً وہ اب زندہ ہیں اور عنقریب دنیا کی طرف لوٹیں گے اس میں بادشاہ نہیں گے پھر جس طرح اور آدنی مرتے ہیں اسی

طرح میں گے۔“ ناظرین نے دیکھ لیا کہ امین عباس جس صراحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔  
جو اس پر بھی نہ سمجھے وہ تو اس بت کو خدا سمجھے

### حافظ جی کا پانچ سو روپیہ انعام

تین مہینے خواب غفلت میں پڑے رہنے کے بعد لوگوں کے حیرت منانے سے ذرا آنکھ کھلی تو نیند کی آنکھ میں حافظ جی کو وہی گرو جی کی پرانی چال یاد آئی جس میں سادہ لوح بہت جلد پھنس جاتے ہیں، حافظ جی میں اگر ہمت اور جرأت تھی تو ہمارے بلانے ہی پر سہی سامنے آتے۔ ہم کیا ہیں کہ ہماری عظمت وہ دیکھتے۔ ہاں! اللہ جل و علا رسول اللہ ﷺ و صحابہ نے جو کہا ہے وہ انہیں سناتے اور دکھاتے۔ اس وقت ان کی انعام بازی کی ساری قلعی کھل جاتی، روپیہ کے لالچی تو حافظ جی ہی ہوں گے کہ ماہانہ سو روپے کے لئے پانچ سو روپے کی طلبی پر مجبور ہوئے۔ ہم یقیناً پہلے روز بل کے مسلمان بچوں کی تعلیم کے لئے (جو مرزائیوں کے ہاتھوں پر ہوا ہی ہو رہی ہے۔) ان سے کہتے کہ پانچ سو روپیہ کسی معتد کے پاس جمع کیجئے اور ٹکس جو اب لیجئے، اب کہ ہم اپنے بھولے بھائیوں کو سمجھانے کے لئے یہ سطور لکھ رہے ہیں کہ جب حسبہ اللہ انہیں مرزائی چال کا پھول کھول کر دکھائے دیتے ہیں۔

حافظ جی لکھتے ہیں اور اپنی طرف سے نہیں اپنے گرو جی کی عمر بھر کی علمی پونجی کا خلاصہ سامنے لاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ایک بھی ایسی مثال قرآن سے، حدیث سے، لغت عرب سے پیش کر دیں کہ فعل توفی باب تفعیل سے ہوا اور اس کا قائل اللہ ہو اور مفعول کوئی انسان ہو اور پھر اس کے معنی قبض روح کے سوا قبض جسم وغیرہ کے ہوں۔“ یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ چونکہ شاید آنکھ کی حالت میں حافظ جی لکھ رہے ہیں لہذا مرزا قادیانی کی پوری تحریر یا تو سمجھ ہی میں نہ آئی یا لکھتے وقت پھر جھوٹا آگیا، لہذا ان کے دعوے کو پوری طرح نہ لکھ سکے بہر لوع ہمیں تنقیح دعویٰ کے لئے اول یہ دکھانا ہے کہ قبض روح سے مرزا قادیانی کی کیا مراد ہے؟ اور ان کے نزدیک اس کے کیا معنی؟

الف ..... ”تمام مقامات میں توفی کے معنی موت اور قبض روح کئے گئے ہیں۔“

(ازالہ ابہام ص ۸۸۶، ج ۳ ص ۵۸۴)

ب ..... ”صرف ایک ہی معنی قبض روح اور موت کے لئے مستعمل تھا۔“

(ازالہ ابہام ص ۸۸۶، ج ۳ ص ۵۸۴)

ج..... اول سے آخر تک قرآنی عبادہ کی ثابت کرتا ہے کہ ہر جگہ درحقیقت توئی کے لفظ سے موت ہی مراد ہے۔ (ازالہ ابہام ص ۳۳۳، خزائن ج ۳ ص ۱۴۰)

ان تینوں حوالوں نے بتا دیا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک قبض روح اور موت دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ قبض روح کے معنی موت اور موت کے معنی قبض روح۔

اب اسی آیت کو لیتے جو حافظہ حسی نے خود کبھی فقط ہم ہی نہیں کہتے بلکہ خود مرزا قادیانی اور ان کی ذریت بھی کہنے پر مجبور ہوگی۔ ہر ترجمہ قرآن کریم میں بتائے گا اور معمولی علم والا بھی جان جائے گا کہ اس آیت میں توئی کے معنی موت کے نہیں۔ هو الذی یتوفکم باللیل ویعلم ماجر حتم بالنهار (وہی ہے جو تم کو رات کے وقت لے لیتا ہے اور جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کیا)

کیا بقول مرزا قادیانی کوئی عقل والا یہاں یہ معنی کر سکتا ہے کہ وہی ہے جو تم کو رات کے وقت مار ڈالتا ہے اور کیا ہر آدمی رات کے وقت مر جاتا ہے۔

غور سے دیکھ لیجئے کہ توئی باب قتل سے ہے فاعل اللہ ہے مفعول انسان اور معنی موت کے نہیں بلکہ نیند کے ہیں۔

اگر مرزا یہ کہیں کہ نیند بھی تو مجازی موت ہے جیسا کہ مرزا قادیانی نے فرمایا "اس جگہ توئی سے مراد حقیقی موت نہیں بلکہ مجازی موت مراد ہے جو نیند ہے۔"

(ازالہ ابہام ص ۳۳۲، خزائن ج ۳ ص ۲۶۹)

تو اس مجازی کا جواب مرزا قادیانی کے خود کلمات میں کلمہ درحقیقت سے لیتے یا تو یہ کہتے کہ نیند درحقیقت موت ہے اور یا یوں کہتے کہ توئی کے معنی درحقیقت موت نہیں، نیند کو حقیقی موت تو کوئی امتق ہی بتائے گا۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ توئی کے معنی درحقیقت موت نہیں۔

لیکن جب توئی کے معنی موت کے کرتے ہوئے بھی مرزا قادیانی کے نزدیک اس سے مجازی موت یعنی نیند مراد لی جاسکتی ہے تو انہیں سوائے اپنے دعویٰ مسیحیت کے بطلان کے خوف کے کوئی دشواری حاصل ہے کہ وہ انی متوفیک میں بھی ایسی ہی مجازی موت یعنی نیند مراد لے لیں جبکہ اثر امام حسن بصری بھی اس کی تائید میں موجود اور بعض مفسرین اہل حق نے اس مراد کو ذکر بھی فرمایا پس یہ تو اچھی طرح واضح ہو گیا کہ توئی کے معنی درحقیقت موت نہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ درحقیقت اس کے کیا معنی ہیں؟



کے سوا قبض جسم وغیرہ کے ہوں۔“ پہلے تو انہیں یہ غور کرنا چاہئے کہ یہ دعویٰ کس نے کیا، کب کیا، کہاں کیا؟ کلمہ تولیٰ ہی کے حقیقی معنی صرف قبض جسم ہیں۔“

مسلمانوں کا دعویٰ تولفت کی رو سے صرف اس قدر ہے کہ تولیٰ کے حقیقی معنی پورا پورا لینے کے ہیں۔ اگر کسی میں حوصلہ ہو تو یہ دکھائے کہ تولیٰ کے معنی پورا لینے کے نہیں بلکہ صرف موت ہی کے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ”لینے“ کے ساتھ جو قرینہ ہوگا اس قرینے کے مطابق ”لینے“ کا مطلب ہوگا۔

اب دیکھئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جہاں وعدہ متوفیک فرمایا گیا ہے وہاں کیا قرینہ ذکر میں آیا۔ آیت کریمہ ہے: ”یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی“ (اس آیت کا ترجمہ ہم مزید اتمام حجت کے لئے وہی کئے دیتے ہیں جو مرزا قادیانی کے خلیفہ اول صاحب نے کیا ہے) اے عیسیٰ علیہ السلام میں لینے والا تجھ کو اور بلند کرنے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف۔

## قرآن

۱..... حق تعالیٰ خطاب کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ایک نام ہے کس کا؟ روح اور جسم دونوں کے مجموعہ کا۔

۲..... تولیٰ (پورا لینے) کا اطلاق کس پر ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود یعنی روح و جسم دونوں پر۔

۳..... رفع (اٹھانا) کس چیز کا ہوگا؟ روح اور جسم دونوں کا۔

۴..... تولیٰ (پورا پورا لینا) رفع (روح و جسم کا اٹھانا) کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف۔

پس ان قرآن نے صاف کر دیا کہ یہ تولیٰ ایک علیحدہ قسم کی تولیٰ ہے جس میں نہ نیند کی کیفیت، نہ موت کی صورت بلکہ شکل ہی سب سے جدا، یعنی تولیٰ مع الرفع اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح خاص جیسے بغیر باپ کے پیدا ہونا، انجی کے لئے مخصوص۔ اس تولیٰ کا نمونہ کس آیت یا حدیث میں کسی دوسرے شخص کے لئے طلب کرنا سراسر یہودگی بلکہ فریب اور دھوکہ دہی، اس شان کی تولیٰ کا وعدہ کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں گیا اور نہ کسی کی تولیٰ اس طرح ہوئی بلکہ جس طرح ان کے پیدا ہونے کے انداز میں اجاز اس طرح ان کی تولیٰ بھی اعجازی۔ نظر بریں ہمیں خیال آتا ہے کہ ہندوستان میں ایک صاحب نے حیات مسیح علیہ السلام کو بدلائل ساطعہ ثابت کرتے ہوئے۔ مرزائی چیلنج کا جواب دیتے ہوئے تمام مرزائی پارٹی کو ”ایک ہزار روپیہ انعام کا

چلیج“ دیا کہ ”اگر فصل تو ملی، ربیع کے ساتھ مستعمل ہے اور قائل دونوں کا اللہ ہو اور مفعول ذی روح ذات واحد ہو تو وہاں تو ملی کے معنی اخذ مع الربیع ہی کے ہوں گے، نہ کوئی اور معنی۔ اگر کوئی مرزائی سارے قرآن کریم میں ایک مقام پر بھی اس کے خلاف دکھائے تو اسے مسلح ایک ہزار روپے انعام ملے گا۔“

اس چلیج کو دینے ہوئے بھی برسوں گزر گئے مگر آج تک کسی مرزائی کو جواب کی جرأت نہ ہوئی، اس امر پر تمام مسلمانوں کا یقین و ایمان کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان، اللہ کے بندے اور رسول عظیم الشان، بے شک حسب فرمان و اخبار عالم مایکون و کان سید انس و جان علیہ السلام اس دنیا میں مکرر تشریف لائیں گے۔ نکاح کریں گے۔ دجال کو قتل فرمائیں گے۔ پھر مدینہ منورہ ہی میں انتقال فرمائیں گے اور وہیں مقبرہ مبارکہ میں دفن کئے جائیں گے۔ حافظ جی نے آیت کل نفس ذائقت الموت لکسی مرزا کا دبیانی نے ساری اس قسم کی آجوں کو جمع کر کے اپنی انتہائی قوت صرف کردی، مگر سب بے کار گئی، اس لئے کہ ان کو تو اس وقت پیش کیا جائے۔ جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کبھی موت ہی نہ آئیگی۔ بے شک بے شک وہ رجوع الی اللہ جس کے بعد پھر دنیا کی طرف نہ لوٹیں ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ابھی ربیع الی اللہ ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ ”اگر کسی نبی کو آئندہ کے لئے زندہ رکھنا خدا کی سنت ہوتی تو حضرت رحمۃ

للعالمین (فداہ ابی دومی) کو رکھتا۔“ کتاب سنت سے جہالت پختی۔ ممکن ہے کل کو کوئی یہ بھی کہے کہ اگر کسی نبی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا خدا کی سنت ہوتی تو حضور رحمۃ للعالمین ﷺ کو اس طرح بے باپ کے پیدا کرتا۔ اسی طرح دیگر جموعات انبیاء علیہم السلام کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ زالی تو ملی اور دوبارہ تشریف آوری کمالات محمدی ﷺ ہی کے اظہار کے لئے ہوئی کہ بنی اسرائیل کے نبی اولوالعزم بھی دنیا میں تشریف لائیں اور حضور انور ﷺ کے نائب و خلیفہ بن کر خدمات اسلام بجالائیں تاکہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو مرض امتیاز نسل میں مبتلا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے نبی کو نہیں مانتے، ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں اور وہ اسرائیلی نبی حضرت مسیح ناصری کو رحمۃ للعالمین سید المرسلین ﷺ کی اطاعت و خلافت کرتے ہوئے دیکھ کر سب کے سب اسلام لائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ نبی سارے عالم کے نبی۔ ان کی امت میں نہ گورے کالے کا فرق، نہ حسب و نسب کا امتیاز۔ سب مساوات کے ساتھ ان کے دین میں داخل اور ساری دنیا ان کی امت میں شامل۔



حضور ﷺ نے فرمایا کہ بعثت الی الاسود والاحمر میں تو کالے اور سرخ کے لئے مبعوث کیا گیا۔ رنگ و نسل کے امتیاز کو حضور ﷺ نے مٹایا آج اگر مرزائی تہنیتی کو اصلی وحشی مسیح نامری کے مقابلے میں نقلی اور جعلی مسیح بننے کی غرض سے ان کے ساتھ متاد و دشمنی ہے تو ہوا کرے اور ان کے چیلے اگر اسی عداوت کا اظہار بدیں الفاظ کرتے ہیں کہ ”ہمیں بنی اسرائیل کے نبی کی حاجت نہیں۔“ تو کیا کریں سارے عالم کے نبی (فداہ ابی وادی) اس ہرزہ سرانی کا جناب پہلے ہی فرمائے کہ انا اولی الناس بحسبى بن مریم..... الخ! حضرت سید المرسلین ﷺ کے اظہار شان ہی کے لئے رب العزت نے یہ حکمت رکھی کہ ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وقت حضرت مسیح نامری علیہ السلام نزول فرمائیں تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ قاطبی النسل محمد بن عبد اللہ مہدی علیہ السلام امامت کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے نبی ان کے مقتدی۔ اگر کوئی جدید صاحب شریعت نبی آپ کے بعد آتے تو۔

۱..... وعدہ ختم نبوت کی خلاف بردا۔

۲..... ان کی شریعت کی ضرورت وعدہ تکمیل دین کے خلاف ہوتی۔

اگر غیر صاحب شریعت جدید نبی آتے تو

۱..... وعدہ خاتم النبیین کے خلاف ہوتا۔

۲..... ایسے نبی تو اور انبیاء کے بعد بھی آئے اس میں شان تخصیص نہ رہتی۔

سید المرسلین نبی الانبیاء ﷺ جن کی نبوت کا حقیق سب رسل و انبیاء علیہم السلام سے لیا

گیا۔ ان کی خاص شان کا اسی طرح اظہار کہ نبی اولو العزم صاحب شریعت (جن کی شریعت نافذ

ہوتی مگر شرع مصطفوی سے منسوخ ہو چکی) تشریف لائیں مگر تابع شرع مصطفوی بن کر اور صدق

یکون خلیفتی علی امتی ہو کر۔ اس لئے اس دلچسپ مہر کو اس شادمانی خوشی کے وقت کو

حضور انور ﷺ اس طرح پیش فرماتے ہیں۔ بتائی صلوات علیہا من ابی ہریرۃ قال قال رسول

اللہ ﷺ کیف انتم اذا نزل عیسیٰ بن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم تم۔

اس وقت کیسے (خوش) ہو گے جب عیسیٰ بن مریم آسمان سے تم میں نزول فرما ہوں گے اور تمہارا

امام تم ہی میں سے ہوگا۔

اللہم امننا و صدقنا بما اخبیرنا نہینا ﷺ

ان عیسیٰ علیہ السلام لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم

القیمة ان عیسیٰ علیہ السلام یأتی علیہ الفنا

مذکورہ بالا احادیث کے متعلق حافظ جی نے نا حق یہ کہنے کی بھی تکلیف گوارا فرمائی کہ ”یہ کوئی معتبر روایتیں نہیں نہ صحاح ستہ میں ان کا وجود پھر قرآن ان کو رد کر رہا ہے۔ صحیح حدیثیں ان کو رد کر رہی ہیں۔“

یہاں انہوں نے یقیناً حق شاگردی مرزا ادا نہیں کیا۔ انہیں وہی کہنا چاہئے تھا جو ایسے مواقع پر مرزا قادیانی نے کہا جب کبھی علماء نے کلام الہی کی تفسیر میں احادیث کو پیش کیا اور مرزا قادیانی کا دم بند ہوا تو مرزا قادیانی نے جھٹ کہہ دیا کہ۔

۱..... ”جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اسے اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے۔“

(حاشیہ تحفہ گلڑویہ ص ۱۰، خزائن ج ۱ ص ۵۱)

۲..... ”اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔“

(اعجاز احمدی ص ۳۰، خزائن ج ۱ ص ۱۶۰)

مسلمان تو یقیناً قرآن کریم کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح حضور صاحب وحی و کتاب ﷺ نے اپنی احادیث میں سمجھایا۔ مرزا قادیانی نے جب قرآن ہی کے متعلق یہ فرما دیا کہ ”زمین سے اٹھ گیا تھا میں آسمان سے لایا ہوں۔“ تو حدیثوں کا انکار کر دینا ان کے لئے کیا بڑی بات تھی۔

حافظ جی کو تو خبر نہیں مگر ہاں علم دین سے معمولی حصہ پانے والا بھی جانتا ہے کہ یہ کہنے سے کہ ”کوئی معتبر روایتیں نہیں نہ صحاح ستہ میں ان کا وجود..... الخ“ کوئی حدیث غیر معتبر نہیں ہو سکتی۔ کیا صحاح ستہ کی حدیثوں کے سوا تمام احادیث غیر معتبر ہیں؟ اور کیا صحاح ستہ کی کسی حدیث میں کسی قسم کا ضعف ہے ہی نہیں؟ (اللہ اس جہالت سے پناہ میں رکھے)

۱..... پہلی حدیث علامہ ابن کثیر وابن جریر نے اپنی اپنی تفاسیر میں باسناد صحیحہ نقل فرمائی۔

ایک سند ہم نقل کئے دیتے ہیں: ”قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن عبدالرحمن

حدثنا عبداللہ بن ابی جعفر عن ابیہ حدثنا الربیع بن انس عن الحسن قال

قال رسول اللہ ﷺ لیلیہود ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم

القیمة۔“ رسول ﷺ نے یہود سے فرمایا کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے اور وہ یقیناً تمہاری

طرف قیامت کے دن سے پہلے لوٹ کر آنے والے ہیں۔

۲..... وفد نصاریٰ بنی نجران کی دربار رسالت میں حاضری کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں اس قدر شہرت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ تاریخ اسلام سے ادنیٰ مناسبت رکھنے والے کو بھی اس کی خبر ہوگی۔ ابن ہشام نے تفصیل لکھی جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ ہم نے اس واقعہ کے صرف اس قدر حصہ کو نقل کیا جس کا ہمارے مضمون سے تعلق تھا۔ اب اس کی سند بیان کئے دیتے ہیں: ”اخرج ابن جریر ابن ابی حاتم عن الربیع قال ان النصاری اتوا رسول اللہ ﷺ فخاصموا فی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وقالو له من ابوه وقالو علی اللہ الکذب البهتان فقال لهم النبی ﷺ الستم تعلمون انه لا یكون ولدأ الا وهو لیشبه اباه قالوا بلی قال الستم تعلمون ان ربنا حتی لا یموت وان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا قالو بلی“ نصاریٰ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے باب میں خاصہ کرنے لگے اور کہا کہ (اچھا بتاؤ) ان کا باپ کون ہے؟ پھر خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگے۔ (یعنی ان کو خدا کا بیٹا بتایا۔) حضور ﷺ نے فرمایا تم نہیں جانتے بیٹا ہمیشہ باپ سے مشابہ ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا: ہاں! حضور نے فرمایا: کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب تو ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہیں مرے گا ہی نہیں اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی۔ وہ بولے بے شک، یا اللعجب کہ اصلی مسیحی تو حضور کے سامنے ”علی“ کہیں مگر جعلی و نقلی مسیح کے پیرو ”لا“ ہی کہے جائیں۔

حضور اکرم ﷺ فرمائیں کہ وہ ابھی نہیں مرے بلکہ مریں گے۔ یہ کہے جائیں کہ نہیں وہ مر گئے۔ حافظ جی کا یہ کہنا کہ ”قرآن ان کو رد کر رہا ہے۔ صحیح حدیثیں ان کو رد کر رہی ہیں۔“ یہ صرف کہنا ہی کہنا ہے۔ اگر حوصلہ تھا تو کسی ایک آیت ہی میں دکھایا ہوتا کہ ”ان عیسیٰ مات“ عیسیٰ مر گئے۔“ قرآن کریم میں تو کسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ”موت“ کا لفظ استعمال ہی نہ کیا گیا مگر وہی جہاں ان کے دوبارہ آنے کے بعد تمام اہل کتب کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا۔ یعنی ان من اهل الکتاب الایوم ننن به قبل موتہ (اس کا ترجمہ بھی ہم وہی لکھ دیں جو مرزا قادیانی کے خلیفہ نبرائے لکھا شاید مرزائی اس کو دیکھ کر ہی ہدایت پا جائیں) ترجمہ ”نہیں کوئی اہل کتب سے مگر البتہ ایمان لائے گا ساتھ اس کے (عیسیٰ علیہ السلام کے) پہلے موت اس کی (عیسیٰ علیہ السلام) کے۔“ (لصل الخطاب ج ۳ ص ۸۰) رہی تو فی اس کی کیفیت ہم ظاہر کر رہے تھے۔

حافظی نے صحیح احادیث کا نام تو لیا مگر کوئی ایک حدیث ہی نقل کی ہوتی جس میں یہ موجود ہوتا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مر گئے۔“ علمائے اسلام برسوں سے مرزائیوں کو لٹکا رہے ہیں کہ کوئی ایک حدیث ایسی ہی کسی جیسی ہم پیش کر رہے ہیں دکھاؤ جس میں موجود ہو کہ ”عیسیٰ بن مریم مر گئے۔“ مگر آج تک نہ کوئی دکھاسا نہ دکھاسکے۔ ہاں اپنی خود رائی سے قرآن کریم کے معنی بدلے۔ احادیث کے معنی بدلے، اصح احادیث میں بیان کیا گیا کہ ”عیسیٰ بن مریم آسمان سے منارہ شرقی دمشق پر دو فرشتوں کے کامرحوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ باب لہ پر دجال کو قتل کریں گے۔ ۳۵، ۴۰ برس زندہ رہیں گے۔ سرکارِ دو عالم کی قبر انور پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ پھر مدینہ منورہ ہی میں اشغال فرمائیں گے۔ وہیں حضور انور ﷺ کے مقبرہ میں اس طرح دفن ہوں گے کہ ان کی قبر چمچی ہو۔“ (مخلصا)

اس سے زیادہ دجل و فریب اور کیا ہوگا کہ مرزائی لغت کو بدلیں۔ صرف دھوکہ بدلیں، ناموں کو بدلیں، اپنی ڈکٹری بنی بنائیں۔ قجب ان پر ہی جو ایسے کلمے کلمے امور کو دیکھتے ہوئے بھی ان کے فریب میں آئیں اور سمجھانے پر بھی راہ راست نہ پائیں۔  
مرزائی ڈکٹری کا نمونہ ملاحظہ ہو۔

مرزائی ڈکٹری	الفاظ	مرزائی ڈکٹری	الفاظ
نور الدین دہمہ احسن	دفرشتے	غلام احمد بن عیسیٰ	عیسیٰ بن مریم
شہر لدھیانہ	باب لہ	قادیان	کدہ
ظہور سراج	دمشق	نور کی جگہ (اور وہ منارہ جو مرزا قادیانی نے چندے سے بنایا)	منارہ
جنت یادوزخ کاکلوا	قبر	خانمان مثل	شریف
وہ جس کو مرزا قادیانی رذی کر کے نہ پھینکیں	حدیث	وہ جو مرزا قادیانی آسمان سے لائے۔ (معاذ اللہ)	قرآن

وغيره نلك من الخرافات  
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

## خطبہ امام حسنؑ

حافظ حنی نے کسی جگہ حضرت امام حسن علیہ السلام وعلی آباء السلام کے خطبہ کے کلمات دیکھ لئے لہذا بے سوچے سمجھے لکھ ڈالا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ حیات مسیح کے ثبوت میں ایک حوالہ دے تو دیا۔ اگر ذرا عقل ہوتی، عربی زبان کا کچھ علم ہوتا تو سوچتے کہ امام حسنؑ نے حضرت علیؑ کی رحلت کا ذکر فرماتے ہوئے صرف تاریخ کی اہمیت دکھاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور وہاں بھی اسی مسلمانوں کے عام اعتقاد کے مطابق حضرت علیؑ کے انتقال کی کیفیت کو قبض کے لفظ سے ظاہر کیا مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے وہ لفظ نہ استعمال کیا بلکہ عروج کہا۔ اگر دونوں کی کیفیت یکساں ہوتی تو ایک لفظ استعمال ہوتا۔ جیسی علیہ السلام کے رفع و عروج کا مسئلہ صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک ایسا مشہور چلا آ رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی اس واقعہ کا کسی عنوان سے ذکر کرتا ہے اس مخصوص کیفیت عروج کی طرف کسی نہ کسی اندازے سے اشارہ کر ہی دیتا ہے۔ وہی شان اس خطبہ کے کلمات میں بھی موجود ہے۔ حافظ حنی نے حضرت ابن عباسؓ کا نام لیا، ہم نے ان کا عقیدہ پیش کیا اب امام حسنؑ کا ذکر کیا۔ لیجئے اب حضرت امام حسنؑ کا عقیدہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ امام حسنؑ مجتہبی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیف تہلک امة انسا اولہا والمہدی وسطہا والمسیح اخرہا“ وہ امت کیونکر ہلاک ہو سکتی ہے جس کا اول میں ہوں وسط امام مہدی ہیں اور آخر مسیح علیہ السلام۔ (مکتوٰۃ ص ۵۸۳) یہاں یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ مہدی اور ہیں اور مسیح دوسرے یعنی وہی مسیح بن مریم، یہ مرزائیوں کا فریب ہے کہ مسیح و مہدی دونوں ایک ہی ہیں۔

## عمر مسیح علیہ السلام

ثبوت موت مسیح میں جناب حافظ صاحب حج الکرامہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ (عالم ان کے نزدیک یہ کتاب صحاح ستہ میں داخل ہوگی اس لئے کہ بقول ان کے صحیح حدیثیں تو فقط صحاح ستہ ہی میں ہیں) طوائف محققین نے اس قسم کی تمام حدیثوں کو جمع فرمایا جس میں حضرت مسیح کی عمر کا ذکر آیا اور جو فیصلہ مختلف احادیث میں تطبیق دینے سے کیا جاسکا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ۱۲۰ سال ان کی عمر شریف کی وہ پوری مدت ہے جو اس زمین پر انہوں نے گزاری اور گزاریں گے۔ مرزائیوں کی عام عادت ہے وہی مرض حافظ حنی میں بھی کہیں سے آدھا پاؤ جملہ

لے لیا۔ حدیث کا کوئی جزو ذکر کر دیا تحقیق کرنا پورے جملوں پر نظر ڈالنا یہ علماء کا کام۔ حافظ جی کو اس سے کیا نسبت۔ تحریر طویل ہوتی جاتی ہے۔ ورنہ ہم اس کی تفصیل بھی لکھ دیتے۔

### قبر مسیح علیہ السلام

سامعین جلسہ وعظ کو یاد ہوگا ہم نے ترجمہ حدیث کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور رسول اکرم ﷺ کے مقبرہ میں دفن ہوں گے۔ قبر اور مقبرہ کا فرق معمولی اردو پڑھے ہوئے بھی جانتے ہیں۔ حافظ جی کی دھوکہ دہی کے لئے کہ اول ہمارے لفظ کو بدلا پھر یہ بیہودہ بات تراشی کہ ”آنحضرت ﷺ کی قبر کو شہید کرنے کی کون مسلمان جرأت کرے گا۔“ پھر قبر کی وہ نئی اصطلاح بتائی جو مرزائی ڈکشنری میں انہیں آنکھ بند کر کے نظر آئی، اور اس تحریف نے بھی ان کی کچھ حاجت روائی نہ کی بلکہ موجب رسوائی ہوئی جیسا کہ عنقریب ظاہر ہوگا۔

ان تمام لغو باتوں کے جواب میں ہم اپنے ناظرین کو مختصر آدھ فیصلہ سنا دیں جو احادیث وآثار صحابہ میں موجود۔ ظاہری معنی کو بدلنا اور من گھڑت معنی لینا آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اصول کا مسئلہ ہے کہ یہ الحاد ہے۔ حدیث میں جو لفظ آئے ان کا کھلا مطلب آثار صحابہ میں دیکھئے۔ وہ امام بخاری جن کی تطبیق و روایت کردہ اثر پر بھی حافظ جی اور تمام مرزائی پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں۔ صاحب درمنثور اس کو ج ۲، ص ۲۳۵ پر بدیں الفاظ درج کرتے ہیں: ”اخرج البخاری فی تاریخہ عن عبد اللہ بن سلام قال یدفن عیسیٰ علیہ السلام مع رسول اللہ ﷺ وابی بکر وعمر فیکون قبرہ رابعاً“ عبداللہ بن سلام جو یہود کے سب سے بڑے عالم تورات و انجیل کے زبردست فاضل مانے جاتے تھے اور اجل اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ﷺ و ابو بکر و عمر کے ساتھ دفن کئے جائیں گے پس ان کی قبر اس مقبرہ میں چوتھی قبر ہوگی۔

اس مضمون کی ایک مرفوع حدیث علامہ ابن جوزی محدث نے ”کتاب الوقاء“ میں نقل کی ہے جس میں حضور سید عالم ﷺ فرماتے ہیں: ”ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکت خمساً واربعمین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر (مشکوٰۃ ص ۴۸۰)“ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف اتریں گے پھر شادی کریں گے۔ پھر ان

کی اولاد ہوگی اور ۴۵ برس کے بعد رحلت فرمائیں گے پھر میرے ساتھ میرے مقبرہ میں دفن کئے جائیں گے پھر حشر کو میں اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک مقبرہ سے اٹھیں گے ابو بکر و عمر کے درمیان۔ حافظ جی کہاں تک حدیثوں کا انکار کریں گے اور ان کی تحریف کو حدیثیں چلنے کب دیتی ہیں۔ قبر سے آپ نے باغ جنت مراد لیا تو قطع نظر اس کے قبر کا لفظ اس معنی کے لئے نہ بنایا گیا نہ اس معنی میں مستعمل نہ کسی لغت میں قبر کے یہ معنی آئے نہ زبان عرب کا کوئی محاورہ اس کا شاہد۔ لفظ دفن کو کیا سمجھئے گا۔ باغ میں آرام کرنے کو دفن ہونا کس ملک میں بولتے ہیں؟ قادیان کا مخصوص محاورہ ہو تو عجب نہیں کہ وہاں کی ہر بات بے ڈھنگی۔ دنیا میں تو سیر و تفریح آرام کو دفن نہیں بولتے۔ پھر قبر کے معنی باغ جنت لینے پر رابعاً کی صفت کیسے چسپاں ہوگی، اور باغ جنت میں قبروں کی شمار کا کیا طریقہ ہوگا۔ تحریف کرتے شرم تو نہ آئی ہوگی اور تحریف بھی ایسی کھلی اور باطل تحریف کے کوئی اجہل بھی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے پھر شادی کریں گے پھر اولاد ہوگی۔ ۴۵ برس دنیا میں رہ کر انتقال فرمائیں گے۔ پس میرے مقبرہ میں دفن کئے جائیں گے۔ ایسے موقع پر کوئی کون بھی نہ کہے گا کہ قبر کے معنی مزار نہیں باغ جنت ہے۔ باغ جنت تو ان حضرات کے غلاموں کے لئے بھی ہے اور ان کی قبریں قطعہ جنت بنی ہوئی ہیں مگر قبر کے معنی کا انکار تو کسی طرح بننا ہی نہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر (حشر کو) میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک مقبرے سے اٹھیں گے۔ ابو بکر و عمر کے درمیان۔ اب اگر قبر کے معنی واقعی مراد نہ لو، تو باغ جنت یہاں کس طرح مراد ہو سکتا ہے؟ حدیث شریف کا ایک ایک کلمہ حافظ کی اس تحریف کو باطل کر رہا ہے۔ مرزائیوں کی غیرت پر حیرت ہے کہ انہیں ایسی صریح باطل بات زبان سے نکالنے کی جرأت کس طرح ہوتی ہے۔

حافظ جی نے ہماری نقل کردہ ایک حدیث پر اور ہاتھ صاف کرنے کی کوشش بے جا کی۔ مگر بے چاروں نے حدیث پڑھی ہوتی تو یہ تمیز آتی کہ حدیث پر تنقید کس طرح کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ناحق براہ عناد یہ لکھا کہ فلاں حدیث مستحکم نہیں۔ ان کے لئے سیدھی سی بات وہی تھی جو مرزا قادیانی نے کہا کہ ”جو حدیث ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ ردی کی ٹوکری میں۔“ معاذ اللہ وہ ناحق صاحب کفر و اصرار کو بدنام کرتے ہیں اور ابن عساکر کی تمام روایتوں کو ناقابل اعتبار بتاتے ہیں۔ انہیں اتنی تمیز کہاں کہ کسی کتاب کو مستحکم کہنا تو کیا حدیث کو ضعیف کرے گا۔ اگر خاص

کسی حدیث پر جرحِ مبہم کی جائے وہ بھی پایہ اعتبار سے ساقط نہیں ہوتی اور جرحِ مبہم کسی حدیث کو ناقابل استدلال نہیں کر سکتی ورنہ ہر حدیث کو جو چاہے نامستمر بنا دیا کرے۔ کبھی اصول حدیث کو خواب میں بھی دیکھا ہے۔ کچھ بودگی تھی تو وہ ضعیف لکھی ہوتی اور اور ایک حدیث ضعیف بھی ہوتی تو جب اس مضمون کی بکثرت صحیح حدیثیں وارد ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے تو انکار کا کیا محل؟ بلکہ فرض کرو کوئی اور حدیث اس مضمون کی نہ ہوتی صرف ایک حدیث ہی ہوتی اور وہ بھی ضعیف ہوتی تو کیا قابل انکار تھی؟ بقول مرزا قادیانی تھی تو حدیث ہی، کس مدعی مہدیت و مسیحیت کے الہام کی ڈیک تو نہ تھی کیوں نہ مانی جاتی۔ ضعیف حدیث اس وقت چھوڑی جاتی ہے جبکہ وہ قوی و صحیح کے معارض ہو، اس کا معارض ہی کہاں ہے؟ انیسوس بے علمی اور مدارک علیہ میں دخل دے کر اپنا ایمان برباد کرنا۔ اللہ ہدایت کرے۔

مواظف امام مالک کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے یہ معنی نکالنا کہ حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں تین مقبروں ہی کا ہونا مقدر تھا۔ حافظ جلی کی مزید جہالت کا ثبوت ہے۔ حدیث میں اس کی رتق بھی نہیں یہ خالص افتراء اور محض بہتان ہے۔ غیرت ہو تو حدیث میں وہ لفظ بتائیں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ حجرہ صدیقہ میں تین قبروں ہی کا ہونا مقدر تھا۔ آپ کے دین کا مدار ایسی افتراء پر درازیوں پر ہی ہے؟ ثبوت شے کا نفی ماعدہ کی دلیل کس نے مانا ہے؟ یہ تو ایک علمی اصول ہے آپ اس کو نہ سمجھ سکے تو اتنا سمجھنا بھی آپ کی عقل سے بالاتر تھا کہ خواب میں کسی کو ایک شے کے پیدا ہونے کی خبر ملنا اس کے اور اولاد ہونے کا انکار نہیں۔ خواب کے ذریعہ سے حضرت امام حسنؓ کی ولادت کی خبر دی گئی تو کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ حضرت خاتونِ جنت کے اور اولاد ہی نہ ہوگی۔ اگر حضرت صدیقہؓ کے اس خواب میں ان کے حجرہ مبارکہ میں حضور سید عالم ﷺ اور شیخین جلیلین کے مدفون ہونے کی خبر ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیقہؓ کے زمانہ میں یہ تین حضرات آرام فرمائیں گے۔ نہ یہ معنی کہ پھر اور قبر ہی نہ ہوگی۔ حضرت سح علیہ السلام کا دفن ان کے زمانہ میں نہیں اس لئے ان کی خواب میں اس کا بیان بھی نہیں اور بیان کی حاجت بھی کیا جبکہ صحیح حدیثوں میں صراحت کے ساتھ اس کا بیان موجود ہے تو کیا خواب میں اس کا بیان نہ ہونے سے ان تمام صحیح احادیث کا انکار جائز ہو جائے گا؟

لغس امر یہ ہے کہ مرزائی اور حدیث سمجھیں؟ وہ تو سمجھے ہیں، نہ سمجھیں گے، دین میں



سمجھ کے لئے ایمان شرط، جب شرط نہیں تو مشروط کہاں سے آئے؟

حدیث کو مرزا قادیانی اور ان کے حواریین کیا سمجھ سکتے ہیں جبکہ بقول حافظ جی مدتوں تک قرآن کریم کے لفظوں کو بھی مرزا قادیانی نہ سمجھ سکے بلکہ ان کے الہام کرنے والے نے بھی ان کو نہ سمجھایا برسوں ایسے عقیدہ میں چلا رہے دیا جو ان کے ظلیفہ نمبر ۲ کے نزدیک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ حافظ جی کا دعویٰ ہے کہ ”جب تک صریح طور پر مرزا قادیانی کو خدائے تعالیٰ نے خبر نہیں دی وہ بھی مسلمانوں کے رسمی عقیدہ کو تسلیم کرتے رہے۔“ کیا حافظ جی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں کوئی عقل والا رہا ہی نہیں جو اتنی موٹی بات کو بھی مان جائے کہ کسی معاملہ میں حرام و حلال جائز و ناجائز کا امر یا نہیں دوسری چیز ہے اور ایک تاریخی واقعہ بلکہ ایک لفظ کے لغوی معنی دوسری چیز، مرزا قادیانی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ”توفیٰ کے معنی درحقیقت موت ہیں۔“ تمام آیتیں تمام حدیثیں تمام لغت عرب بقول ان کے سب کے سب اس کی تائید کرتے ہیں پس اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ۔

۱..... مدتوں برسوں مرزا قادیانی تمام آیتوں، تمام حدیثوں، تمام لغت عرب کے معنی (بقول خود) غلط سمجھتے رہے اس وقت تک ان کے نزدیک بھی تمام آیتوں تمام حدیثوں تمام لغت عرب میں توفیٰ کے معنی درحقیقت موت کے نہ تھے اب اس کے بعد سمجھے تو لغت عرب کے ذریعہ نہ سمجھے قرآن کے ذریعے نہ سمجھے حدیث کے ذریعہ نہ سمجھے بلکہ (بزرگ خود) صرف اپنے الہام سے سمجھے، چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ سچ بن مریم فوت ہو چکا ہے۔“ اس الہام سے مرزا قادیانی یہ سمجھے کہ ”توفیٰ کے معنی درحقیقت موت ہی کے ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۶۱، خزائن ج ۳ ص ۴۰۲)

پس اب نہ (مرزائیوں کو) قرآن سے مطلب، نہ حدیث سے غرض، نہ لغت عرب سے بحث، صرف یہ دیکھ لینا ہے کہ مرزا قادیانی کا الہام سچا یا جھوٹا خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ اس کی پچھان خدائے قدوس نے قرآن کریم میں بتا ہی دی کہ: ”لو کان من عند غیر اللہ لو جدوا فیہ اختلافاً کثیراً“ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے یعنی جن الہاموں میں اختلاف ہو وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ انصاف پسند حضرات بغور دیکھیں کہ اس مرمومہ الہام کی رو سے انسی متوفیک کے معنی ہوئے ”میں تجھے مارنے والا ہوں۔“ چنانچہ بقول مرزا قادیانی حضرت صلی علیہ السلام مر گئے۔ اب دوسرا مرمومہ الہام دیکھئے جناب مرزا قادیانی (براہین احمدیہ ص ۵۱۹، خزائن ج ۱ ص ۶۶۴ حاشیہ) میں فرماتے ہیں کہ: بعد اس کے الہام ہوا ینعیسی انی متوفیک ورافعک الی۔ اے صلی (یہاں

عیسیٰ سے مراد جناب مرزا قادیانی ہیں اس لئے کہ یہ الہام ان پر ہو رہا ہے ان کے متعلق ہے۔ (معاذ اللہ) ”میں تجھے کامل اجر بخشوں گا نیز فرمایا اے عیسیٰ (مرزا قادیانی) میں تجھ کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔“

خدارا انصاف شرط ہے اللہ! کوئی غور کر کے کہ اس مرمومہ الہام میں جبکہ لفظ متوفیک مرزا قادیانی کے لئے استعمال کیا گیا تو الہام ہی میں اس کے معنی ”کامل اجر بخشوں گا۔“ فرمائے گئے ”پوری نعمت دوں گا۔“ بتائے گئے اور جب یہی وحی ربانی حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق قرآن حکیم میں ذکر ہوئی تو مرزا قادیانی ہی کے مرمومہ الہام میں یہ معنی بتائے گئے کہ ”وہ فوت ہو چکا ہے۔“ وہی لفظ جب مرزا قادیانی کے لئے الہام میں بولا گیا تو الہام کرنے والے نے اور معنی بتائے وہی لفظ بالکل اسی شان سے اسی عبارت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے لئے آیا تو الہام کرنے والا دوسرے معنی بتائے۔ یا تو یہ مرزا قادیانی پر الہام کرنے والا دروغ گھورا حافظہ نباشد کا مصداق ہے۔ یا الہام کا مدعی ہی مفتری و کذاب۔

سچے خدا کا الہام ہمیشہ سچا

اس شکل کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ مرزائی صاحبان اپنی آئندہ تحریروں میں ”توفی“ کے معنی کے متعلق جہاں اور شرطیں لکھتے رہے اب اس شرط کا اضافہ کر دیں گے اور یہ لکھیں گے کہ ”توفی باب تعلق سے ہونا فاعل اللہ ہو مفعول بہ خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم مسیح تا صری علیہ السلام ہوں تو اس کے معنی موت ہی کے ہوں گے۔“ ورنہ اگر وہ یہ شرط نہ لگائیں گے تو ان کے چیلنج کے جواب میں مرزا قادیانی کے مرمومہ الہام (براہین احمدیہ ص ۵۱۹، ۵۵۷، خزائن ج ۱ ص ۶۱۹، ۶۲۴) کو پیش کر دیا جائے گا۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی کو بھی تو اعجازی کلام کا دعویٰ ہے ہی اور اس کے معنی چونکہ وہیں (بہ زعم مرزا قادیانی) الہام ہی میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ لہذا مرزائیوں کو ان کے ماننے میں انکار بھی نہ ہوگا۔

۲..... حافظہ جی نے اپنی اس عبارت میں یہ بھی مان لیا کہ ”حیات مسیح مسلمانوں کا رسمی عقیدہ تھا۔ اسی لئے مرزا قادیانی اسے تسلیم کرتے رہے۔“

پس جب حافظہ جی کو یہ تسلیم ہے کہ حیات مسیح تمام مسلمانوں کا عقیدہ تھا تو اس میں بھی انہیں تامل نہ ہوگا کہ اس کے بعد (مرمومہ الہام ہی کے ذریعہ یہی) جو عقیدہ ممت مسیح کا سکھایا وہ اس عقیدہ کی خلاف ایک نیا طریقہ تھا۔ اب ہم حدیث شریف میں دیکھتے ہیں کہ پرانے طریقے کی خلاف نیا طریقہ بتانے والے کون ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے۔

حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ”ان بین یدی الدجال کذابون ثلثون او اکثر قال ما ایتهم قال ان یاتوک بسنة لم تکنوا علیہا یغیرون بہا سنتکم و دینکم فاذا رأیتموہم فاجتنبوہم و عادوہم (رواہ الطرمذی عن ابن عمر)“ دجال سے پہلے تیس یا زیادہ کذاب ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ تمہارے پاس وہ طریقہ لے کر آئیں گے جس پر تم پہلے نہ ہو گے وہ اپنے اس طریقہ سے تمہارے طریقہ اور دین کو بدل ڈالیں گے جب تم انہیں دیکھو تو ان سے بچتا اور ان سے عداوت رکھنا۔ (کنز العمال ج ۷، ص ۱۷۱)

ناظرین! آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، حضور ﷺ نے ہمیں ذرا ذرا سی باتوں کی بھی خبریں پہلے ہی سے دیں، ہر قسم کی پچھانیں بتادیں، نفہل انتم منتہون! اب بھی اسی دجالی فتنہ سے نہیں بچو گے؟

حافظ جی کی دو درجیوں کا جواب مختلف عنوانوں کے ماتحت ختم ہوا۔ ان کا اس دور و رقی میں آخری جھوٹ کہ (حافظ جی کی) ”ان تحریروں نے ہمیشہ پریشان کیا ہے۔“ مارشس والوں پر روشن کہ پریشان ہم تھے یا حافظ جی، جواب کا ”دندان شکن“ ہونا دلائل سے ظاہر۔ بہر صورت ہمیں ان فضولیات سے کچھ سروکار نہیں۔ وہ ہمیں اس سے زیادہ سب و شتم کر لیں لیکن خدار اللہ جل و علا و رسول اللہ ﷺ پر حملہ سے باز آئیں۔

باوصف مشاغل کثیرہ چلتے چلتے قلم برداشتہ دو نمبروں کے جواب دے ہی چکا تھا اب کہ جہاز میں سفر کر رہا ہوں، چاروں طرف نصاریٰ کا جہوم ہے خود میری کیمین میں چار کیتھولک پادری میرے قریب کے کیمین میں پادریوں کا انسپکٹر پرنٹنٹ پادری وغیرہ بھی بہت سے آزاد خیال افراد میں بھی بہت سے مچھلے..... میرا وہی حال ہے جو مارشس میں تھا چاروں طرف مختلف قسم کے مسائل پوچھنے والے، جہوم کئے ہوئے اور میں تنہا جواب دینے کے لئے۔ یکسوئی کے ساتھ تحریر کی مہلت عفا، پھر اس پر یہ عجیب ماجرا کہ ایک طرف دائیں آنکھ میں سخت درد، دوسری طرف تکلیف درد۔ معاہدہ تعالیٰ اسی حالت میں جو کچھ لکھا گیا وہ حاضر۔

مالک عالم کلام میں اثر دے جو ناظرین کے قلوب کو الوار ہدایت سے بھر دے۔ اگر اسے دیکھ کر ایک مرزائی بھی راہ راست پر آ گیا تو یہ بہترین ثمرہ ہوگا۔

مجھے مسودے کو صاف کرنا تو کجا بغور نظر جانی کی بھی فرصت نہیں۔ اس لئے ناظرین سے التجا ہے کہ اگر کہیں سہو دستی پائیں معاف فرمائیں اور بالفرض ناقل و کاتب صاحب سے

کتابت میں غلطی ہو تو مجھے ذمہ دار نہ بنائیں بلکہ خود اصلاح فرمائیں، دعائے خیر میں ہمیشہ یاد کرتے رہیں کہ مالک عالم اعدائے دین کی سرکوبی اور دینِ ستین کی صحیح خدمت کے لئے حرید قوت و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ طہ و یسین ﷺ و علی اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین!

محمد عبداللطیم الصدیقی قادری

کیمبن ۲۱۹، ایس ایس جنرل وارڈ..... یکم مئی ۱۹۴۹ء

تقریظ جلیل

صدر الافاضل بدرالہما مثل خلیفہ اعلیٰ حضرت

علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین قادری اشرفی حنفی مراد آبادی

بسم اللہ الرحمن الرحیم • نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم!

عزیز و محبی حامی دین ناصر شرع ستین مولانا الحاج شاہ محمد عبداللطیم صاحب صدیقی سلمہ اعلیٰ الولی و حفظہ من شر کل غوی و ایدہ بالاید القوی نے مرزائی کا قلم برداشتہ جواب سفر کی رواروی اور جہاز پر ملاقا توں کے ہجوم میں ایسا لکھا کہ ہاید و شاید۔ حقیقت واضح ہو گئی اور مرزائیت کے بطلان کا پردہ فاش ہو گیا۔

مرزائی مبلغ کا رد بجز اللہ مبلغ وجہ پر ہوا اور مرزائی دین کی بنیادیں حوٹل ہو گئیں سلامت بیان، روانی مضمون، قوت دلیل، حسن ادا ایک ایک بات قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب مولانا کی اس تحریر کو کم گشتان راہ کے لئے ذریعہ ہدایت بنائے۔ درحقیقت مولانا موصوف اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے دور دراز ممالک اور جزائر میں پہنچ کر بروجر کے سفروں کی صعوبتیں برداشت کر کے اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے اپنی خدمتیں وقف کر دی ہیں۔ جزاء اللہ تعالیٰ خیر الجزاء!

کتبہ العبد المعتصم بجنبہ المتین

محمد نعیم الدین المراد آبادی مقرر لہامادی!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعلنا من آل بيته الطيبين الطاهرين  
الذين هم خير البرية

# ختم نبوت



حضرت مولانا مفتی غلام مرتضیٰ میانوی

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اعلم ان ختم النبوة على سيدنا محمد ﷺ تدل عليه دلائل:  
منها..... الاول:

قوله تعالى: ﴿ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب: ٤٠)﴾ لان قوله تعالى: "خاتم النبيين" حجة قاطعة على ختم النبوة على محمد ﷺ. ولهذا كان اشفق وارحم على امة لان النبي الذي بعده نبي يجوز ان يترك شيئاً من النصيحة والبيان لانها يستدرکها من بعده واما من لا نبي بعده فيكون اشفق وارحم على امته واهدى بهم من كل الوجوه.

منها..... الثانى:

قوله تعالى: ﴿كان الناس امة واحدة يبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس (بقره: ٢١٣)﴾ لان هذه الآية تفيد ان كل نبي لا يكون نبياً فى اصطلاح الشرع الا من يجمع الصفات الاربعة:

الاولى: ان يكون مبشراً

والثانية: ان يكون منذراً

والثالثة: ان ينزل معه الكتاب بالحق

والرابعة: ان يكون سفيرا بين الخالق والمخلوق فى الهداية

والافاضة كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ليحكم بين الناس (بقره: ٢١٣)﴾

فلولا ختمت النبوة على سيدنا محمد ﷺ وجاز ان يكون بعده

نبي يلزم ان ينزل معه الكتاب كما توجبه الصفة الثالثة فيقده فى كمال

القرآن فى التعليم فلا يصدق قوله تعالى: ﴿اليوم اكملت لكم دينكم

(مائده: ٣)﴾ ثم اعلم ان الآية المصدرة كما تدل على ختم النبوة على سيدنا

محمد ﷺ كذلك تدل على امرين آخرين.

الأول: ان النبوة فى اصطلاح الشرع لا تكون الا نبوة تشريعية لا ظليما وپروزيا كما اخترعه اهل زماننا فان يستل ان هارون عليه السلام كان نبيناً ولم يكن صاحب أمة ولا كتاب يجاب بان هارون عليه السلام كان صاحب أمة وصاحب كتاب.

اما الاول فلانه تعالى قال فى البقرة ﴿ال موسى وآل هارون﴾ فذكر ال موسى أولاً وآل هارون عليهما السلام ثانياً استقلالاً فكان كل واحد منهما صاحب أمة فال موسى عليه السلام هم الذين استفادوا فى بركاته وآل هارون هم الذين استفادوا فى فيوضاته.

واما الثانى فلانه تعالى قال فى الضفّت ﴿واتينهما الكتاب المستبين﴾ اى اتينا كل واحد منهما الكتاب المستبين ونظيره قوله تعالى ﴿وانزل معهم الكتاب﴾ (بقره: ٢١٣) فان المراد انزل مع كل واحد منهم الكتاب اذ ارادة انزالا لكتاب الواحد مع جميعهم ظاهر البطلان.

والثالث ان النبى فى اصطلاح الشرع لا يكون نبياً الا من بعث فى الله بالهديات والوحى وجعل سفيرا بين الخالق والمخلوق فى تبليغها واشاعتها بين الناس كما تقتضيه الصفة الرابعة ولا يكون نبياً بمجرد الوحى والمكائمة والا يلزم ان يكون الحواريون انبياء حيث قال تعالى فى المائدة ﴿او حيث ال الحواريين﴾ ويدل على نفيه وبطلانه قوله ﷺ لم يكن بينى وبينه (اى عيسى عليه السلام) نبى فمن توهم ان النبوة مجرد الوحى ومكائمة الملك فقد حاد عن الصواب الى ترى الى قوله تعالى فى القصص ﴿واوحينا الى ام موسى﴾ مع انها لم تكن نبية ثم اعلم ان النبى بالمعنى اللغوى اى المخبر فى الله سواء كان لا فاضة الناس ديناً او امراً ذاتياً لا يجوز ان يستعمل بعد سيدنا محمد ﷺ فيمن بعده لتجانس اللفظى ولذالم يجترأ ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على على ان يستعمل فيهم لفظ النبى بالمعنى اللغوى مع انهم فنوا فى نبينا ﷺ وكانوا اخيار قرن

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ ﷺ "خير القرون قرنى" ولذا لم يجوز شبابا اهل الجنة والحسن والحسين استعماله فهما مع انهما كانا معاً جمال النبى ﷺ ظاهراً وباطناً ولذا لم يخبر قطب الاقطاب الشيخ عبدالقادر الجيلانى قدس سره استعماله فيه مع انه قال خضنا بحراً لم يقف على ساحلة الانبياء اى فنينا فى النبى الامى الذى هو كالبحر فى السخاء فمن ادعى النبوة بعد نبينا ﷺ لم يكن مجدداً ولا مهدياً ايضاً لان الافتراء ليس من شان المجددية والمهدوية.

### منها..... الثالث

قوله تعالى: ﴿تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾ (فرقان:١) ﴿اعلم ان هذه الاية تفيد ان نبينا ﷺ افضل العالمين بل افضل النبيين.

اما الاول: فلانه ينهم منها ان نبينا ﷺ كان بالكتاب الالهى للعالمين نذيراً ومن كان بالكتاب الالهى للعالمين نذيراً فهو نبى العالمين والعالمون امته والنهى افضل من امته.

اما الثانى: فلانه يتجلى منها ومن قوله تعالى ﴿اليوم اكملت لكم دينكم﴾ (مائدة:٣) ﴿ان نبينا ﷺ بعث بالكتاب الالهى الجامع الكامل لتبليغ العالمين كلهم اجمعين والتبليغ الذى قسم من قبل بين الف نبى او الفين فوض والزم اداك الى نبينا الواحد ﷺ فنبينا ﷺ اجمع واكمل القوى فى الحقيقة وفى علم الله سبحانه فهو الانسان الاكمل فى سائر النبيين فهو افضل النبيين فلو جاز ان يكون بعد نبينا ﷺ نبى يلزم ان يكون النبى المتأخر افضل فى نبينا ﷺ وهو ظاهر البطلان لما مر. اما اللزوم فلانه كما يتحرك كل متحرك لتحصيل المطلوب واذا وجد مطلوبه سكن ووقف كذلك تحركت النبوة فى نبى الى نبى ثم الى نبى لانه كان مطلوبها الانسان الاكمل فلم تقف على آدم عليه السلام ولا على نوح عليه



السلام ولا علیٰ ابراهیم علیہ السلام وغیرہم فی الانبیاء فاذا وصلت الی  
الذات المحمدیة ووجدتها سکنت ووقفت لانه الانسان الاجمع الاكمل وهو  
مطلوبها وقد حصل فلوا جاز ان يكون بعد نبینا ﷺ نبی ولم تختم النبوة  
علیه یلزم ان لا يكون الانسان الاجمع الاكمل بل يكون النبی المتاخر  
الانسان الاجمع الاكمل فهو افضل منه ویبطل قوله تعالیٰ: ﴿تبارک  
الذی..... الخ (ملک: ۱)﴾ كما مر فی التفصیل ولما كان فی ارادة الله الازلیة ان  
تختم النبوة علی الواحدة كما ابتدأت فی آدم علی الواحدة وتذهب الاجنبیة  
وتصیر بنو آدم قوماً واحداً كما انهم تحت نوع واحد بعث تعالیٰ بالکتاب  
الجامع الکامل الانسان الجامع الکامل الی العالمین کلهم نبیاً مشترکاً واحداً  
فصارت بنو آدم قوماً واحداً اختتاماً كما كانوا ابتداءً  
وسیل اول

قوله تعالیٰ: ”ما كان محمداً ابا احمد من رجالکم ولكن رسول الله  
وخاتم النبیین ط وكان الله بكل شیء علیماً (الاحزاب: ۴۰)“ ﴿یعنی محمد ﷺ﴾  
تہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے  
ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ﴿

آنحضرت ﷺ کی ابوت روحانی کا سلسلہ تا قیامت غیر منقطع ہے

اس آیت کا یہاں کیا تعلق ہے؟ اصل مضمون تو آنحضرت ﷺ کا اسوہ حسنہ ہونا تھا اور  
یہ کہ مومنوں کا تعلق آپ سے روحانی تعلق ہے اور آپ مومنوں کے لئے روحانی طور پر باپ ہیں،  
اسی مضمون کو یہاں ادا کیا ہے اور بتایا ہے کہ محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں  
لیکن چونکہ اس سے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی ”ابوت“ کی نفی کا اشتہاء پیدا ہوتا تھا اس لئے  
حرف استدراک لکن سے فی الفور اس کا ازالہ کیا اور فرمایا: ”رسول الله“ وہ اللہ کے رسول ہیں،  
یعنی روحانی طور پر تمہارے باپ ہیں، کیونکہ ہر ایک رسول اپنی امت کے حق میں روحانی طور پر  
باپ کا حکم رکھتا ہے، جس طرح جسم کی ابتداء باپ سے ہوتی ہے، روحانیت کی ابتداء رسول سے  
ہوتی ہے۔ پس ”رسول الله“ کا لفظ لا کر آپ ﷺ کی ابوت روحانی کو قائم کیا۔ لیکن یہاں پھر

ایک وہم پیدا ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے رسولوں کے بعد دوسرے رسول آجاتے رہے تو پہلے رسولوں کی ابوت روحانی منقطع ہو جاتی رہی۔ کیا اسی طرح رسول اللہ کے ساتھ ہوگا؟ تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا بلکہ آپ ”خاتم النبیین“ بھی ہیں، یعنی آخری نبی اور آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس لئے آپ کی ابوت روحانی کا سلسلہ بھی ناقیامت منقطع نہ ہوگا۔ بلکہ جو فیض ملے گا وہ صرف محمد رسول اللہ ﷺ سے ہی ملے گا اور اسی فیض کے پانے سے ہی آپ کی امت کے لوگ مثیل انبیاء ہوں گے۔ ”علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل“ وہ نبی نہ ہوں گے۔ پرنبیوں کی طرح ہوں گے وہ نبی نہ ہوں گے۔ پر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا۔ ”رجال یکلّمون من غیر ان یکونوا انبیاء“ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام معطل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی دلیل ہے کہ تمام دنیا کی ضروریات مذہبی کے متعلق مکمل ہدایات رسول اللہ ﷺ پر نازل فرمادیں۔ اسی لئے آیت کا ختم ”بکل شیء علیما“ پر کیا ہے۔

### تفسیر خاتم النبیین باللغة

خاتم کے معنی ”مہر“ بھی ہیں اور ”آخر“ بھی، لیکن کسی قوم کے ”خاتم“ اور ”خاتم“ سے مراد ان میں سے ”آخری“ ہوتا ہے: ”ختام القوم وختامهم وختامهم اخرهم“ (لسان العرب) اور ”خاتم“ اور ”خاتم“ ہمارے نبی ﷺ کے اسماء میں سے ہیں اور ”خاتم النبیین اور ”خاتم النبیین“ کے معنی ہیں آخری نبی (لسان العرب) اور آپ ﷺ کو ”خاتم النبیین“ کہا۔ اس لئے کہ نبوت کو آپ کے ساتھ ختم کر دیا (مفردات امام راغب) ”خاتم النبیین“ کے معنی لغت سے اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہیں اور کسی قوم کا ”خاتم“ یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ یعنی ان میں آخری ہونا، پس نبیوں کے ”خاتم“ کے معنی نبیوں کی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔

### تفسیر خاتم النبیین بالاحادیث النبویة

یہاں ان سب احادیث کے نقل کرنے کی گنجائش نہیں جن میں ”خاتم النبیین“ کی تشریح کی گئی ہے یا جن میں آنحضرت ﷺ کے بعد نبی کا نہ آنا بیان کیا گیا ہے اور یہ احادیث متواترہ ہیں جو صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبی نہیں۔

حدیث اول: جس میں لفظ ”ختم النبیین“ کی تفسیر زبان نبوی ﷺ سے مروی ہے۔  
متفق علیہ ہے۔ ”مثلی ومثل الانبیاء کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه واجمله  
الاموضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون  
هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین“ یعنی میری مثال اور  
نبیوں کی مثال ایک شخص کی مثال ہے۔ جس نے ایک گھر بنایا اور اسے اچھا خوبصورت بنایا سوائے  
کونے کی اینٹ کے تو لوگ اس کے گرد گھومتے اور تعجب کرتے اور کہتے اینٹ کیوں نہیں لگائی سو  
میں وہ اینٹ ہوں اور میں ”خاتم النبیین“ ہوں۔

دوسری حدیث: ابو داؤد اور ترمذی میں لفظ ”ختم النبیین“ کی تفسیروں کی ہے: ”انہ  
سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لانی  
بعدی“ یعنی میری امت میں ”تیس کذاب“ ہوں گے ہر ایک ان میں سے جھوٹا دعویٰ کرے گا  
کہ وہ نبی ہے اور میں ”ختم النبیین“ ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

اور تیسری حدیث: جو مسلم، ترمذی میں نسائی کی ہے یہ ذکر ہے کہ مجھے چھ چیزوں میں  
دوسرے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ جن میں چھٹی یہ ہے کہ ”ختم بسی النبیین“  
یعنی میرے ساتھ نبی ختم کئے گئے ہیں، وہاں بجائے ”خاتم النبیین“ کے یہ لفظ رکھ کر بتا دے کہ  
”خاتم النبیین“ سے یہی مراد ہے نہ کچھ اور۔

وہ احادیث جن میں آپ ﷺ کے آخری نبی ہونے کا ذکر ہے اور وہ بھی درحقیقت  
”خاتم النبیین“ کی تفسیر ہی ہیں۔ بہت سی ہیں مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل میں نبی  
کے بعد نبی آتا تھا۔ لیکن میرے بعد نبی نہ آئے گا۔ بلکہ خلفاء ہوں گے اور ایک حدیث میں ہے کہ  
میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتا اور ایک میں ہے کہ علیؓ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون  
کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ایک میں ہے کہ میرا نام عاقب ہے  
اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو ”انا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی“  
اور ایک میں ہے کہ نبوت میں کچھ باقی نہیں رہا مگر بشارات۔

اور ایک میں ہے کہ نبوت اور رسالت منقطع ہوگئی۔

اور دس حدیثوں میں ہے کہ ”لانی بعدی“ یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

اور ایسی حدیثیں جن میں آپ ﷺ کو آخری نبی کہا گیا ہے چھ ہیں۔  
اس قدر زبردست شہادت کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا آنحضرت ﷺ کے آخری  
نبی ہونے کا انکار کرنا بیانات اور اصول دینی سے انکار ہے۔

### لو عاش ابراہیم لکان نبیا پر بحث

اور ”ختم نبوت“ کے خلاف جو کچھ احادیث میں سمجھا گیا ہے وہ ابن ماجہ کی ایک  
حدیث ہے۔ ”لو عاش ابراہیم لکان نبیا“ مگر اول اس سے امکان نبوت نہیں نکلتا، بلکہ اس کی  
مثال ایسی ہی ہے جیسے ”لوکان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا“ جس طرح یہاں دو خداؤں کا  
ہونا اور فساد دونوں ممتنع امر ہیں، اسی طرح وہاں ابراہیم کا زعمہ رہتا اور اس کا نبی ہونا دونوں ممتنع  
ہیں۔ دوسرے اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، کیونکہ اس میں ابو شیبہ ابراہیم ہے۔ جسے ضعیف  
کہا گیا ہے۔ تیسرے اس کی تشریح دوسرے اقوال سے ہوتی ہے۔ مثلاً بخاری میں عبد اللہ بن ابی  
اوفی کا قول: ”لو قضی بعد محمد ﷺ تنبی عاش ابراہیم ولكن لا نبی بعده“  
یعنی اگر آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی مقدر ہوتا تو آپ ﷺ کا بیٹا ابراہیم زعمہ رہتا۔ لیکن آپ  
کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یا انس کا قول: ”ولو بقی لکان نبیا لکن لم یبق لان نبیکم  
آخر الانبیاء“ یعنی اگر ابراہیم زعمہ رہتا تو نبی ہوتا۔ لیکن وہ باقی نہیں رہا کیونکہ تمہارے نبی  
آخری نبی ہیں۔

### حضرت عائشہ کا قول

”قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعده“ اور ”ختم نبوت“ کے  
خلاف ایک قول حضرت عائشہ کا پیش کیا جاتا ہے: ”قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا  
نبی بعده“ یعنی خاتم النبیین کو اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کا یہ مطلب لیا  
جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک ”ختم النبیین“ کے معنی کچھ اور تھے۔ کاش وہ معنی بھی  
کہیں مذکور ہوتے، حضرت عائشہ کے اپنے قول میں ہوتے۔ کسی صحابی کے قول میں ہوتے۔ نبی  
کریم ﷺ کی حدیث میں ہوتے۔ مگر وہ وطن قائل ہیں اور اس قدر حدیثوں کی شہادت جن میں  
”خاتم النبیین“ کے معنی ”لا نبی بعدی“ کئے گئے ہیں۔ ایک بے سند قول پر بس پشت پیکلی  
جاتی ہے۔ یہ عرض پرستی ہے۔ خدا پرستی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تیس حدیثوں کی شہادت ایک بے

سند قول کے سامنے روکی جاتی ہے۔ اگر اس قول کو صحیح مانا جائے تو کیوں اس کے معنی یہ نہ کئے جائیں کہ حضرت عائشہؓ کا مطلب یہ تھا کہ دونوں باتیں اکٹھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ”خاتم النبیین“ کافی ہے۔ جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے آپؐ کے سامنے کہا ”خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ“ تو آپؐ نے کہا ”خاتم الانبیاء“ کہنا تجھے بس ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپؐ کا مطلب ہو کہ جب اصل الفاظ ”خاتم النبیین“ واضح ہیں اور احادیث نبویہ سے واضح ہو چکے ہیں تو وہی استعمال کرو۔ یعنی الفاظ قرآنی کو الفاظ حدیث پر ترجیح دو۔ اس سے یہ کہاں نکلا کہ آپؐ الفاظ حدیث کو صحیح نہ سمجھتی تھیں اور اتنی حدیثوں کے مقابل اگر ایک حدیث ہوتی تو وہ بھی قائل قبول نہ ہوتی چہ جائیکہ صحابی کا قول ہو جو حدیث کے مقابل شرعاً حجت نہیں۔

**صراط الذین انعمت علیہم!**

”انعمت علیہم“ سے کون مراد ہیں؟ قرآن کریم خود تشریح فرماتا ہے کہ ”الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصلحین (النساء)“ یعنی وہ انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالح ہیں۔ یہاں نبی کا لفظ آجانے سے بعض لوگوں کو یہ ٹھوکر لگی ہے کہ خود ”مقام نبوت“ بھی اس دعا کے ذریعہ سے مل سکتا ہے اور گویا ہر مسلمان ہر روز بار بار ”مقام نبوت“ کو ہی اس دعا کے ذریعہ سے طلب کرتا ہے۔ یہ ایک اصولی غلطی ہے۔ اس لئے کہ نبوت محض موبہ ہے اور نبوت میں انسان کی جدوجہد اور اس کی سعی کو کوئی دخل نہیں ایک وہ چیزیں ہیں جو موبہ سے ملتی ہیں اور ایک وہ جو انسان کی جدوجہد سے ملتی ہیں۔ نبوت ”اذل“ یعنی پہلی قسم میں سے ہے جیسا کہ: ”الرحمن علم القرآن“ سے بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ الرحمن کے معنی بلا بدل اور بلا جدوجہد رحمت کرنے والا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کوشش کر کے اور دعائیں مانگ مانگ کر، اور خدا سے التجائیں کر کے نہ پہلے نبی بنا، نہ آئندہ بنے گا بلکہ خود اللہ تعالیٰ ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ (الانعام)“ کے ماتحت جب چاہتا کسی کو نبوت و رسالت کے منصب پر کھڑا کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اپنی کامل ہدایت کی راہیں آنحضرت ﷺ پر کھول کر تمام آنے والی نسلوں کے لئے مقام نبوت و رسالت کو ایک برگزیدہ انسان کے نام کے ساتھ مخصوص کر دیا اور اس کو ”النبی“ اور ”الرسول“ کے نام سے پکار کر بتا دیا کہ اب دوسرا نبی اور دوسرا رسول نہیں ہوگا۔ پس مقام نبوت کے لئے دعا کرنا ایک بے معنی فقرہ ہے اور اسی شخص کے منہ سے نکل سکتا ہے جو اصول دین سے ناواقف ہے۔

اگر یہ دعائوت کے حاصل کرنے کے لئے ہوتی تو کم از کم آنحضرت ﷺ کو ہی مقام نبوت پر کھڑا ہونے سے پہلے سکھائی جاتی مگر قرآن کریم میں اس کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ مقام نبوت ملنے کے بعد سکھائی گئی۔ نبوت عطا فرما کر اس دعا کا سکھانا صاف بتاتا ہے کہ حصول نبوت کے لئے یہ دعائیں اور اگر حصول نبوت کی دعا مانا جائے تو ماننا پڑے گا کہ تیرہ سو سال میں کسی مسلمان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ حالانکہ مقررین اور مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں ہو کر گزرے، خدا خود دعا سکھائے اس کی حکمت یہ ہو کہ دعا مانگنے والے کو نبوت ملے۔ دعا کرنے والی امت کو ”خیبر امۃ“ کہا جائے اور پھر تیرہ سو سال سب کے سب محروم رہیں۔ حتیٰ کہ وہ بھی جن کے متعلق صریح سند ہے۔ ”رضی اللہ عنہم ورضوعنہ“ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔

”یبنی آدم اما ایتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والذین کذبوا بآیتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون (الاعراف)“ یعنی اے بنی آدم! اگر کبھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، میری آیات تم پر پڑھتے ہوں، تو جو کوئی تقویٰ کرے اور اصلاح کرے ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ بچھتا میں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ آگ والے ہیں، اسی میں رہیں گے۔ پہلی آیت سے جو شتر چند باتیں عام طور پر ساری نسل انسانی کو مخاطب کر کے کہی ہیں۔ ”یبنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا“ ”یبنی آدم لا یفتنکم الشیطن“ ”یبنی آدم خذو زینتکم“ اور یہاں نیز سیاق کے مطابق ساری نسل انسانی کو مخاطب کر کے کہا ”یبنی آدم امام یتینکم رسل“ جس کا مطلب یہ ہے کہ لباس سارے بنی آدم کے لئے ہے۔ شیطان کے قند سے سب بنی آدم کو متنبہ کیا ہے۔ سب بنی آدم خدا کی عہادت کرنے وقت زینت اختیار کرنے کو کہا اور بالآخر سب بنی آدم کو بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اپنا رسول بھیجے تو اس کو قبول کرنا چاہئے۔ کیونکہ رسولوں کو قبول کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور ان کا رد کرنا موجب خسران ہے۔ بعض قسم نبوت کے منکر اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس کے ماتحت آنحضرت ﷺ کے بعد بھی رسول آتے رہتے چاہئیں۔ اس آیت سے رسولوں کے آنحضرت ﷺ کے بعد آنے کا نتیجہ اول بہاء اللہ نے اور بعد میں ان کی

نقل کر کے مرزا محمود احمد قادیانی کے مریدوں نے نکالا ہے۔ حالانکہ اس آیت کو نہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اور ان کی زندگی میں ان کے مریدوں نے کبھی پیش کیا۔ ایک شرطیہ جملہ سے یہ نتیجہ نکالنا کمال نادانی ہے۔ مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ اگر بنی آدم کے پاس خدا کا رسول آئے۔ تو اس کو قبول کرنے میں ان کی بہتری ہے۔ سو وہ رسول اللہ یعنی ﷺ ہیں۔ آپ کی ذات باریکات کے متعلق یہ اعلان ہے کہ اگر اس کو قبول کر لو گے تو تمہاری بہتری کا موجب ہے اگر رد کر دو گے تو تمہارے نقصان کا موجب ہے اور اگر کہا جائے کہ ”زل“ کا لفظ جمع کیوں استعمال کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لئے کہ خطاب کل نبی آدم کو ہے اور بنی آدم کی طرف رسول بھیجنے کا عام ذکر ہے۔ تو بلاشبہ آنحضرت ﷺ سے پہلے بنی آدم کے پاس رسول آتے رہے اور سب سے آخر حضرت محمد ﷺ کو بھیجا گیا کہ دنیا کی کل قوموں کو ایک سلسلہ اخوت میں منسلک کریں اور اس بات کی شہادت کہ آپ کے بعد رسول نہ آئیں گے۔ دوسری جگہ سے ملتی ہے جہاں فرمایا: ”الیوم اکملت لکم دینکم (مائدہ: ۳)“ ﴿ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا۔﴾ رسول تو دین سکھانے کے لئے آتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر کے پہنچا دیا تو پھر رسولوں کے آنے کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔ جب ”کمال شریعت“ اور شریعت کے آنے کے لئے مانع ہو گیا تو ”کمال نبوت“ بھی اور نبی کے آنے کے لئے مانع ہو گیا جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ آفتاب رسالت شمس نصف النہار کی طرح چمک رہا ہے۔ اس لئے اب کسی ”رسول“ کی ضرورت دنیا کو نہیں اور وہ لوگ جو ”رسول“ کے آنے کا جواز نکالتے ہیں۔ مگر شریعت کا آنا نہیں مانتے ان کے لئے خود یہاں لفظ موجود ہیں: ”یقضون علیکم اینتی“ یعنی ”رسول“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام بھی لائیں گے۔ وہی پیغام شریعت ہے اور اگر کہا جائے کہ یہ کسی پہلے ”رسول“ کی آیات ہیں تو پھر تکذیب تو ان آیات کی ہے۔ دیکھو اگلی دوسری آیت ایسے ”رسول“ کی تکذیب کوئی شے نہ ہوئی۔

دوسری آیت سے صاف شہادت ملتی ہے کہ رسولوں کے آنے سے مراد ایسے رسولوں کا آنا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جس طرح پہلے فرمایا تھا: ”اما یاتینکم منی ہدی (البقرہ)“ اور اس کے متعلق دو گروہوں کا ذکر کیا:

ایک: ”فمن تبع ہدای“ اس ہدایت کی پیروی کرنے والے اور

دوسرے: ”والذین کفروا وکذبوا بایتنا“ یعنی اس ہدایت، اس پیغام کا انکار کرنے والے۔ اسی طرح یہاں دو گروہ ہیں ایک اصلاح کرنے والے دوسرے آیات یعنی پیغام الہی کی تکذیب کرنے والے پس دونوں آجوں کا مطلب ایک ہے اور دونوں گروہوں کی جزا کا ذکر یکساں الفاظ میں ہے۔ دونوں میں مزا تکذیب پیغام کی ہے۔

ظلی نبوت

صوفی جسے ”ظلی نبوت“ کہتے ہیں وہ فی الواقع نبوت نہیں بلکہ نبوت کی بعض صفات کی جھلک ہے۔ جو ایک سچے بھڑوی کرنے والے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح ”ظل اللہ“ نہیں اسی طرح ”ظل نبی“ نہیں اور نہ ظلی نبوت، نبوت ہے۔

ختم نبوت آنحضرت ﷺ پر جو ایک ہی دنیا میں کامل انسان ہو اور رحمت ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لهم البشری فی الحیاءة الدنیا و فی الآخرة۔ لا تبدیل لکلمت اللہ ذلک هو الفوز العظیم (یونس)“ ﴿سن لو اللہ تعالیٰ کے دلیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور وہ تمکین ہوں گے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے تھے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔﴾

یہاں آیت کے آخر پر یہ لفظ لاکر (ذلک هو الفوز العظیم) یعنی یہی بڑی بھاری کامیابی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر انسان نبوت محمدیہ کے فیوضات کے ذریعہ سے پہنچ سکتا ہے، اس سے اوپر کوئی مقام نہیں اور یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ اب نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ان الرسالة والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی قال فشق ذلک علی الناس فقال ولكن المبشرات“ ﴿یعنی رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی اور میرے بعد کوئی رسول نہیں اور نہ کوئی نبی ہے تو یہ بات لوگوں پر شاق گزری۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: لیکن ”مبشرات“ باقی ہیں۔﴾ جس میں یہی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ و مخاطبہ جو اصل نعمت ہے وہ باقی ہے کیونکہ وہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے اور اسی طرح اشارہ ہے۔ ”رجال یکتلمون من غیر ان ینبوا انبیاءہ“ میں۔ ہاں! نبوت کی اصل غرض چونکہ لوگوں پر اللہ



تعالیٰ کی رضا کی راہوں کا ظاہر کرنا تھا اور تکمیل دین کے بعد اس کی ضرورت نہ رہی اس لئے اب نبوت نہیں، مگر مقامات عالیہ تک پہنچنے کی سب راہیں آنحضرت ﷺ کے ذریعہ موجود ہیں، چنانچہ احمد اور ابن ابی حاتم اور بیہقی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "ان اللہ تعالیٰ عبدا لیسوا بانبیاء ولا شهداء یغبطہم النبیون والشہداء علی مجالستہم وقریبہم من اللہ" (روح المعانی) یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو نبی اور شہید نہیں، لیکن نبی اور شہید کے مرتبہ اور ان کے اللہ تعالیٰ کے قرب پر رشک کریں گے اور ابو ہریرہؓ سے اسی کی مثل روایت ہے: "ان من عباد اللہ یغبطہم الانبیاء والشہداء" اور جب لوگس نے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو آپ نے ان کے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے یہی آیت پڑھی: "الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون" (تفسیر ابن جریر)

اور ایسی ہی روایت ابو داؤد میں ہے (ابن کثیر) اور ان روایات کا ما حاصل یہی ہے کہ بسبب کمال اتباع نبوی قرب الہی کے مراتب اسی طرح لوگوں کو ملنے رہیں گے اور انقطاع نبوت سے مقامات عالیہ سے محروم نہ کئے جائیں گے۔ بلکہ اگر آنحضرت رحمت عالم ﷺ پر جو تمام عالم میں ایک ہی انسان کامل ہیں اور اپنے کمالات میں نظیر نہیں رکھتے۔ نبوت ختم نہ ہوتی اور دوسرے نبی آنے والے کی اتباع لازم کی جاتی تو وہ مقامات عالیہ جو بسبب کمال اتباع محمدی حاصل ہوتے ہیں، ان سے مخلوق محروم رہ جاتی۔ پس ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ پر ختم نبوت تمام مخلوق کے لئے رحمت ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کئی راتوں میں نہایت نیاز اور رازداری سے دعا کی کہ اے اللہ! اتباع محمدی سے مستفیض فرما اور "مستجاب الدعاء" ہوا۔

سوال ..... عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مستقل انبیاء اولوالعزم سے ہیں تو بر تقدیر نزول اگر شرع محمدی ﷺ کے قیام ہوں گے تو نبوت سے معزول کئے جائیں گے جو سراسر خلاف عقل و نقل ہے اور اگر "نزول مع النبوة" ہوگا تو "خاتم النبیین" کی مہر ٹوٹ جائے گی؟

جواب ..... نبوت اور رسالت کے لئے دورخ ہیں، یعنی ظہور اور بطون، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ اور فیضان کے حاصل کرنے کو بطون کہا جاتا ہے اور صاحب بطون کو مقرب الہی ہونا لازم اور غیر منفک ہے اور مخلوق کی طرف توجہ اور تبلیغ شریعت ظہور ہے اور بسبب تبدل و تغیر شرائع کے ظہور میں انقلاب آسکتا ہے اور چونکہ نبی سابق کی شریعت کیلئے نبی لاحق کی شریعت ناسخ ہوتی ہے

تو نبی لاحق کے زمانہ میں نبی سابق کو اپنی شریعت کو ترک کر کے نبی لاحق کی شریعت پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتا تو اس کو بغیر میری شریعت کے عمل درآمد کرنا جائز نہ ہوتا اور اس ظہور کے انقلاب سے نبوت کے بطون میں جس کو قرب الہی اور عند اللہ معزز ہونا لازم ہے، ہرگز تغیر نہیں آتا بلکہ ترقی ہوتی ہے۔ بشرطیکہ نبی متبوع نبی تابع سے اکمل ہو۔ کیا یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آنحضرت ﷺ کو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور بعد میں جب بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو آپ ﷺ کی نبوت و رسالت میں فرق آ گیا یا آپ ﷺ اس قدر و منزلت سے جو آپ ﷺ کو پہلے بارگاہ خداوندی میں حاصل تھی معزول کئے گئے۔ ہرگز نہیں۔ لیکن حصول نبوت اور نبی ہونے کے لئے یہ لازم اور ضروری ہے کہ ایک بار مستقل طور پر صاحب بطون و صاحب ظہور ہوا۔ اگر کلکتہ کے علاقے کا لیفٹیننٹ گورنر لاہور کے لٹنٹ کے علاقہ میں بغرض اصلاح آئے تو اس کو لیفٹیننٹ گورنر کہا جائے گا لیکن وہ اس عہدہ پر نہیں آیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر بالفرض آنحضرت ﷺ کے بعد دنیا کے سارے پیغمبر آجائیں تو ”خاتم النبیین“ کی مہر نہیں توڑ سکتے۔

### مرزا قادیانی کا نبوت تشریحیہ کا مدعی ہونا

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نبوت تشریحیہ کا مدعی ہے اور اس کے ثابت کرنے کے لئے ہم ان کا ایک مکالمہ دو جی بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ مکالمات الہیہ جو ”براہین احمدیہ“ میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ وحی ہے: ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہر علی الدین کلہ“ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ (براہین احمدیہ ص ۴۹۸، خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

یہ آیت ”سورہ فتح“ کے اخیر رکوع میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔“ اس آیت میں نبی تشریحی کا بیان ہے جیسا کہ ”بالہدی و دین الحق“ سے ظاہر ہے اور مرزا قادیانی کا یہ فہرہ کہ (اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے) اس امر پر کھلی شہادت ہے کہ مرزا قادیانی نبوت تشریحیہ کے مدعی ہیں۔

۱۔ کما یدل علیہ قولہ تعالیٰ ﴿کان الناس امة واحدة..... الخ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ تَعَبَّدَ لِنَفْسِهِ فَغَابَ عَنْ اللَّهِ  
وَمَنْ تَعَبَّدَ لِلَّهِ فَكَانَ اللَّهُ عِندَ ذِي الْعَرْشِ يَدْعُوهُ  
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

# تذكرة العباد

(لكيلا يفتروا باقوال اهل الحاد)



حضرت مولانا عبدالحی امیرتسری

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ملکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین  
وانزلنا علی الذین ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا یفسقون

تعارف..... تذکرۃ العباد لکیلا یغترون باقوال اهل الاحاد

جس میں اسباب عذاب پر مفصل بحث کی گئی اور بتلایا گیا ہے کہ طاعون زمانہ حال میں کثرت معاصی و شامت اعمال کا نتیجہ ہے اور یہ کہ طاعون گزشتہ سنین میں کئی بار واقع ہو چکی ہے حالانکہ مدعی نبوت جدید کوئی بھی موجود نہ تھا اور یہ کہ طاعون آنحضرت ﷺ کی دعا کا نتیجہ ہے: اللہم اجعل فناء امتی قتلاً فی سبیلک بالطعن والطاعون۔ نبی کے انکار پر اس کی بناء نہیں اور آیت وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً کالایما مقدر قرار نہیں دیا جائے گا جو آیت خاتم النبیین کی معارض واقع ہو کیونکہ قرآن تعارض حقیقی سے ٹمرا ہے اور ختم نبوت پر قرآن وسنت اجماع امت اور قیاس عقلی اور بائبل سے جو اس وقت عیسائیوں کی ہاتھ میں موجود ہے مکمل ثبوت اور یہ کہ مماثلت انبیاء کو ممکن ہے لیکن یہ محض اخلاقی مماثلت اور روحانی مشابہت ہے جس کے پیرایہ میں نبوت نہیں حاصل ہو سکتی جو فیض وہی ہے بلکہ بعض کمالات جزئیہ غیر نبیوں میں پائی جاتی ہے جن کی انبیاء بروز قیامت تمنا کریں گے۔ لیکن پھر بھی غیر نبیوں کو وجہ نبوت تک رسائی نہیں۔ الغرض قرآن سے اس بات کا ثبوت دیا گیا ہے کہ ہر دفعہ مماثلت کے پیرایہ میں نبوت نہیں حاصل ہوتی اور اس مسئلہ کو واضح اور مدلل طور پر کئی ایک مثالوں سے حل کیا گیا ہے۔

مرزا قادیانی کی قلم سے اس بات کا ثبوت کہ طاعون ان کی مکذب ہے

..... عام طور پر یہ بات جماعت مرزائیہ کے زباں زد ہے کہ ظہور طاعون مرزا قادیانی کی نبوت کا مصدق ہے لیکن جہاں تک مرزا قادیانی کی تصانیف کو دیکھا گیا تو حالت برعکس نظر آئی اور نتیجہ خلاف پیدا ہوا یعنی طاعون کا وقوع ملک میں خود بدولت کے دعویٰ کا بالکل استحصال کرتا ہے کیونکہ داغ البلاء میں آپ نے یہ پیش کوئی قلم بند کی ہے: ”قادیان میں طاعون نہیں آئے گا کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ (داغ البلاء ص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)“ انسی لا یخاف لسی المرسلون (داغ البلاء ص ۷، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) جو پوری نہیں ہوئی۔ قادیان میں طاعون زور و شور پر رہا اور اس کثرت سے موتیں وارد ہوئیں کہ خود بدولت گمبھرا کر قادیان سے باہر ایک کنارے خمیہ زن ہوئے اور اپنے اخباروں میں وقتاً فوقتاً وقوع طاعون کا اقرار بھی کرتے رہے۔ خدا تعالیٰ کا

مرزا قادیانی کی پیش گوئی کو جملہ وجود پہنانے سے انکار کرنا اسلام کی پہلی تائید ہے اور پھر ان کے اخباروں میں ان کی قلم سے اس اقرار کو قلم بند کرنا دوسری تائید ہے۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں اور نووی نے شرح مسلم میں بحوالہ قول قاضی عیاض یہ مسئلہ اعتقاد یہ تحریر کیا ہے کہ انسان کی کئی پیش گوئیاں جو باعتبار نجوم یا رمل یا جفر بیان کرتا ہے۔ اتفاقاً طور پر صحیح نکل آتی ہے۔ مگر جب وہ مدعی نبوت ہو جائے اس کی پیش گوئیاں قطعاً خدا کی طرف سے جھوٹی کی جاتی ہیں تاکہ خلق خدا پر تلکس واقع نہ ہو اور وہ غیر نبی کو نبی نہ خیال کرنے لگیں اور توراہ کتاب استثناء باب ۱۸ میں جھوٹی مدعی کی یہ شناخت لکھی ہے کہ: ”اگر کوئی نبی خدا کا نام لے کر کوئی ایسی بات کہے جو پوری نہ ہو تو سمجھ کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اس سے مت ڈر۔“ اس رول کے ماتحت مرزا قادیانی کی کل پیش گوئیوں اور الہامات میں تحلف واقع ہوا جو آپ کی افتراء پر درازی کی دلیل ہے۔ محمدی بتکم کے متعلق مشہورہ پیش گوئی اور عبد اللہ اہتم کی موت، لیکھرام کی موت، وغیرہ وغیرہ ان میں سے کوئی الہام اپنی عبارت میں پورا نہیں ہوا۔

لیکھرام کے متعلق آپ نے یہ الفاظ لکھے تھے کہ وہ خارق عادت موت سے مرے گا۔ حالانکہ اس کی موت کسی آسمانی خارق عادت طریق سے عمل میں نہیں آئی بلکہ وہ مقتول ہوا جو عام طور پر سرحد میں روزانہ ایسے واقعات عمل میں آتے ہیں اور نیز حرامۃ البشریٰ میں ان الفاظ میں وہ الہام مندرج ہے: بفسوفی ربی بموتہ فی ست سنة جو قاعدہ کے لحاظ سے یہ عبارت غلط ہے جو ظہم کی لاعلمی پر دلالت کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ شیطان لاعلم ہے خدا کی ذات لاعلمی سے شرا ہے۔ اس کی صفت تو قرآن میں لکھی ہے: ”قد احاط بكل شیء علما“ اور لکھا ہے ”انزلہ الذی یعلم السر فی السموت والارض“ اور الہام الہی کے متعلق ارشاد ہے: ”انما انزل بعلم اللہ“ قاعدہ متفقہی تھا کہ اعداد کی تمیز ٹکٹ سے عشر تک مجرد اور مجموع ہو اور مرزا قادیانی برخلاف ضابطہ ست کی تمیز مفرد لکھی ہے یعنی ست ستہ اور چاہئے تھا ست سین یا ست سنوت۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ الہام ہے ورنہ عبارت میں غلطی نہ ہوتی اور یہ ممکن نہیں کہ خدا کا الہام غلط عبارت میں نازل ہو چنانچہ مرزا قادیانی نے رسالہ ضرورت الامام میں اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ جس الہام کی عبارت برخلاف قاعدہ اور غلط ہے وہ منجانب اللہ نہیں۔

۲..... اور ایک طرح سے بھی طاعون مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تکذیب کرتی ہے کہ (کشتی نوح ص ۱۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۰) میں آپ لکھتے ہیں کہ: ”مجھے خدا کا الہام ان لفظوں میں ہوا۔ انسی حافظ کل من فی الدار“ (کشتی نوح ص ۱۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۰) اور فی الدار کی وسعت کو ایسا عام و تمام بیان

کیا کہ جو فرد بشر میری مریدی میں داخل ہوگا کہ وہ گویا میری چار دیواری میں داخل ہے وہ طاعون کی زد سے محفوظ رہے گا گویا گھر کی چار دیواری نہیں بلکہ بیعت کی چار دیواری مراد ہے۔ اور اس بناء پر اپنے مریدوں کو طاعون کا ٹیکا لگانے سے منع کر دیا کہ خدا نے طوقان طاعون میں ان کی حفاظت کو اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس لئے وہ ٹیکا کی ضرورت سے سبکدوش ہیں مگر مرزا قادیانی کے مریدوں کا طاعون نے وہ ستیا ناس کیا کہ الامان الامان معلوم ہوتا تھا کہ دراصل قبیح طاعون یہی قوم ہے اور نیک بختوں پر انہیں کی شامت سے طاعون واقع ہو رہی ہے۔ دراصل طاعون کا مریدوں پر حملہ نہ تھا بلکہ مرزا قادیانی کے الہام پر حملہ کر کے ان کی تکذیب منظور تھی حتیٰ کہ دھرم کوٹ رندھاوا میں ایک واقعہ اس نوعیت سے گزرا کہ مرزا قادیانی کے مریدوں نے اپنی ہم جماعت مطعون کی لاش کو بغیر دفن چھوڑ دیا اور زد یک تک نہ گئے آخر کار مسلمانوں کی جماعت نے حکم لا چاری اسے تہ زمین میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ ادا نہیں ہوا تھا۔

۳..... اتفاق سے مرزا غلام حیدر مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ جن کا رہائشی مکان مرزا قادیانی کے مکان سے ملحق تھا جو ان کے درخواہ کی تحویل میں آ گیا۔ وہ اپنا حصہ فروخت کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تب مرزا قادیانی نے اپنے الہام کا رخ دوسری طرف پھیر دیا اور کہا کہ: ”اس طوقان میں بحکم انسی احافظ کل من فی الدار میرا مکان بمنزلہ کشتی نوح ہے جو اس میں داخل رہے گا وہ طاعون سے محفوظ رہے گا اور جو اس سے باہر ہوا وہ تباہ ہوگا۔ لیکن میرا مکان بالکل تنگ ہے جس میں بہت تھوڑے آدمیوں کی گنجائش ہو سکتی ہے اور مرزا غلام حیدر متونی کے درخواہ اپنا وہ حصہ جو میرے مکان سے ملحق ہے۔ بیع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس لئے چندہ کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے مکان کو جو بمنزلہ کشتی نوح ہے وسیع کر دوں تاکہ زیادہ آدمیوں کی حفاظت ہو سکے۔“ (کشتی نوح ص ۶۷، خزائن ج ۱ ص ۸۶) کوئی مرید غور نہیں کرتا کہ پہلے خود بدولت نے الہام کے معنی یہ قرار دیئے تھے کہ جو میری بیعت کی چار دیواری میں داخل ہوگا طاعون کے حملہ سے محفوظ رہے گا۔ اور اب مرزا غلام حیدر کا مترکہ مکان فروخت ہوتا دیکھ کر الہام کا رخ دوسری طرف کر دیا۔ کہاں لکھا ہے کہ مرزا غلام حیدر متونی کے مکان کا فروخت ہونا الہام کے معنی تبدیل کرنے کے لئے قرینہ صارفہ ہے۔ دوئم اگر آپ کا مکان بمنزلہ کشتی نوح تھا جیسا کہ آپ نے الہام کا فضا ظاہر کیا ہے تو پھر نبی کو اپنے الہام پر ایسا اعتماد ہونا چاہئے کہ اس میں ذرہ بھر پس و پیشی نہ کرے۔ اور سمجھے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں مگر خدا کی باتیں نہ ٹھلیں گی۔۔ معہذا آپ کا کشتی نوح کو چھوڑ کر باہر صحراء میں خیمہ زن ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اینچہ بوالعجبی است؟ سوم اگر آپ کا مکان بمنزلہ کشتی

نوح تھا تو مرزا نظام الدین طاعون کے حملہ سے کیوں محفوظ نہ رہے اور مرزا قادیانی نے ان کو طاعون کی زد سے کیوں نہ بچایا۔ حقیقت الوحی میں خود ان کا اس بیماری میں مبتلا ہونا مانتے ہیں۔ اس الہام کی وہ حالت ہوئی جو خدا کرے کسی خانہ بدوش مسافر کی بھی نہ ہو۔ جو مارا مارا پھرتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين  
والصلوة والسلام على رسوله محمد سيد الانبياء والمرسلين الی یوم  
الدين۔ اگرچہ اس سوال کا جواب تقریراً تحریراً کئی دفعہ دیا گیا ہے۔ لیکن اس بات کو ملحوظ رکھتے  
ہوئے کہ شاید خدا تعالیٰ اس جماعت میں سے کسی کو نور بصیرت بخش کر اپنی راہ کی طرف جذب  
کر لے اور میں اپنی تھوڑی کوشش سے ثواب مزید کا مستحق ہو جاؤں۔ اس سوال کا جس کا عام  
زبانوں پر چہ چاہے جواب لکھتا ہوں۔ حدیث میں ہے۔

لان يهدى الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم (مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۸)  
یعنی اگر خدا تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی راہ راست پر لے آئے تو شتران  
سرخ سے یہی تیرے لئے زیادہ مفید ہے۔ ”سواب غور سے کام لیں اور تحریر کو پڑھنے کے وقت دل  
کو تعصب سے پاک کر دیں۔ کیونکہ وہ آنکھوں پر ایک پٹی ہے اور خدائے عز شانہ سے توفیق طلب  
کریں وہ فیوض و برکات کا دروازہ دلوں پر کھول دے گا۔ اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا مادہ اپنے  
فضل سے عطا فرمائے گا کیونکہ تقویٰ اور راست شعاری سے خدائے تعالیٰ اپنے مخلص بندے کے  
دل پر نور کی کھڑکیاں مفتوح کرتا اور اندھیری سڑک میں خود رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد  
خداوندی ہے۔

”ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً (انفال: ۲۹)“ اگر تم تقویٰ اور خوف الہی کی  
راہ اختیار کرو گے تو خدا تمہیں ایک نور مرحمت فرمائے گا جس سے حق و باطل کی تمیز بخوبی کر سکو  
گے۔“ اور دوسری آیت میں فرمایا ہے:

”آمنوا بالله ورسوله يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً  
تمشون به (الحديد: ۲۸)“ خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تم کو دو حصے اپنی رحمت سے عنایت  
کرے گا اور تمہارے لئے ایسا نور بخشے گا کہ جس کی روشنی میں جنت کی سڑک کو طے کر لو گے۔“  
لیکن یاد رہے کہ اس نعمت کے حاصل کرنے کے لئے رجوع اور تعصب سے دل کو خالی کر دینا شرط  
ہے تاکہ واردات الہیہ کے سبیل میں کوئی مانع اور عائق باقی نہ رہے۔

”ويهدى اليه من ينيب (الشورى: ۱۳)“ جو خدا کی جانب رجوع اور توجہ کرے خدا اس کی

نظر میں ہدایت کے راستے صاف کر دیتا ہے۔“ اور فرمایا:

”والذین جاهدوا فینا لنهدینہم سبیلنا (العنکبوت: ۶۹)“ جو قوم میرے مذہب میں سعی اور توجہ سے کام لیتی ہے اس کے سامنے ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔“  
اس باب ہدایت کا مہیا کرنا انسان کے ذمہ ہے اور ہدایت منجانب اللہ نازل ہوتی ہے۔ غرضیکہ جو نفوس تردد اور شک میں پڑے ہوئے ہوں ان کو کوشش اور دعا سے کام لینا چاہئے اور یہ دعا جو خود اس پر برکت وجود سے جو سرچشمہ رحمت ہے ثابت ہے اختلاف خیالات کے وقت بہت مفید ہے۔

”اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر السموت والارض  
عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اھدنی  
لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تھدی من تشاء الی صراط مستقیم“  
یہ دعا آنحضرت کی زبان مبارک سے بالاسناد صحیح مسلم میں مروی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم • نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم!  
سوال ..... نبی کی تکذیب سے خلق اللہ پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کی تکذیب سے بھی مخلوقات میں طاعون رونما ہوئی اس لئے مرزا قادیانی نبی ہیں۔

نزول عذاب کے دو موجب ہیں، انکار نبوت اور کثرت معاصی

موجب اول پر شہادتیں

ضمن اول ..... دنیا میں عذاب کا نازل ہونا انکار نبی سے مخصوص نہیں۔ اکثر اوقات حکم عدولی، معصیت الہی خدا کے غضب و قہر کا موجب ہوتی ہے اور گناہوں کی شامت عذاب کی شکل اختیار کر کے دنیا کو تازیانہ عبرت سے متنبہ کرتی ہے گویا نزول عذاب کے دو اسباب ہیں۔ انکار نبوت اور کثرت معاصی، موجب اول پر چنداں شہادت درکار نہیں۔ سارا قرآن ان اقوام کے قصوں سے مملو ہے جو راست باز جماعت انبیاء کی مخالفت کر کے مستوجب لعنت ہوئے اور ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہی صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئے! البتہ اجمالی ثبوت کے طور پر چند شہادتیں قرآن سے ذکر کرتے ہیں جن سے اصل مسئلہ کی حقیقت پر بقدر ضرورت روشنی پڑے گی۔

اول ..... ”اولایرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون  
ولا ہم ینذکرون (التوبہ: ۱۲۶)“

کیا وہ نہیں سوچتے کہ ہر سال ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔



با ایں ہمہ نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ انہیں کچھ عبرت ہوتی ہے۔

وَدُمٌ ..... ”وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَّاكُمُ اللَّهُ لِبِئْسَ الْفِرْعَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا“

خدا نے ان کے سمجھانے کو ایک شہر کی مثال بیان کی جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اور ہر جہت سے اس کو رزق اور معیشت کا سامان چلا آتا تھا۔ اس یہی کی آبادی نے خدا کے انعامات کی بے قدری کی اس لئے دفعۃً فاقہ اور خوف کی سنگین سزا میں مبتلا ہو گئے۔ جو یہ عملی نحوست کا نتیجہ تھا۔ نعمت کی بڑی بے قدری یہ تھی کہ ان کی قوم میں سے ان کے پاس جو غمبیر آیا لیکن اس کا انکار کر دیا اور اس کی صداقت پر یقین نہ لائے۔ آخر کار جو ظالموں کا انجام ہوتا ہے۔ وہی ان کا حشر ہوا اور عذاب نے ان کو تہ و بالا کر دیا۔

سُوْمٌ ..... ”وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ فَامْلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (الرعد: ۳۱)“

کفار پر عملی شامت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی دل ہلا دینے والی آفت آتی رہے گی یا کم سے کم عبرت تاکہ واقعات ان کے شہر سے نزدیک رونما ہوتے رہیں گے۔ تا آنکہ خدا کا حتمی وعدہ نازل ہوگا خدا کے وعدہ میں خلاف نہیں یاد رکھو انبیاء سابقین کے ساتھ استہزاء کیا گیا یا ہتھمہ مٹھکھہ اڑانے والوں کو جو کفر کی چال چل رہے تھے میں نے مہلت دی پھر دفعۃً ان کو گرفتار کر دیا۔ تاریخ پڑھو تو تمہیں معلوم ہو کہ میرا عذاب شدت میں کس درجہ کا تھا۔

چہارم ..... ”وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِّنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (يونس: ۱۳)“

جب نبیوں کے مقابلہ میں آنے والی قوم ظلم اور بے انصافی کی راہ اختیار کر چکی اور معجزات اور نشان دیکھنے کے بعد بھی ان کے نقطہ قسمت میں تبدیلی واقع نہ ہوئی اور وہ ایمان کی لائن کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور نہ ہو سکتے تھے تو ہم نے ایسے قرون سابقہ کو تباہ کر دیا۔ مجرموں کو یونہی پاداش ملا کرتی ہے۔

پنجم ..... ”وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرْتِينَ ثُمَّ يَرْدُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (التوبة: ۱۰۱)“

مدینہ کی آبادی میں بعض دود لے بھی ہیں۔ جو نفاق پراڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ان کی ساری حقیقت معلوم ہے مگر آپ ان کے اندرونی حالات سے ناواقف ہیں ان کو دنیا و قبر میں سخت مزادے کر بڑے جیل خانہ میں ڈال دیں گے جہاں بیست ناک عذاب تیار ہے۔

ششم..... ”وما ارسلنا فی قریة من نبی الاخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتی عفوا و قالوا قدمس ابائنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا یشعرون ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون (الاعراف: ۹۳)“

ہم نے جس شہر میں کوئی پیغمبر مبعوث کیا اور اس کی رسالت کی تکذیب اس سے ظہور میں آئی تو اس کے باشندوں کو قحط و گرسنگی و بیماری اور دکھ درد کی مار میں گرفتار کر کے یہ توقع رکھی کہ شاید و تضرع زاری کی طرف رجوع کریں پھر ایک عرصہ کے بعد تکلیف کو الٹ کر ان کی حالت کو خوش گوار کر دیا اور ان کی تعداد اور جمعیت بڑی پھولی اور ترقی اور بہبودی نے انہیں اپنے سایہ میں لے لیا۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کے وقت سے ایسا ہی دستور چلا آتا ہے کہ کبھی رنج اور کبھی راحت دونوں ہی ہمارے آباؤ اجداد کے لازم حال رہے ہیں اور خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے اور نہ تازیانہ عبرت کا مطلب سمجھے تو ہم نے دفعہ نہیں ماخوذ کر لیا۔ اگر شہروں اور بستیوں کے باشندے انبیاء پر ایمان لاتے اور تقویٰ کی راہ ہاتھ سے نہ دیتے تو ہم ان کی خاطر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے مفتوح کر دیتے لیکن انہیں راستی کا اعتبار نہ آیا اس وجہ سے ہم نے انہیں عذاب میں ڈال دیا۔ ﴿

علاوہ ازیں سواح قوم نوح اور ہود اور صالح اور شعیب اور لوط اور ابراہیم اور تاریخ قوم موسیٰ وغیرہم قرآن میں مفصلاً مذکور ہے جس کے پڑھنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ مفسرین انبیاء کو دنیا میں تو بالا کر دیا جاتا ہے۔ یا طرح طرح کے عبرت ناک عذاب نازل ہو کر ان کی قوت فاہمہ کو بیدار کرتے ہیں۔

موجب دوم پر شہادتیں

رہا دوسرا موجب تو اس پر بھی بکثرت شہادتیں کتاب اللہ اور سنت میں موجود ہیں۔

پہلی شہادت

”فلما نسوا ما نكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا

فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فلذا هم مبلسون (انعام: ۴۳) یعنی جب عبرت کے ذرائع اور احکام الہی کو فراموش کر کے غفلت کے خطرناک دائرے میں جا پڑے۔ ہم نے ہر ایک کامیابی کا دروازہ ان پر کھول دیا۔ جب وہ اپنے عطا شدہ انعامات کی خماری میں اتر گئے۔ دفعۃً ان کو ہماری گرفت نے آلیا کہ وہ مایوس اور بے امید ہو گئے۔ اور سمجھے کہ اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔

### دوسری شہادت

”فلما نسوا ما نكروا به انجينا الذين كانوا يبنون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعباد بغييس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا اقردة خاسئين (انعام: ۱۲۵)“ جب تکیر و وعظ کو اسرائیلیوں نے فراموش کر دیا تو شرارت سے منع کرنے والوں کو ہم نے نجات بخشی ظالموں کو بد اعمال کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ جب اس قوم نے ممنوعات کے ارتکاب کی طرف اپنا قدم تیز کیا اور سرکش ہو گئے تو ہم نے ذلیل بندروں کی شکل میں انہیں اتار دیا۔

### تیسری شہادت

”واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور الرحيم (اعراف: ۱۶۷)“ تیرے رب نے ان کی سوغلی کو مد نظر رکھ کر دائمی حکم چڑھا دیا کہ یہود پر تاقیامت دوسری قومیں حکمران رہیں گی جو ان کو طرح طرح کی اذیتوں میں ڈالتے رہیں گے تیرا خدا گناہ پر سزا کا حکم بھی جلد سنا تا ہے اور تائین کو معافی بھی دے دیتا ہے۔

### چوتھی شہادت

”فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وما كانوا يفسقون (بقرہ: ۵۹)“ ظالموں پر ان کی بد اعتمادی اور ان کی فسق کی وجہ سے ہم نے عذاب نازل کیا۔

### پانچویں شہادت

”واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (الاسراء: ۱۶)“ جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی شہر کو تباہ کریں تو اس کے رہائشی تاز پروردہ عیاشی اور فسق فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور حکم تقدیری خلاف ثابت

نہیں ہوتا۔ آخر کار عذاب کا حکم نازل ہو کر ان کی تباہی کا موجب ہو جاتا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس اور آیات بھی اس مضمون کی تائید میں بکثرت موجود ہیں۔ جن کا استقصاء مشکل ہے اور احادیث شارح نے مسئلہ ہذا کی ہستی کو نہایت ہی روشن کر دیا ہے۔

### حدیث اول

جو بروایت عبادہ بن صامت صحیحین میں مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”ومن اصاب من ذالك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك (بخاری شریف ج ۱، کتاب الایمان ص ۷)“ یعنی جو فرد بشر شرک، ذنبا، سرقت اور قتل اولاد اور بہتان اور معصیت کا مرتکب ہو اور اسے دنیا میں سزا مل جائے تو بس گناہ کا کفارہ ہو گیا اور خدا نے پردہ پوشی سے کام لیا تو سمجھو کہ التواء واقع ہو گیا اور معاملہ خدا کے سپرد ہا خواہ معاف کرے یا سزا کا حکم صادر کرے۔

### حدیث دوم

اور حضرت معاذ بن جبلؓ نے آنحضرت ﷺ سے روایت کیا ہے: ”ایاک والمعصية فان بالمعصية حل سخط الله (مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۸)“ معصیت الہی سے برکتا رہو کیونکہ حکم عدولی سے خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ روایت مسند امام احمد میں موجود ہے۔

### حدیث سوم

جو ترمذی نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے بالکل سابقہ روایتوں کے ہم آواز ہے: ”اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة (ترمذی ج ۲ ص ۶۲)“ جب خدا اپنے کسی بندے سے بھلا ارادہ رکھتا ہے تو دنیا میں گناہ کی سزا اسے دے دیتا ہے اور جس کے متعلق ایسا ارادہ نہ ہو اس کی سزا قیامت پر ملتوی کر دیتا ہے۔

### ترک رہنمائی کبیرہ گناہ ہے

بڑی معصیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا ہے جس سے دنیا میں ضلالت پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بہت روایات اس مضمون کی شاہد ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے انحراف موجب نزول غضب ہے۔

## روایت اول

”أخرج الاصبهانی عن انس بن مالك<sup>رضی اللہ عنہ</sup> عن ان رسول اللہ ﷺ قال لاتزال لا اله الا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قالوا يا رسول الله وما الا استخفاف بحقها قال ايظهر العمل بمعاض الله فلا ينكروا لا يغير“ یعنی اصہبانی نے حضرت انس سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ کلمہ خوانوں کو لا اله الا اللہ ضرور نفع دیتا رہے گا۔ اور اپنی برکت سے عذاب ٹالے گا جب تک حقوق کلمہ کی تحقیر نہ کریں گے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں محصیت کا چرچا ہو جائے گا اور کوئی بدی پر انکار نہ کرے گا اور نہ اس میں تبدل و تغیر کی کوشش کرے گا۔

## روایت دوم

”روی الاصبهانی عن ابن عمر<sup>رضی اللہ عنہما</sup> قال قال رسول الله ﷺ يا ايها الناس مرو، بالمعروف وانها عن المنكر قبل ان تدعوا الله فلا يستجيب لكم وقبل ان تستغفروه فلا يغفر لكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا ان الاحبار من اليهود والرحبان من النصارى لما تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان انبيائهم ثم عموا بالبلاء“

”عبداللہ بن عمر سے اصہبانی نے روایت کیا کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا اے قوم! اہل دنیا کو نیک اور معقول راہ بتاؤ۔ اور برے افعال سے منع کرو۔ اس سے جو شتر کہ تم دعائیں کرو اور مقبول نہ ہوں اور خدا سے مغفرت چاہو اور تمہاری سنی نہ جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رزق سے محروم نہیں کرتے اور نہ اجل ان کی تعمیل سے نزدیک ہو جاتی ہے۔ یہود کے علماء اور نصاریٰ کے زاہدوں نے انبیاء کی زبان پر انہیں لعنت کی اور پھر عام عذاب نازل کیا۔“

## روایت سوم

”أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة<sup>رضی اللہ عنہا</sup> قالت قلت يا رسول الله اذا نزل سطوته باهل الارض وفيهم الصالحون فيها لكون بهلاكهم فقال يا عائشه ان الله اذا نزل سطوته باهل نقمة وفيهم الصالحون فيصبون معهم ثم يبعثون على نياتهم“ ابن حبان نے صحیح میں حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ میں

نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اہل ارض پر خدا کی نعمت نازل ہوتی ہے تو صلحاء بھی اس تباہی میں ہلاک ہو جاتے۔ حضور ﷺ نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نیکو کاروں کی موجودگی میں جو عذاب بدکاروں پر نازل ہوتا ہے۔ اس میں صلحاء بھی مارے جاتے ہیں۔ پھر اپنی اپنی نیت کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔

روایت چہارم

”أخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ﷺ أوحى الله إلى جبريل أن اقلب مدينة كذا وكذا باهلا فقال يا رب ان فيهم عبدك فلا نالم يعصك طرفة عين قال فقال اقلبها عليه وعليهم فان وجهه لم يتمعرفي ساعة قط“ یہی نے عمر بن خطاب سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ خدا نے بذریعہ وحی جبریل کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو زیر کر دو۔ جبریل نے عرض سنائی کہ اس میں ایک تیرا مخلص بندہ ایسا بھی ہے جس نے ساری عمر میں ایک لمحہ بھرتیری نافرمانی نہیں کی۔ خدا نے کہا۔ کچھ پرواہ نہیں۔ شہر کو الٹ دو۔ کیونکہ وہ ہدی کو دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پر آثارِ ناراضگی کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ (یعنی رنج سے چہرے پر سخی نمودار نہیں ہوئی)

روایت پنجم

”عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله ﷺ وكان متكئاً فقال لا والذي نفسي بيده حتى تاطردهم اطرا (مسند احمد ج ۱ ص ۳۹۱)“

ابوداؤد اور ترمذی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب بنو اسرائیل معاصی میں مصروف ہو گئے تو علماء نے ہر چند انہیں منع کیا لیکن وہ باز نہ آئی۔ آخر کار ہار کر نصیحت چھوڑ بیٹھے اور ان سے شریک مجلس اور ہم پیالہ ہم نوالہ ہو گئے تو خدا نے سب دلوں کو گویا ایک ٹکسال سے نکال دیا اور حضرت عیسیٰ اور داؤد نے اپنے کلام میں ان پر لعنت کی اور وہ خدا کی لعنت تھی کیونکہ وہ معاصی اور حیا و حدود تھی۔ حضرت یحییٰ کا سہارا چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے بچہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم نجات نہیں پاسکتے۔ جب تک قوم کو سرکشی سے منع نہ کرو۔

## روایت ششم

”اخرج البغوی من روایتہ عدی بن عدی العمری قال حدثنا مولیٰ لنا انه سمع جدی یقول سمعت رسول اللہ ﷺ ان اللہ لا یعذب العامة بعمل الخاصة حتی یروا المنکر بین ظهرانیہم وہم قادرون علیٰ ان ینکروہ فلا ینتکروا فاذ فعلوا ذلك عذب اللہ العامة والخاصة (شرح السنن ص ۳۵۸)“ امام بغوی نے شرح السنن میں عدی بن عدی کندی کا بیان نقل کیا ہے کہ ہمارے دادا جان سے ہماری غلام آزاد نے بگوش خود یہ روایت سن کر بیان کیا کہ آپ کو حضرت کی زبان سے یہ الفاظ مسومع ہوئے کہ خدا عام لوگوں پر خاص کی شامت عملی سے عذاب نہیں بھیجتا۔ جب تک وہ خلاف شرع رسمیات اور اعمال دیکھ کر ہاوجود قدرت انکار کے خاموشی اختیار نہ کریں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ہر خاص و عام پر خدا عذاب نازل کرتا ہے۔

## روایت ہفتم

”وعن ابی البختری عن رجل من اصحاب النبی ﷺ ان یهلك الناس حتی یعذروا من انفسہم (مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۰)“ ابوداؤد نے ابوالبختری سے روایت کیا ہے کہ ایک صحابی کا بیان حضرت ﷺ سے اس طرح آیا ہو کہ کوئی قوم تباہ نہ ہوگی تا آنکہ کثرت ذنوب سے اپنے عذر توڑ دیں۔ محمد الدین فیروز آبادی نے اس حدیث پر یہ حاشیہ دیا ہے کہ ہمزہ اس میں سلب کے لئے مستعمل ہوا یعنی کثرت ذنوب سے جب قوم کے پاس کوئی عذر و حجت نہ رہے تو عذاب نازل ہوتا ہے کیونکہ خدا کی طرف سے وہ عذاب کے مستوجب ہوتے ہیں اور لوگوں کو نفع و زجر کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ (مختصر لمعات)

## روایت ہفتم

”اخرج ابوداؤد ابن ماجہ عن جریر بن عبداللہ قال سمعت رسول اللہ ﷺ ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علیٰ ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الاصابہم اللہ منه بعقاب قبل ان یموتوا (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۷)“ ابوداؤد اور ابن ماجہ نے جریر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی قوم میں عمل معاصی کا مرتکب ہو اور وہ اس میں رد و بدل کی قدرت رکھتے ہوئے

چپ چاپ رہیں اور اس کو نہ بدلیں تو موت سے قبل دینا میں ان پر عذاب نازل ہوگا۔ نذان کی عملی کمزوری سے بلکہ اس بدکردار کی شامت اعمال سے۔

روایت ہشتم

”وصححه من روایت ابی بکر الصدیق قال یا ایہا الناس انکم تقرؤن هذه الایة یا ایہا الذین آمنو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهدیتہم فانی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول ان الناس اذا راوا المنکر فلم یغیروہ یوشک ان یعمہم اللہ بعقابة وفى اخری له ما من قوم یعمل فیہم المعاصی ثم یقدورن علی ان یغیروا ثم لا یغیرون الا یوشک اللہ ان یعمہم بعقاب وفى اخری له ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ہم اکثر ممن یعلمہ“

(مسند احمد ج ۵، ابن ماجہ، ترمذی) نے بسند صحیح حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کیا ہے کہ تم قرآن میں روزانہ یہ آیت تلاوت کرتے ہو جس کا مضمون یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو تمہیں دوسروں سے کیا سروکار، گمراہ کی گمراہی کا وبال تمہاری ذات پر واقع نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو میں نے حضرت ﷺ سے پوچھا ہے۔ جب قوم کا یہ شیوہ ہو جائے گا۔ کہ خلاف شرع کام دیکھ کر اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ تو عنقریب خدا عذاب عام نازل کرے گا۔ جس میں مرد و عورت چھوٹا بڑا نیک اور بد شریک ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جس قوم میں عمل معصیت جاری ہے اور متقی باوجود کثرت تعداد ان کو روکتے نہیں تو خدا کی طرف سے عذاب عام اترتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کا قول بھی اس کا موئید ہے۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة کہ ایسے فتنہ سے ڈرو جس کا اثر محض ظالموں کی ذات تک محدود نہ رہے گا۔ بلکہ ہر عام و خاص پر اس کی مصیبت کا احاطہ ہوگا بہت روایات اس مضمون کی کتب روایت میں مروی ہیں۔

ظلم موجب نزول عذاب ہے۔

اور ظلم بھی ان موجبات سے ہے جو مصائب و شدائد کا دریا مخلوق پر توڑ بہاتا ہے اور ان کی آسائش و راحت کو قطع کر دیتا ہے اور طرح طرح کے عذاب ظلم العباد سے بندگان خدا پر نازل ہوتے ہیں۔



## شہاد اول

بیہقی میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک نے کہا ان الظالم لا یضر الانفسہ یعنی ظالم محض اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے تو ابو ہریرہؓ نے کہا بلی واللہ حتی الجار للتموت فی وکرها ہز لا لظلم الظالم کیوں نہیں ظالم کو ظلم کا اثر دوسری خلق اللہ پر بھی پڑتا ہے حتیٰ کہ سرفاب ظلم ظالم کی وجہ سے اپنے گھونے میں دبلا ہو کر مر جاتا ہے۔

## شہاد دوم

بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کیا ہے: "ان اللہ لیسعی الظالم حتیٰ اذا اخذه لم یقتله ثم قرہ كذلك اخذ ربك اذا اخذی القرئ وہی ظالمة (بخاری شریف ج ۲ ص ۶۷۸) خدا تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے جب اسے گرفت کرتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر یہ آیت بطور شہادت پڑھی کہ تیرے رب کی گرفت ظالم شہروں پر اسی طرح ہوئی کہ ناگہاں عذاب نے انہیں آیا۔

## شہاد سوم

شیخین نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے: "لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسہم الا ان تکنوا بآئین ان یصیبکم ما اصابہم ثم قنع راسہ و اسرع السیر حتیٰ اجتاز الوادی" ظالموں کے شہروں اور مسکنوں میں روتے ہوئے داخل ہو مبادا تمہیں بھی ایسا عذاب نہ آئے جیسے ان پر آیا پھر سر پر چادر اوڑھ کر تیز رفتاری سے اس میدان کو طے کیا۔

## عقوق الوالدین بھی موجب قیمت الہی ہے

ماں باپ کو ستانا اور ان سے بے سلوکی کرنا اور ان کا حکم نہ ماننا اور خدمات واجبہ سے پہلو تہی کرنا ایسے عذاب امور ہیں اور جو عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔

بیہقی نے حضرت ابو بکرؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا عقوق الوالدین فانہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیاة قبل الممات" جس قسم کا گناہ ہو خدا چاہے تو معاف کر دے سوائے عقوق والدین کے کہ یہ ایسا بڑا جرم ہے جس کی سزا موت سے پہلے دنیا کی زندگی میں خدا دے دیتا ہے اور قطع رحمی اور ناطہ کٹنی بھی عقوق کے ہمدوش ہے اس کی سزا جو عقیبی میں مقرر ہے وہ تو مل کر رہے گی مگر دنیا میں ہی

قاطع رحم کلمہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے: ”ما من ذنب اجری ان يجعل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغى وقطيعة الرحم“ کوئی گناہ اس قابل نہیں کہ جس کی سزا مرتکب کو خدا دنیا میں دے دے اور معاذا عاقبت میں بھی سزا سے سبکدوشی نہ ہو۔ سوائے ظلم اور قطع رحمی کے ان کی سزا دارین میں ملتی ہے۔

نزول عذاب کے پندرہ اسباب ایک حدیث میں

حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں عذاب کے پندرہ اسباب ذکر کئے ہیں۔ اس روایت کو ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنمًا والزکوة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرته وعق امه وادنی صدیقه واقصی اباه وظهرت الاصوات فی المساجد وساد القبیلة فاسقمهم وکان زعیم القوم اردلهم واکرم الرجل مخالفة شره وظهرت القینات والمعازف وشربت الخمر ولعن آخر هذه الامة اولها فان تقبوا عند ذلك ریحا حمراء وزلزلة خسفاً ومسخاً وقد فاوا آیات تتابع كنظام قطع سلکة فتتابع ورواه ایضا عن علیؑ بلفظ اذا فعلت امتی خمس عشر خصلة حل بها البلاء وعد هذه الخصال ولم یذكر تعلم لغیر الدین قال وبر صدیقه وجفا اباه قال وشرب الخمر ولبس الحریر“ (ترمذی شریف کتاب الجنح ج ۲ ص ۴۴)

جب مال غنیمت امیروں میں تقسیم ہوگا اور امانت کو لوٹ کا مال تصور کیا جائے گا اور زکوٰۃ کو مسلم تاوان سمجھے گا اور دینی اغراض کو چھوڑ کر محض دنیاوی مفاد کے لئے تعلیم و تعلم کا چرچا ہوگا۔ مرد اپنی جورو کا مطیع اور ماں کا عاصی ہوگا۔ دوست کو اپنے نزدیک بٹھائے گا اور باپ کو دور ڈال دے گا اور مسجدوں میں شور و غل اور نعرے سنائی دیں گے اور فاسق فاجر قوم کی سرداری سے ممتاز ہوگا اور مکینہ قبیلہ کا رئیس قرار پائے گا اور شرارت کے خوف سے ہر ایک کی عزت کی جائے گی۔ سردوں اور رائیوں کی شہرت ہوگی۔ شراب کھلے طور پر نوش کی جائے گی اور متاخرین امت متقدمین کو لعنت کرے گی۔ اس وقت سرخ آنسوئوں اور بھونچال اور زحف اور سرخ اور پتھروں کی بارش کی توقع رکھو۔ اور ایسے ہیبت ناک کئی نشان کیے بعد مگرے ظاہر ہوں گے۔ جیسے ایک لڑی موتیوں کی منقطع ہو جائے تو اس کے موتی پے در پے گرتے ہیں اور حضرت علیؑ نے اس کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے میری امت جب پندرہ خصال میں مبتلا ہوگی تو ان پر آفت اور بلا نازل ہوگی۔

خصال مذکور کو شمار کرتے ہوئے یہ کلمات ذکر کئے ہیں کہ آدمی دوست کا وفادار ہوگا اور باپ سے بے وفائی کرے گا اور شراب نوشی اور ریشم پوشی کا چرچا ہوگا۔

شراب نوشی، راگ، سماع مزا میرا سباب نزول عذاب ہیں

ابن ماجہ نے ابومالک اشعریؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”لِشَرِبْتَنَ نَاسٍ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يَعْزَفُ عَلَيَّ رُؤُسُهُمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمَغِينَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ“ میری امت کے بہت لوگ شراب نوشی کریں گے اس کا نام اور ہی تجویز کر لیں گے ان کی مجلس میں ہاجے بچیں گے راگ ہوگا۔ خدا زمین کو بیخ ان کے دھنسا دے گا اور ایک جماعت کو ان میں سے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں اتار دے گا۔

ترمذی نے عمران بن حصینؓ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سرور کائنات فداہ روجی نے فرمایا: ”فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى ذَلِكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ“

(ترمذی ج ۲ ص ۲۵) اس امت پر ایک زمانہ آئے گا جب کہ زمین دھنسائی جائے گی اور شکلیں تبدیل ہو جائیں گی آسمان سے سنگباری ہوگی کسی نے پیغمبر خدا سے دریافت کیا کہ یہ واقعات کب رونما ہوں گے کہا کہ جب سرود بولنے والیاں کثرت سے ہوں گی اور باجوں کا چرچا ہوگا۔ شراب نوشی کا عام دور ہوگا۔

محرمات کو حلال خیال کرنا اور راگ کہنے والی عورتوں کو بلانا، شراب نوشی، سود خوری، ریشم پوشی نزول عذاب کا موجب ہے

عبادہ بن صامتؓ نے آنحضرتؐ سے روایت کیا ہے: ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَبِيْتُنَّ اَنَسَاسٌ مِّنْ اُمَّتِي عَلٰى اَشْرُوْا بِطُرُوْلَعِبٍ وَّلَهُوْ فَيَصْبِحُوْا قِرْدَةً وَّخَنَازِيْرَ بِاسْتِحْلَالِهِمْ الْمَحَارِمَ وَالتَّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشَرِبِهِمُ الْخَمْرَ وَبِاِكْلِهِمُ الرِّبَا وَلِبَسِهِمُ الْحَرِيْرَ“ میری امت کے بہت افراد غرور اور تکبر اور لہو ولعب میں شب ہاشمی کریں گے کہ صبح ہوتے دھتے بوزلوں اور خنزیروں کی شکل میں ڈھل جائیں گے۔ کیونکہ وہ محرمات کو حلال سمجھیں گے۔ اور سرودن عورتیں ان کے ہاں ملازم ہوں گی۔ شراب نوشی کریں گے۔ سود خوری حریر پوشی انکار دے ہوگا۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۹)

## قطع رحمی موجب نزول عذاب ہے

اور بیہقی اور احمد نے حضرت ابوامامہ سے روایت کیا ہے: ”بشر بہم الخمر ولبسہم الحریر واتخاذہم القینات واکلہم الربا وقطیعتمہم الرحم وخصلة نسیہا“  
 جعفر ابوامامہ نے آنحضرت سے نزول عذاب کے حسب ذیل اسباب نقل کئے ہیں کہ خلق خدا شراب نوشی کرے گی۔ ریشم پہنے گی۔ سرودیں گی۔ سود خوری اور قطع رحمی ان کا تیرہ ہوگا۔  
 زنا کاری، سود خوری اور رشوت نزول عذاب کا موجب ہے۔

ابو یعلیٰ نے آنحضرت ﷺ کی حسب ذیل حدیث کو ابن عباس سے روایت کیا ہے:

”نہی رسول اللہ ﷺ ان تشتترئ الثمرة حتى تطعم وقال اذا ظهر الزناہ والربانی قرية فقد اهلوا بانفسہم عذاب اللہ رواہ الحاكم عن ابن عباس وصححہ وفی روایة ابی یعلیٰ عن ابن مسعود ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا اهلوا بانفسہم عذاب اللہ ولا حمد عن عمرو بن العاص مرفوعا ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنة وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب“  
 اس حدیث ﷺ نے میوہ جات کی خرید سے منع کیا ہے جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائیں اور نیز فرمایا کہ جب بدکاری اور سود خوری کسی شہر میں عام ہو جائے تو آبادی نے عذاب الہی کو اپنی ذات پر لازم کر لیا۔ حاکم نے اس روایت کو ابن عباس سے روایت کیا ہے اور ابو یعلیٰ کی روایت ابن مسعود سے بھی اس کے لگ بھگ ہے اور امام احمد نے حضرت عمرو بن عاص سے روایت کیا ہے جس قوم میں سود خوری کا چرچا ہوا۔ ان پر قحط کا عذاب آتا ہے اور جس قوم میں رشوت خوری عام ہو ان پر دشمن کا رعب ڈالا جاتا ہے۔

ظلم اور جھوٹی قسم موجب نزول عذاب ہے

”أخرج البيهقي عن ابی هريرة مرفوعاً ليس مما عصى الله به هو اعجل عقاباً من البغي وما من شيء اطيع الله فيه اسرع ثواباً من الصلة واليمين الفلجاجة تدع الديار بلاقع.“  
 خدا کے معاصی میں کوئی جلد عذاب لانے والی خصلت ظلم سے بڑھ کر نہیں۔ اور جس کی ادائیگی میں انسان جلد سے جلد ثواب کا مستحق ہو۔ صلہ سے بڑھ کر نہیں۔ اور جھوٹی قسم کا وبال یہاں تک پہنچتا ہے کہ آبادی ویران ہو کر جمہوری قسم کی شامت

سے چٹیل میدان رہ جاتی ہے۔

زنا کاری، خیانت، نقص کیل ووزن اور حکم جور اور نقص عہد سے عذاب نازل ہوتا ہے  
 زنا کاری، خیانت، نقص کیا ووزن اور حکم جور اور نقص عہد بھی عذاب الہی کا پیش خیمہ  
 ہیں۔ امام مالکؒ نے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً نقل کیا ہے: ”ماظهر الغلول فی قوم الا  
 القی اللہ فی قلوبہم الرعب ولا فشا الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت ولا  
 نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق ولا حکم قوم بغير الحق الا  
 فشافیہم الدم ولا ختر قوم بالعہد الا سلط اللہ علیہم العدو رواہ الطبرانی  
 ایضا واخرج ابن ماجہ واللفظ لہ والبخاری والبیہقی عن ابن عمرو رواہ  
 الحاکم من حدیث ہریرة وصححہ قال اقبل علینا رسول اللہ ﷺ فقال یا  
 معشر المهاجرین خمس خصال اذا بتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوهن لم  
 تظہر الفاحشة فی قوم قط حق یعلنوا بہا الا فشافیہم الطاعون والا وجاع  
 التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ینقصوا والمکیال والمیزان  
 الا اخذوا بالسینین وشدة المونة وجور السلطان علیہم ولم یمعنوا زکوة  
 اموالہم قط الا منعوا القطر من السماء ولولا البہائم لم یعطرو واولو ینقصوا  
 عہد اللہ وعہد رسوله الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما  
 فی ایدیہم وما لم تحکم اثمتمہم بکتاب اللہ ویتخیر فیہا انزل اللہ الا جعل اللہ  
 باسم بینہم“ جس قوم میں خیانت کا رواج جاری ہو۔ خدا ان کے دل میں دشمن کا رعب ڈال  
 دیتا ہے اور جس قوم میں زنا کاری بکثرت ہو جاتی ہے ان میں مری عام پڑتی ہے اور جو قوم ترازو  
 اور پیمانہ کو کم تولتی اور ماپتی ہے ان کے رزق کو قطع کر دیا جاتا ہے جو قوم فیصلے میں بے انصافی روا  
 رکھتی ہے ان میں خونریزی بکثرت ہوتی ہے جو جماعت عہد شکنی کی مرتکب ہوتی ہے خدا سے دشمن  
 کے پنجہ میں دے دیتا ہے۔ طبرانی نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اور حاکم نے بریدہ سی حدیث کی  
 صحت کی تصریح کی ہے کہ نبی ﷺ نے ہماری جانب توجہ کر کے فرمایا۔ مہاجرین کی جماعت! سنو  
 کہ جب پانچ فوج خصلتوں میں تم جتلا ہو گئے (اور پناہ بخدا کہ تم ان میں جتلا ہو) بدکاری کا ظہور  
 جس قوم میں ہوا ہے ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں رونما ہوتی ہیں جو گزشتہ آباؤ اجداد میں ان کا  
 نام سنانہ جاتا تھا اور جو قوم ترازو اور پیمانہ میں خیانت کرتی ہے ان پر قحط کا عذاب آتا ہے اور سخت  
 مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور بادشاہ کے ظلم کا سختہ مشق بن جاتے ہیں۔ جو قوم باوجود قدرت

کے زکوٰۃ ادا نہ کرے ان پر آسمان کی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں اور وہ بارانِ رحمت سے محروم کئے جاتے ہیں۔ اگر چار پائے نہ ہوں تو بارش کی بوند نہ گرے اور جو قوم خدا اور رسول کے عہد کو توڑ ڈالے خدا تعالیٰ غیر دشمن کو اس پر مسلط کر دیتا ہے جو ان کی دولت اور مقبوضات پر قبضہ جما لیتا ہے اور جو قوم خدا کی کتاب پر فیصلہ ترک کر دیتی ہے۔ ان میں خانہ جنگی جاری ہو جاتی ہے۔

خباہت موجب نزول عذاب ہے۔

”أخرج الشيخان عن زينب بنت جحش ان رسول الله ﷺ دخل عليها يوما فزعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من روم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها قالت زينب فقلت يا رسول الله افنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا اكثر الخبث“

یعنی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش کے ہاں رسول کریم ﷺ تشریف لائے۔ لا الہ الا اللہ آپ کی ورد زبان تھا اور یہ بھی کہتے تھے کہ عرب کی تباہی ان پر عنقریب بلالانے والی ہے۔ دیوار یا جوج و ماجوج میں بقدر حلقہ سہاہہ وز آگشت کے سوراخ ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نیکو کاروں کی موجودگی میں ہم تباہ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب خباہت اور معاصی یا اولادِ زنا کا غلبہ ہو جائے گا تو بدکار اور نیکو کار دونوں تباہی میں پڑ جائیں گے۔

ظہور ولد الزنا موجب نزول عذاب ہے

ابو یعلیٰ اور احمد نے اسناد حسن حضرت میمونہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ”لا تزال امتی بخیر متماسک امرها بماله يظهر فيهم ولد الزنا“ میری امت تا دوام باخیر رہے گی جب تک ان میں اولادِ زنا پیدا نہ ہوگی۔ جب ایسے بچے پیدا ہوں گے تو عنقریب خدا تعالیٰ ایک عام عذاب ان پر نازل کرے گا۔ ”امام احمد کے لگ بھگ ابو یعلیٰ کے الفاظ ہیں۔

ظہور طاعون کی نبوی پیشگوئی

عوف بن مالک کا بیان ہے کہ میں جنگِ تبوک میں بخدمت حضور ﷺ کے حاضر ہوا اور آپ چمڑی کے خیمہ میں مقیم تھے۔ جناب نے فرمایا: ”اعدد ستأبين يندى الساعة موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان ياخذ فيكم كقصاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم فتنه لا يبقى بيت من

العرب الا دخلته ثم مدينة تكون بينكم وبين بنى الاصفريه فيعدرون فياتونكم تحت ثمانين غايه تحت كل غايه اثنا عشر الفارواه البخاري۔“  
 یعنی قیامت سے پیشتر چھ علامات شمار کر اولاً میری وفات دوئم بیت المقدس کو اہل اسلام فتح کریں گے۔ چارم مال کثرت سے لوگوں کے قبضہ میں ہوگا یہاں تک کہ ایک بندہ خدا کو تین سو روپیہ ماہوار تنخواہ ملے گی۔ (آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے دینار کے حساب سے) اور نو صد روپیہ زمانہ حال کے حساب سے لیکن پھر بھی وہ ناراض اور خفا رہے گا۔ پنجم ایک فتنہ ملک عرب میں برپا ہوگا جس سے عرب کا کوئی گھر خالی نہ رہے گا۔ پھر تمہارے اور عیسائیوں کے درمیان ایک صلح نامہ قرار پائے گا جسے عیسائی توڑ ڈالیں گے اور اسی جھنڈوں کے ماتحت کثیر فوج لے کر حملہ کے لئے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت بارہ بارہ ہزار فوج ہوگی۔ اس طرح ساری فوج کی تعداد بارہ لاکھ ساٹھ ہزار ہوگی۔ اس حدیث کو غور سے پڑھو اور دیکھو آنحضرت نے اپنی امت میں ظہور طاعون کی پیش گوئی بیان کی ہے بلکہ طاعون کی ماہیت پر یہی روشنی ڈالی ہے پھر کیونکر سمجھا جائے کہ مرزا قادیانی کی خاطر طاعون ملک میں رونما ہوئی ہے۔ فقط

طاعون کا عذاب سابقہ قوموں پر بھی نازل ہوا

پہلی قوموں اور سابقہ جماعتوں پر فاحشہ کبریٰ کے ظہور سے عذاب طاعون بھیجا گیا اور وہ ایک گھنٹہ یا دن میں ستر ہزار کی تعداد میں مارے گئے۔ اتنی سرعت ہلاکت قابل حیرت و تعجب ہے۔ حدیث میں ہے:

”الطاعون رجز ارسل علی طائفة من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم فاذا سمعتم بہ بارض فلا تقدموا علیہ وان وقع بارض وانتم بہا فلا تخرجوا فرارا منه متفق علیہ من حدیث اسامة بن زید وللبخاری عن عائشہ قالت سألت رسول اللہ ﷺ عن الطاعون فاخبرنی انه عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء وان اللہ جعلہ رحمة للمؤمنین لیس من احد یقع الطاعون فیمکت فی بلده صابرا محتبسا یعلم انه لا یصیبہ الا ما کتب اللہ له الا کان له مثل اجر شہید“ طاعون ایک عذاب تھا جو بنی اسرائیل یا کسی سابقہ جماعت پر بھیجا گیا۔ جب اس کی خبر تمہیں پہنچے کہ کسی سر زمین پر طاعون اپنا کام کر رہی ہے۔ تو وہاں نہ جاؤ اور جس شہر میں تمہاری رہائش ہے اگر وہاں طاعون نمودار ہو تو بھاگو نہیں بلکہ قضاء و قدر کو سچے دل سے قبول

کرو۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں روایت کی ہے اور بخاری نے حضرت عائشہؓ سے یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت سے طاعون کا حال دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ یہ عذاب ہے جس پر اللہ چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ لیکن مؤمنین کے حق میں اسے رحمت قرار دیتا ہے۔ جس شہر میں طاعون واقع ہو جو کوئی وہاں جمعیت قلبی اور صبر سے بغرض حصول اجر مقیم رہے اور سمجھے کہ میرا کچھ نہ بگڑے گا جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔

### بلعم بن باعورا کا تاریخی واقعہ

اس کی تفصیل طبری نے بروایت سلیمان حضرت یسار سے یوں نقل کی ہے: ”ان رجلا كان يقال له بلعم كان مستجاب الدعوة. وان موسى اقبل في بني اسرائيل يريد الارض التي فيها بلعم فاتاده قومه فقالوا ادع الله عليهم فقال حتى اوامر ربي فممنع فاتوه بهدية فقبلها وسالوه ثانيا فقال حتى او امر ربي فلم يرجع اليه بشيء فقالوا لو كرره لنهاك فدعا عليهم فصار يجرى على لسانه ما يدعوا به على بني اسرائيل فينقلب على قومه فلاموه على ذلك فقال سادلكم على ما فيه هلاكهم ارسلوا النساء في عسكرهم ومروهن لا يمتنعن من احد فعمسى ان يزنوا فيهلكوا فكان فيمن خرج بنت الملك فارادها بعض الاسباط فاخبرها بمكانه فمكنته من نفسها فوقع في بني اسرائيل الطاعون فمات منهم سبعون الفا في يوم وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنهما فايده الله فانتظهما جميعا وهذا مرسل جيدونكر ابن اسحاق ابن بنى اسرائيل لما كثر عصيانهم اوحى الله الى داود فيخبرهم بين ثلث اما ان ابتليهم بالقحط او العدد وشهرين او الطاعون ثلاثة ايام فاخبرهم فقالوا اخترلنا فاختر الطاعون فمات منهم الى ان زالت الشمس سبعون الفا وقل مائة الفتضرع داود الى الله فرفعه وورد وقوع الطاعون في غير بنى اسرائيل فيحتمل ان يكون هو المراد بقوله او من كان قبلكم واخرج عبدالرزاق في تفسيره و ابن جرير عن الحسن في قوله تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت قال افروا من الطاعون فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ليكملوا بقية اجالهم فاقدم من وقفنا عليه ما المنقول ممن وقع الطاعون به في بنى اسرائيل في قصة بلعام ومن غيرهم



(زرقاتی جلد چہارم ص ۷۶)

فی قصۃ فرعون و تکرر بعد ذلک لغيرہم

طبری نے سلیمان کے واسطے سے یسار کا بیان نقل کیا ہے کہ بلعم مستجاب الدعوات بزرگ تھا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر اس سرزمین پر حملہ کیا جہاں بلعم رہتا تھا۔ اس کی قوم نے درخواست کی کہ آپ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بددعا کریں۔ بلعم نے قبولیت درخواست کو استخارہ پر موقوف کیا۔ استخارہ کیا تو خدا نے اس حرکت سے اسے منع کیا۔ قوم نے یہ حیلہ کیا کہ طرح طرح کے تحائف اس کی خدمت میں پیش کئے اور اپنی درخواست کی طرف توجہ دلائی۔ پھر اس نے دوبارہ استخارہ کیا جس میں اسے کچھ معلوم نہ ہوا۔ قوم نے اسے کہا کہ اگر خدا کے نزدیک یہ فعل مکروہ ہوتا تو تجھے منع کر دیتا جیسے پہلی بار کیا تھا۔ کوہ لبنان پر جا کر بددعا کی جو کلمات بددعا یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے حق میں کہتا۔ وہ زبان کی گردش سے اپنے قوم کے حق میں صادر ہو جاتے۔ وہ اسے ملامت کرنے لگے کہ تو کیا کرتا ہے۔ تب اس نے یہ صورت بنی اسرائیل کی جاہلی کے ان کے ذہن نشین کر دی کہ میری عاقبت سیاہ ہوگئی اور زبان سینہ پر لٹک آئی۔ تم ایسا کرو کہ مستورات کو آراستہ پیراستہ کر کے بنی اسرائیل کی چھاؤنی میں بھیج دو اور ان کو یہ فہمائش کرو کہ وہ کسی کی خواہش کو نہ روکیں اور بلعم کے ایما کے مطابق خود شہزادی بھی اس حیلہ گر عورتوں میں بنی اسرائیل کے لشکر میں لگی اور اسباط بنی اسرائیل کا ایک سردار اس سے جرم کا مرتکب ہوا۔ بنی اسرائیل میں اس زور و شور سے طاعون واقع ہوا کہ ایک دن میں ستر ہزار آدمی مر گیا۔ بنی ہارون سے ایک مرد خدا نیک سیرت نکلا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے قائل اور مفعولہ دونوں کو سنگین کی ٹوک میں منگے کی طرح پرو کر نیزہ رو باسمان نصب کر دیا وہ نیزہ پر لٹکے رہے خدا نے عذاب کو اٹھالیا۔

ابن اسحاق نے اس قصہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب معصیت کا زور ہوا تو حضرت داؤد کی طرف وحی آئی کہ تین عذاب اس قوم کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں جو پسند کریں ان پر بھیجا جائے یا قحط منظور کریں یا اجنبی دشمن کا حملہ اختیار کریں جو دو ماہ تک محاصرہ شہر کا رکھے گا یا تین روز طاعون آئے گی انہوں نے اس معاملہ کو حضرت داؤد کی رائے پر چھوڑ دیا تو آپ نے طاعون کو منظور کر لیا۔ سورج کے ڈھلنے تک ستر ہزار مرد یا ایک لاکھ مارا گیا۔ حضرت داؤد نے گریہ زاری سے دعا کی خدا نے عذاب کو رفع کر دیا۔ طاعون بنی اسرائیل میں کئی بار واقع ہوئی۔ حضرت حزقیل کے عہد میں جبکہ ہزاروں آدمی بخوف طاعون اپنے شہر چھوڑ نکلے۔ واقع ہوئی تھی۔ خدا نے انہیں موت کے بعد پھر زندہ کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد کے عہد میں بھی طاعون زور و شور پر رہی اور قبیلوں پر بھی طاعون نے اپنا چبہ ڈالا اور بعد ازاں کئی بار مختلف ازمنہ

میں اس کا ظہور ہوا۔ ان واقعات سے حسب ذیل نتیجہ مستحب ہوا:

..... جب نزول عذاب طاعون وغیرہ انکار نبی سے مخصوص نہ رہا بلکہ زنا کاری، معصیت الہی، حکم عدولی، ارتکاب فواحش بھی اس کے اسباب ہیں تو ظہور طاعون سے مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تصدیق پر استدلال کرنا بالکل بے معنی ہے کیونکہ شرائع الہیہ میں تغافل کا روادار کتنا بھی غضب خدا کو نازل کرتا ہے اور اس سے طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں جب تک احتمال ثانی کو بالکل دلائل شافیہ سے قطع نہ کیا جائے تب تک استدلال تام نہیں۔ قاعدہ یہ ہے: ”اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال“ کیا ضرورت ہے کہ ایک جتنی کاذب جس کی نبوت آثار اور شواہد سے ثابت نہیں خواہ مخواہ اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے بالکلیت طاعون کو اس کی رسالت کا شاہد قرار دیا جائے جو شامت اعمال بنی آدم کا نتیجہ ہے۔

حدیث قدسی میں ہے: ”انما ہی اعمالکم احصیایا علیکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد شرأ فلا یلومن الانفسه“ مولوی جلال الدین رومی کا قول ہے:

ابرنا یدان ہے منع زکاة وز زنا خیزد وبا اندر جہات

طاعون کا نزول جب ان کا نبی سے مخصوص نہ رہا بلکہ بسا اوقات گناہ اور معصیت بھی اس کا موجب ہے تو کبریٰ کلیہ نہ رہا۔ شکل اول کا کبریٰ جب کلیہ نہ ہو تو نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔

طاعون حضرت کی دعا ہے۔ طاعون بشارت ہے

..... ۲ طاعون کا ظہور امت میں آنحضرت ﷺ کی دعا سے ہوا ہے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی؟ ”اللهم اجعل فناء امتی قتلًا فی سبیلک بالطعن والطاعون رواہ احمد باسناد حسن والطبرانی فی الکبیر ورواہ الحاكم من حدیث ابی موسیٰ وقال صحیح الاسناد (زواجر ۲ ص ۱۹۶)“ اور استجاب دعا پر آنحضرت ﷺ نے صحیح بھی فرمائی ہے: ”صح عن ابی موسیٰ الاشعریٰ انه ٔلیٰ قال فناء امتی بالطعن والطاعون فقیل یا رسول اللہ هذا الطعن عرفناه فما الطاعون قال وخزاعدا تکم من الجن و فی کل شهادة رواہ حمد باسناد احدها صحیح و ابو یعلیٰ والبزار و الطبرانی“ یعنی آں حضرت ﷺ نے فرمایا جو دعائیں میں نے امت کے حق میں کی تھی وہ منظور ہو چکی۔ اس لئے میری امت یا نیزہ سے فنا ہوگی یا طاعون سے مرے گی۔ صحابہ نے حضرت سے دریافت کیا کہ طعن کی حقیقت تو ہمیں معلوم ہے لیکن طاعون کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جو جنوں میں سے تمہارے دشمن ہے ان کے نیزے کی مار ہے یعنی تم ان کے

بہکانے سے گناہ کرتے ہو اور اس کے باعث طاعون پھیلتی ہے۔ گویا استعاراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوں نے گناہ کے نیزے سے تمہارا فکا کر کیا۔ اور دوسری روایت میں حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے: ”لا تغنی امتی الا بالطعن والطاعون قلت یا رسول اللہ هذا الطعن قد عذر فناہ فما الطاعون قال غدة كغدة البعیر المقیم بها كالشہید والفارمنہ كالفارمن الزحف رواہ احمد وابو یعلیٰ والطبرانی والبزارو اسانیدہم حسان“ گویا طاعون ان روایات مذکورہ کے اقتضاء سے آنحضرتؐ کی دعا اور امت کے لئے رحمت اور شہادت کی بشارت ہے۔ اسی بناء پر حضرت معاذ نے ملک شام میں خطبہ کے ضمن میں طاعون کا تذکرہ کیا اور کہا:

”انہا رحمة ربکم ودعوة نبیکم وقبض الصالحین قبلکم اللهم اجعل علی آل معاذ نصیبہم من هذه الرحمة ثم نزل عن مقامہ ذلك فدخل علی عبد الرحمان بن معاذ فقال عبد الرحمن الحق من ربك فلا تكونن من الممترین فقال معاذ ستجدنی ان شاء الله من الصابرين رواہ احمد باسناد جيد عن ابی منیب الاحدب ولا حمد فی رواية اخرى عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ستهاجرون الی الشام فتفتح لکم ویكون فیہ داء كالدمل او كالجرة یاخذ بمراق الرجل یستشهد الله به انفسہم ویزکی به اعمالہم اللهم ان كنت تعلم ان معاذاً سمعه من رسول اللہ ﷺ فاعطه هو واهل بیت الحظ الادخر منه فاصابہم الطاعون فلم یبق منهم احد فطعن فی اصبعه السبابة فكان یقول ما یسرنی ان لی بها بہاجر النعم“ یعنی طاعون تمہارے نبیؐ کی دعا اور تمہارے رب کی رحمت ہے۔ نیکو کار جو تمہارے پہلے ہے اس بیماری سے

۱۔ طاعون بدکاروں کے لئے عذاب ہے جو معصیت اور حکم عدولی سے نازل ہوتی ہے۔ کسی نبیؐ کا وجود اس کا موجب نہیں۔ چنانچہ بہت روایات اس مضمون کی موجود ہیں اور نیکو کاروں کے لئے رحمت اور شہادت ہے اور اس حضرت ﷺ کی دعا اس کا موجب ہے۔ ”اللہم اجعل فنا امتی قتلاً فی سبیلک بالطعن والطاعون“ بہر حال طاعون مرزا قادیانی کی تصدیق نہیں کرتی۔ بلکہ جناب سرور کائنات ﷺ کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کی پیش گوئیاں برآئیں اور دعا مستجاب ہوئی۔ مرزا قادیانی کے وجود سے طاعون کا صرف اتنا تعلق ہے کہ دعویٰ نبوت سے بنی آدم کے گناہوں میں کفر اکبر کا جو اشد گناہ ہے اضافہ ہو گیا اور جو فہرست میں کسی تھی جس نے عذاب کو رد کا ہوا تھا پوری ہو گئی اور فوراً عذاب نازل ہو گیا اور زیادہ نہیں۔

مرے اے خداوند تو آل معاذ کو اس رحمت سے حصہ عنایت کر۔ پھر منبر سے اترے اور اپنے بیٹے عبد الرحمن کے پاس آئے بیٹے نے کہا۔ موت تیرے رب کا قطعی حکم ہے انہیں شک نہ کچھو تو حضرت معاذ نے فرمایا بیٹا! مجھے انشاء اللہ صابر جماعت میں سے پاؤ گے۔ امام احمد کی دوسری روایت میں حضرت معاذ کا سلسلہ کلام اس طرح منقول ہے کہ میں نے حضرت سے یہ حدیث سنی کہ ایک زمانہ عنقریب آنے والا ہے کہ تم ہجرت کر کے شام میں پہنچو گے۔ وہاں ایک بیماری ہوگی جس کی شکل ایک بڑی پھنسی کے مشابہ ہوگی۔ خدائے تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کو طاعون کے ذریعہ درجہ شہادت عنایت کرے گا۔ اور ان کے اعمال کا تزکیہ کرے گا۔ اے خداوند! اگر رسول ﷺ سے سنے ہیں تو اس کو اور اس کے اہل بیت کو طاعون سے کامل حصہ عطا فرما۔ پس ان کے سب متعلقین طاعون سے شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ فرماتے تھے کہ مجھے اس نعمت کے عوض اگر شتران سرخ دیئے جائیں تو یہ تادمہ مجھے خوش معلوم نہ ہو۔ ﴿

چونکہ طاعون رحمت ہے اور آنحضرت کی دعا کا شکر اس لئے حضرت معاذ نے یہ درخواست کر کے اس رحمت کو خدا سے حاصل کیا۔ اس بناء پر علماء میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں طاعون واقع ہو وہاں کے باشندے اس کو دفعیہ کے لئے دعا کریں یا نہ کریں۔ شارح اشباہ والخصائر نے رفع طاعون کے لئے دعا کرنے کو ممنوع لکھا ہے۔

”ولا شك ان اطاعون من اشد النوازل اقول هو وان كان من اشد النوازل الا انه رحمة وشهادة فلا يطلب رفعهما“  
 ﴿یعنی طاعون کو اشد درجہ کی مصیبت ہے لیکن آخر کار وہ رحمت اور شہادت ہے اس لئے ان کے رفع کی دعا نہ کرنی چاہئے۔ ﴿  
 اور مؤلف اشباہ کا جواب شارح کی رائے کے مخالف ہے۔

”قال سئل عنہ فی طاعون سنة تسع وستين وتسعمائة بالقاهرة فاجبت بلنه لم اره صريحا ولكن صرح فى الغاية وعزا الشئى اليها بانہ اذا نزل بالمستمين ناذلة قنت الامام فى صلوة الفجر وهو قول الثورى واحمد وقال جمهور اهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع فى الصلوة كلها وفى فتح القديران مشروعية القنوت للنازلة مستمرة لم ينسخ وبه قال جماعة من اهل الحديث وحملوا عليه حديث ابى جعفر عن انس عنها ما زال..... الخ!“  
 ﴿یعنی مؤلف علامہ کا قول ہے کہ اس طاعون کے متعلق جو ۹۶۹ھ میں قاہرہ میں واقع

ہوئے مجھے سوال کیا گیا کہ اس کے رفع کے لئے بدرگاہ رب العزت دعا و اہجال سے کام لیا جائے یا نہیں میں نے جواب میں لکھا کہ صریحاً میری نظر سے صورت مستفسرہ کا حل نہیں گزرا۔ لیکن حشنی نے کتاب غایت کی طرف منسوب کر کے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسلمانوں پر جب کوئی حادثہ نازل ہو تو امام نماز فجر میں دعائوت پڑھی۔ امام سفیان ثوری اور امام احمد اس قول کے قائل ہیں اور جمہور اہلحدیث کا قول ہے کہ تمام نمازوں میں دعائوت کا پڑھنا مشروع ہے جبکہ کوئی آفت نازل ہو اور علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ عند النازلۃ دعائوت کا پڑھنا ایک عمل مستمر اور جاری ہے جو منسوخ نہیں اور اہل حدیث نے حدیث انس کا بھی مطلب بیان کیا ہے کہ آں حضرت ہر حادثہ کے وقت دعائوت پڑھا کرتے تھے۔ ﴿

اسی عموم کے ماتحت طاعون کے مرفع کے لئے دعا کرنا مندرج ہے لہذا کوئی مضائقہ نہیں کہ اگر دفعیہ طاعون کے لئے دعا و تضرع کی جائے و مجالس الابرار میں یہ مسئلہ مکمل طور پر مندرج ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد کہ اس امت پر عذاب نازل ہوں گے  
لیکن عذاب پہنچ کن نازل نہیں ہوگا

ضمن دوم..... آنحضرت ﷺ نے اپنی امت میں عذاب نازل ہونے کی خبر سنائی ہے لیکن یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ سابقہ امتوں کی طرح کلیہ استیصال کر دینے والا عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ثوبانؓ نے حضور سرور کائنات ﷺ سے نقل کیا ہے۔

”ان اللہ زوی لی الارض فرایت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها واعطیت الكنزین الاحمر ولا بیض وانی سالت ربی لامتی ان لا یهلکها بسنة عامه وان لا یسلط علیہم عدوا من سوی انفسہم فیستبیح بیفتہم ولو اجتمع علیہم من باقطار ہاوان ربی قال یا محمد انی اذا قضیت قضاء فانہ لا یردوانی اعطیتک لا متک ان لا اہلکہم بسنة عامه وان لا اسلط علیہم عدوا من سوی انفسہم فیستبیح بیضتہم ولو اجتمع علیہم من باقطارہا حتی یکون بعضهم یهلك بعضا ولیسبیبی بعضهم بعضا رواہ مسلم“

﴿خدا نے تعالیٰ نے روئے زمین کو میرے لئے سمیٹ دیا۔ میں نے مشرق سے مغرب تک نظر دوڑائی میری امت کی سلطنت انہیں حدود تک پہنچے گی جہاں تک کہ وہ میرے لئے

سمیٹی گئی اور مجھے زروسم کے دو خزانے خداوند تعالیٰ نے عطا کئے۔ یہ دیکھ کر میں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دعائیں پیش کیں۔ میری امت کو قحط عام سے تباہ نہ کرے۔ اور دوسری قوم کا اجنبی دشمن ان پر اقتدار نہ جمائے کہ ان کی بیخ اڑا دے اگرچہ اطراف عالم کے کل باشندے قوت مجتہد سے حملہ کریں سو میرے خداوند خدا نے فرمایا کہ میری تقدیر مسترد نہیں ہوتی۔ میں تیری امت کو فاقہ کشی اور قحط عام سے تباہ کروں گا۔ اور کسی غیر قوم کا دشمن ان پر مسلط نہ کروں گا جو ان کا صفایا کر دے اگرچہ ہر چہار کنارہ عالم ان کی مخالفت پر جمع ہو جائے وہ اندرونی اختلاف کے باعث ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے۔ اور ایک دوسرے کو قید کریں گے۔

اور مسلم نے حضرت سعد کا بیان صحیح میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ جناب سید الکونین نے ارشاد فرمایا: "سالت ربی ثلاثا فاعطانی ثنتین ومنعنی واحدة سالت ربی ان لا یهلك امتی بالسنة فاعطانیها وسالت ان لا یجعل باسهم بینهم فمنعنیها"

﴿میں نے اپنے خداوند خدا سے تین درخواستیں کیں جن میں سے دو مجھے عنایت کریں اور ایک مجھے نہ دی۔ میں نے کہا میری امت کو عام قحط سے تباہ نہ کرے اور میری امت طوفان سے غرق نہ ہو۔ یہ دونوں معروضات منظور ہو گئے اور تیسری عرضداشت یہ پیش کی کہ ان میں خانہ جنگی نہ ہو یہ درخواست بوجہ مخالفت قدر بار آور نہ ہوگی۔﴾

اور خباب بن ارت کا بیان ہے: "صلی بنا رسول اللہ صلوة فاطلها قالوا یا رسول اللہ صلیت صلوة لم تکن تصلیها قال اجل انها صلوة رغبت ورحبة وانی سالت اللہ فیها ثلاثا فاعطانی اثنتین ومنعنی واحدة سالتہ الا یهلك امتی بالسنة فاعطانیها وسالتہ ان لا یسلط علیہم عدواً من غیرہم فاعطانیها وسالتہ ان لا ینذیق بعضهم باس بعض تمنعنیها رواہ الترمذی والنسائی" ﴿ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے کہ خباب بن ارت نے یہ تذکرہ سنایا گیا کہ آنحضرت نے ہمیں طویل نماز پڑھائی صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے عام معمول سے الگ یہ نماز ہمیں پڑھائی ہے آپ نے فرمایا کہ اس نماز سے رغبت اور شوق اور خوف الہی کا اتہار مقصود ہے میں نے تین درخواستیں اپنے مالک کے سامنے پیش کیں۔ میری امت کو عام قحط سے تباہ نہ کیا جائے اور غیر دشمن ان پر مسلط نہ ہو۔ اور ان میں خانہ جنگی نہ ہونے پائے۔ پہلی دو درخواستیں منظور ہو گئیں اور تیسری اپنے حال پر رہی۔﴾

اور ابو داؤد نے ابو مالک اشعری سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”ان  
 اللہ عزوجل اجارکم من ثلث خلال ان لا يدعوا علیک نبیکم يتحل کموا  
 جمیعا وان لا ینظر اهل الباطل علی اهل الحق وان لا تجتمعوا علی ضلالة“  
 ﴿خدا نے تم کو تین مصیبتوں سے امن میں رکھا ہے تمہارے خلاف تمہارا پیغمبر بدو عانہ  
 کرے گا کہ تم سب فنا ہو جاؤ اور اہل باطل حق پرستوں پر غلبہ نہ پائیں گے۔ اور گمراہی پر تم متفق نہ  
 ہو گے۔﴾

یعنی آنحضرت کی امت پر ایسا عذاب نہ آئے گا کہ تمام دنیا سے ناپو ہو جائیں۔ البتہ  
 بسا اوقات بطور تازیانہ عبرت انواع واقسام کے عذاب آتے رہیں گے۔ خود آنحضرت ﷺ نے  
 امت میں ظہور عذاب کی خبریں سنائی ہیں جس قدر مصائب و آلام امت پر آتے ہیں وہ پہلے دن  
 سے پیغمبر خدا کی خبر کی تصدیق ہے۔ نہ کہ مرزا قادیانی کے انکار کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہو رہے  
 ہیں۔ اگر طاعون کو امت کے لئے عذاب مانا جائے تو یہ حضرت کی پیش گوئی کا نتیجہ ہے۔ مرزا  
 قادیانی کے انکار سے اس کا تعلق نہیں۔

ہمسن سوم..... طاعون کا ظہور زمانہ ہذا سے قبل بارہا ہو چکا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے عہد میں  
 مدائن میں طاعون واقع ہوئی اور بعد خلیفہ ثانی عمر فاروق شام میں طاعون عمواس رونما ہوئی۔ آپ  
 سفر شام کا عزم کر کے جا رہے تھے کہ راستہ میں ابو عبیدہ نے ملک میں دبائے طاعون کی خبر سنائی  
 آپ نے تمام صحابہ کو مدعو کر کے مجلس شوریٰ نے قائم کی کہ شام کی طرف قدم بڑھائیں یا واپس  
 مدینہ جائیں چنانچہ موٹا مالک میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے۔

حضرت عمرؓ کے عہد میں طاعون کا ظہور

”ان عمر بن الخطاب خرج الی الشام حتی اذا کان بسرغ لقیہ  
 امراء الاجناد ابو عبیدہ بن الجراح واصحابہ فاخبروه ان الوباء قد وقع  
 بالشام قال ابن عباس فقال عمر بن الخطاب ادعی لی المهاجرین الاولین  
 فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقعت بالشام فاختلفوا فقال  
 بعضهم قد خرجت لامرولان نری ان ترجع وقال بعضهم معک بقیة الناس  
 واصحاب رسول اللہ ﷺ ولا نری ان تقدمهم علی هذه الوباء فقال عمر  
 ارتفعوا عنی ثم قال ادع لی الانصار فدعوتهم فاستشارهم فسلکوا سبیل  
 المهاجرین واختلفوا لا ختلافهم فقال لهم ارتفعوا عنی ثم قال ادع من کان

هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليهم منهم  
 اثنان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنأدى عمر  
 بن الخطاب في الناس انى مصبح على ظهر فاصبحو عليه فقال ابو عبيدة  
 افرار من قدر الله قال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله  
 الى قدر الله ارايت لو كان لك ابل فهبطت وادباله عدوتان احدهما مخصبته  
 والاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصبته رعيتها بقدر الله وان رعيت  
 الجدبة رعيتها بقدر الله فجاه عبدالرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض  
 حاجة فقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله ﷺ عليه وسبيل  
 يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه وان وقع بارض فانتم بما فلا  
 تخرجوا افرار امنه قال ابن عباس فحمد الله عمر ثم انصرف رواه مالك عن  
 عبدالله بن عامر نحو وعن سالم بن عبدالله مثل ذلك

حضرت عمر بن خطابؓ نے سفر شام کا عزم کیا۔ سرخ پر جو ایک مقام کا نام ہے پہنچے  
 ہی جریان لشکر ابو عبیدہ وغیرہم کی زبانی ملک شام میں طاعون کی زور کی خبر سنی حضرت ابن عباسؓ  
 کے بیان کی رو سے حضرت فاروقؓ نے مہاجرین اولین کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ وہاں کا شام میں  
 زور و شور ہے اب کس تجویز پر عمل کرنا چاہئے۔ پیش قدمی کریں یا مدینہ کو رخ بدلیں۔ مہاجرین نے  
 کوئی قطعی رائے جس پر ان کا اتفاق ہو نہ بتلائی اور مختلف رائے ظاہر کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا واپسی  
 مناسب ہے کیونکہ سرور کائنات کے بہترین اصحاب اور چیدہ بزرگ آپ کے ہمراہ ہیں۔ ہم نہیں  
 چاہتے کہ آپ ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اور وہاں وہاں میں ان کی عزیز جانیں دے دیں۔  
 اور دوسری بولے واپس جانا ٹھیک نہیں۔ پھر انصار کو بلا یا وہ بھی مہاجرین کے رویہ پر چلے اور ان  
 میں بھی ویسے ہی اختلاف ہوا جیسے مہاجرین میں تھا۔ پھر ان کی مجلس کو برخاست کر دیا۔ اور مشائخ،  
 قریش کو بلا یا۔ ان میں کوئی اختلاف نہ ہوا اور بلا اتفاق یہ رائے دی کہ واپس مدینہ ہونا چاہئے اور  
 وہاں میں اپنا قدم نہ رکھنا چاہئے۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے نداء عام کر دی کہ کل صبح ہم کوچ کریں  
 گے۔ ابو عبیدہ نے اعتراض کیا کہ آپ تقدیر الہی سے بھاگتے ہیں عمر فاروقؓ نے جواب دیا کہ اگر  
 آپ کے سوا کوئی دوسرا ایسے کلمات کہتا تو چنداں قابل اعتراض نہ تھا لیکن تمہارے لئے یہ زیبا نہیں  
 میں مسئلہ تقدیر کو مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ جس روش کو ہم باعتبار خود پسند کریں گے۔ وہی  
 ہمارے حق میں تقدیر ہو جائے گی۔ اس طرح ہم تقدیر کی ایک رخ سے دوسری رخ کی طرف



جار ہے ہیں بتلاؤ تو سہمی کہ اگر تم کسی میدان میں فروکش ہو جس کے دو کنارے ہیں ایک سرسبز اور دوسرا خشک جس کنارے تم اپنے شتر چرنے چھوڑو گے وہ بحکم تقدیر ہوگا۔ (اگر کوئی خشک کنارہ ترک کر کے سبز خطہ اختیار کرے تو یہ تقدیر کی مخالفت نہیں بلکہ حزم و احتیاط اور تقدیر کی موافقت ہے۔) اتنے میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ جو کسی ضروری کام کے لئے مجلس سے غائب تھے آہنچے اور یہ حدیث سنائی کہ جہاں طاعون واقع ہو وہاں جاؤ نہیں اور اگر تمہارے شہر میں طاعون پڑ جائے تو بھاگو نہیں۔ حضرت عمرؓ خدا بجالائے اور مدینہ کو کوچ کیا۔ امام مالک نے یہ ساری سرگزشت حضرت ابن عباسؓ عبداللہ بن عامر اور سالم بن عبداللہ سے روایت کی ہے۔ طاعون عمواس سیف بن عمرو کی تحریر کی رو سے ۱۸ھ میں اس کا ظہور ہوا اور عمواس عم و اسار کا مخفف ہے چونکہ اس طاعون نے لوگوں کو بد حال کر دیا تھا اس لئے اس نام سے نامزد ہوئے۔ ﴿

اور کوفہ میں بائناہ ۳۹ھ طاعون ظاہر ہوئی اور طاعون جارف ۶۵ھ لغائب ۸۰ھ میں نمودار ہوئے اور حافظہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ۶۶ھ میں مصر میں عام طاعون اپنا کام کر رہی تھی اور بصرہ میں دوسری بار طاعون پھیلی جو طاعون نقیات کے نام سے نامزد ہے ازاں بعد طاعون اشرف واسطہ میں رونما ہوئی ان پانچ طاعونوں کی تصریح مدائنی نے تاریخ میں ذکر کی ہے علاوہ ان کے ہر زمانہ میں بہت دفعہ طاعون اپنا رنگ دکھلا چکی ہے۔

### طاعونات کا وقتاً فوقتاً ظہور

شام میں طاعون عمواس کے بعد دوسری بار طاعون نے کھلیلی عبادی۔ پھر طاعون عدی بن اراطا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں ۱۰۰ھ میں واقع ہوئی اور پھر تیسری بار شام میں بائناہ ۱۰۷ھ و ۱۱۵ھ طاعون نے لوگوں کی حالت خستہ کر دی کذا ذکر ابن کثیر فی تاریخہ اور مرآة الزمان میں بیان کیا گیا ہے کہ ۱۶ھ میں بعلاقہ عراق و شام طاعون کا زور شور تھا اور بصرہ میں تیسری چوتھی بار طاعون غرابا اور مسلم بن قتیبہ وارد ہوئی اور سال ۱۳۶ھ کا دور دورہ تھا کہ ماہ رجب و شعبان و رمضان میں تین ماہ متواتر طاعون نے سخت حملہ کیا۔ بنو امیہ کا دور تھا۔ طاعون کا سمندر اس عہد میں موجزن رہا ۲۳۹ھ میں عراق کے علاقہ میں طاعون نے خلق اللہ کو ستایا اور ۲۰۸ھ کا دوران تھا جبکہ اذربے جان اور یرودہ میں اس بیماری نے اپنے دانت تیز کئے اور ۲۰۹ھ میں ہلاد فارس اور ۲۳۶ھ میں بعلاقہ بغداد اور ۳۲۳ھ میں بہلہ اصفہان اور ۳۳۶ھ میں بنو امیہ عراق اور ۳۰۶ھ میں بشہر بصرہ اور ۳۲۳ھ میں ہلاد ہندوستان و عجم و علاقہ جبل و بام نے خلق اللہ کی تباہی کی اور ۴۲۵ھ میں شیراز سے بصرہ اور بغداد تک پہنچی اور ۴۳۹ھ میں موصل و جزیرہ اور بغداد پر اس نے اپنا تسلط بنمایا اور پھر ۴۳۸ھ میں

مصر و شام و بغداد پر اس کا تصرف رہا اور ۴۳۹ھ میں بلاد عجم میں اس کا شیوع تھا اور ۴۵۵ھ میں مصر پر تاجی ڈالی اور ۴۶۹ھ میں شہزاد دمشق پر اس شد و مد سے حملہ آور ہوئی کہ پانچ لاکھ آبادی میں سے صرف ساڑھے تین ہزار باقی رہ گئے اور بعدہ ۴۷۸ھ میں عراق اور ۵۰۲ھ میں علاقہ حجاز اور یمن اس کے پنجہ میں گرفتار تھا اور ۴۳۹ھ کی طاعون اس قوت سے ظاہر ہوئی کہ شرق و غرب سے کوئی ملک کوئی صوبہ کوئی ضلع کوئی شہر اس کے حملہ سے خالی نہ رہا ابن ابی جملہ کا بیان ہے کہ قریباً نصف عالم یا زیادہ اس طاعون میں عالم بقاء کو سدھارا۔ اور ۶۲۷ھ میں دمشق اور قاہرہ پر اور پھر ۷۱۷ھ میں خاص دمشق پر اور ۷۸۱ھ میں خاص قاہرہ پر طاعون نے تاخت کی۔ ۷۹۶ھ اور ۸۱۳ھ اور ۸۱۹ھ اور ۸۲۱ھ اور ۸۲۲ھ اور ۸۳۳ھ میں طاعون نے قاہرہ پر چڑھائی کی اور آخری طاعون وسعت کے لحاظ سے بے نظیر تھی بعدہ ۸۴۱ھ میں مصر میں اس مہلک مصیبت نے اپنا اثر دکھلایا اور ۸۴۹ھ میں ماہ ربیع الاوّل میں لغات ماہ ذالحجہ طاعون نے وہ یورش ڈالی کہ الامان الامان اور ۸۵۳ھ میں طاعون اس زور و شور سے ظاہر ہوئی کہ روزانہ پانچ ہزار آدمی نذر موت ہوتا تھا اور ۸۶۴ھ میں مصر و شام کے اندر طاعون نے وہ جارحانہ حملہ کیا کہ جس کی برداشت مشکل تھی اور مکرر ۸۷۳ھ میں بخوجی مصر و شام طاعون نے خلق خدا کو پریشان کر دیا اور پھر ۸۸۱ھ میں شام و مصر میں اس کا دور ثانیہ ہوا اور ۸۹۹ھ میں روم کے اندر اس نے اپنا جوش دکھلایا اور ۸۹۷ھ میں بصرہ حلب اس بیماری نے اپنے اثر سے خلق اللہ کو عالم جاودانی کا راستہ بتایا اور اور عملداری نصاریٰ میں بہت دفعہ طاعون واقعہ ہو چکی ہے۔ ۱۳۳۸ء میں طاعون نے انگلستان پر چارلس دوم کے عہد میں تاخت و تاراج ڈالی شاہ جہاں کے عہد میں بیلاد ہندوستان طاعون بڑی سختی سے واقع ہوئی۔ ۱۳۳۸ء میں ایک مہلک وبا مشرق سے حرکت میں آئی اور فرانس کی ملک آبادی کو نیست و نابود کر گئی۔

طاعون کا ظہور علامت بعثت نبی نہیں

اب جماعت مرزائیہ سے سوال ہے کہ طاعونات مذکورہ میں جو انبیاء مدعی ہوئے ہیں ان کا بحوالہ تاریخ پتہ بتلائیں اور اگر اس بات سے عاجز رہیں تو پھر تسلیم کرنا ہوگا کہ طاعون نبی کے انکار سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ دنیا میں گنہ اور بدکاری کا مادہ جب زیادہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حسنت سینات کے مقابلہ بالکل کم نظر آنے لگتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے گونا گوں عذاب نازل ہوتے ہیں۔ انما ہی اعمالکم احصیہا علیکم فمن وجد خیر فلیحمد اللہ ومن وجد شراً فلا یلو من الانفسہ یہ جزل رول ہے کہ جب تک حسنت سینات دنیا میں مساوی الوزن رہیں کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ لیکن سینات جب غالب الوزن ہوں تو ہر سال خدائے

تعالیٰ اپنے قہر اور شدت کا رنگ بدلتا اور مخلوقات کو عبرت ناک واقعات دکھاتا ہے تاکہ وہ سمجھیں اور واپس آئیں۔

مانا کہ انکار نبی کو نزول عذاب لازم ہے۔ مگر نزول عذاب سے وجود نبی اور اس کے انکار پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ لازم عام کے تحقق سے مژوم خاص کا تحقق ثابت نہیں ہوتا۔ اس بناء پر منطقیوں نے یہ قاعدہ تجویز کیا ہے کہ موجب کلیہ کا عکس موجب جزئیہ ہوا کرتا ہے اور لکھا ہے کہ کل انسان حیوان کا عکس بعض الحیوان انسان صحیح اور کل حیوان انسان خطا ہے۔ اسی طرح کی دوسری مثال کل مسجد یخلع النعل خارجہ کا عکس کل ما یخلع النعل خارجہ فہو مسجد نامست نہیں اس لئے کہ بسا اوقات گرجا گھر۔ دھرم سالہ اور شویالہ میں بھی پاپوش اتار کر جاتے ہیں پھر تھیہ معکوس کس طرح صحیح ہوگا۔ البتہ بعض ”ما یخلع النعل خارجہ فہو مسجد“ منطبق ہے صرفیوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ ”کل باب من ابواب منع یجئ فی عین کلمتہ اولامہا حرف من حروف الحلق“ لیکن قضیہ معکوسہ بصورت کلیہ بالکل غلط ہے یعنی ”باب یحئی فی عین کلمتہ اولامہا حرف من حروف الحلق فہو من ابواب منع“ بالکل خلاف واقع ہے اس لئے کہ وعلا یعلا باوجودیکہ عین کلمہ اس کا حرف حلق سے ہے۔ باب ضرب سے مستعمل ہے۔ اسی قیاس پر قضیہ شرطیہ کما ”کان تکذیب النبی واقعاً کان العذاب نازلاً“ صحیح ہے لیکن اس کا عکس بصورت کلیہ صحیح نہیں بلکہ عکس اس کا بموجب قاعدہ منطقی جزئیہ شرطیہ آتا ہے ”قد یکون اذا کان العذاب نازلاً کان تکذیب النبی واقعاً“ اور یہ بعینہ اس قضیہ کے مطابق ہے کہ کما ”کان هذا انسانا کان حیوانا“ کا عکس ”قد یکون اذا کان هذا حیوانا کان انسانا“ مستعمل ہے کیونکہ لازم عام کا وجود مستلزم تحقق مژوم نہیں۔ اہل میزان اور اصولیوں نے لکھا ہے۔ ”ثبوت العام لا یتلزم ثبوت الخاص“ (اتقان جلال الدین سیوطی و کتب منطق) اور اعلام الموقعین میں لکھا ہے ”العام لا یدل الخاص“ بناء علیہ عذاب جوگا ہے انکار نبی اور گا ہے معصیت الہی سے نازل ہوتا ہے علی الخصوص وجود اور تکذیب نبی پر دلالت نہیں کرتا۔ اس لئے دلیل نامتام ہے۔

دفع طاعون کو مرزا قادیانی کی تصدیق کے لئے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے لیکن اوّل یہ ضروری ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کو جماعت مرزائیہ ثابت کرے یعنی معجزات و خوارق اور گزشتہ نبیوں کے بشارات اور آئندہ پیش گوئیاں اور اخلاق فاضلہ اور دیگر شواہد آثار جو نبوت کے لئے کافی ثبوت ہیں۔ مرزا قادیانی کی رسالت کی تائید پیش کرے۔ پھر نزول عذاب کو ان کی

عمر ” یہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کا بھکی استحصال کر رہا ہے۔ ہمیں مرزا قادیانی کی تحریرات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایسے عادی پیش کرنے کے عادی ہیں جو آنحضرت ﷺ کے بالکل معارض اور قرآن و سنت کے مد مقابل ہوں۔

### محدث کی وحی دخل شیطانی سے منزہ نہیں ہوتی

۲..... آپ فرماتے ہیں کہ محدث کی وحی دخل شیطانی سے منزہ کی جاتی ہے جو یہ دعویٰ نہ صرف اہلسنت کے عقائد کی خلاف ہے بلکہ جملہ اہل اسلام کے معارض ہے۔ کتاب و سنت میں کوئی اشارہ بھی موجود نہیں جو عصمت وحی محدثین کا کفیل ہو۔ صحابہ کرام جو حضرت عمرؓ کی محدثیت کے معترف تھے مگر بہت سے مسائل میں ان سے اختلاف رکھتے تھے۔ آپ جب کے لئے بحالت سفر و مرض تیمم کو روا نہیں رکھتے تھے اور دیگر صحابہ تیمم کے قائل تھے۔ آپ حجۃ الہج کے معترف نہ تھے دوسرے صحابہ حجۃ الہج کے قائل تھے۔ اگر آپ کی وحی معصوم تھی تو صحابہ پر ان کا اتباع لازم ہوتا اور مخالفت ہر طرح ممنوع اور حرام ہوتی۔ حضرت عمر فاروقؓ نکاح میں گرنا امید مہر مقرر کرنے کی ممانعت کرتے ہیں اور ایک عورت گوشہ سے کھڑی ہو کر بحوالہ قرآن آپ کے خیال کو مخالفت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا نے تو ہماری مہر گراں مایہ کی اجازت دی ہے اور ارشاد کیا ہے: ”وان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احدھن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئاً اتاخذونہ بہتاناً واثما مبینا (نساء: ۲۰)“ تو حضرت عمرؓ جواب ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں: ”کل الناس افقہ منک یا عمر“ اور بالآخر اس عورت کے استنباط کو بنظر استحسان دیکھتے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب بھی کوئی شبہ باقی ہے کہ محدث معصوم الراءے نہیں ہوتا؟

### محدث کا لفظ منسوخ ہو گیا ہے

یہی وجہ ہے کہ محدث کا ذکر ایک قرآۃ میں رسول اور نبی سے مقرون بیان کیا گیا ہے لیکن بعد ازاں اسے منسوخ کر کے ساقط کر دیا گیا چنانچہ اب یہ لفظ آیت ”وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته (حج: ۵۲)“ میں موجود نہیں تاکہ یہ سقوط اس امر پر دلیل ہو کہ محدث کا حکم نبی اور رسول سے متفاوت ہے اور جو قوم محدث کو نبی اور رسول کے مساوی سمجھتی ہے ان کا شبہ دور ہو: ”وقرہ ابن مسعود ولا نبی ولا محدث وعن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف مثله وزاد فنسخت محدث حاشیہ جامع البیان“ یعنی ابن مسعود نے نبی کے ساتھ محدث کا لفظ بھی پڑھا ہے

لیکن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف کا قول ہے کہ یہ لفظ منسوخ ہو کر ساقط ہو گیا ہے۔ گویا لفظ ساقط کا حکم الفاظ مذکورہ سے جدا اور متفاوت ہو گیا ہے اور محدث کی وحی تلمیس شیطانی سے رسول و نبی کی طرح منزہ نہیں ہوتی۔

جب کوئی لفظ قرآن سے بے ساختہ ساقط ہو جائے تو اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے جیسے آیت ”فمن كان منكم مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر“ میں جنابت کا لفظ بھی نازل ہوا تھا جس کا یہ اثر تھا کہ ہر ایک قضاء کنندہ صیام علی الترتیب اور متواتر روزی رکھتا تھا۔ لیکن جب یہ لفظ ساقط ہو گیا تو قضاء کے حکم میں تبدیلی واقع ہوئی اور کہا گیا: ”ان شاء فرق وان شاء تابع علی هذا القیاس“ جب محدث کا لفظ ساقط ہو گیا تو اس کی وحی اور الہام کا حکم انبیاء کی وحی سے بالکل مختلف ہو گیا۔ انبیاء کی وحی تلمیس شیطانی سے منزہ کر دی گئی۔ برخلاف محدث کے کہ اس کی وحی دخل شیطانی سے پاک نہیں۔

مضمون چہارم..... جماعت مرزائیہ اس موقع پر آیت ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا“ سے بھی استدلال کیا کرتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ نزول عذاب بعثت نبی کی علامت ہے اور یہ عادت اللہ جاری ہے کہ جس وقت دنیا میں کوئی نذیر ظاہر ہو اور اس کی اجاع سے قوم منحرف ہو تو خدا اس کی تصدیق اور قوم کی تنبیہ کے لئے عذاب نازل کرتا ہے مگر یہ دعوائے بروئے آیت بالکل محاورات عرب اور قواعد صرفیہ اور لغویہ کے خلاف ہے کتنا ماضی معلوم کا صیغہ ہے جو خدائے تعالیٰ کی گذشتہ عادت کو ظاہر کرتا ہے کہ زمانہ ماضی میں وہ ایسا کرتا رہا ہے کہ جب قوم نے نبی کا انکار کیا تو خدا نے تازیانہ عذاب سے انہیں بیدار کیا یا بالکل ان کا استحصال کر دیا۔ آئندہ زمانہ پر آیت ہذا کا کوئی اثر نہیں بلکہ سورہ احزاب کی حسب ذیل آیت: ”ما كان محمد اباً احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب: ۴۰)“ آئندہ زمانہ پر حاوی ہے۔

وما كنا معذبين کے معنی

لہذا حضور علیہ السلام کی بعثت سے بعد کا زمانہ ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا“ کے ماتحت داخل نہیں کیونکہ آیت ختم نبوت نے آئندہ ہر زمانہ کے لئے انبیاء کی بعثت کو مسدود کر دیا ہے لہذا قرآن کی دوسری آیت خود پہلی آیت کے یہی معنی بتلا رہی ہے کہ اس کا اثر زمانہ قبل بعثت رسول کریم سے وابستہ ہے جماعت مرزائیہ جن معنی کی شیداء ہے وہ آیت ختم نبوت سے معارض ہیں اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”انما نزل القرآن یصدق بعضه بعضاً فلا تضربوا کتاب اللہ بعضه ببعض“ یعنی قرآن ایک دوسرے حصہ کا مصدق نازل ہوا ہے تم

خدا کی کتاب کو آپس میں نہ ٹکراؤ یعنی کتاب اللہ کے ایسے معنی بیان کرو کہ دو آیتوں میں تعارض نہ واقع ہو مگر مرزا قادیانی کو آنحضرت کی پسند و نصیحت سے کیا سروکار وہ تو اپنی غرض کے تابع ہیں۔

خاتم النبیین کے معنے

چونکہ آیت احزاب مرزا قادیانی کے نقل مقصود اور ان کی ساختہ عمارت کو مسمار کرتی تھی اس لئے وہ اس کی تاویل کی فکر میں ہوئے اور خاتم کو بمعنی مہر قرار دے کر آیت کا یہ مطلب سنایا کہ آنحضرت کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مگر وہی جس کی نبوت پر بوجہ اتباع آنحضرت ﷺ خود تصدیقی دستخط کریں اور مہر ثبت کریں۔ مگر یہ قرار داد نہ صرف اجماع امت کے خلاف ہے بلکہ جملہ کلمات طیبات حضور علیہ السلام کے منافی ہے اور مفسروں کا کلمہ مرزا قادیانی کی تجویز کی نفی کرتا ہے۔ مدارک التنزیل میں لکھا ہے: "ای آخرهم لا ینبأ احد بعد و عیسیٰ ممن نبی قبلہ و حین ینزل ینزل عاملاً علی شریعة محمد ﷺ کانہ بعض امتہ" یعنی آنحضرت آخر الانبیاء ہیں کسی کو آپ کے بعد نبوت جدیدہ مرحمت نہیں ہو سکتی۔ یہ معنی عاصم کی قرأت کے مطابق ہیں جو خاتم کو فتح تاڑھتے ہیں اور جلالین میں لکھا ہے: "وفی قرائتہ بفتح التاء کآلة الختم ای بدختموا" اگر خاتم کو بافتح پڑھا جائے تو اسم آلہ ہے۔ جس کے معنی ہیں ما یختم به الشئ یعنی جو سب سے آخر میں ظاہر ہو اور اسم آلہ فاعل کے وزن پر یہی مستعمل ہے اس کی دوسری مثال لفظ عالم ہے: "ختم اللہ به النبوة و قرء ابن عامر و عاصم خاتم بفتح التاء علی الاسم ای آخرهم و قرء الآخرون بکسر التاء علی الفاعل لانه ختم به النبیین فهو خاتمهم"

اور علامہ نجم الدین نسفی نے بھی خاتم میں ہر دو قرأت یعنی فتح و کسر کو نقل کیا ہے۔ اور لکھا

ہے "و غیرہ بکسر التاء بمعنی الطابع و فاعل الختم و تقویہ قرأة ابن مسعود و تکن نبیا ختم النبیین" اگر خاتم بمعنی مہر ہے تو صحیفہ مکمل ہونے کے بعد آخر میں مہر ثبت کی جاتی ہے کہ تکمیل کی دلیل ہو۔ تھیلی کا منہ بند کر کے اس پر مہر ثبت کی بات ہے کہ اب کوئی چیز داخل خارج نہیں ہو سکتی تو اندریں حالت بھی یہ لفظ اختتام نبوت کی صریح دلیل ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے جو معنی ذکر کئے ہیں وہ پنجابی محاورات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تحریر کر دیئے ہیں۔ اگر لہجہ عربیہ کی امداد لیتے تو اس غلطی میں گرفتار نہ ہوتے۔ اور خاتم النبیین کے ایسے معنی بیان نہ کرتے جو قرۃ فتح کی مخالف اور قرۃ کسر کی دوسری شق کے معارض ہیں۔

لیکن کلام عرب میں اس وہم کے رفع کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کلام سابق سے ناشی

خدا کی کتاب کو آپس میں نہ لکراؤ یعنی کتاب اللہ کے ایسے معنی بیان کرو کہ دو آیتوں میں تضاد نہ واقع ہو مگر مرزا قادیانی کو آنحضرت کی پسند و نصیحت سے کیا سروکار وہ تو اپنی غرض کے تابع ہیں۔  
خاتم النبیین کے معنی

چونکہ آیت احزاب مرزا قادیانی کے نقل مقصود اور ان کی ساختہ عمارت کو مسمار کرتی تھی اس لئے وہ اس کی تاویل کی فکر میں ہوئے اور خاتم کو بمعنی مہر قرار دے کر آیت کا یہ مطلب سنایا کہ آنحضرت کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مگر وہی جس کی نبوت پر بوجہ اتباع آنحضرت ﷺ خود تصدیقی دستخط کریں اور مہر ثبت کریں۔ مگر یہ قرار داد نہ صرف اجماع امت کے خلاف ہے بلکہ جملہ کلمات طیبات حضور علیہ السلام کے منافی ہے اور مفسروں کا کلمہ مرزا قادیانی کی تجویز کی نفی کرتا ہے۔ مارک التزیل میں لکھا ہے: ”ای آخرهم لا ینبأ احد بعد و عیسیٰ ممن نبی قبلہ و حین ینزل ینزل عاملاً علی شریعة محمد ﷺ کانہ بعض امتہ“ یعنی آنحضرت آخر الانبیاء ہیں کسی کو آپ کے بعد نبوت جدیدہ مرحمت نہیں ہو سکتی۔ یہ معنی عاصم کی قرأت کے مطابق ہیں جو خاتم کو فتح تا پڑھتے ہیں اور جلالین میں لکھا ہے: ”وفی قرائتہ بفتح التاء کآلة الختم ای بدختموا“ اگر خاتم کو بفتح پڑھا جائے تو اسم آلہ ہے۔ جس کے معنی ہیں ما یختم به الشئ یعنی جو سب سے آخر میں ظاہر ہو اور اسم آلہ فاعل کے وزن پر یہی مستعمل ہے اس کی دوسری مثال لفظ عالم ہے: ”ختم اللہ به النبوة و قرء ابن عامرو عاصم خاتم بفتح التاء علی الاسم ای آخرهم و قرء الآخرون بکسر التاء علی الفاعل لانه ختم به النبیین فهو خاتمهم“

اور علامہ نجم الدین نسفی نے بھی خاتم میں ہر دو قرأت یعنی فتح و کسر کو نقل کیا ہے۔ اور لکھا

ہے ”و غیرہ بکسر التاء بمعنی الطابع و فاعل الختم و تقویہ قرآۃ ابن مسعود و تکن نبیاً ختم النبیین“ اگر خاتم بمعنی مہر ہے تو صحیفہ مکمل ہونے کے بعد آخر میں مہر ثبت کی جاتی ہے کہ تکمیل کی دلیل ہو۔ تھیلی کا منہ بند کر کے اس پر مہر ثبت کی بات ہے کہ اب کوئی چیز داخل خارج نہیں ہو سکتی تو اندریں حالت بھی یہ لفظ اختتام نبوت کی صریح دلیل ہے۔ مگر مرزا قادیانی نے جو معنی ذکر کئے ہیں وہ پنجابی محاورات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تحریر کر دیئے ہیں۔ اگر لغت عربیہ کی امداد لیتے تو اس غلطی میں گرفتار نہ ہوتے۔ اور خاتم النبیین کے ایسے معنی بیان نہ کرتے جو قرآۃ فتح کی مخالف اور قرآۃ کسر کی دوسری شق کے معارض ہیں۔

لکن کلام عرب میں اس وہم کے رفع کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کلام سابق سے ناشی

ہو یعنی محمد ﷺ کی نسبت قوم کو یہ وہم تھا کہ زید ان کا بیٹا ہے تو خدا نے پہلے اس کی نفی کی اس نفی کے ضمن میں ایک دوسرا وہم پیدا ہوتا تھا کہ محمد ﷺ کو خدائے تعالیٰ نے نعمت اولاد نرینہ سے محروم کر دیا تو خدا نے اس وہم کو اس طرح رفع کیا کہ نعمت سے محروم نہیں کیا۔ بلکہ آپ کی ذات پر انعام کو عمل کیا ہے کہ آئندہ کے لئے باب نبوت مسدود کر دیا جائے۔ اب آنحضرت کی حکومت روحانی تا ابد قائم رہے گی اور یہ بڑا افضل ہے ارشاد ہے: ”ان فضله كان عليك كبيراً“ اگر اولاد نرینہ آپ کی موجود ہوتی تو ختم نبوت کا کمال آپ کو حاصل نہ ہوتا۔ علامہ خازن نے لباب التاویل میں لکھا ہے: ”ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده اى ولا معه قال ابن عباس يريد لولم اختتم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا وعنه قال ان الله لما حكم ان لا نبى بعده لم يعطه ولداً ذكراً يصير ارجلا وكان الله بكل شيء عليماً اى دخل فى علمه انه لا نبى بعده“ یعنی خدا نے حضرت کی ذات پر نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ آپ ﷺ کے زمانہ میں اور نیز آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اگر میں نبوت کو ختم نہ کرتا تو آنحضرت ﷺ کے لئے اولاد نرینہ دیتا جو آپ کے پیچھے پیغمبر ہوتی اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ خدا جب یہ قطعی فیصلہ کر چکا کہ حضور ﷺ کے بعد نبوت ختم ہے تو آپ ﷺ کو ایسی اولاد نرینہ نہ بخشی جو بالغ ہو کر منصب نبوت پر ممتاز ہونے کے قابل ہو اور یہ بات خدا کے علم میں پہلے سے شامل تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ علامہ سلیمان نے جمل میں تحریر فرمایا ہے: ”لانه لو بقى له ابن بالغ بعده لكان اللائق به ان يكون نبيا بعده فلا يكون هو خاتم النبيين (زادہ) واورد فى الكشف منع الملازمة ان كثير من اولاد الانبياء لم يكونوا انبياء فانه اعلم حيث يجعل رسالته واجاب الشهاب عن ذلك بقوله الملازمة ليست على اللزوم العقلى والقياس المنطقى بل على مقتضى الحكمة الالهية وهى ان الله اكرم بعض الرسل يجعل اولادهم انبياء كالخليل ونبينا اكرمهم وافضلهم فلو عاش اولاده اقتضى تشريف الله له جعلهم انبياء“ یعنی اگر کوئی آپ کا بالغ لڑکا زندہ رہتا تو لائق تھا کہ وہ آپ کے بعد منصب نبوت پر ممتاز ہوتا لیکن علامہ نے کشف میں کہا ہے کہ یہ ملازمت ممنوع ہے بہت انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد پیغمبر نہیں اگر حضرت کی اولاد نبی نہ ہوتی تو کوئی محذور لازم نہ آتا تھا۔ علامہ شہاب نے جواب دیا کہ ملازمت لزوم عقلی اور قیاس منطقی کے لحاظ سے مراء نہیں بلکہ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ تھا کہ خدا نے بعض انبیاء کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کی



اولاد کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی اولاد نبی تھی اور ہمارے سید المرسل سب سے بزرگتر ہیں۔ یہ تشریف مقتضی تھی کہ آپ کی اولاد کو نبوت سے عمدہ پرفائز کیا جاوے اور اس فضیلت میں بھی آپ کا دست بالاتر ہے۔ لیکن چونکہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس لئے کوئی اولاد نرینہ آپ کی زندہ نہ رہی اور اسی مضمون کو دوسری حدیث جو متقدمین نے نقل کی ہے ادا کرتی ہے لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی صدیق ہوتا۔ لیکن چونکہ باب نبوت حضرت کے بعد مسدود ہو چکا ہے۔ اس لئے وہ زندہ نہ رہا۔

اور امام نووی نے اس روایت کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے باطل و جسارة علی الغیب ہے اور ابن عبد البر نے عقیدہ حدیث میں حسب ذیل الفاظ استعمال کئے ہیں ”لا ادری ما هذا فقد ولد نوح غیر نبی“ یعنی میں نہیں جانتا یہ حدیث کس نوعیت کی ہے۔ کیونکہ ملازمت باطل ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی نہ تھا۔ لیکن حضرت حافظ ابن حجر نے دونوں مشائخ کے قول پر اعتراض کیا ہے: ”هو عجیب من النووی مع ورده عن ثلاثه من الصحابة وکانه لم يظهر لهتاويله فان الشرطيه لا تستلزم الوقوع ولا یظن بالصحابی الهجوم علی مثله“ یعنی نووی کا مسلک عجیب ہے۔ یہ روایت تین صحابہ سے ثابت ہوئے ہیں امام نووی پر اصل تاویل حدیث کی مخطی رہی اس لئے وہ حدیث کو مطعون کرنے پر مجبور ہوئے مطلب بالکل ظاہر ہے۔ شرطیت اور وقوع میں تلازم نہیں۔ اس لئے معنی یہ ہوں گے۔ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ لیکن نبوت حضور کے بعد مسدود ہے اس لئے صاحبزادہ مذکور زندہ نہ رہا اور یہ ممکن نہیں کہ صحابی بذخود کوئی روایت تراش لے۔ (تذکرہ محمد طاہر) اور (نوائد مجموعہ شوکانی) اس مقام پر ناظرین کو خیال ہوگا کہ بعض روایات میں ختم نبوت کے ساتھ الا ان یشاء اللہ کی قید موجود ہے۔ جو سلسلہ فیض الہی کو تا دوام جاری رکھنے کی مویذ ہے جیسے طبری نے اس استثناء کو ذکر کر کے کہا ہے کہ استثناء کا مورد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے اور بس لیکن علامہ محمد طاہر نے تذکرہ میں لکھا ہے: ”وطعن فيه المحققون قیل هو من محمد بن مسعود الشامی مصلوب علی الزندقة وان صحت التاویل لعیسیٰ علیہ السلام اذا اجماع علی انه خاتم الانبیاء آية الاحزاب وهو ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شیء علیما نص فیہ وما نکر القاضی من تجویز الاحتمال فی الفاظ الضعف وما نکر الغزالی فی الاقتصاد فالحداد دو تطرق خبیث فق عقیدة المسلمین فالخدر الحذران

تراہ و لیس کلام الغزالی یوہمہ وانما رماہ حسناہہ ولد قجاء علیہ ابن عطیہ  
وفی جامع الصحاح روی محمد بن سعید الشامی - العصلوب عن انس رفعہ  
انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ فزاد الا استثناء لما کان  
یدعوا الیہ من الاحادوا الزندقہ“

یعنی محققین نے استثنائے فقرہ پر طعن کیا ہے کہ یہ محمد بن مسعود شامی کی ساخت ہے جو  
زندیقی کے باعث نذر صلیب ہوا۔ اگرچہ اس کی صحیح تاویل بھی ہو سکتی ہے۔ کہ استثناء کا مصداق مسیح  
بن مریم علیہ السلام کی ذات اطہرے اور کوئی نبی آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت جدیدہ سے ممتاز  
نہیں ہو سکتا کیونکہ رسالت مآب ﷺ کے خاتم النبیین ہونے پر امت کا اجماع ہے اور آیت  
الاحزاب ختم نبوت پر صریح نص ہے اور جو قاضی نے اجراء نبوت کا احتمال کمزور الفاظ میں بیان کیا  
ہے۔ یا غزالی نے اقتصاد میں ذکر کیا ہے وہ الحاد ہے اور اسلامیہ عقائد میں ایک خبیث راہ نکالی گئی  
ہے۔ اس کے مطالعہ سے بھی پرہیز کرنا لازم ہے۔ قاضی پر تو اعتراض بالکل درست ہے لیکن امام  
غزالی کے کلام سے یہ شائبہ پیدا نہیں ہوتا اسے محض حاسدین نے الزام دیا ہے اور ابن عطیہ نے  
اس پر دل کھول کر کلام کی ہے اور جامع الصحاح میں مذکور ہے کہ محمد بن سعید شامی نے حضرت انسؓ  
سے یہ روایت ذکر کی ہے: ”انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ“ اور  
استثناء یہ فقرہ خود کلام میں بڑھا دیا ہے کیونکہ وہ الحاد اور زندگی کی دعوت دیتا تھا۔

حدیث کا دعویٰ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔

### حدیث اول

بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: ”کانت  
بنوا اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی  
وسیکون خلفاء فیکثرون قال فماتامرنا قال فوا بیعة الاول فالاول  
فاعطوہم حقہم فان اللہ سائلہم عما استرعاہم“

(بخاری شریف ج ۱ ص ۳۹۱، مسلم شریف ج ۳ ص ۱۲۶)

یعنی بنو اسرائیل پر انبیاء حکمرانی کرتے تھے ایک نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کا  
جانشین بنتا میرے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا۔ خلفاء بکثرت ہوں گے راوی نے دریافت کیا کہ ہمیں  
خلفاء کے متعلق کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو خلفیہ اولاً بیعت لے چکا ہے۔ اس کے عہد بیعت  
کو پورا کرو اسی طرح نمبر وار سلسلہ ہذا پر کار بند رہو اور ان کے حقوق برابر ادا کرو۔ خدا تعالیٰ خلفاء کو

رعیت کے حقوق کی نسبت خود باز پرس کرے گا۔ اپنے حقوق کی کمی و بیشی کا چنداں خیال نہ کرو۔ ﴿

حدیث دوم

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”فضلت علی الانبیاء بست۔ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجد او طهورا وارسلت الی الخلق كافة وختم بی النبیین (مسلم شریف ج ۱ ص ۱۹۹)“

دوسرے انبیاء پر مجھے چھ وجوہ سے فضیلت حاصل ہے مجھے خدا نے جامع کلمات عطا کئے ہیں کہ مختصر عبارت بے شمار مقاصد پر حاوی ہوتی ہے اور ایک ماہ کی مسیرۃ تک دشمن میرے رعب سے لرزتے ہیں۔ یہ خدا کی میری ساتھ امداد ہے اور غنیمت کا مال سابقہ امتوں کے لئے حلال نہ تھا کیونکہ ان کی دعوت ایک قوم یا علاقہ پر منحصر ہوتی تھی۔ لیکن آنحضرت کی دعوت تمام دنیا کے لئے عام تھی اور ساری دنیا پر اس قوم کا اقتدار ہونا لازم تھا اور یہ کسی طرح واجب نہ تھا کہ فوجی کارکن اماکن بعیدہ اور بلاد شامعہ سے نان و خورش اور ضروری نفقہ حاصل کرنے کے لئے ملک عرب میں واپس جائیں۔ اس لئے آسانی کی خاطر خدا نے ایسا حکم دیا جو اس امت کے مناسب حال تھا اور مال غنیمت کو ان کے واسطے حلال کیا گیا۔ پہلی امتوں پر لازم تھا کہ وہ سوائے اپنی معبد کے کسی دوسری جگہ نماز ادا نہ کریں اور وضوء ان کے لئے بہر حال شرط تھا لیکن میرے لئے خدا نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور عذر کے وقت تیمم کا حکم صادر کیا اور مجھ کل خلقت کی جانب پیغمبری دیکر بھیجا گیا۔ عالم ملائکہ اور جن اور انسان میری دعوت میں شامل ہیں اور نبیوں کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہو گیا ہے۔

حدیث سوم

مسلم نے روایت کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جناب سرور کائنات ﷺ کا بیان اس طرح نقل کیا ہے: ”کان النبی ﷺ یسمی لنا نفسه اسماء فقال انا محمد وانا احمد وانا المقفی وانا الماحی ونبی التوبۃ ونبی الرحمتہ“

(مسلم شریف ج ۲ ص ۲۶۱)

﴿یعنی آنحضرت ﷺ ہمارے سامنے اپنے چند اسماء بیان فرماتے تھے یعنی میں محمد ہوں اور میرا دوسرا نام احمد بھی ہے اور تیسرا نام مقفی اور چوتھا نام ماحی یعنی کفر و شرک اور ضلالت کا تابود کرنے والا ہوں اور میں نبی رحمت اور نبی توبہ بھی ہوں۔﴾ یہ چھ نام مجھے عطا ہوئے ہیں۔ علامہ

خازن نے بیان کیا ہے: ”المقفی هو المولى الذاهب یعنی آخر الانبیاء المتبع لهم فاذا قفى فلا نبی بعده“ یعنی مقفے سے مراد آخر الانبیاء ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اس تاویل سے پاک ہے جو مرزا قاسمی نے خاتم النبیین کے لفظ میں اس کے اصلی مفہوم کو مشتق کرنے کی خاطر بیان کی ہے۔ خدا اپنے کلمات کو حد اسمتہا سے منزہ کر دیتا ہے تاکہ خلق اللہ تبارک میں واقع نہ ہو۔

حدیث چہارم

ترمذی اور مسلم نے جبیر بن مطعم سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”ان لى اسماء انا محمد وانا احمد وانا العاصى الذى يمحو الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وانا العاقب والعاقب الذى ليس بعده نبى (ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۱۱، مسلم شریف ج ۲ ص ۲۶۱)“ یعنی میرے کئی نام ہیں میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی اور ماجی میرا نام ہے خدا روئے زمین سے میرے ذریعہ کفر کو نابود کرے گا۔ سب سے پہلے میرا حشر ہوگا لوگ میرے بعد قبروں سے نکلیں گے۔ اس لئے میرا نام حاشر ہو اور عاقب بھی میرا نام ہے کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ مقفی کی طرح یہ لفظ بھی بے جا حاشیہ اور تاویل سے منزہ ہے۔

حدیث پنجم

ترمذی نے حضرت علی سے روایت کیا ہے: ”واذ التفت التیقت معاً بین کتفیه خاتم النبوة وهو خاتم النبیین“ یعنی آنحضرت کا مرکز گرد یکنا بڑی سرعت سے عمل میں آتا تھا۔ آپ کے شانہ مبارک پر مہر نبوت کا نشان موجود تھا اور آپ خاتم النبیین تھے۔

حدیث ششم

بغوی نے عرباض بن ساریہ سے اور احمد نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”انى عند الله مكتوب خاتم النبیین وان ادم لمنجدل فى طينة (الحديث)“ یعنی میں خدا کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ جبکہ آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں لپٹے ہوئے تھے۔

حدیث ہفتم

حضرت جابر نے آنحضرت سے نقل کیا ہے: ”انا قائد المرسلین ولا فخر وانا اول شافع وشفع ولا فخر رواه الدارمی“ یعنی میں مرسلوں کا پیشتر ہوں۔ اور مجھے اس پر کوئی ناز نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور مجھے کچھ غرور نہیں اور میں شفیع اول مستجاب

الشفاعت ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں۔

حدیث ہشتم

اور بخاری اور مسلم نے حضرت ثوبانؓ سے یوں نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی“ یعنی میری امت میں تیس جھوٹے مدعی ظاہر ہوں گے ہر ایک کا یہ زعم ہوگا کہ میں پیغمبر ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے۔

حدیث نہم

اور بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: ”مثلی ومثل الانبیاء قبلی کمثل قصر احسن بنیانیہ ترک منہ موضع لبنة فطاف به النظر يتعجبون من حسن بنیانیہ الا موضع تلك اللبنة فکنت انا سدوت موضع اللبنة ختم بی البنیان وختم بی الرسل وفي رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبیین“ یعنی میرا اور نبیوں کا حال ایک محل سے نسبت رکھتا ہے جس کی عمارت خوب اچھی طرح پر تیار کی گئی تھی مگر ایک اینٹ کا رخنہ باقی تھا۔ تماشائی جو دیکھنے آتے تھے وہ اسکی خوب وضع عمارت دیکھ کر متعجب ہوتے تھے مگر ایک اینٹ کا فرق محل کی خوبی پر دھبہ دے رہا تھا میرے وجود سے یہ رخنہ بند ہو گیا اور عمارت مکمل ہو گئی۔ رسولوں کا اختتام میری ذات پر ہو چکا چونکہ یہاں ایک شانہ پیدا ہوتا تھا کہ رسول صاحب کتاب نبی کو کہتے ہیں اس لئے روایت ہذا کا منشا ہے کہ تشریحی رسالت ختم ہو چکی لیکن سلسلہ نبوت جاری ہے۔ اس لئے دوسری روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں جو اس شبہ سے متراہیں۔ ”انا اللبنة وانا خاتم النبیین“ یعنی میں وہ کونے کی اینٹ ہوں اور نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی غیر تشریحی نبوت بھی مسدود ہے۔

انجیل متی کی بشارت

درحقیقت یہ روایت صدر ایک دعویٰ پر متضمن ہے کہ انجیل متی باب ۲۱ کی پیش گوئی آنحضرت ﷺ پر چسپاں ہوتی ہے۔

”جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سر کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظروں میں عجیب ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی

جائے گی اور اس کو جو اس کے پہلے لائی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔“

انجیل کی عبارت حسب ذیل اقتباسات پر مشتمل ہے۔ باب ۲۱ آیت ۴۲ لغایت ۴۴

### اقتباس اول

..... پتھر سے مراد حضور سرور کائنات کی ذات اطہر ہے کیونکہ آپ مضبوط اور پائیدار ہونے میں اس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ متنبی کا قول ہے۔

انا صخرة الوادی اذا ما زوحت

واذا نطقت فانسى الجوزاء

پتھر کا قاعدہ ہے کہ دوسری چیز کو توڑ ڈالتا ہے اور خود شکست نہیں ہوتا اسی طرح حضور دوسری سلطنتوں کو پامال کر دیں گے۔ مگر آپ کی سلطنت کو تابد زوال نہ ہوگا۔

دانیال باب ۲ میں اس کی تشریح موجود ہے۔

”اور دیکھ ایک بڑی مورت تھی وہ بڑی مورت جس کی رزق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا۔ اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے اور اس کا شکم اور رانیں تانبے کی تھیں اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے اور تو اسے دیکھتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک پتھر بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ سے کاٹ کے نکالے۔ آپ سے نکلا جو اس شکل کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے اور تابستانی کھلیان کی بھوسی کی مانند ہوئے اور ہوا انہیں اڑالے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو مارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھر دیا۔ وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں تو اے بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس لئے کہ آسمان کے خدانے تجھے ایک بادشاہت اور قوت اور توانائی اور شوکت بخشی ہے اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چوپائے اور ہوا کے پرندے تیرے قابو میں کر دیئے اور تجھے ان سموں کا حاکم کیا تو یہی وہ سونے کا سر ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہے اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی اور جس طرح کہ لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب ہوتا ہے۔ ہاں لوہے کی طرح سے جو سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی

اور کچل ڈالے گی اور جو کہ تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی اور کچھ لوہے کی تھیں سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا۔ مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا گارے۔ سے ملا ہوا تھا سو لوہے کی توانائی اس میں ہوگی اور جیسا کہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں سو وہ سلطنت کچھ قوی کچھ ضعیف ہوگی۔ اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہے کے گلاڑے سے ملا ہوا ہے وہ اپنے کو انسان کی نسل سے ملائیں گے لیکن جیسے لوہے مٹی سے میل نہیں کھاتا تیسارے باہم میل نہ کھائیں گے اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی اور وہ سلطنت دوسری قوم کے قبضہ میں نہ پڑے گی وہ ان سب مملکتوں کو ککڑے ککڑے اور نیست کرے گی اور وہی تا ابد قائم رہے گی۔ جیسا کہ تو نے دیکھا کہ وہ پتھر بغیر اس کے کوئی ہاتھ سے اس کو پہاڑ سے کاٹ نکالے آپ سے آپ نکلا اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ککڑے ککڑے کیا۔ خدائے تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی۔“ اور باب ۲ آیت ۲۸ میں اتنا اضافہ اور موجود ہے اور وہ بنو کد نقر بادشاہ کو وہ بات بتاتا ہے جو آخری ایام میں ہوگی۔ اسی اسلامی سلطنت نے جس کی بنیاد حضرت محمد ﷺ نے ڈالی فارس کی سلطنتوں کو نیست و نابود کر دیا اور مضبوط پتھر کی طرح انہیں چکنا چور کیا اور خود وسیع ہو کر تمام دنیا پر پھیل گئی۔“

### اقتباس دوم

۲..... آنحضرت کی رسالت پر یہود و نصاریٰ ناخوش ہوئے۔ گویا اس پتھر کو ناپسند کیا اور رو کیا۔ مگر خدانے یہ شرفِ علمیٰ و غم انوفہم آنحضرت کو بخشا اور آخر کار محل کی عمارت میں کونے کے سرے پر اسے نصب کیا۔ اس پتھر کے لگنے سے عمارت مکمل ہو گئی اور کوئی رخنہ باقی نہ رہا جہاں کسی دوسرے پتھر کے لگنے کی امید ہو۔ گویا آخری پتھر یہی تھا جو عمارت میں مرکز ہو چکا۔ یہ لطیف تشبیہ ظاہر کرتی ہے کہ آنحضرت آخر الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

### اقتباس سوم

۳..... یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظروں میں عجیب و غریب کی بات یہ تھی کہ نبوت اور رسالت بنی اسرائیل کے گھرانہ سے چھین لی گئی اور خاندان اسماعیل کو دی گئی جن میں کبھی کوئی نبی پیدا نہ ہوا تھا۔ پس ایسے خاندان کا جسمیں صدیوں سے سلسلہ نبوت جاری تھا۔ اس امتیاز سے محروم ہونا اور ایک انجمنی خاندان کا شرف بہ نبوت ہو جانا ایک الوکھی اور عجیب بات ہے مگر یہ خداوند کی طرف سے ہوا۔ اللہ اعلم حیث يجعل رسالتہ چنانچہ آئندہ فقرہ اس مطلب پر روشنی ڈالنا

ہے کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پہلے لائے دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہود کو اپنے خاندان سے نبوت کا سلب ہونا اور اسماعیل کے خاندان میں منتقل ہونا برا معلوم ہوا اور وہ غیرت اور حسد کی نگاہیں بھر بھر کر دیکھتے تھے ارشاد خداوندی ہے۔ ”ام یحسدون الناس علی ما اتاہم اللہ من فضلہ فقد اتینا ال ابراہیم الکتاب والحکمۃ و اتیناہم ملکا عظیما“

اور آج کا دن وہ دن ہے جو کتاب استثناء باب ۳۲ کی بشارت ظہور میں آئی اس لئے کہ اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا اور اس نے فرمایا کہ میں ان سے اپنا منہ چھپاؤں گا۔ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لئے کہ وہ کج نسل ہیں ایسے لڑکے جن میں امانت نہیں۔ انہوں نے اس کے سبب سے جو خدا نے مجھے غیرت دلائی اور اپنی واہیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا سو میں بھی انہیں اس سے جو گروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک بے عقل قوم سے انہیں خفا کروں گا۔

بے عقل قوم سے عرب کی امی قوم مراد ہے جیسے قرآنی ارشاد ہے: ”هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین“

عیسائیوں کا دعویٰ اور اس کا ابطال

یہ بشارت جس کا حوالہ انجیل متی میں دیا گیا ہے۔ کتاب سیمیاہ باب ۲۸ سے ماخوذ ہے اور حضور کو آخر الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ عیسائی مدعی ہیں کہ یہ پیش گوئی حضرت مسیح کی ذات پر منطبق ہے۔ لیکن بشارت کے الفاظ اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت مسیح خاندان بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کو نبوت کا عطا ہونا کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ اس خاندان میں سلسلہ نبوت جاری تھا اور پیش گوئی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ بادشاہت تم سے لے لی جائے گی۔ اور دوسری قوم کو دی جائے گی حضرت مسیح کسی غیر قوم میں سے نہ تھے بلکہ آپ کا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے منسلک ہے اور نیز بشارت کے آخری الفاظ کا مفہوم حضرت مسیح کی ذات میں پایا نہیں جاتا کہ جو اس پتھر پر گرے گا اس کی کلڑے کلڑے ہو جائیں گے۔ مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا کیونکہ حضرت مسیح نے میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا اور نہ کسی مخالف قوم پر حملہ کیا ہے اور بحیال عیسائیوں کے یہود نے انہیں گرفتار کر کے صلیب پر لٹکا کر قتل کر دیا جو بالکل الفاظ مندرجہ کے متضاد ہے۔ اس لئے نہ تو پہلی جزو کا ظہور آپ کی ذات میں ہے کہ جو اس پتھر پر گرے گا۔ چکنا چور



ہو جائے گا اور نہ دوسری جزو کا شہ آہکی ذات میں ہے مگر حضرت کی ذات میں اس صفت کا ظہور بدرجہ اتم پایا جاتا ہے کہ جس قوم پر آپ نے حملہ کیا وہ تباہ ہوئی اور جس قوم نے آپ پر حملہ کیا وہ چمکتا چور ہوئی۔

حدیث دہم

سید علامہ نے ترجمان القرآن میں ایک روایت کو ذکر کیا ہے جو پہلی روایتوں کی موسید ہے یعنی آنحضرت نے فرمایا: ”انا خاتم الف نبی او اکثر“ یعنی میں ہزار نبی بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد کا خاتم ہوں۔

حدیث یازوہم

حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے: ”قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لانی بعدہ“ یعنی تم کو یہ کہنا لازم ہے کہ آنحضرت کی ذات پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور جدید نبوت کسی کو مرحمت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سابقہ نبوت پر جوان کو آنحضرت سے چھ صد سال قبل عطا ہو چکی ہے۔ بحالت نبوت نازل ہوں گے۔ لہذا یہ مت کہو کہ لانی نبی بعدہ۔

خاتم کے معنی پر مختصر بحث

مرزا قادیانی کا قول ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت کی مہر اور تصدیق سے آپ کے بعد انبیاء ہو سکتے ہیں اور اس طرح سلسلہ نبوت جاری ہے لیکن یہ ایک ایسے معنی ہیں جو آنحضرت ﷺ کے بیان کے بالکل مخالف ہیں۔ چنانچہ حدیث ثوبان میں جو صدر میں گزری آنحضرت سے خاتم النبیین کی تفسیر اسی طرح مروی ہے۔ انا خاتم النبیین لانی بعدی خاتم النبیین کے مقصد اصلی پر کافی روشنی ڈال دی ہے جس کے بعد کسی شرح یا حاشیہ کی حاجت نہیں۔ یہ جملہ پہلے جملہ کی تشریح کا ذمہ وار ہے اذاجائہ نہر اللہ بطل نہر معقل نبی کے کلام میں ان جملہ مفاسد کی تردید کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ جو آئندہ زمانہ میں پیدا ہونے والے ہوں۔ اس لئے حضور نے بطور مزید تشریح ایسا جملہ کلام میں بڑھا دیا ہے جس نے سب احتمالات فاسدہ کی لٹی کر دی ہے اور فصحاء عرب کے کلام میں بلکہ خود قرآن میں ایسے نظائر موجود ہیں کہ جن میں جملہ مؤخر جملہ مقدم کی تشریحی واقع ہوا ہے۔ چنانچہ جزو ۲۹ میں سورہ معارج کی آیت اسی قسم سے ہے: ”ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا“ مؤخر جملات ہلوعا کے لئے بطور تفسیر واقع ہیں۔ علامہ سیوطی نے جلالین میں اس بیان

کی تائید کی ہے اور تفسیر معالم میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے: ”یفسره ما بعده وهو قوله اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا“ یعنی بلوعا کے معنی ما بعدہ کی جملات بیان کرتے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں: ”اذا مسه الشر جزوعا“ جب اس کو تکلیف پہنچی جزع و فزع کرتا ہے۔ ”واذا مسه الخير منوعا“ جب خدا اس پر فضل کرے تو اداہ حقوق میں بخل سے کام لیتا ہے۔

بلوع کی تفسیر

اور علامہ نجم الدین نسفی نے مدارک میں محمد بن عبداللہ بن طاہر کا قول نقل کیا ہے کہ آپ نے حضرت ثعلب سے بلوعا کی تفسیر دریافت کی تو ثعلب نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلمات میں اس لفظ کے معنی بیان کر دیئے ہیں اور خدا کی تفسیر سے واضح تر کوئی تفسیر نہیں: ”هو الذی اذا ناله شر اظهر شدة الجزع واذا ناله خیر بخل به ومنعه الناس وهذا طبعه وهو ما مور بمخالفة طبعه وموافقة شرعه انتھی“ بلوعا کے معنی ما بعدہ میں مذکور ہیں یعنی جس کو صدمہ پہنچے تو سخت جزع و فزع کا اظہار کرے اور جسے کوئی انعام ملے تو بخل سے کام لے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چھوڑ دے یہ اس کی ذاتی طبیعت ہے جس کی مخالفت اور شرع کی موافقت کا اسے خدا نے حکم دیا ہے۔

خلود کی تفسیر

خلود سے مراد ایسا دوام ہے جس کے بعد موت نہ ہو بخاری کی روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی ہے خلود کی تفسیر ما بعدہ کے جملہ میں آنحضرت نے بیان کی ہے اور کہا ہے: ”یا اهل الجنة خلود فلا موت ویا اهل النار خلود فلا موت اخرجہ الشیخان عن ابی سعید مرفوعاً“

مختصر المعانی میں بھی اس طرز کی مثال موجود ہے: ”واما وضعه فلکونه مبیناً له کاشفا عن معناه کقولک الجسم الطویل العریض العمیق یحتاج الی فراغ ما یشغله فان هذه الاوصاف مما یوضح الجسم ویقع تعریفاً له ونحوه فی الکشف قوله“

المعنی کے معنی

”الا لمعی الذی یظن بك الظن لکان قدرای وقد سمعا فلا لمعی

معناه الذکی المتوقد والوصف بعده مما یکشف معناه ویوضحه (ص ۳۸)“  
یعنی صفت کا وہ موصوف کی وضاحت کرتی ہے اور اس کے معنی بیان کرتی ہے جیسے فقرہ الجسم الطویل العریض العمیق میں اوصاف ثلاثہ جسم کے لئے بمنزلہ تعریف واضح ہوئے ہیں اور جسم کے معنی کی توضیح کرتے ہیں اور اس طرح کا یہ شعر ہے جس میں الہی کی تشریح مابعد کا جملہ: “کان قد رای وقد سمعا“ بیان کرتا ہے۔ اس سچ پر خاتم النبیین کی توضیح مابعد کے جملہ کے ذریعہ عمل میں آئی ہے سو مرزا قادیانی کا پیدا کردہ احتمال بالکل بلا دلیل ہے۔

حدیث دوازوہم

”ذکر الرشاطی فی اقتباس الانوار عن عمر بن الخطاب انه قال فی کلام بکنی بھی النبی ﷺ فقال بابی انت وامی یا رسول اللہ لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان بعثک اخر الانبیاء ونکرک فی اولہم فقال واذاخذنا من النبیین میثاقہم ومنک وامن نوح الایة (شفاء قاضی عیاض ص ۲۲)“ حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ آپ نے ایسی کلام کی جس سے آں حضرت کے آنسو جاری ہو گئے چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر خدا! میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں خدا کے ہاں آپ کی فضیلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کو سب انبیاء کے بعد مبعوث کیا اور سب سے اول آپ کا تذکرہ کیا۔ پھر آیت اتراب پڑھ کر سنائی۔

حدیث سیزوہم

”قال قتادہ ان النبی ﷺ قال کنت اول الانبیاء فی الخلق و آخرہم فی البعث (شفاء ص ۳۳)“ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ جناب سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں بلحاظ خلقت سب نبیوں سے مقدم ہوں اور بلحاظ بعثت سب سے آخر ہوں۔ مرزا قادیانی کے ہم خیال بتلائیں کہ آخر کا لفظ تو غیر محتمل ہے جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں کیا اس لفظ کی تحریف کی کوئی صورت ہے؟

اجماع امت بتا رہا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔

مدعی نبوت آنحضرت ﷺ کے بعد خارج از اسلام ہے نبوت کسی نہیں

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء میں تحریر فرمایا ہے: ”و کذا لک من اوحی نبوة

احد مع نبینا ﷺ وبعده کالعیسویة من اليهود القائلین بتخصیص رسالته

الى العرب وكالخرمية الاقائلين بتواتر الرسل وككثر الرافضة القائلين بمشاركت علي في الرسالة للنبي ﷺ وبعده وكذلك كل امام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة والبيان والبيانية منهم القائلين نبوة بزيع وبيان واشباه هؤلاء ومن ادعى النبوة لنفسه وجوز اكتسابها والبلوغ بصفاء والقلب الي مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة وكذلك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة او انه يصعد الي السماء ويدخل الجنة و يأكل من ثمارها ويعانق الحور العين فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي ﷺ لانه اخبرانه ﷺ خاتم النبيين ولا نبي بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهرة وان مفهومة المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً اجمالاً وسمعاً (ص ۳۶۲)

﴿ جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ کسی کو آپ کے عہد میں یا بعد ازاں شریک نبوت قرار دے جیسے عیسویہ گروہ کہتا ہے کہ آنحضرت رسول صادق ہیں لیکن آپ کی رسالت مخطہ عرب سے مخصوص ہے اور خرمیہ جماعت کا مذہب ہے کہ رسول متواتر آتے رہیں گے اور اکثر افاضہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ آنحضرت کے ساتھ شریک رسالت ہیں اور ایسے ہی ہر ایک امام بخیاں شیعہ نبوت اور توحید میں قائم مقام نبی ہے اور بزنیہ کا خیال ہے کہ بزنج نبی تھا اور پیاپیہ کا زعم ہے کہ بیان پیغمبر تھا اور ایسے ہی دیگر جماعتیں یا جو خود نبوت کا مدعی ہو اور یہ کہے کہ نبوت محنت ریاضت اجتناع اور صفاء قلبی سے حاصل ہو سکتی ہے جیسے فلاسفہ اور فلاسفہ صوفیہ کا دعویٰ ہے اور ان میں سے یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی الہی نازل ہوئی ہے گو نبوت کا مدعی بھی نہ ہو یا کہے کہ وہ آسمان پر جا کر داخل جنت ہوتا اور میوہ خوری کرتا اور جو روں سے معائنہ کرتا ہے اس قسم کے تمام مدعی کا فر اور آنحضرت کے کذب ہیں۔ کیونکہ سرور کائنات ﷺ نے بتلایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور خدائے تعالیٰ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں اور آپ ﷺ کی رسالت جملہ خلق اللہ کے لئے عام ہے اور امت نے بالاتفاق لفظ خاتم النبیین کو بغیر کسی تاویل اور تخصیص کے ظاہر معنی پر محمول کیا ہے۔ پس ایسی جماعتوں کے کفر میں کوئی شک نہیں یقیناً جماعاً اخباراً وادارہ اسلام سے خارج ہیں۔ ﴿

چونکہ یہ مسئلہ اجماعی ہے اس لئے اہل عقائد نے اسے بالاتفاق کتب عقائد میں درج

کیا ہے۔ علامہ نجم الدین نسفی نے عقائد میں تحریر کیا ہے: ”اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد ﷺ“ یعنی پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد ﷺ ہیں۔ ملاحظہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں تحریر کیا ہے: ”دعوة النبوة بعد نبینا ﷺ کفر بالاجماع“ جو آنحضرت ﷺ کے بعد مدعی نبوت ہو وہ باقائے اہل اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

قیاس عقلی مقتضی ہے کہ باب نبوت مسدود ہے

چونکہ زمانہ ارتقاء کی طرف مائل رہا ہے اس لئے سابقہ شریعت مابعد کے زمانہ کے لئے کافی نہ ہو سکتی تھی۔ جب تک اس میں کچھ رد و بدل اور زمانہ کے حالات کے مطابق کچھ زائد احکام کا اضافہ نہ کیا جائے اور جا بجا مناسب ترمیم سے اس کی تعلیم کو ضروریات زمانہ کا کفیل نہ بنا دیا جائے لہذا یکے بعد دیگرے کتابیں نازل ہوتی رہیں۔

مذہب اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے

حتیٰ کہ وہ زمانہ سر پر آپہنچا جس کا آخری حصہ قیامت سے ملا ہوا ہے اور حضرت محمد ﷺ پر ایک جامع اور کھل کتاب نازل کی گئی جس میں تمام تعلیم سابقہ کتابوں کی جمع کر دی گئی ہے اس کے بعد قرآن نے کھلے لفظوں میں یہ دعویٰ کیا کہ ”فیہا کتب قیمۃ“ یعنی صحیفہ رحمانی میں تمام نازل شدہ سچی کتابوں کا مضمون یکجا لکھ دیا گیا ہے اور حضور ﷺ جب کہ اپنے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں شتر سوار کھڑے تھے اور تبلیغ کا فرض بوجہ اتم سرانجام دے کر سبکدوش ہو چکے تھے تو جبرئیل علیہ السلام نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی بشارت سنائی وہ دن حاضرین اور مابعد کی آنے والی نسلوں کے لئے ایسا مبارک دن تھا کہ اس پر جتنی خوشی منائیں تھوڑی ہے۔

ایک یہودی کا خیال الیوم اکملت کے متعلق

حتیٰ کہ ایک یہودی اس آیت کے مضمون کو سن کر کہتا ہے کہ ایسی آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم یوم نزول کو عید کا روز قرار دیتے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے کہا کہ جمعہ کے دن بروز عرفہ یہ آیت نازل ہوئی جو ہم مسلمانوں کے لئے دونوں خوشی کے دن ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ اس روز پانچ عیدیں جمع ہو گئی تھیں۔ جمعہ، عرفہ، عید یہود، عید نصاریٰ، عید مجوس، نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے۔

## انجیل سے تکمیل اسلام کی شہادت

یہ دن اور طرح سے بھی خوشی منانے کے لائق تھا۔ کہ آج سے چھ صد سال قبل حضرت مسیح علیہ السلام کے گفتہ کلمات پورے ہوئے اور اس تکمیل کی جس کا وعدہ آپ اپنی امت کو سنا گئے تھے خوشخبری دی گئی۔ انجیل یوحنا باب ۱۶ آیت ۷، لغایت ۱۵ میں لکھا ہے: ”لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لئے میرا جانا ہی فائدہ ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا تمہارے پاس نہ آئے گا۔ پر اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا گناہ سے اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے اور راستی سے اس لئے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت سے اس لئے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے تو وہ تمہیں سارے سچائی کے راہ بتائے گی اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی اور آئندہ کی خبریں دے گی وہ میری بزرگی کرے گی اس لئے کہ وہ میری چیزوں سے پائے گی اور تمہیں دکھائے گی۔“

عبارت ہذا میں حسب ذیل امور قابل توجہ ہیں

### امراؤل

..... اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا تمہارے پاس نہ آئے گا۔ کیونکہ دو صاحب کتاب رسول ایک وقت ایک مکان میں جمع نہیں ہو سکتے جب تک پہلا رسول موجود ہے۔ دوسرا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح کے جانے کے بعد جب آثار شریعت مسخ ہو گئے اور تحریف سے اس کی کاپیا پلٹ گئی تو حضرت محمد ﷺ مدعی رسالت ہوئے۔ تسلی دینے والا فارقلیط کا ترجمہ ہے۔ فارقلیط عربی لفظ ہے جو یونانی سے معرب کیا گیا ہے۔ اگر پیر کلوٹوس سے معرب مانا جائے تو اس کے معنی بعینہ احمد ہیں قرآن اسی صورت کا مونیڈ ہے چنانچہ سورہ صف میں ارشاد ہے و مبشر آبر رسول یأتی من بعدی اسمہ احمد

کتاب البیان و الصلوات میں لکھا ہے: ”والحاصل ان الباء قلیط وفي لفظ الفاء قلیطاً عبارة عن محمد ﷺ واسمه له في العجمة اليونانية وهو الصحيح“ یعنی فارقلیط یونانی زبان میں حضرت محمد ﷺ کا نام ہے اور بارقلیط اور فارقلیطا ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں اور اگر پارہ کلی طوف سے معرب مانا جائے تو اس کے معنی شفیع اور واسط اور مسلی اور مجد اور معین وغیرہ ہیں اور یہ صفات بھی آنحضرت کی ذات میں موجود ہیں۔ جواد بن

ابراہیم ساہا طحشی نے کتاب براہین ساہا طیہ فیما تسکتیم بہ وعائم المملۃ الحمد یہ میں لکھا ہے کہ فارقلیطا یونانی لفظ ہے: ”معناه الشافع والواسطۃ و المسلی والمحمد وهذا المعانی تدل علی ممدوح بعضها بالمطابقة وبعضها بالتضمن فان التمجید مرادف ادق للحمد والآخر مما یوجب الحمد فهذا هو معنی قوله مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد والدلیل علی ذلك مکثہ الی الابد والدوام فانہ لم یات بعد عیسیٰ علیہ السلام احد یتصف بهذه الصفة غیرہ وفى التنکیر دلالة علی ان هذا الفار قلیطارا الذی هو الان معکم ای المسیح زمنی لا یبقی الی الابد الذی یاتی بعده ابدی“

﴿ جس کے معنی شافع اور وسیلہ اور تسلی دینے والا اور تعریف کردہ شدہ یعنی محمد ہیں اور یہ معانی حضور علیہ السلام کی ذات کا پتہ بتلاتے ہیں کیونکہ پہلے تینوں صفات موجب حمد ہیں اور چوتھا خود محمد کا مترادف ہے۔ اور یہ بعینہ آیت: ”و مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد“ کی تصدیق ہے اور دلیل اس مدعا پر یہ ہے کہ آیات انجیل میں یہ تصریح موجود ہے کہ وہ روح حق جو تمہارے پاس آئے گی تا ابد تمہارے ساتھ رہے گی یعنی میری رسالت زمینی ہے جو دوامی نہیں لیکن اس دوسری فارقلیط کی رسالت ابدی ہوگی اور ان کے بعد کوئی رسول ناسخ شریعت یا کوئی نبی پیدا نہ ہوگا اور یہ حالت حضرت محمد ﷺ پر حذواً العمل بالعلل منطبق ہیں۔ ﴿

### امر دوم

۲..... میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری استعداد ناقص احکام کاملہ کی برداشت تمہارے لئے مشکل ہے۔

### امر سوم

لیکن جب وہ روح حق آوے تو وہ تمہیں سارے سچائی کے راہ بتائے گی۔ روح حق سے مراد آنحضرت ﷺ کی ذات اطہر ہے۔ بائبل کی اصطلاح میں روح کا لفظ نبی اور واعظ پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ نامہ اول یوحنا باب ۴ میں ہے اے عزیزو! ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے ساری سچائی کے راہ کھول دیے اور کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا۔ حتیٰ کہ قرآن نے دعویٰ کیا وتمت کلمة ربك صدقا وعدلا اور رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اوتیت علم الاولین والآخرین“ اور حدیث ابن مسعود میں آنحضرت کا ارشاد مروی ہے: ”ایہا الناس

لیس من شئى يقربكم الى الجنة ويباعدكم من النار الا قد امر تكم به وليس من شئى يقربكم الى النار ويباعدكم من الجنة الا قد نهيتكم عنه“ یعنی جو ذریعہ تمہیں بہشت اور ابدی خوشی سے ملانے والا اور جہنم کی تیز آگ سے دور ہٹانے والا ہے۔ میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے۔ اور باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ اور جو عمل دوزخ کے قریب اور جنت سے بعید لے جائے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے اور کسر نہیں رکھی۔ یہ روایت بغوی نے شرح السنۃ میں اور تہمتی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے۔

### امر چہارم

۴..... اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ سنے گی سو کہے گی۔ قرآن بھی اس دعویٰ کا مصدق ہے: ”قال ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى“ اور سورہ یونس میں ارشاد ہے: ”ما يكون لى ان ابدله من تلقاه نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى“ اور سورہ الحاقہ میں فرمایا ہے: ”ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين“

### امر پنجم

۵..... آئندہ کی خبریں دے گی آنحضرت ﷺ نے بے شمار پیش گوئیاں آئندہ زمانہ اور قبر اور حشر نشر میزان و صراط، نشر صحف، حساب اعمال، اور جنت و دوزخ کے متعلق بیان کی ہیں جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں باقی بھی پوری ہوں گی۔

### امر ششم

۶..... وہ میری بزرگی کرے گی آنحضرت ﷺ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور یہود کے الزامات سے انہیں منزه کیا۔ یہود آپ کی پیدائش ناجائز قرار دیتے تھے قرآن نے عقلی دلائل سے بن باپ ان کی پیدائش کو جائز قرار دیا اور کہا: ”ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون“

### انکار نبوت مسیح کی پہلی بنیاد

اور یہود نے اسی بناء فاسد پر انکار نبوت مسیح علیہ السلام کی بنیاد قائم کی تھی۔ کیونکہ تورات میں لکھا تھا، حرامی بچہ دس پشت تک خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے ان کی بناء کے ستون متزلزل کر دیئے اور قائم شدہ عمارت کو ایک آن میں گرا دیا۔



## دوسری بنیاد

اس معاند قوم نے یہ پیدا کی تھی کہ حضرت مسیح مصلوب ہو کر لعنت کی موت مرے لہذا آپ بلحاظ بشارت کتاب استثناء باب ۱۸ نبی نہیں ہو سکتے جس میں لکھا ہے لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے آنحضرت ﷺ نے اس بنیاد کی طرف توجہ کی اور واقعہ صلیب مسیح علیہ السلام کو ایک غلط فسانہ قرار دیا اور خدا کا قول سنایا: "ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما."

۱۔ عیسائیوں نے برخلاف حقیقت، الامران ہر دو پیشین گوئیوں کو جو باب ۱۸ کتاب استثناء اور باب ۹ کتاب یسعیاہ میں مذکورہ ہیں حضرت مسیح پر چسپاں کیا۔ یہود نے ان کے بالمقابل ایسا پہلا اختیار کیا جو طعن پر مشتمل تھا اور حضرت مسیح کے احترام میں اس سے فرق آتا تھا۔ حضرت نے اس طعن کو رفع کیا اور احترام مسیح علیہ السلام کو قائم کیا مگر عیسائیوں کے دعویٰ کی تصدیق نہیں کی کہ یہ پیش گوئیاں واقعی حضرت مسیح کے ظہور کی خبر دیتی ہیں کیونکہ پیش گوئیوں کی عبارت اور الفاظ صاف بتلا رہے ہیں کہ ہر دو بشارتیں رسول خدا کی ذات پر صادق آتی ہیں جیسے خاکسلاہ ضمیرہ میں مفصل طور پر اس حقیقت کو واضح کر چکا ہے۔ اور یہ ضمیرہ عنقریب شائع ہو جائیگا۔ اگر ناظرین اس کتاب کی قدر کریں گے۔

۲۔ دوسری بے حرمتی حضرت مسیح کے اعتقاد صلیب سے اس طرح لازم آتی تھی کہ وہ اس عقیدہ کی بناء پر کہتے تھے کہ معاذ اللہ مسیح طعون ہوئے کیونکہ تورات کتاب استثناء باب ۲۱ آیت ۲۲ لغایت ۲۳۔ اگر کسی نے کچھ ایسا گناہ کیا جس سے اس کا قتل واجب ہو اور وہ مارا جائے تو اسے لٹکا دے رات بھر درخت سے لٹکا نہ رہے۔ بلکہ تو اسی دن اسے گاڑ دے کیونکہ وہ جو پھانسی دیا جاتا ہے۔ خدا کا طعون ہے اور عیسائیوں نے بااجماع یہود واقعہ صلیب کو تسلیم کر کے انہیں معاذ اللہ مستوجب لعنت قرار دیا لیکن اتنی اور عقیدہ میں ترمیم کی کہ وہ ہماری ہی خاطر طعون ہوا۔ عیسائیوں کا پولوس مقدس نامہ گلتیوں باب ۳ آیت ۱۳ میں لکھتا ہے مسیح نے ہمارے لئے لعنتی بن کر اور ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ حضرت نے واقعہ صلیب کے متعلق حقیقت کو کھول دیا کہ یہود اصل صلیب پر لٹکایا گیا اور حضرت مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور کہا کہ صلیب پر لٹکایا جانا جو آپ کی بے حرمتی کا سنگ بنیاد ہے۔ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ گویا آپ نے حضرت کی بزرگی بیان کی۔

## تیسری بنیاد

تیسری بنیاد انکار نبوت کی یہ تھی کہ یواقیم کی نسل سے داؤد کی کرسی پر بیٹھنے والا پیدا نہ ہوگا چنانچہ یرمیاہ باب ۳۶ میں لکھا ہے اس لئے یہوداہ کے بادشاہ یہوئقیم کی بابت خداوند یوں کہتا کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے۔ حضرت مسیح کا تعلق چونکہ خاندان یہوئقیم سے ہے اس لئے وہ نبی نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس خیال کو محض فرضی قرار دیا اور عوام الناس کو یہود کی بدذاتیوں پر متنبہ کیا کہ وہ روزانہ تحریف کتاب الہی میں مصروف ہیں اور اپنے مدعا پورا کرنے کے لئے کتاب میں کمی و بیشی کر دیتے ہیں۔ ان کی نبوت کو مضبوط کرنے کے بعد ان کے حق میں ثنائیہ کلمات جو ظاہر فرمائے وہ قرآن کی سورتوں میں سلسلہ الذہب کی طرح مزوج و مخلوط ہیں سورہ آل عمران میں ہے: ”وجیہا فی الدنیا والآخرۃ و من المقربین و یکلم الناس فی المہد و کھلا و من الصالحین“ اور سورہ انبیاء میں کہا ”ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا و ہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون لا یحزنہم الفزع الاکبر و تتلقہم الملائکۃ“ اور سورہ زخرف میں فرمایا: ”ان هو الا عبدانعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل“

امر ہفتم

۷..... اس لئے کہ وہ میری چیز سے پائے گی۔ حضرت نے تعلیم کا وہ حصہ جو مسیح علیہ السلام نے بیان کیا تھا اسے از سر نو زندگی بخشی اور غبار تحریف سے پاک کر کے اسے اصل حقیقت پر واپس کیا گویا انہیں چیزوں سے پایا جو حضرت مسیح کو دی گئیں تھیں۔ سورہ شوریٰ میں ہے: ”شروع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ و عیسیٰ ان اقیمو الدین ولا تتفرقوا فیہ“

الغرض جب یہ کتاب مکمل ہو چکی اور تکمیل شریعت کا اعلان ہو چکا تو کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ بعد میں آنے والا نبی رسوم شریعت سابقہ کو رد و بدل کرنا اور زمانہ کی ضرورت کے مطابق فرائض و آداب و سنن کا اضافہ کر کے جو تقصیر اس میں ہے اسے پورا کہتا ہے۔ کامل شریعت کو انتظام نہیں رہتی کہ بعد میں کوئی دوسرا اس کی تکمیل کرے۔

عہد عتیق اور عہد جدید محرف ہیں

یہودی معاندانہ اور حاسدانہ کارروائیوں نے کتاب اللہ پر اوہاب کی گھنگور گھنٹا طاری

کردی اور اندرونی اختلاف کے باعث اپنے اپنے عقیدہ کی نصرت کے لئے کتاب کے مضمون میں کمی بیشی اور رد و بدل شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ اصلی تعلیم کا عنصر جعلی تعلیم میں غائب ہو گیا اور حق و باطل کی تمیز مشکل ہو گئی اور جو مقصد کتاب اللہ کے نزول سے خدا پورا کرنا چاہتا تھا وہ مفقود ہو گیا اور کتاب اس قابل نہ رہی کہ وہ خلق اللہ کی رہنمائی کر سکے۔ تب خدا کی غیوریت جوش میں آئی اور کسی دوسرے نبی کو مبعوث کر کے اصلی تعلیم کا منظر بیرونی سیاسی سے پاک کیا جاتا اور اس طرح قوم کے باہم اختلاف کا خاتمہ ہوتا۔ ارشاد خداوندی ہے: "کسان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرين وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الذین اوتوه من بعد ماجاءتهم البہنات بغیابینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنه واللہ یرہدی من یشاء الی صراط مستقیم" یعنی قوم پہلے ایک چال پر تھی پھر عناد سے ان میں اختلاف رونما ہو گیا خدا نے انبیاء کو بشارت اور نذارت پر مامور کر کے دنیا میں بھیجا اور ان کے ساتھ ایک ایسی کتاب نازل کی جو مخلوقات کے اختلاف میں فیصلہ کرے اور اختلاف محض حسد کی وجہ سے ان میں ظاہر ہوا جبکہ ان کے پاس واضح آیتیں خدا کی طرف سے نازل ہو چکی تھیں مگر انہیں محرف کر کے اختلاف میں پڑ گئے خدا نے اہل ایمان کو اختلاف کے بعد حق کا راہ دوسرے نبی کی معرفت جو بعد میں آیا دکھلا دیا اور خدا جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اسی طرح دوسری آیت بھی اس مضمون کی مؤید ہے: "اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان" یعنی خدا نے کتاب لائق کو بھی تعلیم پر حاوی کر کے اتارا اور اسے حق و باطل کی تمیز کے لئے میزان مقرر کیا پس سابقہ کتاب کے لئے لائق کتاب بمنزلہ معیار ہے۔

قرآن تحریف سے محفوظ ہے اس لئے اس کے بعد نبی کی ضرورت نہیں

مگر قرآن کریم چونکہ انسانی دستبرد سے منزه اور ابد الابد کے لئے تحریف سے محفوظ ہے یہاں تک کہ اس کی حفاظت کا اہتمام خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے اور ارشاد کیا: "انما نحن نزلنا الذکر وانالہ لحافظون" یعنی کتاب اللہ کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کے تغیر و تبدل اور تحریف لفظی اور معنوی سے حافظ ہیں چنانچہ اس وعدہ کے ایفاء کے لئے خدا نے ایسے اسباب اور ذرائع مہیا کر دیئے کہ اس میں تحریف کا دخل نہ ہو سکے۔

سبب اول

..... قرآن کو رفتہ رفتہ بالدرج نازل کیا تاکہ وہ سبق سبق ہو کر سینہ میں محفوظ ہو جائے

برخلاف اور کتابوں ساہقہ کے کہ وہ دفعہ نازل ہو جایا کرتی تھیں۔ اس لئے ان کا حافظ عنقاء کا حکم رکھتا تھا: ”وقرأنا فرقناه لتقرؤه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا“ یعنی ہم نے قرآن کو رفتہ رفتہ نازل کیا ہے تاکہ تو تھوڑے تھوڑے وقفہ سے لوگوں میں پڑھ کر سناے اور وہ اس پر بلا تکلف عمل کر سکیں اور بغیر اشکال حفظ کر لیں اور سورہ فرقان میں فرمایا: ”وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذا لك لنتثبت به فوادك ورتلنا ترتيلا“ یعنی قرآن کو رفتہ رفتہ مجسم طور پر نازل کرنے کی دو وجوہات ہیں ایک تو مخالفین کے اعتراضات کا دمان دشمن جواب دے کر آنحضرت ﷺ کے دل کو مطمئن کرنا مقصود ہے۔ دوم تم ترحیل قرأت پیش نظر ہے۔ کہ امی قوم اسے ضبط رکھ سکے۔

قرآن کی پیش گوئی۔ سعیاہ کی کتاب میں

چنانچہ سعیاہ باب ۲۸ آیت ۹ لغایت ۱۳ میں اس کتاب کی طرف ان لفظوں میں ارشاد کیا گیا ہے۔ ”وہ کس کو دانش سکھاوے گا وہ کس کو وعظ کر کے سمھائے گا۔ ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے کیونکہ حکم پر حکم حکم پر حکم۔ قانون پر قانون پر قانون ہونا جاتا تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہاں وہ وحشی کے سے ہونٹوں اور اجنبی زبان سے اس گروہ کے ساتھ باتیں کرے گا کہ اس نے ان سے کہا کہ وہ آرام گاہ سے تم ان کو جو تھکے ہوئے ہیں آرام دیجو اور یہ چین کی حالت ہے۔ پردے شنواؤ نہ ہوئے سو خداوند کا کلام ان سے یہ ہوگا حکم پر حکم حکم پر حکم۔ قانون پر قانون قانون پر قانون تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں تاکہ دے چلے جائیں اور پچھاڑی کریں اور ٹھکست کھائیں اور دام میں پھنسیں اور گرفتار ہوویں۔“

پیشگوئی مذکور کی تشریح

یعنی نبی ﷺ امتوں کو دانش سکھائیں گے اور ان کو وعظ کر کے سمھادیں گے۔ گویا۔ چھاتیوں سے الگ ہونا علم کے دودھ سے محروم رہنے کے لئے ایک لطیف استعارہ ہے اور قرآن ان کی ان پڑھ ہونے کے باعث مجسم طور پر باقسط متعددہ نازل ہوگا کچھ مکہ میں کچھ مدینہ میں کچھ سفر میں کچھ حضر میں اور آنحضرت ﷺ کی قوم حضور ﷺ کے مقابلہ میں ٹھکست کھائے گی۔ چنانچہ اہل عرب کے علاوہ دوسری قوموں نے آنحضرت کی صداقت کا یہ معیار قائم کر رکھا تھا کہ اگر آپ اپنی قوم پر غالب آئے تو صادق ہیں۔ مشکوٰۃ میں حدیث مروی ہے: ”وکانوا یقتلوا منون باسلامہم الفتح ویقولون اترکوه وقومه فان ظهر علیہم فانہ نبی“ یعنی اسلام لانے کے لئے لوگوں نے فتح مکہ کا دن مقرر کر رکھا تھا اور کہتے تھے کہ اس نبی کو اپنے حال پر چھوڑ دو

اگر وہ اپنی قوم پر غالب آگئے تو سچ نبی ہیں۔

۲..... پہلے خدا عبری زبان میں ایک عرصہ دراز کلام کرتا رہا لیکن قرآن ایک اجنبی زبان میں نازل ہوا۔ چونکہ عرب کا ملک دشت اور باد یہ تھا اس لئے ان لوگوں کی زبان کو وحشیوں کی زبان قرار دیا گیا اور حضرت اسماعیل کو جو صحرائے عرب میں سکونت پذیر تھے توراہ میں انسان وحشی کہا ہے اور دام میں پھنسنے سے مراد وہ قید ہے جو جنگ بدر میں معرض ظہور میں آئی۔

یرمیاہ کی کتاب میں کتاب اللہ کی بشارت

قرآن کا تدریجی نزول مسلمانوں کے لئے ہزار ہا برکات کا موجب ہوا۔ جن میں سے بڑی برکت یہ تھی کہ اہل اسلام میں اس کے حفظ کی سنت جاری ہوگئی اور اس طرح قرآن کریم تعمیرات خارجہ سے پاک ہو گیا۔ یرمیاہ نبی کی کتاب میں اس کا نقشہ مکمل طور پر کھینچا گیا ہے۔ ان دنوں کے بعد خداوند فرماتا ہے: ”میں اپنی شریعت کو ان کے اندر رکھوں گا اور ان کے دل پر

اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کو یہ کہہ کے نہ سکھائیں گے۔ کہ خداوند کو پچھانو کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے خداوند کہتا ہے کہ میں ان کی بدکاری کو بخش دوں اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔“ جملہ خط کشیدہ قابل غور ہے۔ صفت امت محمدیہ میں فرمایا ہے کہ ان کی کتاب دلوں پر نقش کی جائے گی اور ہزار ہا ہزار حفاظ پیدا ہوں گے۔ باوجودیکہ قرآن کا اہتمام کسی شاہی انتظام و اہتمام کے ماتحت نہیں بلکہ ایک غریب قوم کے ہاتھ میں ہے۔ مگر باہتمہ بڑے شوق سے قوم اس کے حفظ میں مصروف ہے۔ پہلے قرآن آنحضرت کے سینہ مبارک میں جمع ہوا جیسے قرآنی ارشاد ہے: ”ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرئناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ“ پھر امت نے حضرت کی اقتداء سے اسے محفوظ کیا تاکہ سابقہ پیش گوئیاں برآئیں اور ان کے پورا ہونے کی طرف آیت: ”بلی هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم“ میں اشارہ موجود ہے۔ علامہ بخوی اور خازن نے تفسیر میں عربی توراہ سے پیش گوئی کو بدیں الفاظ نقل کیا ہے:

”قربانہم دمانہم وانا جیلہم فی صدورہم رہبان باللیل و لیوٹ بالنہار“

نبی کی آمد اصلاح تحریف کے لئے ہوا کرتی ہے جس کی قرآن کو ضرورت نہیں لہذا اس کتاب پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی نہ اس کے آثار کو زمانہ محو کر سکتا ہے نہ آگ جلا سکتی ہے۔ حدیث مسلم میں حضرت عیاض سے مروی ہے کہ حضور کو بذریعہ حدیث قدسی نے کہا: ”انزلت علیک کتابا لا یفسلہ الماء تقرہ نائما ویقظان“ یعنی میں نے تجھ پر

ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی محو نہیں کر سکتا جب کتاب ہذا تعمیر سے محفوظ ہے تو نبی جو اصلاح تحریقات کے لئے دنیا میں آیا کرتا تھا اس کی ضرورت باقی نہ رہی۔

### سبب دوم

۲..... قرآن کے عہد میں مطبع جاری ہو گیا اور اس کی ہزاروں ہزار نقلیں دنیا میں شائع ہو گئیں۔ حتیٰ کہ کسی کو ایک لفظ بڑھانے یا گھٹانے کی مجال نہ رہی۔

### سبب سوم

۳..... علماء نے قرآن کی سورتوں اور آیات اور حروف و الفاظ کی تعداد لگا دی ہے جو عامہ تفاسیر میں مشتہر ہو چکی ہے۔ ہر ایک ای غیر ای اس کی تلاوت کرتا ہے۔ نماز میں پڑھا جائے اور قیام رمضان و صلوة ایل میں اس کی تلاوت جاری ہے۔ یا ایسے اسباب ہیں جن کے ہوتے ہوئے تحریف ناممکن ہے۔ اس لئے مابعد کے زمانہ میں نبی پیدا ہونے کی حاجت نہ رہی اس لئے آئندہ لاسلسلہ نبوت مسدود ہے۔

### آنحضرت ﷺ کی رسالت ہر مکان و زمان کے لئے عام ہے

آنحضرت ﷺ سے قبل انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا شہر یا علاقہ کے لئے محدود ہوتی تھی۔ اس لئے تعدد مبلغین کی ضرورت تھی حضور ﷺ کی رسالت جملہ خلق اللہ کے لئے عام ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے لہذا حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کی حاجت نہیں۔ جناب علیہ السلام نے باواز بلند فرمایا: ”یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لہ ملک السموات والارض (اعراف: ۱۰۸)“

۲..... ”تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیراً (فرقان: ۱)“

۳..... ”واوحی الیٰ ہذا القرآن لا نذرکم بہ ومن بلغ (الانعام: ۱۹)“

۴..... ”لتنذرا م القرئی ومن حولہا (شوری: ۷)“ اور حضور نے ارشاد فرمایا:

”ارسلت الی الخلق کافۃ“ مجھے جملہ خلق اللہ کی رہنمائی کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔

### کتاب پیدائش کی بشارت

اور توراہ کتاب پیدائش میں بھی اس امر کی تصریح موجود ہے کہ آنجناب کی دعوت تمام قوموں پر حاوی ہے اور دنیا کا کوئی خطہ آپ کی دعوت سے باہر نہیں۔ ”لا یزول الحاکم من یہود او الراسم من بنی اسرائیل حتیٰ یحییٰ الذی لہ کلک وایاہ تنفتظر الام

والیہ تجتمع الشعوب“ یعنی نبی ہمیشہ نبی اسرائیل میں سے ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ نبی پیدا ہو جس کی اتباع پر تمام قومیں مامور ہیں۔ یعنی حضرت محمد ﷺ جن کی دعوت سب دنیا کے لئے عام ہے۔ اس وقت نبوت نبی اسرائیل سے خارج ہو جائے گی اور تمام امتیں اس نبی کی انتظار میں ہیں کیونکہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت سے ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اور آسانی صحائف ہماہان کی بشارتوں سے پر ہیں دنیا کی جملہ اقوام ان کے مذہب میں داخل ہوں گی یہ ان کا اجتماع ہے جس کی طرف فخرہ الیہ تجتمع الشعوب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو اور کسی زمانہ کی رسالت کو اس کے ساتھ وابستہ سمجھا جائے تو حضرت کی دعوت عام نہیں رہتی بلکہ بعض ازمنا سے مخصوص ہو جاتی ہے جو خلاف قرآن و سنت و اجتماع ہے۔

بائبل پکار پکار کہتی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء ہیں  
کتاب۔ یسعیاہ سے ختم نبوت کا ثبوت

یسعیاہ باب ۴۹ میں ہے۔ اے بحری سرزمینو! میری سنو! اے لوگو! جو تم دور ہو کان دھرو خداوند نے مجھے رحم سے بلایا میں جب سے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تب ہی سے اس نے میرے نام کو مذکور کیا اور اس نے میرے منہ کو تیز تلواری کی مانند کیا اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپایا اور اس نے مجھے تیز آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو میرا بندہ ہے۔

تشریح

بحری زمین کی تخصیص اس لئے ہے کہ حضور جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے اور اہل جزیرہ کو سب سے اول حق کی دعوت دی اور کہا اے بحری سرزمینو میری سنو! پھر عرب کے جزیرہ سے متجاوز ہو کر دنیا کے تمام بلاد ممالک میں جو دور دراز واقع ہیں۔

صدائے دعوت پہنچائی اور کہا کہ اے لوگو جو تم دور ہو کان دھرو اس نے میرا نام مذکور کیا حضرت کا ذکر احبار ربہبان و شعراء کاہنوں و جنوں و اصنام کی زبان پر جاری تھا

آنحضرت ﷺ ابھی تو لد نہ ہوئے تھے کہ احبار اور ربہبان اور کاہنوں اور نجومیوں کی زبان پر آپ کا تذکرہ اشاعت پذیر تھا اور شاعروں نے اپنے قصائد کو حضور کے ذکر سے زیب و زینت بخشی۔ یہود میں سے عبداللہ بن سلام اور پسران سعید اور ابن یاسین اور متفرق اور کعب

الاحبار اور شاموک عبداللہ بن صوریہ۔ حی بن خطاب اور برادر خطاب اور کعب بن اسد و زبیر بن باطیاء نے آپ کی صداقت کی شہادت دی اور علماء نصاریٰ میں سے بھیراء اور نسطورا اور صاحب بھری اور صفاطر اور اسقف شام اور چارود اور سلمان اور نجاشی اور سکسین حبشہ اور راہب بھری اور اساقف نجران اور ہرقل ملک روم اور صاحب رومہ وغیرہم نے حضرت کی نبوت کی تصدیق کی اور مقوقس والی مصر اور اس کے وزیر نے حضور علیہ السلام کے حق میں تصدیقہ الفاظ بیان کئے اور شعراء میں سے تیج اور اوس بن حارثہ اور کعب بن لوی اور سفیان بن عجاج اور قس بن سادہ اور سیف بن ذی یزن وغیرہم کے اشعار حضور کی صفات کو مستہر کرتے ہیں اور زید بن عمرو بن نفیل حنیف اور ورقہ بن نوفل عیسائی اور عسکلان جمیری نے بھی آپ کی نبوت کا اعلان کر دیا تھا اور کاتبوں کی جماعت میں سے شافع بن کلیب اور شق اور سطح اور سواد بن قارب اور خنافر اور اقصیٰ نجران اور جذل بن جذل کنڈی اور ابن خاصہ دوسی اور سعید بن بنت کریر اور فاطمہ بنت نعمان نے آپ کی خبر پہلے سے مستہر کی اور جنوں کی زبان اور بتوں کے شکم اور ذبیحوں سے حضرت کے وقت رسالت کی اطلاع ملتی تھی اور قبروں اور پتھروں اور دیواروں پر آپ کا تذکرہ خط قدیم سے لکھا ہوا پایا گیا۔ بلکہ آپ کا نام نامی و اسم گرامی ہر زبان پر دائر تھا۔ اس لئے بہت نفوس نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا تاکہ نبوت و رسالت ان کے حصہ میں آئے لیکن اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ آنحضرت کے عہد میں آپ کے ہم نام ہفت کس موجود تھے محمد بن اچچہ کو بن جراح اوی، محمد بن مسلمہ انصاری محمد بن براہکری، محمد بن سفیان بن عجاج، محمد بن عمرو بن بھشی، محمد بن خزاعی السلسی، پہلا شخص جو اس نام سے موسوم ہوا محمد بن سفیان ہے اور بیسویں کا دعویٰ ہے کہ محمد بن محمد اس نام سے شرف ہوا جو قبیلہ ازود سے ہے۔

### باقی تشریح

اور حضرت کا منہ نیز تلوار کی مانند تھا یعنی فصاحت میں تلوار کی طرح کام کرتے تھے۔ یا آپ کے احکام لسانہ نیز تلوار کا نمونہ تھے یا آپ کی دعائیں وہ کام کرتی تھیں جو شمشیر برآں کرتی ہے۔ یا چہرہ کی درخشانی اور رخسار کی صفائی بشرہ کی چمک و دمک تلوار سے ملتی جلتی تھی: ”قال رجل وجہہ مثل السیف قال لا بل کان مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا“ شرح نے لکھا ہے: ”مثل السیف فی البریق واللمعان لکن لما کان یوہم الطول ایضاً قال جابر لا بل کان وجہہ مثل الشمس والقمر“ یعنی حضرت کا چہرہ صابحت اور چمک میں تلوار سے نسبت رکھتا تھا۔ مگر حضرت جابر کا بیان ہے کہ چہرہ



کی استعدادت کا خیال رکھتے ہوئے آفتاب یا ستارے سے مماثلت درست بنتی ہے۔  
 اور رسول خدا ﷺ کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تلے چھپایا اور دشمنوں کے  
 زور اور حملوں سے انہیں چھپایا اور یتیموں کو اللہ یعصمک من الناس سنایا وسیکفیکہم  
 اللہ اور انسا کفینک المستہزئین کا مژدہ بتلایا اور اس نے آنحضرت کی ذات ستورہ صفات کو  
 تیرا ہار بنایا کہ جیسے تیرا دشمن پر ظہر پانے کا ایک آلہ ہے۔ اسی طرح حضور کی ذات ظہر براء کا  
 وسیلہ ہے صحابہ کہتے ہیں: "کننا اذنا حمی الوطیس القینا برسول اللہ ﷺ" دشمنوں کی  
 حسرت و شوکت کو حضور کے وجود نے زائل کر دیا اور اپنی ترکش میں مجھے چھپا رکھا کہ آخر پر مجھے  
 ظاہر کیا جائے اور نبی ﷺ کو خدا نے سب سے ازل پیدا کیا اور آخری وقت تک محفوظ رکھا اور آخر  
 میں دنیا میں بھیجا۔ قاضی عیاشؒ نے شفا میں تحریر فرمایا ہے: "وسمى الله تعالى نبیة  
 محمد ﷺ بالفاتح فی حدیث الاسراء الطویل من روایة الربیع بن انس عن  
 ابی العالیة وغیره عن ابی ہریرة وفيه من قول الله تعالى وجعلتك  
 فاتحا وخاتما وفيه من قوله عليه الصلوة والسلام فی ثناء علی ربه وتعدد  
 مراتبه ورفع لی نکرئ وجعلنی فاتحا وخاتما ثم قال فی معناه اقوالا اخر  
 المبدہ المقدم فی الانبیاء والخاتم لهم كما قال عليه السلام كنت اول الانبیاء  
 فی الخلق واکثرهم فی البعث" یعنی خدا نے اپنے نبی کا نام قاضی قرار دیا۔ ابو العالیہ نے  
 حضرت ابو ہریرہؓ سے سلسلہ اسناد صحیح بن انس یونہی نقل کیا ہے اور اس سیاق متن میں خدا نے تعالیٰ  
 کا قول جناب نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے مجھے سب سے اول پیدا کیا اور تا آخر چھپا رکھا اور سب  
 سے پیچھے مجھے دنیا میں مبعوث کیا اور بعد ازاں خدا کی ثناء کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے میرا  
 شہرہ بلند کیا اور مجھے تمام سے پہلے بتایا اور سب سے آخر ظاہر کیا اور حدیث: "كنت اول الانبیاء  
 فی الخلق واکثرهم فی البعث" اس مضمون کی تفسیر ہے۔

انجیل متی کی بشارت

اور انجیل متی باب ۱۹ میں ہے کہ: "آسمان کی بادشاہت اس گھر کے مالک کی مانند ہے  
 جو سویرے نکلتا تاکہ اپنے انگوری باغ میں مزدور لگائے اور اس کے مزدوروں سے ایک دینار روز  
 ٹھہرا کر انہیں اپنے باغ میں بھیج دیا۔ پھر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں  
 بے کار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ جو واجب ہے تمہیں دوں گا پس وہ چلے  
 گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسری پہر کے قریب نکل کر دیکھا کہ ایک اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر

نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا کہ تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا اس لئے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم بھی باغ میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو باغ کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گھنٹہ دن رہے تو انہیں ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ایک دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا۔ جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا۔ میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا جو تیرا بے اٹھالے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دینا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روانہ نہیں کہ اپنے مال کو جو چاہوں سو کروں۔ یا تو اس لئے کہ میں نیک ہوں تو بری نگاہ سے دیکھتا ہے اس طرح آخر اول ہو جائیں گے۔“

حدیث مطابق مضمون انجیل

آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی مندرجہ صدر کا مصداق اپنی امت کو قرار دیا ہے چنانچہ بشارت ہذا کا خلاصہ مضمون اپنے کلمات میں اخذ کر لیا ہے۔ بخاری نے صحیح میں اور محمد نے مواہب حضرت عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم ما بین صلوة العصر الی مغرب الشمس وانما مثلکم ومثل الیہود والنصارى کرجل استعمل عمالا فقال من یعمل لی الی نصف النہار علی قیراط قیراط فصلت الیہود والی نصف النہار علی قیراط قیراط ثم قال میں یعمل لی الی صلوة العصر علی قیراط قیراط ثم قال ومن یعمل من صلوة العصر الی المغرب الشمس علی قیراطین قیراطین الافانتم الذین یعملون من صلوة العصر الی مغرب الشمس الالکم الاجر مرتین ففضبت الیہود والنصارى فقالوا نحن اکثر عملا و اقل عطلاء قال اللہ تعالیٰ فهل ظلمتکم من حکمک شیفاً قالوا لا قال اللہ تعالیٰ فانه فضلی اعطیه من شئت“ یعنی تمہاری میعاد سابقہ امتوں کے مقابلہ میں اتنی ہے جیسا عمر سے مغرب تک وقت کی ہے اور تمہارا اور یہود کا حال بالکل ایسے شخص سے ملتا ہے جس نے باغ میں مزدور لگائے اور آواز دیا کہ کون صبح سے دن ڈھلنے تک ایک ایک قیراط کے مقابلہ میں کام کرے گا۔ یہو نے اس کا کام دو پھر تک ایک ایک قیراط لے کر

کیا۔ پھر نکلا اور نداء کی کہ کون دوپہر سے عصر تک میرا کام ایک ایک قیراط کے معاوضہ میں کرے گا۔ تو عیسائیوں نے عصر تک کام کیا مگر ایک ایک قیراط لے کر پھر نکلا اور صد اٹھائی کہ کون میرا کام عصر سے مغرب تک کرے اور اگر دو دو قیراط پاوے سن رکھو تم وہ امت ہو جن کا وقت مزدوری عصر سے مغرب تک ہے مگر تمہیں دو دو قیراط ملیں گے یعنی دوہرے اجر کے تم مستحق ہو۔ تب یہود و نصاریٰ رنج میں آئے اور مالک سے کہا کہ ہم نے محنت پر زیادہ عرصہ صرف کیا اور اجرت ہمیں کم ملی تو مالک نے کہا کہ جو محنتانہ تم سے ظہرایا تھا اس سے کم تمہیں نہیں دیا۔ ایک کو اگر میں نے اپنے مال سے زیادہ دیا تو یہ میری مرضی میں اپنے مال کا مختار ہوں میرا فضل ہے جس کو چاہوں میں عطا کروں۔ ﴿

دوسری حدیث مطابق مضمون انجیل

اس طرح پچھلے پہلے ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرویاً بخاری اور مسلم نے امت محمدی کی شان میں نقل کیا ہے: ”نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيدانهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتينا من بعدهم“ یعنی ہم پچھلے ہیں دنیا میں اور پہلے ہوں گے دن قیامت کے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب عطا ہوئی اور ہم کو بعد میں عنایت ہوئی اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے: ”نحن الآخرون الاولون يوم القيامة ونحن اول من يدخل الجنة“ یعنی ہم دنیا میں آخر اور روز قیامت اول ہوں گے۔ سب سے اول ہم ہی بہشت میں جائیں گے اور تیسری روایت میں حضرت حذیفہ سے اس طرح ثابت ہے: ”نحن الآخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الاخلاق“ ہم اہل دنیا میں سب سے اخیر میں اور عقبی میں سب سے مقدم ہوں گے۔ ہمارا فیصلہ سب خلق اللہ سے اول ہوگا اور داری نے اس روایت کو عمرو بن قیس سے بیان کیا ہے۔ حدیث کا فناء بالکل انجیل کے بیان کے مطابق ہے جہاں کچھ معمولی اختلاف ہے وہ ان کتابوں کی تحریف کا اثر ہے۔

مرزا قادیانی کا خود ازالہ میں یہ قول ہے کہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے

”اور نیز خاتم النبیین ہونا ہمارے نبی ﷺ کا کسی دوسرے نبی کے آنے سے مانع ہے۔ ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرئیل لائیں اور پھر چپ ہو جائیں یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے کیونکہ جب خمیت کی مہر ٹوٹ گئی

اور وحی رسالت پھر نازل ہوئی شروع ہوئی تو پھر تھوڑا بہت نازل ہوتا رہا ہے ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین ہیں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں تصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبریل بعد وفات رسول اللہ ﷺ ہمیشہ کے لئے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں صحیح اور صحیح ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی ﷺ کے بعد نہیں آسکتا۔“ (ازارہ ص ۵۷۵ و ۵۷۶، خزائن ج ۳ ص ۱۶۰-۱۶۱)

مرزا قادیانی کا دعویٰ کہ وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے

ختم نبوت کو توڑنے کے لئے آنحضرت ﷺ کے بعد ایک فقرہ کا نزول بھی مرزا قادیانی نے کافی سمجھا ہے۔ اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت آیت ختم نبوت کی حقیر کا مضمون ہے آپ نے صرف اسی دعویٰ پر قناعت نہیں کی بلکہ لکھا ہے کہ: ”خدا کی وحی ہارٹ کی طرح مجھ پر نازل ہوئی۔ اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا۔ اور صریح طور پر مجھے نبی کا خطاب دیا گیا۔ مگر اس طرح کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی اور جیسا کہ میں نے نمونہ کے طور پر بعض جہاں میں خدائے تعالیٰ کی وحی کی اس رسالہ میں بھی لکھی ہیں۔ ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سچ ابن مریم کے مقابلہ پر خدائے تعالیٰ میری نسبت کیا فرماتا ہے۔ میں خدائے تعالیٰ کی دس برس کی حوا تر وحی کو کیونکر رد کر سکتا ہوں۔ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۵۰، خزائن ج ۳ ص ۱۵۴)

اور نیز اپنی کتاب نزول المسیح کے ضمیمہ میں لکھتے ہیں: ”اگر خدا کی پاک وحی سے حدیثوں کا کوئی مضمون مخالف پاوے اور اپنی وحی کو قرآن کے مطابق پاوے اور بعض حدیثوں کو بھی اس کی موئید دیکھے تو ایسی حدیثوں کو چھوڑ دے اور ان حدیثوں کو قبول کرے جو قرآن کے مطابق ہیں اور اس کی وحی کے مخالف نہیں۔“ (ضمیمہ ص ۳۰، ملحقہ ہا عاز احمدی، خزائن ج ۱ ص ۱۳۹)

مرزا قادیانی اپنی وحی کو قرآن کے برابر خیال کرتے ہیں

اور (حقیقت الوحی کے ص ۲۱۱، خزائن ج ۲ ص ۲۲۰) پر بھی ایسا بیان مندرج ہے جو مرزا

قادیانی کی وحی کو کتب اربعہ منزلہ کے مساوی بتلا رہا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے: ”میں خدائے تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو قیمتی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔“ اور اربعین نمبر ص ۱۹ کے ذیل میں لکھا ہے:

”جب کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورہ اور انجیل اور قرآن پر تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کی ظہیمات بلکہ مضبوطیات کے ذخیرہ کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں جس کی حق اطمینان پر مبنی ہے۔“ (اربعین لبرہ ص ۱۹، خزائن ج ۱ ص ۳۵۳) اور حقیقت الوحی میں لکھا ہے:

”اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب میں امت میں گزر چکے ہیں۔ ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس کے مستحق نہیں کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور فیہ ان میں پائی نہیں جاتی۔“

(حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۳ ص ۳۰۶)

ناظرین! بحوالہ ازالہ مرزا قادیانی کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک فقرہ کا نزول بھی آنحضرت کے بعد متانی قسم نبوت ہے۔ اس کے ساتھ ان کے دوسرے بیانات کو ملاحظہ فرمائیں جن میں اپنی وحی کو کتب منزلہ کے مساوی بتلایا ہے۔ اور بیان کیا ہے کہ بارش کی طرح مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو ایک طرح گویا مرزا قادیانی کا اقرار ہے کہ میرا دعوائے آیت خاتم النبیین کے مخالف ہے اور میں اس آیت کا منکر ہوں اور دیدہ دانستہ میں نے خاتم النبیین کے مضمون کو توڑ دیا ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ حقیقی نبوت کے مدعی ہیں ورنہ آپ کی وحی قرآن اور انجیل اور تورات سے ہم پلہ کیونکر ہو سکتی تھی۔

تشریحی اور غیر تشریحی نبوت کے دونوں اقسام منقطع ہو چکی ہیں

آنحضرت ﷺ ہوم جوک پامہ کاب تھے اور حضرت علیؑ کو بچوں اور بڑھوں اور مستورات کی حفاظت کے لئے مدینہ میں اپنا جانشین بنایا حضرت علیؑ نے عذر کیا اتنا خلفی فی النساء والصبیان یعنی یہ بات میرے لئے موجب عار ہے کہ آپ مجھے جرہ نساواں و صبیبان میں چھوڑتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ان کے اطمینان کے لئے یہ الفاظ فرمائے: ”انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی“ یعنی آخرت اور عارضی جانشینی کے لحاظ سے آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی لیکن ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ گویا ان الفاظ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ غیر تشریحی نبوت بھی ختم ہو چکی ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت و منبر تھے اور حضرت ہارون غیر تشریحی نبی بطور مددگار لگے ہوئے جیسے ان کی دعاء سے یہ بات بالکل واضح ہے:

”واجعل لی وزیر امن اہلی ہارون اخی اشد بہ ازری“ اور اس بات کی اجابت کو بھی خدا نے سورہ فرقان میں ظاہر کیا ہے: ”ولقد اتینا موسیٰ الكتاب وجعلنا معہ اخاہ

ہارون وزیراً“

مرزا قادیانی نے نبوت کے دو اقسام قرار دئے ہیں تشریحی کو مسدود بتلایا ہے یعنی صاحب شریعت جدیدہ آنحضرت کے بعد نہیں آسکتا اور غیر تشریحی نبوت کے متعلق آپ کی یہ رائے ہے کہ وہ تا قیامت جاری رہے گی کیونکہ خدا کا فیض کسی خاص زمانہ تک محدود نہیں ہو سکتا اور اس عقیدہ کو اہل سنت نے کفر بتلایا ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے کلمات طیبات میں غیر تشریحی نبوت کے اسناد کی بھی تصریح کی ہے۔ بخاری نے روایت کیا ہے: ”کانت بنوا اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی“ بنو اسرائیل پر انبیاء حکمرانی کرتے تھے۔ جب ایک نبی انتقال کرتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا۔ یہ سلسلہ حضرت موسیٰ کے بعد متواتر جاری رہا۔ یہ خلفاء موسیٰ علیہم السلام کہلاتے تھے جن کے پاس جدید شریعت نہ تھی۔ وہ تورات پر حکم صادر کرتے تھے اور حضرت موسیٰ کی نبوت کے مصدق تھے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایسے انبیاء غیر تشریحی بھی نہ ہوں گے جیسے حضرت موسیٰ کے بعد ہوئے ہیں۔ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور خلفاء بغیر نبوت میرے پیچھے کثرت سے ہوں گے۔

اگر غیر تشریحی نبوت جاری تھی تو حضرت نے مسیلہ پر کیوں کفر کا فتویٰ دیا۔ جس نے محض یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں غیر تشریحی نبی ہوں اور شریک نبوت محمد یہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت موسیٰ تشریحی نبی تھے اور حضرت ہارون غیر تشریحی۔ پھر مسیلہ کے دو معتقدوں کو جو مسیلہ کی چشمی لے کر حاضر خدمت ہوئے تھے۔ یہ کیوں کہا کہ تم بھی مسیلہ کی نبوت کے قائل ہو۔ تمہارا قتل کر دینا واجب تھا مگر معذوری یہ ہے کہ قاصدوں اور سفیروں کے قتل کا نہ حکم ہے نہ رواج اور حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلہ اور اس کے معتقدین کخلاف کیوں شمشیر اٹھائی اور خالد کے سپہ سالاری میں ایک جرار فوج دے کر کیوں یمامہ پر حملہ کا حکم دیا حتیٰ کہ خالد نے انکے رفقہاء مسیلہ کو تیغ کر کے فتح یابی حاصل کی۔ کیا وہ نہ سمجھتے تھے: ”امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ“ یعنی قتال اس وقت ممنوع ہے جبکہ فریق مقابل کلمہ گو ہو۔ مسیلہ اور اس کے رفقہاء ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھتے تھے اور حضرت کی نبوت کے قائل تھے اور ان کے دین کو دین حق خیال کرتے تھے۔ منہذا اصحاب نے انہیں کافر سمجھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آیت خاتم النبیین کا انکار کر کے دائرہ کفر میں داخل ہو گئے۔ اور انہیں کلمہ کا مفہوم جو اعتراف توحید و رسالت ہے ناسخ نہ ہوا۔

کیونکہ ایک آیت قرآنی کا انکار جملہ قرآن کے انکار کے مساوی ہے اور قرآن کا انکار انکار رسالت کے ہم دوش ہے اور ان کار رسالت میں خدا کا انکار لازم ہے۔ اسلئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ! کا اعتراف باطل ہو گیا۔

حضرت علیؑ مثیل ہارون علیہ السلام ہیں لیکن نبوت کے مدعی نہیں

اور آنحضرت علیہ السلام نے حضرت علیؑ کو حضرت ہارون سے جو غیر تشریحی نبی تھے نسبت اور مماثلت دے کر آخر میں یہ جملہ فرمایا: الا انہ لا نبی بعدی یعنی غیر تشریحی نبوت جیسی حضرت ہارون کو ملی تھی۔ میرے بعد ختم ہے اور حضرت علیؑ باوجود یکہ مدوزی اور ظلی طور پر حضرت ہارون کے مثیل تھے۔ لیکن چونکہ آنحضرت ﷺ کے بعد ہر طرح کی نبوت کا سلسلہ مسدود ہے اس لئے آپ نے فرمایا: ”الا انسی لست بنبسی ولا یوحی الیّ ولکنی اعمل بکتاب اللہ وسنة نبیہ ما استعطت (شفاء ص ۱۹۴)“ یعنی حضرت علیؑ کا قول ہے کہ میں پیغمبر نہیں اور نہ مجھے وحی آتی ہے لیکن میں حتی الامکان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پر عامل ہوں۔

باب وحی آنحضرتؐ کے بعد قطعاً مسدود ہو چکا ہے ابو بکر صدیقؓ آنحضرتؐ کے بعد نزول وحی کی نفی کرتے ہیں

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خطبہ خلافت میں تصریح فرمایا ہے کہ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی اور آنحضرتؐ مورد وحی تھے اس لئے مجھ سے غلطی کا صادر ہونا ممکن ہے۔ مگر آنحضرتؐ خطا سے محفوظ اور شیطان سے مصوم تھے: ”اخرج احمد عن قیس بن ابی حازم قال قال ابو بکر الصدیقؓ لئن اخذت عنی بسنة نبیکم ما اطیقها ان کان لمعصوما من الشیطان وان کان لینزل علیہ الوحی من السماء“ یعنی اگر تم مجھ کو اپنے نبی کی سنت سے گرفت کرو گے تو مجھے اس کی کما حقہ بجا آوری کی طاقت نہیں۔ آنحضرتؐ شیطان سے مصوم تھے اور آپ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی مگر مجھے یہ کمالات حاصل نہیں: ”اخرج ابن سعد عن الحسن البصری انکم ان کلفت عنی ان اعمل فیکم بمثل عمل رسول اللہ ﷺ لم اقم به کان رسول اللہ ﷺ عبداً اکرمہ اللہ بالوحی وعصمه الا وانما انا بشر ولا است بخیر من احدکم“ ابن سعد نے حضرت حسن بصری سے ابو بکر صدیقؓ کا بیان اس طرح نقل کیا ہے کہ اگر مجھ کو یہ تکلیف دو گے کہ میں تمہارے درمیان ایسی چال چلوں جیسے رسول اللہ ﷺ چلتے تھے میں اس کی کما حقہ پابندی نہ کر سکوں گا۔ حضرت خدا کے کرم بندہ

تھے۔ خدا نے آپ ﷺ کو وحی سے سرفراز فرمایا تھا اور شیطان زود سے محووظ رکھا تھا۔ میں ایک تمہاری طرح بشر ہوں اور تم میں سے کسی کی نسبت فضیلت نہیں رکھتا ہوں جو دیکھو آپ صدیق ہیں اور صدیق کا پایہ محدث سے اعلیٰ ہے مگر بھی آپ وحی نبوت کے نزول سے انکار کرتے ہیں۔

ام ایمن کا قول کہ وحی منقطع ہو چکی ہے

اور ام ایمن کا قول مسلم نے بروایت انس یوں روایت کیا ہے: "ولكن ابغى ان الوحي قد انقطع من السمله" یعنی میں حضرت ﷺ کی وفات پر اس لئے روتی ہوں کہ وحی کا نزول آسمان سے منقطع ہو گیا ہے۔ (مشکوٰۃ)

روایا صادقہ جزو نبوت ہے بذاتہا نبوت نہیں مبشرات کے ہر ایہ میں نبوت حاصل نہیں ہو سکتی

حدیث بخاری میں ہے: "لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرويلاء الصالحة وزاد مالك برواية عطاء بن يسار يراها الرجل المسلم او ترى له" یعنی نبوت باقی رہی اور اب اس کا ایک حصہ یعنی مبشرات دنیا میں باقی ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے خواب مبشرات میں داخل ہے اور مالک نے بروایت عطاء بن یسار کہا کہ سچے خواب جو مسلمان دیکھے یا اس کے حق میں دکھی جائے مبشرات کا جزو ہے۔ اور بخاری و مسلم نے حضرت انس سے مرفوعاً روایت کیا ہے: "اذا اقترب الزمان لم يكذب روياء المؤمن وروياء المؤمن جزء من ستة واربعين جزء من النبوة وما كان من النبوة فانه لا يكذب وروي الترمذی الفصل الاخير من روايته ابی رزین العقیلی "جب زمانہ قرب قیامت یا موسم بہار آوے تو مومن کا خواب فائدہ ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا چمپا ایسا ہواں حصہ ہے اور جو نبوت کے تعلق سے خواب دکھی جائے وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ ترمذی نے صرف روایت کا آخر حصہ بیان کیا ہے۔ چند اقتباسات یہاں قائل ذکر ہیں۔

رویاء کافر کی جزو نبوت نہیں

..... رویاء مومن کی اجزاء نبوت میں سے ہے نہ کافر کی۔ مرزا قادیانی کا ایماء علماء مذہب کے نزدیک غیر مسلم ہے چنانچہ فتویٰ مشتملہ اس کے لئے کامل دلیل ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کے رویاء جزو نبوت نہیں۔



.....۲ ..... تحقق جزو کا مطروم تحقق کل نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ جملہ اہل ایمان جھوٹے یا دیکھے ہیں  
 نبی قرار دیے جائیں۔ اور لازم باطل ہے۔ فکذا الملزوم  
 انبیاء اور مومنین کی روایا میں یون بعید ہے

اور نیز یہ نتیجہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور مومنین کی روایا یا مساوی ہو حالانکہ ان میں  
 فرق ہے۔ انبیاء کی روایا قطعی بخواتم و جی ہوتی ہے۔ برخلاف عامہ مومنین کے حضرت امیر الیم علیہ  
 السلام نے اپنی روایا کو قی کارویف سمجھائیں عام اہل ایمان کی روایا کی شان نہیں۔  
 تحقق جزو موجب تحقق کل نہیں

خود حضور علیہ السلام کی دوسری حدیث اس کی تائید کر رہی ہے کہ جزو کا تحقق موجب  
 تحقق نبوت نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: "نهبت النبوۃ وبقیۃ العہدات والروایہ  
 الصالحة جزء من متعۃ اربعین جزء من النبوۃ (مدارک)" یعنی نبوت مرتفع ہوگئی ہے  
 اور روایا صالحہ جو نبوت کا چھپا لیمواں حصہ ہے باقی ہے۔ ایک جزو سے نبوت کا مفہوم مکمل نہیں  
 ہو سکتا اس لئے کہا ذہبت النبوۃ اس قضیہ کو سمجھنے کے لئے حسب ذیل امثلہ پر غور کرو۔

نماز کے ایک رکن کے ادا کرنے کو نماز نہیں کہتے  
 نماز ارکان صحردہ اور واجبات اور شرائط و سنن اور استسما اور آداب پر مشتمل ہے اگر  
 کوئی صرف سجدہ یا رکوع کو بجھالائے تو اسے مصلی نہیں کہا جاتا۔

اذان کا ایک کلمہ کہنا اذان نہیں

اور ایسے ہی اذان کہ ستر کلمات پر حاوی ہے اگر کوئی ذکر اس کا صرف ایک کلمہ اللہ  
 اکبر یا لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے تو مؤذن نہیں کہلاتا جب تک سارے  
 کلمات ادا نہ کرے اسی طرح نبوت کا ایک جزو باقی رہنے سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ دنیا میں اس حصہ  
 نبوت سے متصف ہو کر نبی پیدا ہو سکتے ہیں۔

علامہ خازن

علامہ خازن نے تفسیر میں لکھا ہے: "فانذا وقع لا حدفی المنام الاخبار  
 بغیب یکون ہذاہ القدر جزء امن النبوۃ لانه نبی واذا وقع لا حدفی المنام  
 یکون صدقا" جب کسی رائے پر خواب میں اخبار فیہی ظاہر ہوں تو یہ نبوت کا حصہ ہے یہ نہیں کہ  
 وہ نبی ہو جاتا ہے۔ قایت مانی الباب الہی خواب بھی نکلتی ہے۔

سید علامہ

سید علامہ نے شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے: ”کون الرویاء الصالحة جزء من النبوة حقیقت لا باس به ولا ینافی ذلك انقراض النبوة وذهابها فان جزء لا ینافی ذلك الشیء“ یعنی یہ قول کہ روایاء صالحہ نبوت کا جزو ہے۔ اگر حقیقت پر محمول کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں اور نہ یہ کسی طرح ختم نبوت کے منافی ہے۔ کیونکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا جزو بعینہ وہ شیء نہیں ہوتی۔

علامہ محمد طاہر

علامہ محمد طاہر نے مجمع البحار میں حدیث کی شرح اس طرح کی ہے: ”الرویاء جزو من النبوة ای غنی حق الانبیاء فانهم یوحون فی المنام وقیل الرویاء تاتئی علی وفق النبوة لانها جزء وباق منها وقیل هی من الانبیاء ای انباء وصدق من اللہ لا کذب فیہ ولا حرج فی الاخذ بظاہرہ فان اجزاء النبوة لا ینافی نبوة فلا ینافی حدیث ذہبت النبوة“ یعنی روایاء جزو نبوت ہے یہ فقرہ انبیاء کے حق میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ ان کی خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے کیونکہ انہیں خواب میں بھی وحی ہوتی ہے اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ روایا کا حال نبوت سے ملتا جلتا ہے کیونکہ وہ اس کی جزو ہے اور مشہہ اور مشہہ بہ میں تقاضا من وجہ اور اتحاد من وجہ پایا جاتا ہے۔ لہذا عینیت ثابت نہ ہوئی یا وہ خدا کی طرف سے سچی خبر دیا جانے کا نام ہے۔ جس میں کذب کو دخل نہیں اور اگر اس کلام کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے تو کچھ ہرج نہیں کیونکہ اجزاء نبوت بعینہ نبوت نہیں۔ لہذا جملہ ”ذہبت النبوة“ بالکل راست اور درست ہے اور الرویاء جزء من النبوة اس کے منافی بھی نہیں۔ کیونکہ وجود جزء اور کل میں تلازم نہیں پایا جاتا۔

اگر روایاء صادقہ نبوت ہے تو فاسق کو بھی نبی ماننا ہوگا

علامہ محی الدین نووی نے شرح مسلم میں تحریر فرمایا ہے کہ روایات اس بارے میں مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں جن میں روایاء کو نبوت کا یا لیسواں اور چھیا لیسواں اور ستر واں اور چالیسواں اور انچاسواں اور پچاسواں اور چالیسواں اور چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے ان روایات کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے: ”فالْمؤمن الصالح تکون روایاء جزء من سة واربعین والفساق جزء من سبعین جزء“ یعنی مؤمن کی روایاء صالحہ نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے اور

فاسق کی رویا نبوت کا سترواں حصہ ہے اگر کسی کی ذات میں نبوت کا حصہ موجود ہونے سے اس کی نبوت ثابت ہوتی ہے تو فاسق کو بھی نبی ماننا پڑے گا۔ کیونکہ اس میں بھی یہ حصہ موجود ہے۔

### بروزی نبوت کوئی چیز نہیں

مرزا قادیانی نے جو نبوت کی دو اقسام بیان کئے ہیں حقیقی و بروزی اس تقسیم پر شریعت مطہرہ کے اصول یعنی کتاب و سنت و اجماع امت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ کسی ایک امام کا قول بھی اس دعویٰ کی رہنمائی نہیں کرتا

بروز کی حقیقت۔ مباحث بروز کا حکم

.....! جب کوئی انسان انبیاء کے اخلاق حمیدہ و صفات حسنہ و خصال پسندیدہ کا مظہر ہو جائے اور یہ تمام اوصاف اس کی روحانیت میں منعکس ہو جائیں تو اسے بروز کہتے ہیں اور جتنا انسان اخلاق نبوت سے بعید ہو جائے اُسے کمون کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جو اسلام کے موضوع میں داخل نہیں اور نہ اس پر حقدمین نے کوئی بحث لکھی ہے۔ البتہ فلاسفہ کے زمانہ میں جب عقائد حقہ پر زوال آنا شروع ہوا تو اس وقت علماء کے رد و قدح نے علم العقائد اور علم الکلام اور علم تصوف کی بناء ڈالی اور اصحاب تصوف نے مسئلہ بروز و کمون پر بہت مباحث درج تحریرات کئے لیکن اگر اس کو اعتقادات دینیہ کے قبیل سے شمار کیا جائے تو اس کے بدعت ہونے میں کچھ شبہ نہیں اور محض اس مسئلہ پر بحث و تنقیح کرنا بجز اس کے اسے عقائد دینیہ میں محدود سمجھنا البتہ بدعات حکمیہ میں داخل ہے جسے دوسرے لفظوں میں بدعت حسنہ کہتے ہیں۔

### شاہ اسماعیل محدث دہلوی کی رائے

شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ایضاح الحق الصریح میں فائدہ اولی کے ماتحت مسئلہ اولیٰ کے عنوان سے یہ عبارت لکھی ہے: ”باید دانست کہ مسئلہ وحدت وجود و شہود و مبحث تنزلات خمسہ و صادر اول و تجدد امثال و کمون و بروز امثال آن از مباحث تصوف و ہم چنیس مسئلہ تجرد واجب و بساطت او تعالیٰ بحسب ذہن یعنی تنزیہ او تعالیٰ از زمان و مکان و جہت و ماہیت و ترکیب عقلی و مبحث عینیہ و زیادہ صفات و تاویل متشابہات و اثبات رویت بلا جہت و محاذاتہ و اثبات جوہر فرد و ابظال ہیولی و صورت و نفوس و عقول یا بالعکس و کلام در مسئلہ تقدیر و کلام و قوم لصدور عالم برسبیل ایجاب

واثبات قدم علم وامثال آں ازی مباحث فن کلام والہیات فلاسفہ از قبیل بدعات حقیقت است اگر صاحب آن اعتقادات منکوره را از جنس عقائد دینیہ می شمارد والا نریں جزو زمان نر بدعات حکمیہ البتہ مندرج است چہ سعی نرا نراک حقیقت آن و اہتمام تنقیح آل و معدود شدن صاحب آن ورزمرہ علماء دین و حکماء ربانین و تمدح بآن در مقام فکر کمالات دینیہ نر عرف عوام بلکہ نر کلام خواص ہم دائر است و سائرات“

حافظ ابن حزم کا اتحاد و صفی آنحضرت ﷺ سے

۲..... بروز صفی جس کی حقیقت نر کور ہو چکی مسلم ہے کہ انسان کی روحانیت پر اتباع انبیاء سے اوصاف و اخلاق انبیاء کا انکاس پڑ جاتا ہے اور اس کی روح بالکل ان کے صفات حسنہ سے رنگین ہو جاتے ہیں۔ حتی کہ روحانیوں کے نزدیک دونوں میں امتیاز مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اس شعر کا صدق ہو جاتا ہے۔

من تنو شدم تو من شدی

من جان شدم تو تن شدی

تکس نگویند بعد ازاں

من دیگرم تو دیگری

اور اسی کو ال تصوف اتحاد و بروز کہتے ہیں۔ شیخ اکبر نے فتوحات کے باب ۲۲۳ میں حافظ ابن حزم کے حلقے ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جس سے ان کا اتحاد و صفی آن حضرت ﷺ سے بدرجہ کمال سمجھا جاتا ہے۔ ”غلیۃ الوصلۃ ان یکون الشیء عین ما ظہر ولا یعرف انه کما رایت النبی ﷺ فی المنام وقد عانق محمد بن حزم المحدث فغاب الواحد فی الآخر فلم نرالا واحدا وهو رسول اللہ ﷺ فهذا غلیۃ الوصلۃ وهو المعبر عنه بالاتحاد بلفظه ولنعم ما قیل“

۱۔ اخلاق انبیاء سے گویا بہت حاصل ہو جاتی ہے لیکن جو کمال مشہ بہ میں ہے مشہ کو حاصل نہیں ہوتا اور نہ وہ اخلاق قاضیہ جو نبی کی ذات میں مجموعی طور پر موجود ہیں اس کی ذات میں ظاہر ہو سکتے ہیں کیونکہ تمام اخلاق کاملہ کا نبی کی ذات میں ایسے طور پر جمع ہوتا۔ جو دوسرے کی ذات میں اس کمال اور حصر کے ساتھ جمع ہونا محال ہو۔ نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ وہی ہے جو دوسرا انسان اس کے مقابلہ سے عاجز ہو۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ نے اعتقاد صحیح میں اس مسئلہ کی روشن تقریر درج کی ہے۔

توہم واشیننا بلیل مزارہ  
 فہم لیسعے بیننا بتباعد  
 فعانقتہ حق اتحدنا تعانقا  
 فلما اتانا ملرای غیر واحد

”ویقرب من ذلک ما قیل بالفارسیۃ“

﴿کہ رقیب آمد و شناخت نشان من و تو (احناف العلماء)﴾

یعنی عاشق و معشوق کے درمیان کمال درجہ کا اتحاد یہ ہے کہ ایک انسان باہمیدہ دوسرے کا مظہر ہو جائے اور اسے دیکھ کر کوئی شناخت نہ کر سکے کہ حقیقت یہ فلاں انسان ہے جیسے رویا میں میں نے سرور کائنات ﷺ کو دیکھا کہ محدث ابن حزم سے معاف کیا اور وہ ایک دوسرے میں روپوش ہو گئے اور وہاں ہم سوائے رسول خدا ﷺ کے اور کسی کو نہ دیکھتے تھے یہ اعلیٰ درجے کا اتصال ہے جسے متصوفین اتحاد کہتے ہیں۔

ہمارے چٹل کو یہ گمان ہوا کہ محبت و محبوب کی رات کو ملاقات ہونے والی ہے تو اس نے ہمارے درمیان تفریق کی بے حد کوشش کا ارادہ کیا۔ جب میرا اس سے معاف ہو تو معاف کی حالت میں ہم دونوں واحد ہو گئے۔ جب رقیب آیا تو اس نے صرف ایک ہی مظہر دیکھا۔ دوسرا وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ عربی اشعار کا مطلب ہے۔ اور فارسی شعراء کا مطلب بھی اس کے قریب قریب ہے کہ میرے اور تیرے درمیان اتحاد کا جذبہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ رقیب جب آیا تو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اس لئے میرا اور تیرا جدا جدا نشان شناخت نہ کر سکا۔

مگر یاد رکھو کہ یہ اتحاد حقیقی نہیں بلکہ وضعی ہے جو غلبہ محبت صادقہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کی محبت اسے فناء کے درجہ تک پہنچا دیتی ہے اور وہ اپنے ستون دار کان متصل پاتا ہے اور محبوب کی ہستی کا اپنے پر غلبہ دیکھتا ہے اور پاتا ہے کہ میں اسی مظہر میں ظاہر ہوا ہوں اور اس کے اوصاف کا انکاس اپنی روحانیت میں متحوش دیکھ کر شک و شبہ میں واقع ہو جاتا ہے اور

اسے وہم ہو جاتا ہے کہ میں مقامات انبیاء میں پہنچ چکا ہوں اور بعض حالات میں وہ اپنے تئیں ان سے بھی برتر سمجھنے لگتا ہے لیکن حقیقت و عکس میں فرق نہیں کر سکتا اور ادہام ہر چہا طرف سے اس کی طبیعت کو روک لیتی ہے۔

بروز سے نبوت حاصل نہیں البتہ بعض دفعہ مساوات انبیاء کا وہم ہو جاتا ہے یہ مقام مقام لغزش اور آزمائش کا ہے اگر خدا نے اس منزل میں دیکھیری کی تو فریب ابلیس و کید شیطانی سے محفوظ رہا و گرنہ اگر ٹھوکر لگی تو گمراہی میں نخل ہو کر نبوت و رسالت کا مدعی ہو جاتا ہے اور اپنی سابقہ بضاعت کھو بیٹھتا ہے ایسے وقت میں ایک ہی نسخہ مجرب ہے کہ خالص توجہ

۱۔ مرزا قادیانی کا کفر یقینی اور قطعی ہے اور اس بات میں ذرہ بھی شبہ نہیں کہ وہ اسلام سے ایسے بے تعلق ہیں جیسے بال خمیر سے لیکن چونکہ وہ اکابر اولیاء کی نقل اتارنا چاہتے ہیں اور وہ بھی غلط اور جعلی طور پر اپنی ذات کو بزمہ اصفیاء و محمدین شاکر کے اہل تصوف اور علماء اسرار و حکما راہنمن کی عمارتوں کو بنے جا چاہیوں سے آلودہ کر کے بے عمل اور ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں اس لئے خاکسار کا ارادہ ہے کہ مولفوں کی اصل عبارت سے حجاب کو اٹھا دیا جائے تاکہ چہرہ حقیقت بخوبی نظر آنے لگے اور ناظرین کو علماء اسرام کی تحریرات کا اصلی مقصد معلوم ہو جائے کہ بروز سے ان کی کیا غرض ہے اور یہ کہ بدیعہ ایہ بروز نبوت حاصل نہیں ہو سکتی اور مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مشابہت اخلاقی کے ضمن میں نبوت کا حصول بھی ممکن ہے۔ حالانکہ علماء تصوف اولیاء سے جن کو وہ اخلاقیات میں انبیاء کہتے ہیں نبوت کی نفی کرتے ہیں جیسے آئندہ بیان سے ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ سارا بیان حقیقت سے چشم پوشی پر مبنی ہے۔ ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی ولایت اور تجدید توحیدی درکنار آپ کا اسلام بھی ثابت نہیں اور آپ کے جملہ عقائد جماعات مبتدعہ کے موافق اور ان کو دائرہ کفر میں داخل کرنے کے لئے کافی ہیں۔ پھر ولایت یا مہدویت یا نبوت و رسالت اور مسیحیت مہدویت کا منصف تو اعلیٰ ہے وہ کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ خاکسار نے بطور تمکیت مصمم و ارخاء عمان موجودہ طرز پر کلام شروع کی ہے اور بیان کی ہے کہ آپ اکابر کی نقل بھی غلط اتار رہے ہیں کیونکہ وہ محض اخلاقی مشابہت کے قائل تھے اور بروز کے ماتحت نبوت کو ممکن الحصول نہ سمجھتے تھے اس لئے اکابر دین میں سے باوجود اخلاقی مشابہت کے کسی کو نہ پاؤ گے کہ وہ نبوت کا مدعی ہوا ہو اور مرزا قادیانی کے عقائد کفریہ اور اغوات تو صاف بتلا رہے ہیں کہ آپ کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔

۲۔ مگر مرزا قادیانی کی یہ حالت نہ تھی بلکہ آپ کے عقائد اور احوال پہلے سے جماعات مبتدعہ کے موافق تھے اور آپ نے ساری زندگی ترویج بدعت میں گزاری اور اگر مرزا یہ جماعت ان کی ولایت کے کی قائل ہو تو اب ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ بعد دعویٰ نبوت وہ اپنی سابقہ بضاعت کھو چکی ہیں اور اسلام کی بجائے کفر کو خیر لیا ہے۔ ابلیس نے ایک عرصہ روز صلاحیت کی راہ اختیار کی۔ لیکن آخر کار اس کا کیا حشر ہوا مگر ہمارا احمق یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو بوجہ ولایت کا راہ بھی معلوم نہ تھا چاہے ایک ان کو کسی وقت میں دلی تسلیم کیا جائے۔

سے نضرع و ابہتال کے ساتھ اپنے خدا سے جو بے کسوں کو روشنی عطا کرتا اور تاریک راہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ دعا کیجئے اور وہ اپنی پناہ میں لے کر اس دشوار گزار گھاٹی سے پار اتارے۔

مبتدی اور متوسط اس وہم میں پڑتے ہیں

کیونکہ یہ شانہ عموماً مبتدیوں اور متوسطوں کو واقع ہوا کرتا ہے اور معنی اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت مخدوم زادہ محمد صادق نے ایک سوال خدمت عالی مجدد الف ثانی میں پیش کیا کہ سالک بسا اوقات اپنی تئیں انبیاء کے مساوی پاتا ہے اور گاہے دیکھتا ہے کہ میرا تیرا ان سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

حضرت مجدد مرحوم نے مکتوب ۲۰۸ میں اس کی حقیقت پر بحسن کمال روشنی ڈالی ہے اور مبتدیوں اور معتمیوں کے حال کے مطابق جدا جدا جواب لکھے ہیں۔ خاکسار کا رخ اس وقت محض اس جواب کی طرف ہے جو مبتدیوں کے مناسب حال ہے کیونکہ ان کی مکمل تحریر کو درج کرنا موجب طوالت ہے وہ تاخرین اصل مکتوب میں ملاحظہ فرمائیں۔

”امادرا ابتداء اگر این تو ہم پیدا شود و خود را در مقامات اکابر یا بدو جہش آنست کہ ہر مقام را در ابتداء و توسط ظل و مثال است و بلندی و متوسط چوں بظلال آنها میر سند خیال مے کنند کہ بحقیقت آن مقامات رسیدند فرق در میان حقائق و ظلال نمیتوانند کرد و ہم چنین شبہ و مثال اکابر را چوں مدر ظلال مقامات ایشان مے یا بند خیال میکنند کہ شرکتے بلکابر در مقامات پیدا کرده اند نہ چنین است بلکہ اینجا اشتباہ ظل شئی است بنفس شئی ”اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی و جنبنا عن الاشتغال بالمعلاہی“ یعنی سالک کو ابتداء، اگر یہ وہم دائمی ہو کہ وہ اکابر یا انبیاء کے درجہ میں داخل ہو گیا ہے یا ان سے بھی اس کا پایہ عالی تر ہو گیا ہے تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہر مقام ابتدائے اور متوسط کا سالک کی ذات میں ایک انعکاسی نقشہ منعکس ہوتا ہے جو مقامات انبیاء کا ظل و بروز ہے اور بلندی اور متوسط جب ظلی و ارج میں جو حالات انبیاء کی عکس تصویر ہیں پہنچتے ہیں غلطی سے ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ فی الحقیقت انہیں مقامات پر فائز ہو گئے ہیں جو انبیاء کی شان کے لائق ہیں اور حقیقت اور عکس میں فرق نہیں کر سکتے اور ایسے ہی اکابر کی حالت کا نقشہ جب اپنے مقامات عالیہ میں منعکس پاتے ہیں جیسے آئینہ میں انسان کی تصویر ظاہر ہوتی ہے تو ان کے دل میں ایک غلط گمان موجزن ہوتا ہے کہ ان کو اکابر انبیاء سے شرکت مقامی حاصل ہو گئی ہے۔

فی الحقیقت ایسا نہیں ہوتا بلکہ کس کو اصل نئے سے چونکہ مشابہت نامہ اور مماثلت کاملہ ہوتی ہے اس لئے امتیاز میں خطا واقع ہو جاتی ہے اے خدا تو ہمیں شہ سے محفوظ بنا اور اشیاء کی حقیقت کا اصلی رخ ہمارے سامنے ظاہر ہو کر اور جو امور دل کو حقیقت سے غفلت میں ڈالنے والے ہیں ان سے ہمیں برکتنا کر دے یہ مقام مقام حزلت ہے جو اس فک و شہ کی منزل میں اصل حقیقت پر مطلع ہو گیا وہ محفوظ رہا اور جو شیطان کے دام ترویج میں واقع ہو گیا اٹھس اس سے انواع و اقسام کے دعاوی کرادیتا ہے۔ یہ مشکل اور دشوار گزار رکھائوں میں سے ایک گھائی ہے۔

اس وہم کا علاج تضرع و التجا ہے

چنانچہ مجدد صاحب کا بیان ہے۔ ”دریس وقت التجاہ و تضرع و عجز و نیلزل بحضرت حق سبحانہ درکار است تا آنچه حقیقت کار است ظاہر گردد و ایس مقام از منزلة اقدام سالکان است“ یعنی ایسے وقت میں خدائے تعالیٰ کی درگاہ میں التجا و تضرع بصد مجر نیاز لازم ہے۔ تاکہ اصل حال ظاہر ہو جائے اور اس مقام میں سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ بروزی نبوت کوئی چیز نہیں اور نہ اتحاد و صفی سے دعویٰ نبوت کا حق پیدا ہوتا ہے بلکہ بطنے دل کے کپے غسل کے اندر سے انکاسی حالات کو حقیقت پر محمول کر کے لغزش کھا جاتے ہیں اور دعویٰ نبوت اور رسالت کر دیتے ہیں۔

نبوت وہی ہے کسی نہیں

اور یہ بالکل سچ ہے کہ بروز کے سایہ میں اگرچہ اوصاف کسبہ انبیاء کے کسی بزرگ کو حاصل ہو جائیں تو روا ہے لیکن نبوت ایک امر وہی ہے وہ بہرہ ایہ اتباع و تشن دستیاب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ نبوت کسی نہیں جو صحت و ریاضت و پابندی اخلاق انبیاء سے مکتسب ہو سکے۔ بلکہ خدا کا فضل ہے۔ جہاں چاہتا ہے کرتا ہے اور جب چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ حضرت محمد ﷺ کے بعد اس نے باب نبوت کو مسدود کر دیا۔ کیونکہ وہ اسباب کے مہیا ہونے پر موقوف نہ تھی بلکہ فیض الہی پر اس کا انحصار تھا۔ قرآن کا دعویٰ ہے: ”واللہ یختص برحمته من یشاہ واللہ ذو الفضل العظیم (بقرہ)“ یعنی خدا اپنی نبوت سے (جس کا انحصار محض) اس کی رحمت پر ہے (جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے کیونکہ نبوت اس کا فضل ہے اور خدا اپنے بندوں پر بڑی فضل کرتا ہے: ”یلقی الروح من امرہ علی من یشاہ من عباده لینذر یوم القلاق (سورہ مؤمن)“ خدا اپنے امر سے جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے وحی کا القا کرتا ہے تاکہ وہ روز قیامت کا خلق اللہ کو ڈر سناے: ”ینزل الملائکة بالروح من امرہ علی من یشاہ من



عبادہ“ یعنی فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے ہر مہر چاہتا ہے۔ سمجھتا ہے: ”ذک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم“ نبوت اللہ کی رحمت ہے جو اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے۔ دیتا ہے خدا بڑے فضل والا ہے: ”ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ“ خدا جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل کرتا ہے۔

یہ آیات بااداب بلند بتا رہی ہیں کہ نبوت ایک فیضِ الٰہی ہے جو اسباب پر منحصر نہیں اور اس کا مکتب کرنا بھی ناممکن ہے۔

فلاسفہ کے نزدیک نبوت کسی ہے

اور فلاسفہ اور فلاسفہ کا دعویٰ قرآن کی آواز کے بالکل مخالف ہے وہ کہتے ہیں نبوت ایک کسی فضیلت ہے جیسے بیشتر ازیں بحوالہ شفاء مؤلفہ قاضی عیاض خاکسار تحریر کر چکا ہے۔ مرزا قادیانی قرآن کی آواز کے تابع نہیں ہوتے بلکہ فلاسفہ کا سرود نہیں بھاتا ہے۔

ابن تیمیہ

امام ابن تیمیہ نے فرقان میں بھی اس قول کو فلاسفہ کا مذہب بتلایا ہے: ”فلما ارادوا هؤلء المتأخرون ومنهم كابن سینا ان یثبت امر النبوة علی اصلهم الفاسدة زعموا ان النبوة لها خصائص ثلاثة من التصف بما فهو نبی ان یکون له قوة علمية یسمونها القوة القدسية ینال بها العلم بلا تعلم وان یکون له قوة تخيلية تخیل ما یعقله فی نفسه بحیثیت یری فی نفسه صورا او یسمع فی نفسه صوتا كما یراه النائم ویسمعه ولا یکون لها وجود فی الخارج وزعموا ان تلك الصور هی ملائكة اللہ وتلك الاصوات هی كلام اللہ وان یکون له قوة فعالة یؤثر بها فی هیولی العالم وجعلوا کرامات الاولیاء ومعجزات الانبیاء وخوارق السحرة من قوى النفس فلقروا من ذلك بما یوافق اصولهم دون قلب العصاحبة ودون انشقاق القمر ونحو ذلك فانه ینکرون وجود هذا“

۱۔ نبوت کے وہی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا حصول اسباب پر منحصر نہیں جیسے مرزا قادیانی کا قول ہے کہ فتانی الرسالہ سے نبوت حاصل ہو جاتی ہے اور ثانیاً یہ کہ اس کا فیضان بطور حقیقت نہیں بلکہ اس کا فضل ہے جب وہ باب نبوت کو مسدود کر دے تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اسے کیوں روکا گیا آنحضرت ﷺ کے بعد اس نے قطعاً باب نبوت کو مسدود کر دیا۔

جب متاخرین ابن سینا وغیرہ نے نبوت کی تقریر اپنے فاسدہ اصول کے مطابق کی تو یہ تجویز باطل ٹھہرائی کہ نبوت کے تین خصائص ہیں جو ان کو اپنی ذات میں پیدا کر لے وہی نبی ہو جاتا ہے۔ اول یہ کہ اسے قوت علیہ حاصل ہو جسے باصطلاح خود وہ قوت قدسیہ کہتے ہیں اس کا خاصہ یہ ہے کہ بلا تعلم انسان کو علوم میں مہارت ہو جاتی ہے۔ دوم اس کی قوت تحصیلہ ایسی تیز ہو کہ معقولات کے نقشے اور تصویریں اسے نظر آنے لگیں اور اپنے دل میں اسے آواز سنائی دے جیسے نام کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بعض اشکال دیکھتا اور آوازیں سنتا ہے۔ جن کا وجود خارجی نہیں ہوتا اور ان کا زعم فاسد یہ بھی ہے کہ یہ ذہنی تصویریں خدا کے ملائکہ ہیں اور یہ غیبی آوازیں جو قوت مخیلہ کے اثر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کلام الہی ہیں سوئم اس کی قوت فعالہ ایسی ہو کہ ہیولی عالم پر اپنا اثر ڈال سکے انبیاء کے معجزات اور اولیاء کے کرامات اور ساحروں کے خوارق کو انہوں نے قوی نفس کا اثر بتلایا ہے اور وہ صرف ایسے معجزات کے مقرر ہیں جو ان کے ان اصول پر پورے اترتے ہیں قلب عصا اور انشقاق قرحون کو نفسانی قوی کا اثر نہیں کہا جاسکتا ہے وہ انکے بالکل منکر ہیں۔“

گویا یہ صفات جو کوئی محنت سے حاصل کرے بزم فلاسفہ وہ نبی ہو جاتا ہے مگر فلسفہ قرآنیہ منجانب اللہ نازل شدہ ہے اس لئے وہ انسانی تجویزات کا مہطل ہے وہ قرار دیتا ہے کہ نبوت فیض وہی ہے جو اسباب ملاحظہ پر منحصر نہیں یہی کل اہل سنت و صحابہ و تابعین کی لائن ہے۔

حافظ ابن حبان کا واقعہ

حافظ ابن حبان جن کا علم قابل رشک اور پایہ محدثین میں اعظم تر ہے (وہ ایک کتاب تلوم الصحیحہ جو صحیح ابن حبان کے نام سے موسوم ہے اپنی یادگار میں چھوڑ گئے ہیں۔) ایک قابل قدر بزرگ تھے مگر اہل زمانہ نے آپ سے یہ سوال کیا کہ نبوة کیا ہے تو آپ نے ایک ایسا جواب دیا جس میں حاسدین ایک دوسرا احتمال بھی پیدا کر سکتے تھے یعنی السنیۃ العلم والعمل نبوت کے لئے علم اور عمل لازم ہے یعنی نبی اپنے علم کے مطابق عامل ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قول ہے: ”وما ارید ان اخالفکم الی ما انہکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت“ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو کہوں اس کے خلاف عمل کروں میرا ارادہ حسب استطاعت اصلاح کرنے کا ہے اور رسول خدا کے سواغ میں قاضی عیاض نے ایک وفد کا قول اس طرح نقل کیا ہے: ”لایامر بخیر الاکان اول عامل بہ“ یعنی جب کسی معروف کام کا ارشاد فرماتے ہیں تو پہلے آپ اس پر عامل ہو جایا کرتے ہیں لیکن حاسدین کا ستیاناس انہوں نے اس عہد میں ایسا احتمال پیدا کیا جو سراسر اجماع امت اور طریق اہل سنت اور سلف صالحین کے خلاف تھا یعنی

نبوت علم و عمل کا ثمرہ ہے۔ جب کسی کو علم و عمل میں کمال ہو جائے تو وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اس احتمال کو علماء زمانہ نے شاہ وقت کی مجلس میں پیش کیا۔ چونکہ یہ اجماع کے خلاف تھا کہ نبوت کسی ہے۔ شاہ تانہجار نے انہیں قتل کر دیا کہ ابن حبان نبوت کو اوصاف کسیہ میں شمار کرتے ہیں۔ (اتحاد علماء) صدیق مثل نبی ہو کر بھی نبوت سے متصف نہیں

..... یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام باوجودیکہ اخلاق نبوت اوصاف حمیدہ رسل سے متصف تھے۔ لیکن انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ ایک فیض وہی ہے جسے آنحضرت کے بعد خدا مسدود کر چکا ہے۔

۱۔ نبی ﷺ اور بعض اہلبیت کے درمیان اتحاد و صفی قائم تھا وہ بلحاظ اوصاف و اخلاق حضور علیہ السلام کا مظہر تھے۔ چنانچہ حضرت علیؑ کی نسبت آنجناب رسالت مآب ﷺ کا ارشاد ہے: ”ان علیا منی وانا منہ وھو ولی کل مؤمن رواہ الترمذی عن عمران بن حصین مرفوعاً“ یعنی علیؑ میرے ساتھ ایسا اتحاد و صفی رکھتے ہیں کہ یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ وہ میری ذات میں شریک ہیں اور میں ان کی ذات میں شریک ہوں گویا اتحاد اوصاف کو مبالغہ ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے۔ ایک وصف محبوبیت بھی حضور ﷺ کی ذات میں موجود تھی حضرت علیؑ میں بھی اس وصف کا ظہور پایا جاتا ہے اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا: ”وھو ولی کل مؤمن“ وہ ہر مؤمن کے محبوب ہیں اور حبشی بن جنادہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علیؑ کی شان میں فرمایا: ”علی منی وانا من علی ولا یودی عنی الا انا وعلی رواہ الترمذی واحمد عن ابی جنادة“ یعنی علیؑ کی ذات میں اوصاف نبی علیہ السلام کا نمونہ جلوہ گر ہے گویا دو ذاتیں ایک جو ہر سے ہیں اس لئے بلحاظ محاورہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علیؑ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے اس کو ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ اس بناء پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے اور علیؑ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ”من سب علیا فقد سبنی واہ احمد“ جس نے علیؑ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اگر یہ اتحاد و مورث نبوت ہوتا تو حضرت علیؑ دعویٰ کرتے لیکن آپ فرماتے ہیں۔ لست بنبی ولا یوحی الی! اور ایسے الفاظ حضور علیہ السلام نے حضرت عباسؑ کے حق میں بھی فرمائے ہیں: ”عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ العباس منی وانا منہ“ میری حالت اور عباسؑ کی حالت باہم موافق اور مماثل ہے گویا وہ میرا مظہر ہے۔ معہذا حضرت عباسؑ بھی آنحضرت ﷺ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں سمجھتے اور حاضرین کے سامنے ایسی تقریر کرتے ہیں جس سے ان کا تزلزل رفع ہو جاتا ہے۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے (جن پر صدیقیت کی کمڑکی سے بھی امور کا کشف ہوتا تھا اور اس وحی کا پرتو جو حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوتی آپ کے دل پر پڑ جاتا اور انہیں بھی وحی منزل پر ایسا اطمینان ہو جاتا جیسے خود رسول کریم ﷺ کو) کو وحی نبوت نہیں کیا۔

بقیہ حاشیہ: اور ان کے لئے موجب استقامت بنتی ہے۔ "والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا فاحل الحلالی وحرم الحرام رواه الترمذی" یعنی آنحضرت ﷺ کی وفات کے موقع پر حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ رسول خدا ﷺ کا انتقال نہیں ہوا تا وقتیکہ آپ نے اس اسلام کی سڑک کو بالکل واضح اور روشن کر دیا اور حلال و حرام کا بخوبی امتیاز کر دیا۔ اگر وہین میں کوئی کمی ہوتی تو حضور ﷺ زندہ رہتے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو خدا نے اپنے نبی کو بلا لیا۔ اس میں آئندہ نبوت کے اسناد کی طرف اشارہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کو بھی رسول خدا ﷺ نے اپنے ساتھ حمد الصفات بتلایا اور کہا کہ وہ میرا مظہر ہیں: "عن يعلى بن مرة ان رسول الله ﷺ قال حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسيناً حسين سبط من الاسباط رواه الترمذی" "ہاں ہمہ رسول خدا ﷺ نے ان کو شان نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا اور کہا: "الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة الانبي الخلة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا" یعنی دونوں صاحبزادے جو انان المل جنات کے سردار ہیں مگر عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن زکریا سے ان کا شان نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام تو ان کا درجہ انبیاء سے نیچے بیان کرتے ہیں گویا اولیاء میں سے فرد کمال ہیں لیکن مرزا قادیانی خدا سے لڑائی کرتے ہیں اور حکم: "من عادى السى وليا فقد بارز الله بالمحاربة وفى رواية فقد اذنته بالحرب" ان کے حق میں بے جا الفاظ استعمال کر کے خدا کے دشمن بننے ہیں:

طلبتم فلا حامن قتيل بخيبة  
فخييكم رب غيور متبصره  
والله ليست فيه منسى زيادة  
وعندي شهادات من الله فانظروا  
وانسى قتيل الحب لکن حسينکم  
قتيل العدئ فالفرق اجلى واطهره  
وشتان ما بينسى وبين حسينکم  
فانسى اويدکل ان وانصره

بقیہ حاشیائے صفحہ ۲

## میدان حدیبیہ میں فاروقی منہج

شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں کہ صدیقؓ جوہ محمودی میں آئے گا ان کا دل آپ ہی اس پر گواہی دے۔ اس امر کی تصدیق کے لئے وہ واقعہ کافی ہے کہ میدان حدیبیہ میں جب مشرکین مکہ نے حضرت ﷺ کو داخلہ مکہ کی اجازت نہ دی اور حضرت ﷺ کو داخلہ کے متعلق اپنی روپاء مشتہر کر چکے تھے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بشریت کے تقاضا سے میرے دل میں شلوک موجزن ہوئے۔ شروع اسلام سے مجھے ایسا تردد کبھی پیدا نہیں ہوا جیسا اس روز پیش آیا۔ میں نے حضرت ﷺ کی خدمت میں اپنا شبانہ لفظوں میں پیش کیا۔

۱..... کیا آپ خدا کے نبی نہیں۔ جواب دیا کہ ہاں میں رسول صادق ہوں۔

۲..... کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارے اعداء دین باطل کے پابند نہیں۔ جواب ملا کیوں نہیں!! تب میں بولا کہ دین کے معاوضہ میں دنیا دے کر ہم خالی واپس کیوں جائیں ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ ایک طرف ہو جائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں خدا کا سچا رسول ہوں اور وہ میرا معاون ہے۔ اور میں اس کے اشارے پر چلتا ہوں اس کی حکم عدولی ہرگز نہیں کرتا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ ﷺ نے ہمیں یہ روایا سنائی تھی کہ ہم خانہ کعبہ میں جا کر اس کا طواف کریں گے۔

بقیہ حاشیہ

واما حسین فانکروا دشت کربلا  
الیٰ ہذہ الایام تبکون فانظروا  
وانی بفضل اللہ فی حجر خالقی  
ادبسی واعصم من لغام تنمروا

(اعجاز احمدی ص ۶۹ تا ۸۲، خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱ تا ۱۹۳)

یہ قصیدہ اعجازیہ کے اشعار ہیں جن کا مطلب یہ ہے تم نے اس کشتہ سے نجات چاہی جو نو میدی سے مر گیا۔ پس تم کو خدا نے جو فیور ہے ہر ایک مراد سے نو امید کیا وہ خدا جو ہلاک کرنے والا ہے۔ بخدا سے مجھ سے کچھ زیادت نہیں اور میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں پس تم دیکھ لو اور میں خدا کا کشتہ ہوں۔ لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ مگر حسین پس تم دشت کربلا کو یاد کرو۔ اب تک تم روتے ہو۔ پس سوچ لو اور میں خدا کے فضل سے اس کے کنارے عافیت میں ہوں پرورش پار ہا ہوں اور ہمیشہ لہنوں سے جو پتنگ صورت ہیں پچایا جاتا ہوں۔

اس میں تخلف کیوں واقع ہوا؟ حضور ﷺ نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ اس سال ہوگا؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں مگر خدا کی باتیں نہ ٹلیں گی یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ مسلمان خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے۔ اور اس کا طواف کریں گے۔ خواہ کسی سال میں ہو کیونکہ خدا نے روایا کے پورا ہونے کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی میں نے یہ شبہ حضرت ابو بکر کے سامنے بھی ذکر کیا۔ آپ نے ترکی ہتھی کی وہی جواب دیا جو رسول خدا نے دیا تھا بلکہ اتنا اور کہا: ”فاستمسک بغرزه حتى تموت فوالله انه لعلی الحق“ یعنی پیغمبر کے رکاب پاؤں کو خواب مضبوطی سے پکڑ اور مرتے دم تک نہ چھوڑ۔ خدا کی قسم وہ سچے ہیں اور ہر طرح حق پر ہیں۔ حضرت عمرؓ کے شبہات کا فور ہو گئے اور سینہ نور ایمانی سے معمور ہو گیا۔ عمرؓ کہتے ہیں اور اس برکت سے میں نے ایسے کارنامے دکھائے ہیں جو میری فوقیت ایمانی کے گواہ ہیں۔ اس واقعہ نے اس بیان کی تصدیق کر دی ہے جو شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حجۃ اللہ میں تحریر فرمایا ہے۔

### حجۃ اللہ کی عبارت

”ومنها الصديقية والمحدثية وحقيقتهما ان من الامة من يكون في اصل فطرته شبيها بالانبياء بمنزلة التلميذ الفطن للشيخ المحقق فتشبه ان كان بحسب القوى العقلية فهو الصديق او المحدث وان كان تشبه بحسب القوى العملية فهو الشهيد والحوارى والى هاتين القبيلتين وقعت الاشارة في قوله تعالى والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون والشهداء والفرق بين الصديق والمحدث ان الصديق نفسه قربة الماخذ من نفس النبى كالكبرية بانسبة الى النار فكلاما سمع من النبى ﷺ خبرا وقع في نفسه بموقع عظيم ويتلقاه بشهادة نفسه حتى صار كانه علم حاج في نفسه من غير تقليد والى هذا المعنى الاشارة فيما ورد ان ابا بكر الصديقؓ كان يسمع دوى صوت جبريل حين كان ينزل بالوحى على النبى ﷺ والصديق تنبعث من نفسه لا مجاله محبة الرسول ﷺ اشد ما يمكن من الحب فيندفع الى المواساة معه بنفسه وماله والموافقة له في كل حال حتى يخبر النبى ﷺ من حاله انه امن الناس عليه في ماله وصحبته وحتى يشهد له

النَّبِيِّ ﷺ بانه لو امکن ان يتخذ خليلا من الناس لكان هو ذلك الخليل  
وذلك لتعاقب ورد انوار الوحي من نفس النبي ﷺ الى نفس الصديق

یقین کامل کی شاخوں میں سے صدیقیت اور محدثیت ہے جن کی اصل حقیقت یہ ہے  
کہ امت کے بعض افراد انبیاء کے ساتھ ایسی مناسبت رکھتے ہیں جیسے شاگردانا کو شیخ محقق سے  
ہوتی ہے۔ اگر بلحاظ قوی عقلیہ کے یہ تناسب پایا جائے تو اسے صدیق یا محدث کہیں گے اور اگر  
قوی عملیہ کے لحاظ سے مماثلت ہو تو شہید اور حواری اس کا نام ہوگا اور ان دو جماعتوں کی طرف  
آیتہ ہذا میں ارشاد موجود ہے کہ جو قوم خدا اور اس کے رسول پر کما حقہ ایمان لائے وہ صدیق اور  
شہید کہلائے گی اور صدیق اور محدث میں یہ فرق ہے کہ صدیق کی ذات بلحاظ اخذ علوم کے نبی کی  
ذات سے ایسی قریب ہوتی ہے جیسے گندھک اور آگ میں مقاربت ہے جب صدیق نبی سے کوئی  
واقعہ سنتا ہے فوراً اس کے دل میں خوب طرح راجح ہو جاتا ہے اور چونکہ اس کا دل پہلے سے اس پر  
گو اہی دیتا ہے اس لئے نبی کی زبان سے سن کر اسے اخذ کر لیتا ہے گویا وہ ایک ایسا علم ہے جو بغیر  
تقلید کے اس کے دل میں موجزن ہوا ہے۔ اسی مضمون کی طرف حدیث میں اشارہ واقع ہے کہ ابو  
بکر صدیق وحی کے نزول کے وقت جبریل کی آواز سنتے تھے۔ جب وہ آنحضرت ﷺ کو وحی سنانا  
تھا اور صدیق کے دل میں اعلیٰ بیانے پر نبی کی محبت جوش مارتی ہے۔ اس لئے وہ جان تن من و دھن  
اور ہر طرح موافقت سے نبی کی ہمدردی کرتا ہے اور نبی اس کے حال کی خبر اس طرح دیتا ہے کہ جتنا  
ابو بکر نبی کی ذات اور مال سے مجھے فائدہ پہنچا ہے اتنا کسی کے مال سے میں نے نفع نہیں پایا اور نبی اس  
کے حق میں گو اہی دیتا ہے کہ اگر میں کسی کو ظلیل بنا تا تو ابو بکر صدیق کو اپنا ظلیل بنا تا اس کے دل پر  
نبی کے دل سے انوار وحی منعکس ہوتے ہیں۔ ﴿

اور پھر لکھا: ”والصديق اولئى الناس بالخلافة لان نفس الصديق

نصيرا وكر العناية الله بالنبي ونصرته وتأييده اياه حتى يصير كان روح  
النبي ﷺ ينطق بلسان الصديق وهو قول عمر حين دعا الناس الى بيعة  
الصديق فان يك محمد ﷺ قد امان فات الله قد جعل بين اظهركم نوراً  
تهدون به هدى الله محمد ﷺ (حجۃ اللہ ۲۸۳)“

صدیق خلافت کے لائق تر ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں نبی کی حمایت اور نصرت اور

تائید جو قصود خداوندی ہے اس طرح جاہلین ہوتی ہے جس طرح پرندہ اپنے گونسلے میں اس کی حالت ایسی ہوجاتی ہے گویا روح نبی کا صدیق کی زبان پر بولتا ہے حضرت عمرؓ نے بیعت کی تقریب پر یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اگر محمد ﷺ فوت ہو چکے ہیں تو خدا نے تمہارے درمیان ایسا ہی نور ہاتی چھوڑا ہے کہ جس کے ذریعہ حضرت محمد ﷺ کو رہنمائی کی تھی اور وہ نور صدیق اکبرؓ کی ذات میں ہے اس سے بڑھ کر بروز روحانی کیا ہوگا کہ صدیق کی ذات میں گویا نبی کی روح بولتی ہے۔

اور پھر آگے چل کر لکھتے ہیں: ”ومن مقامات القلب مقامان یختصان بالنفوس المتشبهة بالانبياء عليهم الصلوات والتسليمات ینعکسان علیہما کما ینعکس ضوء القمر علی مرآة موضوعة بازاء کوة مفتوحة ثم ینعکس ضوؤها علی الجدران والسقف والارض (حجۃ اللہ ص ۱۸۷)“

مقامات قلبیہ میں سے دو مقام ایسے نفوس سے مخصوص ہیں جن کو انبیاء سے مماثلت حاصل ہوتی ہے۔ وہ مقام نبی کے دل سے صدیق کے دل پر ایسے منعکس ہوتے ہیں جیسے چاند کی روشنی کا پرتو پہلے اس آئینہ پر پڑتا ہے جو ایک روشندان کے سامنے پڑا ہو۔ پھر اس کی روشنی کا عکس دیواروں اور چھت اور زمین پر واقع ہوتا ہے۔

۱۔ صلوٰۃ مسعودی میں جو فقہ کی معتبر کتاب ہے لکھا ہے کہ نبیؐ کی اقتداء میں نماز جائز ہے کیونکہ نبی کے ساتھ روحانی مناسبت امامت کے لئے درکار ہے نہ جسمانی۔ سو جس کو نبی سے روحانی مناسبت زیادہ ہے وہ مقدار امامت ہے۔ فقہان بھر کا اس کے جواز یا عدم جواز میں کوئی اثر نہیں معلوم ہوا کہ ہر قبیح سنت کو رسول کریم سے روحانی مناسبت ہوتی ہے لیکن صدیق اکبر کو سب سے زیادہ مماثلت روحانی آنحضرت ﷺ سے حاصل تھی اس لئے وہ تمام صحابہ کی موجودگی میں امامت کے لئے منتخب کئے گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا:

”لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ“ اب نتیجہ بالکل صاف ہے کہ صدیق اکبرؓ کو سب صحابہ سے زیادہ مناسبت روحانی آنحضرت سے۔ حاصل تھی اور آپ نے وہ کارنامے دکھلائے کہ طبقہ ثانی نے ان کے متعلق یہ رائے ظاہر کی۔ ”لقد قام مقام نبی من الانبیاء“ مگر باہمیہ وہ نبی نہیں اور آنحضرت ﷺ نے ان کا شان انبیاء سے کم تر بیان کیا ہے جو ان کی نبوت کی لٹی پر صریحاً مشتمل ہے۔



## صدیق کا شان انبیاء کے برابر نہیں

باہمہ صدیق اکبر کو شان نبوت حاصل نہیں۔

”اخرج عبدالرحمن بن حمید فی مسنده و ابو نعیم وغیرہما من طرق من ابی الدرداء ان رسول اللہ ﷺ قال ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی وفي لفظ علی احد من المسلمین بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر وقد ورد ایضاً من حدیث جابر ولفظه ما طلعت الشمس علی احد منکم افضل منه اخرجه الطبرانی وغیره وله شواهد من وجوه و اخر تقضی له بالصحة او الحسن وقد اشارہ ابن کثیر الی الحكم بصحته“

عبدالرحمن بن حمید نے سند میں اور ابو نعیم وغیرہما نے متعدد اسنادوں کے ذیل میں ابو الدرداء سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آفتاب کا طلوع و غروب کسی نفس پر نہیں ہوا۔ جو ابوبکرؓ سے افضل اور برتر ہو۔ سوائے نبی کی نبوت کی شان اعلیٰ ہے اور ایک لفظ میں یوں آیا کہ آفتاب کا مسلمانوں میں سے کسی پر طلوع و غروب نہیں ہوا۔ جو انبیاء اور مرسلین کے بعد حضرت ابوبکرؓ سے فائق تر ہو اور حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ تم میں سے کسی پر آفتاب کا طلوع نہیں ہوا جس کی شان ابوبکرؓ سے زیادہ ہو۔ طبرانی وغیرہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور متعدد طرق سے اس کے شواہد موجود ہیں جو یا تو صحیح ہیں یا حسن اور ابن کثیر نے ان کی صحت کا اشارہ کیا ہے۔

خلاصہ مطلب یہ کہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے اس سارے حلقہ میں ابوبکرؓ کے سوائے انبیاء کے کوئی فاضل نہیں۔“ و اخرج الطبرانی عن سلمة بن الاکوع قال قال رسول اللہ ﷺ ابو بکر الصديق خير الناس الا ان یکون نبی“ طبرانی نے سلمہ بن اکوع سے مروی بیان کیا ہے کہ ابوبکر صدیقؓ سوائے انبیاء کے تمام خلقت سے افضل ہیں۔“ اخرج الترمذی عن انس و ابن ماجة عن علی قال قال رسول اللہ ﷺ لا بی بکر و عمر هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولین و الآخرین الا النبیین و المرسلین وفي الباب عن ابن عباس و ابن عمر و ابی سعید الخدری و جابر بن عبد اللہ“ ترمذی نے حضرت انسؓ سے اور ابن ماجہ نے حضرت

علیٰ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ابو بکر و عمر جنت کے میاں عمروں کے سر وار ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ حقدین میں سے تھے یا متاخرین میں سے ہوں۔ لیکن نبی اور رسول مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ ان دونوں وصاحبوں سے فائق ہیں اور روایتیں بھی اس کے ہم مضمون حضرت ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ اور ابی سعید خدریؓ اور جابر بن عبد اللہؓ سے منقول ہیں۔

ابو بکر صدیقؓ مثیل ابراہیمؑ عیسیٰؑ حضرت عمرؓ مثیل نوحؑ و موسیٰؑ ہیں (علیہم السلام)

### مگر نبوت کا دعویٰ نہیں

۲..... رسول خدا ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ و حضرت ابراہیمؑ اور عیسیٰؑ علیہم السلام سے تشبیہ دی اور حضرت عمرؓ و حضرت نوحؑ علیہ السلام سے اور حضرت عبد اللہ بن رواحہؓ کو حضرت موسیٰؑ علیہ السلام سے باوجود یکہ ان کا بروز روحانی آنحضرت ﷺ کے قول سے صدق تھا۔ مگر کسی نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ اگر بروز سے نبوت بھی باقی اخلاق اور اوصاف کی طرح حاصل ہو جاتی تو یہ اصحاب نبوت کے مدعی ہوتے۔

علامہ سلیمان نے تفسیر جمل میں لکھا ہے: ”روی عن عبد اللہ بن مسعود قال لما كان يوم بدر وجئ بالاسارى فقال رسول الله ﷺ ما تقولون في هؤلاء فقال ابو بكرؓ يا رسول الله قومك واهلك استبقهم وتان بهم لعل الله ان يتوب عليهم وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار وقال عمرؓ يا رسول الله كذبوك واخرجوك قدمهم نضرب اعناقهم يمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ويمكنني من فلان نسيب لعمر فاضرب عنقه ومكن حمزة من العباس يضرب عنقه فان هؤلاء ائمة الكفر وقال ابن رواحة انظرو اديا كثير الحطب فادخلهم فيه ثم عليهم نار ا فقال له العباس قطعت رحمك فسكت رسول الله ﷺ ولم يجيبهم ثم دخل فقال ناس ياخذ بقول ابى بكر وقال ناس ياخذ بقول ابن رواحة وقال ناس ياخذ بقول عمر ثم خرج رسول الله ﷺ فقال ان الله ليلين قلوب رجال حتى تكون الين من اللبن ويشد قلوب رجال حتى تكون اشد من الحجارة وان مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم قال فمن

تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم ومثل عیسیٰ قال ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفرلہم فانک انت العزیز الحکیم ومثلک یا عمر مثل نوح قال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ومثلک مثل موسیٰ قال ربنا اطمس علی اموالہم واشد دعلیٰ قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یرو العذاب العلیم ثم قال رسول اللہ ﷺ الیوم انتم عالة فلا یفتنن احد منہم الا بفداء وبضرب عنقه ثم ساق البغوی فی المعالم

بدر کے قیدیوں کے متعلق آنحضرت ﷺ نے مشورہ طلب کیا تو ابو بکرؓ نے کہا کہ یہ لوگ آپ کی قوم اور اہل میں سے ہیں انہیں زندہ چھوڑنا چاہئے اور مہلت دے کر اس قاتل کرنا چاہئے کہ وہ توبہ کریں۔ شاید خدا ان کی توبہ منظور کرے اور ان سے معاوضہ فدیہ وصول کر لیا جائے تاکہ ہمارا قبضہ بمقابلہ کفار مضبوط ہو جائے اور حضرت عمرؓ نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ لوگ آپ کے دشمن اور کذب ہیں انہوں نے آپ کو وطن مالوف سے نکال دیا انہیں ہمارے حوالے کیا جائے کہ ہم ان کو تیغ کر دیں۔ عقل کو حضرت علی کے سپرد کریں اور میرا رشتہ دار میری تحویل میں کر دیں اور عباس کو حضرت حمزہ کے حوالے کر دیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑا دیں کیونکہ یہ کفر کے پیشوا ہیں عبداللہ بن رواحہ کی رائے سب سے زیادہ تشدد آمیز تھی کہ کوئی میدان جس میں ہیزم کثیر فراہم ہو تلاش کریں اور اسارٹی بدر کو اس میدان میں داخل کر کے آتش مشتعل کر دیں۔ حضرت عباس سے رہانہ گیا وہ بول اٹھے کہ تو قاطع رحم ہے تب مسلمان حضرت ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد رائے زبیاں کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کی رائے قبول ہوگی کسی کا خیال تھا کہ حضرت عمرؓ کی رائے پر عمل ہوگا۔ کسی کو معلوم ہوتا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ کی تجویز پاس ہوگی حضور ﷺ کے گھر سے تشریف لاکر فرمانے لگے کہ بعض دلوں کو خدا اتنا نرم کر دیتا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض کو پتھروں سے زیادہ سنگین بنا دیتا ہے ابو بکرؓ! تمہارا حال حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرا تیغ ہو وہ میری جماعت میں داخل ہے اور جو میرا حکم بردار نہیں تو میں نہیں کہتا کہ تو اسے سزا دے تو بخشنے والا مہربان ہے ابو بکرؓ! تمہارا حال حضرت عیسیٰ سے بھی لگاؤ کھاتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے خداوند! اگر تو انہیں عذاب کرے تو بجا ہے کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معافی دے دے تو تجھ سے کوئی دوسرا زبردست اور حکیم نہیں جو تجھے

روکے اور سمجھائے تیرا زور سب سے بڑھ کر اور تیری دانائی سب سے غالب تر ہے۔ عمر تمہارا حال نوح علیہ السلام سے مناسبت رکھتا ہے جنہوں نے کہا کہ اے خداوند عالم از میں کی آبادی پر کسی کا فر کو زندہ نہ چھوڑو اور تمہارا حال صحیحہ دیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جنہوں نے دعا کی تھی کہ اے خداوند تو ان کے مال اور جاگیریں نابود کر دے اور ان کے دل شدت سے بھر دے کہ وہ بن عذاب دیکھے ایمان نہ قبول کریں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم سارے محتاج ہو۔ اس لئے جماعت کفار سے کوئی رہنا نہ ہوگا۔ جب تک وہ فدیہ ادا نہ کرے ورنہ ان کی گردنیں نذر شمشیر ہوں گی۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے حضرت صدیق اکبر اور فاروق کی نبوت کی با تصریح نئی کی ہے۔

حضرت علیؑ مثیل عیسیٰ علیہ السلام ہیں

۳..... حضرت علیؑ کو آنحضرت نے مثیل عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا چنانچہ امام احمد مسند میں اور بزار اور ابویعلیٰ اور حاکم نے حضرت علیؑ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: "ان فيك مثلا من عيسى ابغضة اليهود حتى بهتوا به واحبته النصراني حق انزلوه بالمنزلة التي ليصت له ثم قال يهلك في رجلان محب مفرط يقرظني بماليس فيّ وبمغض يحمله شذاني علي ان يبهنني" یعنی حضرت علیؑ سے مخاطب ہو کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت حاصل ہے۔ یہود نے ان کو اس حد تک دشمن خیال کیا کہ ان کی ماں پر الزام دیا اور نصاریٰ نے اس حد تک ان کو محبوب خیال کیا کہ ان میں ایسے رجبہ پر اتارا جو ان کے شایان شان نہیں یعنی خدا کا ابن حقیقی والہ کامل اور اقوام کا لہف کہا اس طرح دو گروہ تمہاری ذات کے متعلق پیدا ہو جائیں گے ایک گروہ جو تمہارا حد سے زیادہ محبت ہوگا وہ نصاریٰ کا ہم پلہ ہے اور دوسرا تمہارا دشمن وہ یہود کا نمونہ ہے اور ان کے درمیان ایک گروہ حق پر ہوگا اور پھر یہ فرمایا کہ میری ذات کی نسبت بد حقیقت کی وجہ سے دو قسم کے انسان تباہ ہوں گے ایک محبت مفرط جو میری ایسی مدح سرائی کرتا ہے جو میری ذات میں نہیں اور دوسرا دشمن جو مجھے الزامات دیتا ہے۔

دیکھو آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو صاف لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت دی ہے لیکن باب نبوت کو مسدود سمجھ کر اور یہ خیال کر کے کہ بروز سے نبوت حاصل نہیں ہوتی

آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ کہا لست بنبی ولا یوحی الی کہ میں نبی نہیں اور نہ میری طرف وحی ہوتی ہے۔

حضرت ابو ذرؓ "مثیل مسیح بن مریم علیہ السلام ہیں

۴..... حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: "ما ظلت الخضراء ولا

اقلت الغبراء من ذی لهجة اصدق ولا اوفی من ابی ذر شبہ عیسیٰ بن مریم فی الزہر رواہ الترمذی" یعنی زیر آسمان اور زمین سے اوپر کوئی زبان کا سچا اور عمدہ وقتا حضرت ابو ذرؓ سے زیادہ نہیں ہے وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا زہد میں نمونہ ہیں۔ باوجودیکہ حضور ﷺ نے ابو ذرؓ کو مثیل مسیح کہا ہے لیکن آپ مدعی نبوت نہیں ہوئے کیونکہ نبوت کسی نہیں۔

۵..... حدیث میں ہے: "من شرب بیدہ وهو یقدر علی انا یرید التواضع کتب اللہ له بعددا صابغہ حسنات وهو اناء عیسیٰ بن مریم علیہما السلام رواہ ابن ماجہ عن عاصم عن ابیہ عن جدہ" یعنی باوجود برتن دستیاب ہونے کے جو انسان ہاتھ سے پانی نوش کرے۔ جس قدر اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں اتنی نیکیاں اس کے حصہ میں آئیں گی کیونکہ یہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کا برتن تھا۔ دیکھو ہاتھ سے پانی پینے والا مثیل عیسیٰ بن مریم ہے کیا وہ نبی بھی ہے؟

امام حسنؓ و حسینؓ "مثیل محمد ﷺ ہیں

وجوہات مماثلت، امامین کا درجہ انبیاء سے کم ہے

۶..... حضور ﷺ کے صاحبزادے علیؓ و یزدی طور پر رسول خدا ﷺ کا نمونہ تھے اور ان کی ظاہری اور باطنی مناسبت حضور ﷺ کے ساتھ مکمل تھی۔ لیکن باہمہ وہ عمدہ نبوت یا رسالت سے مشرف نہیں۔

حضرت مولانا شام عبدالعزیزؒ نے سر اشہادت میں لکھا ہے: "واملکو نہما مراتین لملاحظتہ ﷺ فمن وجہین الاول من جهة السيادة المطلقة فقد اخرج النسائی والرویانی والضیلع عن حذیفة عن ابویعلیٰ عن ابی سعید و ابن ماجہ عن ابن عمرو بن عدی عن ابن مسعود و ابو نعیم عن علی الطبرانی فی الکبیرة عن عمر و جابر والبراء و اسامة بن زید و مالک بن الحویرث

والدیلمی عن انس وابن عساکر من عائشة وابن عمرو ابن عباس وابی  
رمثة ان رسول اللہ ﷺ قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة  
ورواه ابن ماجة وغيره وابوهما خير منهما وعند الطبرانی وابوهما افضل  
منهما وزاد الحاکم وابن حبان وغيرهما الا ابن الخالة عيسى بن مريم و  
يحيى ابن زكريا ومن متفرعات هذا المراتيه كون مجتهدا محبته وبغضهما  
بغضه ﷺ كما وقع في رواية ابن عساکر وغيره عن ابن عباس من احبهما  
فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني والثاني في جهة مشابهة الصورة  
فانهما كان كالتصويرين له ﷺ في الظاهر ايضاً فهذا اخرج البخاري عن  
انس قال لم يكن احد اشبه بالنبي ﷺ من الحسن بن علي وقال في الحسين  
ايضاً كان اشبههم برسول اللہ ﷺ وروى هذا الحديث مفصلاً الترمذي عن  
علي كرم الله وجهه وصححه قال الحسن اشبه برسول اللہ ﷺ ما بين  
الصدر الي الراس والحسين اشبه بالنبي ﷺ فيما كان اسفل من ذلك

یعنی امام حسن و حسین حضور کے ظاہری و باطنی کمالات کا آئینہ تھے جس نے ان کو دیکھ لیا  
گویا رسول اللہ ﷺ کو ملاحظہ کر لیا۔ اس مشابہت کو ہم دو طرز سے ثابت کر سکتے ہیں۔

..... آنحضرت ﷺ نے آدم کے علی الاطلاق سردار تھے جیسے حدیث میں ہے: "انا سيد  
ولبد آدم يوم القيمة" چونکہ دونوں صاحبزادے حضور کا بروزی نیکس تھے اس لئے سیادت کا پر تو  
بھی امامین کی روحانیت پر پڑ گیا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن و حسین جو انان اہل جنت کے  
سردار ہیں۔ اس روایت کو نسائی اور رویانی اور ضیاء نے حضرت حذیفہ سے اور ابو یعلیٰ نے ابو سعید  
سے اور ابن ماجہ نے ابن عمر سے اور ابن عدی نے ابن مسعود سے اور ابو نعیم نے علی سے اور طبرانی  
نے کبیر میں عمر، جابر، براء، اسامہ بن زید، مالک بن حویرث سے اور دیلمی نے حضرت انس سے  
اور ابن عساکر نے عائشہ ابن عمر ابی رمثہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ایک لفظ رافع وہم بھی  
ذکر کیا ہے کہ امامین آنحضرت ﷺ کا بروزی نقشہ تھے تو اس لہجہ میں آپ کو نبوت بھی حاصل ہو گئی  
ہوگی تو رسول خدا نے فرمایا الا ابن خالۃ عیسیٰ بن مريم و یحییٰ بن زکریا یعنی دو خالہ  
زاد بھائی یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر دونوں صاحبزادوں کو فوقیت نہیں ہے کیونکہ وہ نبی تھے اور  
صاحبزادے نبی نہ تھے۔ گویا بروزی رنگ میں حصول نبوت کی لہی ہے۔

چونکہ صاحبزادے آنحضرت کے ذاتی کمالات کا آئینہ تھے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ ان کی ذات اور میری ذات واحد ہے جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھے بھی چاہتا ہے جو ان کو دشمن خیال کرے وہ مجھے بھی دشمن سمجھتا ہے۔ ابن عسا کرنے ابن عباس سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔

۲..... صاحبزادوں کی شکل رسول اللہ ﷺ سے ملتی جلتی تھی بظاہر وہ ان کی تصویر تھے جیسا نجاری کی حدیث سے یہ بات واضح ہے اور ترمذی نے حضرت علی سے اس واقعہ کو مفصلاً بیان کیا ہے کہ امام حسن سر سے دھڑ تک آنحضرت سے مشابہت رکھتے تھے اور دھڑ سے پاؤں تک امام حسین کا نقشہ حضرت سے ملتا جلتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن و حسین کی شہادت آنحضرت کی شہادت سمجھی جاتی ہے اور آپ کے کمالات میں معدود ہوتی ہے۔

امام مہدی مثل محمد ہیں

۷..... امام مہدی علیہ السلام رسول خدا ﷺ کا ظل ہوں گے اگر ظلیات کے ماتحت نبوت حاصل ہو سکتی ہے تو امام مہدی کو نبی سمجھنا چاہئے حالانکہ اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں بلکہ اہل سنت حضرت ابو بکرؓ کو ان سے برتر سمجھتے ہیں۔

ابو اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنے بڑے صاحبزادے امام حسنؓ کو دیکھ کر فرمایا: ”ان ابنی هذا سید کما سماہ رسول اللہ ﷺ و سیخرج من صلبہ رجل یسمی باسم نبیکم یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق“ یہ میرا صاحبزادہ سید ہے آنحضرت نے اسے سردار ٹھہرایا ہے اس کی صلی نسل سے ایک ایسا امام پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ وہ اخلاق میں حضرت کا نمونہ ہوگا اور صورت میں ان کے ساتھ مماثلت نہ ہوگی۔ ابو اؤاد نے اس روایت کو بیان کیا ہے باہنہ امام مہدی کی شان انبیاء کے بلکہ حضرت ابو بکرؓ کی مساوی نہیں حالانکہ وہ ظلی طور پر مثل محمد ہیں۔ علامہ محمد طاہر نے مجمع البحار میں لکھا ہے:

”فان خیرہم ابو بکر ثم عمر وهم قریبا فی فضل الصحابة هذا هو عقیدة اهل السنة قاطبة ولم یخالف فیہ احد فانظر هل احد اجہل ممن یفضل علی الصدیق الذی وزن بہ جمیع الامة فرجح شخصا اعتقد مہد ویتہ بلا دلیل وشبہة بل وقد نسمع من بعض الثقات انہم یفضلونہ علی سید الانبیاء“ یعنی سب سے افضل حضرت ابو بکرؓ ہیں پھر عمرؓ، یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے جس میں

کسی کو خلاف نہیں غور کی نظر سے دیکھو اس سے بڑھ کر بھی کوئی جاہل ہے جو صدیق پر جو تمام امت کے موازنہ میں بھاری رہا کسی دوسرے کو فضیلت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس میں مہدی جانتا ہوں وہ ابو بکر سے افضل ہے۔ بلکہ بعض صحابین سے سنے میں آیا ہے کہ وہ اپنے معتقد فیہ مہدی کو سید الانبیاء سے بھی برتر جانتے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ افضل یا امام الزمان مہدی علیہ السلام؟

رضی وہ حدیث جسے ہانساجیح ابن ابی شیبہ نے محمد بن سیرین سے نقل کیا ہے: ”یکون فی آخر الزمان خلیفة لا یفضل علیہ ابو بکر وعمر“ سو علامہ موصوف الصدور نے اپنی کتاب العرف الوردی فی اخبار المہدی میں اس کی حسب ذیل تاویل بیان کی ہے اور کہا ہے: ”والا وجه عندی تاویل اللفظین علی ما اول علیہ حدیث بل اجر خمسين منکم لشدة الفتن فی زمان المہدی و تماثل الروم باسرها علیہ ومحاصرة الدجال له و لیس المراد بهذا التفضیل الراجع الی زیادة الغواب والرفعة عند اللہ تعالیٰ فالاحادیث الصحاح والاجماع علی ان ابابکر وعمر افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین“ میرے نزدیک ہر دو لفظ کی تاویل بہت مناسب ہے اور لائق ہے کہ اس حدیث کے مطلب کو اس حدیث کے مفہوم پر اتارا جائے جس میں متاخرین کے اجر کو پچاس صحابہ کے برابر ٹھہرایا گیا ہے حالانکہ صحابہ بالا جماع افضل ہیں کیونکہ مہدی علیہ السلام کے عہد میں فتن زور و شور پر ہوں گے اور روم حملہ کے لئے ان پر ٹوٹ پڑے گی اور دجال ان کا محاصرہ کر لے گا۔ اور اس لحاظ سے انہیں جزدی فضیلت حاصل ہو جائے گی ورنہ ثواب اور رفعت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت شیخین کا درجہ افضل ہے اور صحیح احادیث اور اجماع بتلا رضی ہیں کہ نبیوں اور مرسلوں کے بعد حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ افضل ہیں اور علامہ موصوف تذکرہ میں اس حدیث کی دوسری اسناد کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے۔ موضوع فیہ ضعیف و کذاب

اضافی فضیلت

اور سید علامہ نے حج الکرامہ میں بعد تحقیق لکھا ہے کہ جہات فضیلت مختلف ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کو بعض وجوہ سے شیخین پر حرمت حاصل ہے۔ لیکن اکثر وجوہ سے شیخین کو تفوق ہے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو چشم خود دیکھا۔ برکت صحبت سے فیض یاب ہوئے وحی کے



نزول کا مشاہدہ کیا۔ آنحضرت ﷺ کی رفاقت میں مال و جان کو فگار کیا۔ ان کے اعمال کا فخر و متاخرین کے اعمال کی نسبت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ امام مہدی علیہ السلام چونکہ ایک جان گذار زمانہ میں پیدا ہوں گے اور انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس لئے وہ پیش بہا اجر کے مستحق ہوں گے۔ آثار نبوی ﷺ کی اجراع کریں گے۔ اور آپ سے خطا صادر نہ ہوگا۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فضائل جز یہ اس قابل نہیں کہ ہیئتہ امام موصوف کے لئے شیخین پر تعطل کا حق پیدا کریں۔

### حدیث کاد یفضل علی بعض الانبیاء پر بحث

البتہ ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں امام موصوف کے حلق یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کا یفضل علی بعض الانبیاء جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا رتبہ انبیاء سے قریب ہے۔ حتیٰ کہ بعض مہالہ سے کام لینے والوں نے یہ رائے لگائی کہ آپ بعض انبیاء سے افضل ہیں اور اپنے معتقد فیہ مہدی کی نسبت یہ خیال کیا کہ اس کا درجہ انبیاء کے مساوی یا زیادہ ہے لیکن روایت مذکور کی رو سے ایسا حکم لگانا صحیح نہیں کیونکہ یہ محمد بن سیرین کا قول ہے۔ جب تک قطعاً معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کلام مشکوٰۃ نبوت سے صادر ہوئی ہے تب تک حجت باتمام ہے اور نیز اس کی اسناد پابہ صحت کو نہیں پہنچتی کہ مقام استدلال میں مفید ہو سکے اور بلائاً کا وہ کے شہقات کی نسبت یہ قاعدہ ہے کہ نفسی ثبوت کے معنی و توحی ہیں اور مثبت منفی کے معنی۔ ہنا علیہ کاد یفضل علی بعض الانبیاء کا یہ مطلب ہوگا و لکن لم یفضل جیسے و ما کا دو لی فعلون کا مدعا یہ ہے و لکن فعلوا۔ پس نتیجہ بالکل صاف ہے کہ امام مہدی کو وہ شان حاصل نہیں جو انبیاء کو دیا گیا ہے حالانکہ وہ بردوزی طور پر مثیل محمد ہیں۔ اگر بہ ہر ایہ بردوزی نبوت میسر ہو سکتی تھی تو امام الزمان کو ہوتی جب وہ نبی نہیں تو معلوم ہو گیا کہ بردوزی نبوت کوئی چیز نہیں۔

ان شواہد کے علاوہ کتب روایت میں ایسی بے شمار شہادتیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ اخلاقی مماثلت دو معنی مشابہت ممکن ہے۔ لیکن جو مشہ بہ میں نکال ہوتا ہے وہ مشہ میں نہیں پایا جاتا اور واقعات نے اس کی تصدیق یہاں تک کی ہے کہ یہ مسئلہ بین المتعین کو پہنچ چکا ہے البتہ مماثلت کے ماتحت نبوت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ فیض وہی ہے۔ حدیث

۱۔ مطالعاً یا تفسراً مراد نہیں بلکہ التزماً یعنی قرآن اور آثار سے ایسا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔

القان اور شرعاً مدعا حال میں اس مسئلہ پر ضروری بحث کی گئی ہے۔

میں بروایت سحر مروی ہے: ”سئل النبی ﷺ ای الناس اشد بلاة قال الانبياء ثم الامثل فالامثل يبنتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه صلبا اشتد بلائه وان كان فى دينه رقة هون عليه فمما زال كذلك حتى يمشى على الارض ماله ذنب رواه الترمذى وصححه وابن ماجه والدارمى“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکوٰۃ میں امثل کی تفسیر کے متعلق تحقیق لغوی کو

بیان کیا ہے۔ جو درج ذیل ہے: ”وما وقع فى عبارة بعض الشارحين ان الامثل يعبر به عن الاشبه بالفضل والاقترب الى الخير وامثال القوم كناية عن خيارهم يشعربان الافضل من الامثل من جهة اعتبار المماثلت“ یعنی جو کسی بزرگ کا فضیلت میں مماثل ہو اور اس جہت سے اسے خدا نے مزیت بخشی ہو یا جس طریق اور مذہب کو حق کے ساتھ مماثلت ہو اسے امثل کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث اور لغت اور دیوان عرب اس بات کے صدق ہیں: ”قال الله تعالى اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الايوم وقال ان هذا الساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى عبدالرحمن بن قارى كا قول هـ خرجت ليلة مع عمر بن الخطاب انى النسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلوته الرجل ويصلى الرجل فيصلى بصلوته الرهط فقال عمر لو جمعت هتولاء على قارى واحد لكان امثل (مشكوٰۃ)“ اور امراء لقيس سيدا شعراء نے کہا ہے۔

الايايها الليل الطويل الانجل

بصبح وما الاصبح منك بامثل

اس لحاظ سے حدیث کے معنی اس طرح ہوں گے کہ نبیوں پر تمام خلق اللہ سے زیادہ آزمائش ڈالی جاتی ہے۔ پھر جو لحاظ مماثلت انبیاء ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں۔ علی حسب الدرجات امتلاء میں واقع ہوتے ہیں جتنا کوئی دین میں مضبوط ہوتا ہے۔ اسی قدر آزمائش اس کی زیادہ ہوتی ہے اور جتنا دین میں کمزور ہوا اتنا ہی امتلاء میں کم رہتا ہے۔ اسی حالت میں ہر دم رہتا ہوا گناہ سے پاک صاف ہو کر زمین پر چلتا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ دارمی نے اس روایت کو بیان

کیا ہے اور ترمذی نے صحیح بھی کہا ہے اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ابتلاء کا رنگ بزرگوں پر وہی صورت اختیار کرتا ہے جو کسی خاص نبی کی ممانگت سے اس کے مناسب حال ہے۔ مثلاً ابو مسلم خولانی حضرت ابراہیم کی طرح افرودختہ آتش میں ڈالے گئے جبکہ اسود عسی نے انہیں اپنی نبوت کا منکر پا کر یہ سزا ان کے لئے تجویز کی۔

فرقان میں اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان میں ابن تیمیہ حرانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے: ”وطلبہ الاسود العنسی لما دعی النبوة فقال اتشهد انی رسول اللہ فقال ما اسمع قال له اتشهد ان محمد رسول اللہ قال نعم فامر بنار فالقہ فیہا فوجدوہ قائما یصلے فیہا وقد صارت علیہ بردا او سلاما وقدام المدینة بعد موت النبی ﷺ فاجلسہ عمر بینہ و بین ابی بکر فقال الحمد للہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امة محمد ﷺ من فعل بہ کما فعل بابرہیم خلیل اللہ (فرقان ص ۱۱۶، ۱۱۷)“ یعنی ابو مسلم خولانی کو اسود عسی نے بلا کر اپنی نبوت پر شہادت لینے کا ارادہ کیا تو ابو مسلم نے ایسا جواب دیا جو اس کے اشتعال طبع کا باعث ہوا۔ یعنی کہا ما اسمع یعنی میں نہیں سنتا۔ جب اس نے محمد ﷺ کی تصدیق کے متعلق سوال عائد کیا تو فوراً بول اٹھا کہ ان کو میں سچا نبی مانتا ہوں۔ تب وہ غیظ و غضب میں آیا اور حکم دیا کہ ابو مسلم کو چیتھ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ چنانچہ مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ جب آتش فرو ہوئی تو دیکھا وہ صحیح سالم استادہ نماز آگ میں ادا کر رہے ہیں۔ اور آتش ان کی خاطر سرد اور باسلامت بن گئی۔ ابو مسلم بعد وفات نبی ﷺ مدینہ میں آیا۔ حضرت عمرؓ نے ان کو اپنے اور حضرت ابو بکرؓ کے درمیان مجلس مرحمت فرمائی اور کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے امت محمدیہ میں سے روحانی نقشہ ابراہیم علیہ السلام کا دکھایا جس پر ہمینہ وہ وادوات گزری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گزری تھی اور خوشتر مرگ مجھے اسی نعمت کے دیکھنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ مگر باوجود اس کے ابو مسلم مدعی نبوت نہیں ہوا کیونکہ باب نبوت مسدود ہے اور ممانگت سے حق نبوت پیدا نہیں ہوتا۔ بخلاف مرزا قادیانی کے کہ ان کے اخلاق اور اوصاف سے کسی نبی کی ممانگت مترشح نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی آپ ابراہیم ہونے کے مدعی ہیں اور لکھتے ہیں: ”جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہوجائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں سے وہ فرقہ نجات پائے گا۔ کہ اس ابراہیم کا عہد ہوگا۔“

(الرحمن نمبر ۳۳ ص ۳۲، خزائن ج ۷ ص ۴۶۱)

مرزا قادیانی نے اس موقع پر جعلی حدیثوں سے کام نکالنے کی بہت کوشش کی ہے اور اپنے دعویٰ نبوت کی پناہ میں ان روایتوں کو جو افتراء پر دالوں کی کذب بیانی کا نتیجہ ہیں کھڑا کیا ہے۔ مشہور ہے الغریق یقیناً بالحمشیش ڈوبنے کو نکلے گا سہارا۔ پہلی حدیث اشبحی قومہ کا تہنی فی امتہ سے اپنی مطلب براری چاہی ہے۔ امام شوکانی نے فوائد المجموعہ میں اس روایت پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے: ”جزم ابن حجر وغیرہ بانہ موضوع“ اور دوسری حدیث ”علمہ امتی کما نبیہ بنی اسرائیل“ پر ہنچ ڈالا ہے۔ جس پر امام مذکورہ نے فوائد میں بحوالہ علماء تاقدرین یہ تبصرہ بیان کیا ہے: ”قال ابن حجر والزرکشی لا اصل له“ کیا کریں گا ذہین کا کام صدق سے پورا نہیں ہوتا وہ مدعا براری کے لئے مفتریات کا ذخیرہ ہر گوشہ سے جمع کر لیتے ہیں۔

ہاں ایک روایت ضعیف سند کے ساتھ ان الفاظ میں مروی ہے: ”اقترب للناس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد“ لیکن یہ مرزا قادیانی کے مفید مدعا نہیں کیونکہ قرب سے دائرہ نبوت میں داخل ہونا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اتصاف نبوت کی نفی مترشح ہوتی ہے۔ قرب اور ہے اور نبوت اور اس کی تائید کے لئے راقم خاکسار حدیث ابن عباس کو پیش کرتا ہے: ”عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ من جاهد اجله وهو يطلب العلم لقي الله لم يكن بينه وبين النبيين الا درجة النبوة رواه الطبرانی في الاوسط والدارمی عن الحسن مرسلًا ولفظه من جاهد الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة“ یعنی حضرت ابن عباس نے آنحضرت ﷺ سے یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو علم کو بخش کرنا ہو اوقات پائے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق باقی رہے گا یعنی باقی خصائل میں اور نبیوں کے ہم رنگ ہوگا لیکن نبوت اسے حاصل نہ ہوگی۔ طبرانی نے اوسط میں اس روایت کو بیان کیا ہے اور دارمی نے حسن سے مرسلوں نقل کیا ہے کہ جو علم کا جو یاں ہو اور محض اسلام کو زعمہ کرنے کی خاطر تعلیم دینی کو حاصل کرے۔ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق رہ جائے گا۔ یعنی درجہ نبوت کا استحقاق کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نبوت کسی نہیں اور دارمی نے عقبہ بن عبدالمسلمی سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”القتلى ثلاثة مومن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله فاذا لقي العدو قاتل حق يقتل قال النبي ﷺ فذلك الشهيد الممتحن في خيصة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون الا بدرجة النبوة“

یعنی آنحضرت نے فرمایا کہ شہداء تین قسم ہیں ایک ایسا مومن جس نے من و عن سے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ سینہ پر ہو کر راہ خدا میں مارا گیا یہ شہید خالص ہے جو در سایہ عرشِ غیمہ الہی میں ہوگا۔ نبیوں کو اس پر درجہ نبوت کی فضیلت ہوگی۔ اسلام کے لئے عرق ریزی اور جانفشانی بھی درجہ نبوت پر نہ پہنچا سکی پھر کس عمل اور کوشش پر سہارا کیا جاسکتا ہے کہ اس سے نبوت حاصل ہو جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آں حضرت سے روایت کیا ہے: ”من قرء القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ غیرانہ لا یوحی الیہ“ یعنی قاری قرآن کے ہر دو پہلو پر نبوت گشت لگاتی ہے مگر اندر داخل نہیں اور اسے وحی کی شرفیابی اور الہامِ معصوم کی سرفرازی حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت یحییٰ نے چھوٹی عمر میں توراہ کو حفظ کر لیا تھا اور دین کی سمجھ اور فہمیت بچپن میں انہیں عطا کی گئی۔ جو صغیر السن پر طفولیت میں قرآن ازیمر کر لے اور خدا تعالیٰ دین کی سمجھ کا مادہ اسے مرحمت کرے تو وہ حضرت یحییٰ کا مثل ہے جن کی نسبت قرآن نے ارشاد کیا ہے: ”واتیناہ الحکم صبیا“ رسول خدا نے فرمایا: ”من قرء القرآن قبل ان یحتلم فهو ممن اوتی الحکم صبیا رواہ البیہقی عن ابن عباس و آخرجہ ابن ابی حاتم موقوفا علیہ“ یعنی جو قرآن قبل بلوغ پڑھ لے وہ چھوٹی عمر میں یحییٰ کی طرح حکم دیا گیا۔ (یعنی ابن ابی حاتم) کون کہہ سکتا ہے کہ طفل حافظ قرآن ممانکت یحییٰ علیہ السلام سے نبی ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ باب نبوت مسدود ہے۔ ممانکت اور قرب اور چیز ہے اور نبوت کا مفہوم جدا ہے۔ ممانکت انبیاء کا دروازہ مفتوح ہے لیکن باب نبوت مسدود ہے۔ دیکھو حدیث میں وارد ہے کہ تاجر صدوق امین کو بھی انبیاء سے مناسبت حاصل ہے: ”أخرج الترمذی والدارمی والدارقطنی عن ابی سعید و ابن ماجہ ابن عمر قالوا قال رسول اللہ ﷺ التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامۃ“ یعنی ترمذی داری اور دارقطنی نے ابو سعید سے اور ابن ماجہ نے حضرت امین عمر سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تاجر امامت دار سچا انبیاء اور صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہم رنگ ہونے سے ان کے ہمراہ ہوگا۔ حامل قرآن کو بھی نبیوں سے یک رنگی حاصل ہے: ”أخرج الدیلمی فی مسندہ عن علیؑ قال قال رسول اللہ ﷺ حملہ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع النبیین واصفیائہ“ یعنی دیلمی نے حضرت علیؑ کی معرفت نبی ﷺ سے نقل کیا ہے کہ قرآن کا سینے میں اٹھانے والا سایہ عرشِ خدا میں ہوگا اور نبیوں اور اصفیاء کی رفاقت اسے نصیب ہوگی۔

عشق اور محبت رسول بھی انسان پر وہی رنگ چڑھا دیتے ہیں جو نبیوں پر ہے لیکن نبوت کی انتہائی منزل جو فیض وہی ہے۔ حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے: ”ان رجلا قال یا رسول اللہ متى الساعة قال ویلک ما عدت لها قال ما عدت لها الا انی احب اللہ ورسولہ قال انت مع من احیت قال انس فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الا سلام فرحهم بها متفق علیہ“ ایک بندہ خدا حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی ہوا کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ نے کہا کہ تو نے قیامت کے لئے کیا سرمایہ تیار کیا ہے اس نے کہا صرف یہی کہ میرے دل میں خدا اور اس کے رسول کی محبت جاگزیں ہے۔ حضور نے کہا کہ تو اپنے محبوب کے ساتھ بروز قیامت ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت سن کر اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت ثوبان رسول خدا کے عاشق صادق تھے اور اگر کبھی ملاقات حضرت نبوت میں توقف واقع ہو جائے تو اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ حضرت ﷺ کے مکان شریف پر زیارت سے شرف ہونے کے لئے گئے۔ لیکن آپ بس وپیش تھے۔ زیارت نہ ہو سکی۔ غم سے رنگ اڑ گیا۔ دوبارہ جو آئے تو چہرے کے عنوان بدلے ہوئے تھے اور دریا حیرت میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ آنجناب ﷺ نے کیفیت کا استفسار کیا۔ ثوبان نے بتایا نہ میں بیمار ہوں نہ کوئی درد امن گیر ہے۔ صرف آپ ﷺ کی ایک لمحہ مفارقت بھی میری طبیعت برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ ﷺ کے مکان پر تشریف فرمانہ ہونے کی وجہ سے میرا زیارت سے محروم جانا میرے دل کے قلق و اضطراب کا موجب ہوا اور میری یہ حالت ہوگئی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس خیال نے کہ آپ بروز قیامت عالی درجہ ہوں گے اور بندہ خاکسار جنت کے ادنیٰ منزلوں میں مقیم ہوگا اور میری ہمیشہ کے لئے آپ سے مفارقت ہو جائے گی مجھے بے بس اور غمزدہ کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ذرہ بھر مفارقت نے مجھ پر ایسا اثر کیا ہے۔ جس کا میں تحمل نہیں ہو سکتا تو عاقبت میں کیونکر گزرے گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی: ”من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبییین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً (نساء: ۶۹)“ یعنی جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور ان کے احکام بجالائے تو وہ انبیاء اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کے ہمراہ ہوگا یعنی اتباع سیرت نبوی سے انسان ان کے مشابہ اور ہمرنگ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسے انبیاء کی رفاقت مرحمت ہوگی۔

حضرت ربیعہ بن کعب نے آنحضرت کو وضو کے لئے پانی دیا۔ آپ نے عالم خوشی میں

فرمایا جو چاہو مگر بیچہ نے کہا: ”اسألك مرافقتك في الجنة“ (مجھے بروز قیامت آپ کی رفاقت میں رکھا جائے یہ میری دلی خواہش ہے۔) آپ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں خدا سے تمہارے لئے دعا کروں گا لیکن تم پر لازم ہے: ”اعنى على نفسك بكثرة السجود“ کہ نوافل زیادہ پڑھا کرو (مٹکوۃ) معلوم ہوا کہ کثرت نوافل اور آنحضرت ﷺ کی اتباع بھی مناسبت انبیاء کا موجب ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اصحاب جان نثار نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا ایسا لفظ ہی کبھی زبان پر لائے ہوں۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے حدیث ہمارے روبرو۔

کتب روایت کا خاکہ تخلیقی نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ باوجود مماثلت انبیاء کے دعوائے نبوت سے برکنار رہے اس کی یہی وجہ ہے کہ مماثلت سے نبوت نہیں ملتی۔ دیگر اعمال بھی ایسے ہیں جو انبیاء کی روحانیت کا رنگ انسان پر چڑھا دیتے ہیں اور ہم رنگی کا جلوہ فریقین میں نمایاں ہو جاتا ہے: ”عن عمرو بن مرة الجهن قال جاء الى النبي ﷺ فقال يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله واصليت الخمس واديت زكاة مالى وصمت رمضان فقال النبي ﷺ من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيمة ونصب اصبعيه مالم يعق والديه رواه احمد والطبرانى باسنادين احدهما صحيح ورواه ابن حبان وابن خزيمة فى صحيحهما“ عمرو بن مرہ جہنی کا بیان ہے کہ ایک مرد خدا نئی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پر داز ہوا کہ میں توحید و رسالت کا قائل ہجنگانہ نماز گزار ہوں۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ صیام رمضان کا پابند ہوں۔ مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد کیا کہ جو اس بہتر حالت پر جان سے رحلت کر جائے وہ نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کے ہمراہ بروز قیامت ہوگا۔ دونوں انگلیوں کو اٹھا کر یہ قید بیان کی کہ جب تک اپنے والدین کی خلاف حکمی نہ کرے۔ احمد اور طبرانی نے اس روایت کو دو سندوں سے روایت کیا ہے۔ جن میں سے ایک سند صحیح ہے اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں بھی اس کو لکھا ہے۔

پس مماثلت کا دروازہ تو کھلا ہے کوئی انبیاء اور صلحاء اور شہداء اور صدیقیوں سے بطرز مذکور مماثلت پیدا کر لے۔ چنانچہ صحابہ نے حضرت ابراہیم کی روحانیت کو اخذ کیا اور اسی میرت اور اخلاق نے ان پر اپنا جلوہ ڈالا حتیٰ کہ وہ اسی رنگ میں رنگے گئے اور چادر روحانیت ابراہیمی نے ہر طرح انہیں روپوش کر لیا۔ تو خدا نے اس اتصال روحانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا: ”ان اولسى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا“ یعنی حضرت ابراہیم کے

ساتھ مریدان ابراہیم اور نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اتصال روحانی حاصل ہے۔

جب اہل مکہ نے فریب مسلمانوں پر جو روہم کا پہاڑ توڑ دیا اور انہیں طرح طرح کی مصیبتوں کا نشانہ بنایا اور موسم گرما میں برہنہ تن گرم بالوں میں لٹائے گئے۔ گرسنہ اور تشنہ اس اثناء پر راضی تھے۔ جوں جوں اثناء کی شدت بڑھتی جاتی تھی ویسا ہی ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ سیدہ عمار کی والدہ ابو جہل کے بچہ ظلم کا شکار ہوئی اور اسے طرح طرح کی اذیتیں دے کر ایک قابل شرم طریق سے قتل کر دیا گیا اور یاسر بھی کفار مکہ کے جو روہم سے اپنی جان چھوڑ گیا۔ مگر قوت ایمانی کی یہ حالت ہے کہ عقیدہ راسخ میں ذرا اتزلزل واقع نہیں ہوا انہوں نے صبر و تحمل سے جملہ مصائب و شدائد کو برداشت کیا تو ایسی حالت میں ان کو مریم بتول اور آسیہ کا مثل قرار دیا گیا اور دونوں پاک بازاریبیوں کی مثال سنائی گئی جنہوں نے قوم کے ہاتھوں بہت تکالیف برداشت کیں اور کہا:

”وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرْثَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ النَّاسِ أَحْسَنَ فَرَجًا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رَوْحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَائِمِينَ (تحریم: ۱۱: ۱۲۰)“ آسیہ جس طریق سے جنت میں پہنچی اسی طرح فریب مسلمان بلا فرق سرسوارے گئے۔ جس طرح حضرت مریم کو طرح طرح کے الزامات سے معمم کر کے تکلیف دی گئی اس طرح غرباء اسلام پر زبان طعن و لعن کھولی گئی اور جب قریباً ہیامی نفوس اپنے وطن بالف کو الوداع کہہ کر جدہ کی بندرگاہ سے سوار ہو کر ابی سینیا میں پہنچے اور ان کی کوئی غرض نہ تھی۔ سوائے اس کے کہ توحید کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو بچائیں تو خدا نے ان کی تمثیل اصحاب نوح سے بیان کی جنہوں نے حضرت نوح پر ایمان لا کر اپنے سینے صواب الہی سے محفوظ رکھا اور بیڑہ نوح علیہ السلام میں قریباً ہیامی نفوس سوار ہوئے رکوب سفینہ اور تعداد کی نسبت باہم ملتی تھی اس لئے خدا نے مقلوبین اہل اسلام کی دردناک داستان اور ان کے اطمینان کے لئے واجبہ کلمات بیان کرنے کے بعد ان کو اصحاب سفینہ اور حضرت نوح کا قصہ سنایا اور فرمایا:

”فَانجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (عنکبوت: ۱۰۵)“ اور ہجرت میں انہیں حضرت ابراہیم کا مثل ٹھہرایا اور کہا: ”فَأَمِنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ (عنکبوت: ۲۶)“ اور جو چاہے بڑی کاموشاپنی ذات کو بتائے اور یزید اور قارون اور فرعون اور ہامان اور ابی بن خلف اور مردود کے سانچے میں ڈھل جائے۔ حدیث میں ہے کہ جس روز ابو جہل مرا تو حضرت نے فرمایا: ”مات فرعون هذه الامت اور تارك الصلوة“ کے



حق میں یہ کہا: ”من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف“ شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب الصلوة میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سرکش سلطنت کے خمار میں نماز کو ترک کرے تو وہ فرعون کا نمونہ ہے اور اگر مال و دولت نے اسے سرکشی میں ڈالا اور وہ نماز کو جو اب دے بیٹھا تو قارون کے ہم رنگ ہو گیا اور اگر وزارت یا عہدہ داری نے اسے ترک نماز کا عادی بنایا تو وہ مثل ہامان ہوا اور اگر تجارت کی مصروفیت نے اسے نماز سے غافل کر دیا اور اس وجہ سے فریضہ الہی میں رخصت انداز ہوا تو ابی بن خلف کا شبیہ بن گیا۔

مگر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ تشبیہات حقیقت پر محمول ہیں۔ ہرگز نہیں بلکہ یہ مجازی مناسبات کا ذکر ہے اور مشبہ بہ کے ساتھ ہر وصف میں شراکت مقصود نہیں۔ ایسی مناسبتوں کو ملحوظ رکھ کر نبوت کا خیال دل میں ٹھاننا ایک زندقہ جی خیال ہے۔

اگر حفظ مراتب نکستی زندیقی

بلکہ بعض روایات میں ثابت ہے کہ بعض امتیوں کے امتیازات اور خصائص دیکھ کر نبی رتک کھائیں گے کہ یہ امتیازات گو بہت چھوٹے درجے کے ہیں لیکن کیا اچھا ہوتا کہ اگر ہماری امتیازات علیا و خصائص فاضلہ کے ساتھ یہ بھی جمع کئے جاتے۔ اور جو کمالات ان گنت تعداد میں ہمیں حاصل ہیں اور مفضول کے بعض کمالات جزئیہ سے بدرجہا زیادہ اور افضل ہیں ان کے ساتھ ہمیں کمالات جزئیہ مفضولین بھی حاصل ہو جاتے کیونکہ نیک کردہ کی طبیعت کبھی کمالات سے پر نہیں ہوتی اور ان کی نفس ناظر کا شوق کس حد پر ممتحن نہیں ہوتا۔ ”عن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ ان من عباد اللہ لانا ساما ہم بانبياء ولا شهداء يقبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمالهم من اللہ قالوا يا رسول اللہ تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح اللہ علی خيرا رحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فواللہ ان وجوههم لننور وانهم لعلی نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرہ هذه الاية الا ان اولياء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رواہ ابو داؤد والبیہقی فی شرح السنۃ عن ابی مالک بلفظ المصابیح مع زوائد البیہقی فی شعب الایمان“ حضرت عمرؓ نے رسول خدا ﷺ سے نقل کیا ہے کہ کچھ بندگان خدا ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ شہید۔ مگر ان کا قرب و منزلت دیکھ کر نبی اور شہید شوق ظاہر کریں گے کہ کاش یہ منزلت جو انہیں حاصل ہے ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ صحابہ نے دریافت کیا

وہ کون لوگ ہیں آپ نے ارشاد کیا کہ وہ ایسی قوم ہے جو برکت الہی بغیر تعلقات قرابت اور بغیر لین دین نقد اموال کے آپس میں اللہ محبت رکھتے ہیں۔ بخدا ان کے چہرے نور سے لبریز ہوں گے اور وہ روشن سڑک پر دنیا میں ہیں یا انگی سواریاں بھی سراسر نور ہوں گی جب لوگ تھراتے ہوئے وہ بے خوف ہوں گے جب لوگ مغموم ہوں گے وہ بے غم ہوں گے اور شہادت کے لئے یہ آیت سنائی کہ اولیاء اللہ پر بروز قیامت نہ بیم و ترس ہوگا اور نہ غم خوردہ ہوں گے۔ ابوداؤد اور بخاری اور تہمتی نے اسے روایت کیا ہے مگر رسول خدا نے باوجود کمالات جزئیہ حاصل ہونے کی انہیں نبی نہیں کہا بلکہ صاف فتویٰ دیا: ”ماہم بانبیاء ولا شہداء“

اور ترمذی اور ابن حبان اور احمد نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت کیا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا: ”المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون والشہداء“ کہ آپس میں محبت رکھنے والے جو میرے جلال میں شریک ہیں۔ ان کے لئے بروز قیامت نوری کرسیاں بچھائی جائیں گی ان کی یہ ممتاز حالت دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کھائیں گے۔

”واخرج احمد والطبرانی عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ ﷺ ان لله عباد الیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطهم النبیون والشہداء علی منازلہم وقربہم من اللہ قلیل من ہم یارسل اللہ قال نامس من بلدان شتی لم تصل بینہم ارحام متقاربة تحابوا وتصافوا ایض اللہ لهم یوم القیامة منا من نور قدام الرحمن فیجلسہم علیہا یفزع الناس ولا یفزعون“ احمد اور طبرانی نے ابومالک اشعری سے روایت کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو نہ پیغمبر ہیں نہ شہید لیکن نبی ان کے مراتب اور قرب الہی کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ ہمیں بھی یہ درجہ دیا جاتا تو کیا خوب تھا۔ استفسار کیا گیا کہ پیغمبر خدا! وہ کون لوگ ہیں جو ایسے قابل رشک حال پر قافلاً ہوں گے۔ آپ نے ارشاد کیا کہ مختلف شہروں کے باشندے جن کے درمیان کوئی قرابت نہیں لیکن ان کی خالص محبت آپس میں ہوگی۔ ان کے لئے خدا اپنے سامنے نوری کرسیاں بچھا کر انہیں ان پر بٹھائے گا۔ لوگ بے قرار ہوں گے اور ان پر بے قراری کا اثر نہ ہوگا۔

”واخرج الطبرانی بسند جید عن عمرو بن عتبه سمعت رسول اللہ ﷺ یقول عن یمین الرحمان وکلنا یدیہ یمین رجال الیسوا بانبیاء ولا شہداء یغشے بیاض وجوہم نظر الناظرین یغبطهم النبیون والشہداء“

بمقدمهم وقربهم من الله قيل يا رسول الله ﷺ من هم قال هم جماع من نزاع القبائل يجتمعون على ذكر الله فينتقون اطائب الكلام كما ينتقى اكل التمر طاببه "طبراق نے ہا سناد وجید عمرو بن عتبہ کا بیان رسول خدا ﷺ سے نقل کیا ہے کہ رحمان کے دائیں پہلو (اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں اور مبارک ہیں) ایسے باعزت نفوس ہوں گے جو نبی ہیں اور نہ شہید۔ ان کے سفید نورانی چہرے کو ناظرین دیکھتے ہوں گے انبیاء اور شہداء ان کی مجلس اور منزلت دیکھ کر ان پر رشک کھائیں گے پھر پھر خدا سے دریافت کیا گیا۔ وہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ قرب حاصل ہوگا۔ آپ نے کہا کہ جدا جدا قبائل کے مختلف نفوس کا مجموعہ جو محض ذکر الہی کے لئے فراہم ہوتے ہیں اس عزت پر ممتاز ہوگا۔ جن کی یہ عادت تھی کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ذکر انتخاب کر کے خدا کا نام لیتے تھے جیسے کھانے والا عمدہ کھوریں انتخاب کر کے کھاتا ہے۔

"واخرج الطوسی فی عیون الاخبار عن انس عن رسول الله ﷺ قال لیوتین یوم القیامة برجال لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء لمنازلہم من اللہ یكونون علی منابر من نور قیل ومن ہم یارسول اللہ قال ہم الذین یحبون اللہ الی الناس ویحبون الناس الی اللہ ویمشون فی الارض نصحا قیل یا رسول اللہ هذا یحبون اللہ الی الناس فکیف یحبون الناس الی اللہ قال یامرونہم بالمعروف دینہولہم عن المنکر فاذا اطاعوہم احبہم اللہ" طوسی نے عیون الاخبار میں حضرت انس کا بیان رسول خدا ﷺ سے یوں نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز ایسے آدمی میدان حشر میں لائے جائیں گے جو نہ نبی تھے اور نہ شہید۔ انبیاء اور شہید بھی ان کے مراتب اعلیٰ کو دیکھ کر شوق ظاہر کریں گے کہ کاش ہمیں بھی ایسے مدارج ملتے۔ نوری کرسیوں پر جلوہ فروز ہوں گے۔ دریافت کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جو خدا کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی محبت کا بیج خدا کے دل میں بوتے ہیں اور روئے زمین پر چلتے پھرتے طلق اللہ کی خیر خواہی میں مصروف ہیں عرض کیا گیا: "یحیبون اللہ الی الناس" کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں: یحبون الناس الی اللہ کا مطلب سمجھائیں کیا ہے؟ کہا کہ وہ لوگوں کو نیک راہ بتائیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے۔ خدا ان سے محبت کرے گا۔

اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ جب بڑے بڑے عالی پایہ نفوس (جن کی ذات میں کمالات جزئیہ پائے جاتے ہیں جو فاضلین کی ذات میں نہیں) مرتبہ نبوت سے معرٹی رہے اور

جملہ اَیْسُوْا بِاَنْبِیَآءِ وَلَا شَہِدَآءِ نے ان کی ذات سے نبوت کی نفی کر دی تو محض اتھماہض اوصاف یا ممالک روحانی سے کب نبوت تحقق ہو سکتی ہے۔

جملہ یَغْبِطُہُمُ النَّبِیُّوْنَ وَالْاَنْبِیَآءُ کَاْمَطْلَبِ

شیخ نے لمحات میں لکھا ہے: ”قالوا فی توجیہہ انه قد یوجد فی المفضول صفة ولا توجد فی الفاضل مع اتصاف الفاضل بصفات وکمالات یحوا فی جنبہ اضعاف ما فی المفضول فیتمنی الفاضل ما فی المفضول ایضاً لیضمہ الی مالہ لشدة حرصہ علی الاتصاف بالکمالات او ان المراد بالغبطة الاستحصان والثناء علیہم لا معناه الحقیقی وهو تمنی ما للغیرا وان الکلاتم علی الفرض والتقدیر ای لو کان للفریقین غبطة علی احد فکان علی ہتولاء وان هذا فی المحشر قبل ان یدخلوا الجنة وقد وقع فی صفة ہتولاء انہم لا یخافون ولا یحزنون واما غیرہم فالنَّبِیُّوْنَ مہتمون بامہم والامم مشتغلون فانفسہم“

یعنی حدیث کی توجیہ میں جو علماء نے تقریر کی ہے اس سے مضمون روایت کی بچھڑ گیاں حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ گاہے مفضول میں کوئی ایسی صفت موجود ہوتی ہے جو فاضل میں مفقود ہوتی ہے اور یہ نہیں کہ فاضل صفات کمال میں کسی طرح کم ہے بلکہ اس کی ذات میں کئی حصہ بڑھ کر اوصاف کمال کا ظہور ہوتا ہے جن کے سامنے مفضول کے چند در چند اوصاف ہیچ ہو جاتے ہیں لیکن مفضول کی ادنیٰ صفت کا بھی فاضل خواہش مند ہوگا۔ کاش دیگر کمالات عالیہ کے ساتھ میری ذات میں یہ صفت ادنیٰ بھی جمع ہو جائے کیونکہ ان کے شوق کا دائرہ محدود نہیں اور ان کی طبیعت کمالات سے پر نہیں ہوتی۔ ان کے نفوس کا گم بہت بلند ہے اور ان کی نظر آگے آگے قدم بڑھاتی ہے اور وہ کسی حد کو اچھا نہیں سمجھتے جہاں اور جس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں ان کی نگاہ دوسری خصوصیت کی طرف بڑھتی ہے۔ ان کے نفوس ناگہ ایسے اعلیٰ واقع ہوتے ہیں کہ جن کا تقاضا ختم نہیں ہوتا اور یاس نہیں سمجھتی یا غبطہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی قرب و منزلت کو نظر اتھماہض دیکھیں گے اور ان کی ثناء بولیں گے حقیقی معنی مراد نہیں کہ وہ ان کی کمالات کی خواہش کریں گے۔ یا یہ کلام تقدیر و فرض پر مبنی ہے کہ کسی فریق کے لئے عاقبت میں غبطہ ممکن ہو تو انبیاء کے گرد ہڈ کر وہ ہالا جماعتوں پر قبضہ کریں اور یہ میدان حشر میں قبل دخول جنت فرض کیا جاسکتا ہے۔ اور ان کی صفت میں یہ آیا ہے کہ وہ بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ اس گردہ کے ماسواہ نبی اپنی

اپنی احمقوں کے فگر میں ہوں گے اور دوسرے لوگ اپنے اپنے حال میں جھلا ہوں گے۔

علامہ محمد طاہر فتنی نے مجمع البحار میں تحریر فرمایا ہے: "المتحابون فی جلالی لہم منابر یغبطہم النبیون کل ما یتحلی بہ احد من علم وعمل فله عند اللہ منزلة لا یشاركہ فیہا غیرہ وان کان لہ من نوع آخر ما ہو ارفع قد را فیغبطہ بان یکون لہ مثله مضموما الی مالہ فالانہیاء قد استفرقوا فیما ہو اعلیٰ منہ من دعوة الخلق وارشادہم واشتغلوا بہ عن العکوف علی مثل هذه الجزئیات والقیام بحقوقہا فاذا راوہم فی منازلہم یوم القیمة ودوا لو کانوا ضامین خصالہم الی خصالہم ویمکن حمل الغبطۃ علی الاستحسان المرضی کما فی حدیث احسنتم یغبطہم ان صلوا لوقتہا ویقبط تفسیر لا حسنتم وقیل انہ علی التقدیر ای لو کان للفریقین غبطۃ لکانت علی ہولاء"

(مجمع البحار جلد دوم ص ۴۲)

یعنی ہر ایک آدمی جس عمل و علم سے آراستہ ہے اس کے لئے خدا کے نزدیک ایک ایسی مخصوص منزلت مقدر ہے جس میں دوسرے کو مشارکت نہیں اگرچہ باعتبار دوسرے انواع فضائل کے اس کی ذات میں اعلیٰ اور ارفع خصائص پائے جاتے ہوں۔ لہذا فاضل مفضول کے اوصاف و خصائص کا خواہشمند ہوتا ہے کہ میری ذاتی کمالات میں ادنیٰ خصوصیتیں بھی جو مفضول کو حاصل ہیں جمع ہو جائیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ انبیاء اعلیٰ فرانس اور خصائص میں ممتاز ہیں خلق کو دعوت دیتے ہیں ان کے رہنمائی کرتے ہیں ان اعلیٰ فرانس کا بجالانا ادنیٰ جزئیات کی طرف توجہ کرنے سے انہیں مانع ہوتا ہے۔ جب ادنیٰ جزئیات کے مالکوں کو اپنے منازل میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش یہ مناقب بھی ہمارے کمالات عالیہ کے ساتھ مضموم ہوتے اور ان کے خصائل ہمارے خصائل پسندیدہ کے ساتھ جمع ہوتے۔ (باقی عبارت کا مطلب لکھا جا چکا ہے)

.....ضمیمہ

مرزا سیہ جماعت احرار نبوت پر آیت اعراف کو بطور نبوت پیش کرتی ہے: "یا بنی آدم اما یتینکم رسل منکم یقصون علیکم ایتلی فمّن اتقنی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون" یعنی زمانہ قرآن میں تمہاری جنس میں سے تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ جو میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں گے۔ جو لوگ خدا سے ڈریں گے اور ان کے فرمودہ کے مطابق اپنے حال کی اصلاح کریں گے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔

درحقیقت یہ آیت سلسلہ نبوت کے جاری رکھنے کی حامی نہیں بلکہ گزشتہ حال کی حکایت ہے کہ حضرت آدم کی پشت میں جوئی آدم تھے بوقت نزول ابوبشران کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ اب سلسلہ نبوت جاری ہوگا اور متواتر رسول میری آیات سنانے والے مبعوث ہوں گے جو ان کی سنے گا وہ خوف و غم سے محفوظ رہے گا۔ اس وعدہ کے مطابق حضرت آدم سے سلسلہ رسالت شروع ہوا اور اس وقت تک جاری رہا جب کہ آیت: ”مَلَاكُنَ مُحَمَّدًا اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ (احزاب: ۴۰)“ نازل ہوئے اور سلسلہ نبوت و رسالت مسدود کر دیا گیا۔ یہ مراد نہیں کہ بعد نزول قرآن یہ سلسلہ جاری ہوگا جسے جماعت مرزائیہ نے سمجھا ہے۔

رہا یہ سوال کہ جو ارواح اصلاب ابوالبشر میں تھے وہ خطاب خداوندی کو کس طرح سمجھ سکے تھے؟ سو اس کے متعلق یہ اظہار کرنا کافی ہے کہ مالک کے خطاب کو ہر چیز سمجھتے ہیں عرض امانت کا واقعہ جس کی تصویر آیت: ”اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمٰنَةَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبِيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا (احزاب: ۷۲)“ میں کھینچی گئی ہے اس دعا کی پوری تشریح کرتا ہے اور آیت: ”لَوْ اَنْزَلْنٰ هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهُ خٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَيْشٰطَةِ اللّٰهِ (حشر: ۲۱)“ تو بالکل حجاب کو مرفع کر دیتی ہے۔ اور افسانہ داؤد علیہ السلام میں آیت: ”يٰٓا جَبَلِيْ اُوْبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرِ (سبا: ۱۰)“ اور واقعہ طوفان نوح میں آیت: ”يٰٓاَرْضُ اِبْلَعِيْ مٰلِكًا وَيٰٓاَسْمٰهٖ اَقْلَعِيْ (هود: ۴۴)“ اس بحث پر کافی روشنی ڈالتی ہیں۔

اور حضرت ابراہیم کا ماجری اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جب آپ تعمیر کعبہ مکرمہ سے فارغ ہوئے تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم پر پھیل ابی قیس کھڑی ہو کر مناوی کر دو کہ لوگوں کو حج کے لئے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آواز کوتاہ ہے کیونکر ممکن ہے کہ دنیا کے باشندے اسے سن سکیں تب خدا نے الہام کیا: ”عَلَيْكَ الْاِذٰنُ وَعَلَيْنَا الْبَلٰغُ“ پس آپ نے حکم کی تعمیل کی اور مقام پر کھڑے ہو کر دائیں بائیں اور شرقاً غرباً چاروں طرف متوجہ ہو کر یہ ندا سنائی الا ان ربکم قد بنی لکم بیتنا وکتب علیکم الحج الی البیت فاجیبوا ربکم۔ آباؤ اجداد کی پشتوں اور ارحام اہمات سے حج کرنے والوں نے قبولیت کا جواب دیا: ”لَبِیکَ اللّٰہم لبیک“ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یمن کے باشندوں نے سب سے اول جواب دیا اور یہی قوم زیادہ ترجیح کے لئے آتی ہے حضرت ابراہیم کی عداہ اصلاب آباء میں سنی گئی۔ خدا کی آواز نبی آدم اصلاب آدم میں بطریق اولیٰ سن سکتے ہیں۔

مرزا ایہ جماعت کا قول ہے کہ نبوت اور مکالمہ الہیہ خدا کی طرف سے امتوں کے لئے ایک نعمت جلیلہ ہے جو ام گزشتہ میں متواتر طور پر جاری رہی اور بنی اسرائیل بکثرت اس فیض سے مستفیض ہوئے چنانچہ قرآن مقدس میں لکھا ہے: ”واذقال موسیٰ لقومہ یا قوم انکرو نعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکاً واتاکم مال من یوت احد من العالمین“ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ جو تم پر خدا کے احسانات ہیں یاد کرو کہ اس نے تمہاری جماعت میں انبیاء مبعوث کئے اور شاہان با اقتدار پیدا کئے اور تمہیں وہ انعامات عطا کئے جو جہان کے ہر چہار اطراف میں کسی کو نہیں دیئے۔

گویا نبوت اور ملک ایک قابل در قدر نعمتیں ہیں لہذا اس امت کا سلسلہ نبوت سے جو عالی شان نعمت ہے محروم کیا جانا اور خدا کا اپنے فیض کو امت محمدیہ سے سلب کر لینا اور ان کی جماعت میں آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ کرنا بہترین امت کی کسر شان ہے سو اس سوال کا جواب تھوڑے سے تغیر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ پر اختتام نبوت حضور ﷺ کی ذات کے لئے ایک نعمت کبریٰ ہے۔ چنانچہ معرض امتنان میں خدائے عز شانہ نے بیان کیا ہے: ”ماکان محمداً اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین (احزاب: ۴۰)“ آخر آمد بود فخر الاولین۔

اگر حضور ﷺ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہو تو اس میں حضرت ﷺ کی کسر شان ہے اور اختتام نبوت کی جو نعمت آپ کو عطا ہوئی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے اور قرآن کو الفاظ سے دوسرا جواب اور بھی برآمد ہوتا ہے کہ خدائے حضرت ﷺ کے وجود کو ہی نعمت قرار دیا ہے۔ اس نعمت کے آثار روحانیہ اور فیوض تعلیمیہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ گویا وہ رسول ہی تابعدار ہمارے درمیان موجود ہے۔ چنانچہ قرآن نے امت کو خطاب کر کے فرمایا: ”کیف تکفرون باللہ وانتم تتلونی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ (آل عمران: ۱۰۱)“ یعنی تم خدا کے کسی طرح مگر ہو گے حالانکہ تمہارے سامنے شب و روز خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اسکا رسول موجود ہے یعنی اس کے آثار تعلیمیہ تابعدارندہ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا: ”وانا

الطلب من الاب فيعطيكم فلر قليطا اخر ليثبت معكم الى الابد (باب ۱۱۳ آیت ۱۶)“  
ترجمہ عربیہ مطبوعہ لندن اور یہی وجہ ہے کہ رسول ہم میں تابد موجود ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا: ”ان  
تنزل عنتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تومنون باللہ والیوم  
الآخر (النساء: ۵۹)“ یعنی قرآن و سنت پر جو نبی کے آثار تعلیم میں اپنے معاملات کا فیصلہ کرو۔  
گویا رسول خدا کا وجود ہادی نعمت ہے۔ جو تاقیامت باقی رہے گی۔ اس نعمت کاملہ کی موجودگی میں  
تادوام کسی دوسری نعمت کی ضرورت نہیں اور نہ امت ایسے نبی کی موجودگی میں سلب الصحت کبھی  
جاتی ہے: ”الم تر الی الذین بدلوا نعمة اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار ای  
غیر نعمة اللہ علیہم فی محمد ﷺ وسلم حین انبعث اللہ منهم کفرا کفروا به  
(ابراہیم: ۲۸)“ یعنی نعمت سے مراد رسول خدا ﷺ کی ذات اطہر ہے جس کی ہتقدری کر کے  
اللہ مکہ نے اپنی قوم کو ہادی چاہی ڈال دیا۔

نبوت کی نعمت ساچھ ترقون میں مکمل نہ تھی آج حضرت کی ذات نے اس کی تکمیل کردی  
اور اتمام کے بعد اس نعمت میں کوئی کسر باقی نہیں رہی اس لئے آئندہ زمانہ میں کسی اور حصہ کی ورود  
کی ضرورت نہ رہی۔ ”قال اللہ تعالیٰ فلا تخشوہم واخشونی ولا تم نعمتی  
ولعلکم تہتدون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا ویزکیکم  
ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم مالکم تکتونوا لتعلمون (بقرہ: ۱۰۰، ۱۰۱)“  
یعنی تمہارا قبلہ سب قبلوں سے بہتر مقرر کیا اور سب خلق اللہ کا خلاصہ انتخاب کر کے ایک بہتر رسول  
تمہاری طرف بھیجا تا کہ اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دوں۔ (پارہ دوم) سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا:  
”واکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا  
(مائدہ: ۳)“ یعنی تمہارے لئے میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور  
نہما اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا۔ آپ کے فیض روحانیت سے صحابہ بکثرت مستفیض ہوئے اور  
ایسے ایسے کمالات اور فیوضات جناب کی ذات سے صحابہ نے حاصل کئے جن کی نظیر سابقہ امتوں  
میں نہیں ملتی اور تاہمین اسی خوش نما رنگ میں رنگے گئے۔ جس میں صحابہ مصبوغ تھے اور فیض  
روحانی زمانہ بعد زمانہ امت کے سینوں میں بطور توارث منتقل ہوتا گیا جیسے توارث ایک چراغ سے



دوسرا چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے سے تیسرا وہ کذا ہلم جزاً اور نبوت تو مسدود ہو گئی لیکن ولایت کا سلسلہ اس کثرت سے جاری ہوا کہ امت میں اولیاء کا ایک دریا رواں ہو گیا اور معجزات تو مقطوع ہو گئے لیکن ان کا عکس یعنی کرامات طبقہ مقررین میں بطور میراث باقی رہیں اور آپ کا علم منزل تا دوام زندہ ہے چنانچہ ارشاد نبوی ہے: ”ما من الانبياء من نبى الا قد اعطى من الايت ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذى اوتيت وحيا او حى الله الذى فار جوان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة“ یعنی نبی کو اتنے معجزات عطا ہوئے جن پر نظر کرتے ہوئے خلق اللہ ان پر ایمان لائے میرا معجزہ یعنی قرآن ہر زمانہ میں موجود رہے گا اور حاضر و غائب یکساں اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس لئے میرے اتباع بروز قیامت تعداد میں بڑھ جائیں گے یہ بھی نعمت کا کمال ہے۔

اس کلام سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ نبوت تو مرتفع ہو گئی لیکن آثار نبوت اور نفوس رسالت تا حال امت میں باقی ہیں تو کون کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان موجود نہیں سابقہ نبیوں کا فیض جب کمزور ہو جاتا تھا اور اس کے آثار محو ہو جاتے تھے تو دوسرے نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ مگر حضرت کا فیض کچھ ایسا کامل ہے کہ تا ابد زندہ ہے۔ اس لئے فیض جدید کی حاجت نہیں کیونکہ آثار فیض امت میں تا دوام جاری ہیں۔ خاکسار اس مسئلہ کو مثال سے روشن کر دیتا ہے۔ کستوری ایک صندوقچی میں محفوظ اور بند ہے۔ لیکن اس کی خوشبو کے خوشگوار اثر سے خلق اللہ برابر مستفید ہے۔ گویا کستوری باوجود بند ہونے کے خلق خدا کو اثر سے مستفید کر رہی ہے۔ گلاب کے پھول باوجود ملفوف ہونے کے خوشبو سے حاضرین کو محسوس کرتے ہیں۔ نفس شیء کو محسوس اور مسدود ہے لیکن آثار اس کے موجود ہیں وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو نفس شیء اور اس کے اثر میں فرق نہیں کرتے۔ چراغ کی لاٹ اور چیز اور اس کا شعاع اور چیز ہے۔ کستوری اور خوشبودار چیزیں اور ہیں اور ان کی خوشبو اور، اسی طرح نبوت اور چیز ہے اور فیض نبوت شیء دیگر۔ نبوت مسدود ہے لیکن اس کے آثار علمیہ اور روحانیہ تا ابد زندہ ہیں جو دوامی نعمت ہے نہ یہ فیض قطع ہونے والا ہے نہ یہ اثر مقطوع ہوگا۔ گویا رسول ہمارے درمیان تا ابد زندہ ہے۔ اس لئے بعد کمال نعمت کسی دوسرے حصہ کا انتظار نہیں۔

۳.....ضمیمہ

جما استدلال آیت: ”هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم

ایاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین  
 و آخرین منہم لما یحلقوا بہم وهو العزیز الحکیم (جمعہ: ۲۰۲)“ سے مرزا قادیانی  
 کی نبوت پر کیا گیا ہے۔ بالکل بے محل اور خلاف تفسیر رسول خدا ﷺ اور خلاف تفسیر سلف اور  
 محاورات و قواعد عرب ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ ایک مسلم تابع اقوال پیغمبر علیہ السلام، مرزا قادیانی کے  
 طرز استدلال کی داد دے اور اسے قبول کر سکے۔ کیونکہ حدیث میں ہے: ”من فسر القرآن  
 برأیہ فلیتبو مقعدہ من النار وفی روایۃ من فسر القرآن برأیہ فقد اخطا  
 وان اصاب“ جناب رسول کریم ﷺ نے آخرین کے لفظ سے اہل فارس یعنی قوم سلمان فارسی کو  
 مراد رکھا ہے۔ حدیث میں حضرات ابو ہریرہ سے مروی ہے: ”قال کنا جلوسا عندا  
 النبی ﷺ نزلت علیہ سورۃ الجمعۃ فلما قرء و آخرین منہم لما یحلقوا بہم  
 قال رجل من ہنولاء یارسول اللہ فلم یراجعہ النبی ﷺ حتی سالہ مرتین  
 او ثلاثا قال وفینا سلمان الفارسی قال فوضع النبی ﷺ یدہ علی سلمان ثم  
 قال لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہنولاء اخرجہ البخاری  
 ومسلم والترمذی والبیہقی“ یعنی ہم رسول خدا کے در دولت پر بیٹھے تھے کہ سورہ جمعہ نازل  
 ہوئی جب آپ نے آیت ”و آخرین منہم لما یحلقوا بہم“ کو پڑھا تو اہل مجلس میں سے کسی  
 نے استفسار پیش کیا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ آنحضرت نے باوجود اعادہ سوال کے دو یا تین  
 بار سائل کو کوئی جواب نہ دیا۔ محفل میں سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ آپ نے سلمان پر دست  
 مبارک رکھتے ہوئے کہا کہ آخرین منہم سے اس کی قوم مراد ہے۔ اگر ایمان ثریا کے ساتھ مطلق ہو تو  
 اس کی قوم کے آدمی وہاں سے بھی حاصل کر لیں: ”وفی روایۃ اخری للبیہقی لو کان  
 الدین عند الثریا لذهب الیہ رجل او قال رجال من ابناء فارس حتی یتنا  
 ولوہ“ بیہقی کی دوسری روایت میں یوں وارد ہے کہ اگر دین ثریا کے پاس ہو تو اہل فارس کے  
 برگزیدہ نفوس وہاں سے بھی اسے لے لیتے۔ اس بناء پر حضرت مجاہد نے کہا ہے: ”ہم العجم  
 وهو قول ابن عمر سعید ابن جبیر“ قوم یعنی آخرین سے عجم کی قوم مراد ہے۔ ابن عمر  
 اور سعید بن جبیر اور ایک قوم کا بھی مسلک ہے۔

## قول دوم

حضرت مقاتلؓ کا ہے کہ آخرین سے مراد تابعین کی جماعت ہے: ”قال لما يلحقوا بهم في الفضل والسابقة لان المتابعين لا يدركون فضيلة الصحابة“ یعنی تابعین فضیلت میں صحابہ کے برابر نہیں کیونکہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ جماعت تابعین صحابہ سے پیش دستی میں مل جائیں۔

## قول سوم

ابن زید کا قول ہے کہ مراد آخرین سے تمام مسلم قوم ہے جو تا قیامت پیدا ہوگی اور آنحضرت ﷺ کے دائرہ مذہب میں داخل ہوتی رہے گی: ”قال ابن زيد جميع من دخل في الاسلام بعد النبي ﷺ الى يوم القيامة وهي رواية ابن نجيع عن مجاهد“ یعنی آنحضرت کی تعلیم اور نبوت صرف آپ کے اہل زمانہ تک محدود نہیں بلکہ مابعد کے زمانہ کے لئے بھی آپ کی نبوت عام ہے کیونکہ آپ کے بعد کسی فرد بشر کو نبوت جدیدہ نہیں ملے گی۔ یہ آیت حضرت کا خاتم النبیین ہونا ثابت کرتی ہے تو پھر مرزا قادیانی کے حق میں اسی سے استدلال کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کے مدعا کے بالکل برعکس ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابن زید نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ عام تام ہے اور رسول خدا ﷺ کی تفسیر کے معارض نہیں جو خاص ہے کیونکہ عام و خاص میں اسی قسم کا تعارض نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ خاص میں حصص علی بعض افراد العام ہوتی ہے۔ یعنی آنحضرت ﷺ نے افراد عامہ میں سے افضل فرد کو بیان کیا ہے جو قوم فارس ہے اور اصول کی کتابوں میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے: ”التنصيص على بعض افراد العالم لا يوجب التخصيص“ یعنی عام کے فرد الحامل کو بیان کرنا موجب تخصیص نہیں ہوتا۔ آیت مصارف زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کی تفسیر حضرت نے بیان کی ہے۔ (منقطع الغزاة) اور (حج) اور (طلب علم) لیکن کوئی وجہ نہیں کہ عام کے بعض افراد کو بیان کرنے سے لفظ صرف انہیں مفہوم سے وابستہ ہو جائے۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت نے افراد کاملہ کو بیان کیا ہے۔ قطرہ اور بیت الغراء اور اجراء نمبر اور مساجد فقہ سب اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ آنحضرت نے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ”الا ان القوة الرمی الا ان القوة الرمی“ لیکن یہ تفسیر بالاختصاص ہے۔ ثقہ ہر طرح کا سامان جنگ مثل توپ و تفنگ و دینہ و شمشیر و شین گن

وغیرہ ان میں داخل ہے اس لئے مفسرین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”مکمل ما یتقوی بہ فی الحرب“ آنحضرت نے موجودہ زمانہ کے سامان مروج سے فردا مکمل کو بیان کیا ہے اہل بیت کا لفظ آنحضرت کے ازواج مطہرات اور جملہ متعلقین کو شامل ہے۔ مگر حضور کا نفوسِ خمسہ کو مشارالہم قرار دے کر فرمایا: ”اللہم ہتولاء اہل بیعتی“ بعض افراد کاملہ پر تھمیں ہے جس سے تخصیص مفہوم نہیں ہوتی۔ کوثر کا لفظ فقہ عام ہے جس کے معنی اہل فقہ نے خیر کثیر بیان کئے ہیں۔ مقام محمود۔ شفاۃ کبریٰ وصغریٰ۔ امت کثیرۃ۔ حوض کوثر۔ نہر کوثر۔ کتاب وغیرہ سب خصائص اس میں داخل ہیں اور ابن عباسؓ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ لیکن حضرت نے اس کا مفہوم نہر کوثر کو قرار دیا ہے جو فرد کامل پر تھمیں ہے حضور انہیں۔

اسی طرح آخرین مہم سے تمام امت مراد ہے جو تاقیامت آنے والی ہے اور رسول خدا ان سارے اقوام عالم کی طرح نبی ہیں۔ حضرت نے جو قوم سلمان کا علی الخصوص ذکر کیا ہے۔ وہ اکمل واعظم فرد کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔

جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ حضرت تمام عجم و عرب کی طرف عموماً اور قوم فارس کی طرف خصوصاً مبعوث ہیں۔ لہذا قول ثالث کی بناء پر جو بنیادی قول ہے۔ بعض علماء نے ضمیر ہم پر آخرین کو معطوف سمجھا ہے: ”ای یعلمہم وأخرین منهم ای من المؤمنین الذین یدینون بدينہم لانہم اذا اعلنوا صاروا منهم قال المسلمین کلہم امة واحدة“ یعنی وہ نبی عرب کو بھی تعلیم دیتا ہے اور ماسوائے ان کی تاقیامت جو غیر مذاہب سے اسلام میں داخل ہوں گے۔ انہیں بھی اصول مذہب سکھاتا ہے۔ کیونکہ جملہ مسلمین بمنزلہ ایک امت کے ہیں اور بعض علماء کا خیال ہے کہ آخرین کا لفظ امینین پر معطوف ہے: ”عطف علی الامیین وہم من جادا بعد قرنہ الی یوم الدین وکل من اسلم صار منهم فان المسلمین کلہم امة واحسنة بناء علیہ جو مرزا قادیانی نے تفسیر بیان کی ہے وہ جملہ اسلاف امت کے برخلاف ہے سلف کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا جملہ عرب اور دیگر اقوام کے لئے جو آپ کے ہم زمانہ ہیں یا آپ کے زمانہ کے بعد ہوں گے تاقیامت نبی ہیں بخلاف اس کے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خدا نے امینین کے لئے حضرت کو رسول بنا کر بھیجا اور آخر زمانہ میں ایک دوسرا رسول بھیجے گا۔ لیکن چونکہ یہ مقصد سلف کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اس لئے مردود ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: ”خیرکم

قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم ینظرون الذکب “دوئم مرزا قادیانی کی تفسیر کے مطابق دونوں کا عہدہ نبوت پر ممتاز ہونا ثابت ہوتا ہے یعنی خدا نے عرب میں ایک رسول (حضرت محمد ﷺ) کو بھیجا اور متاخرین میں دوسرا رسول بھیجے گا۔ (مرزا غلام احمد) تو بحث لفظ ماضی ہے فی الامین سے متعلق ہونے پر یعنی ماضی ہوگا جس کا وقوع زمانہ گزشتہ میں ہو چکا اور جب اس کا تعلق آخرین سے ہوا تو معنی مضارع کے دے گا جو اس کے مجازی معنی ہیں اور قاعدہ ہے الحقیقت والمجاز لا یجتمعان ثانیاً مجازی معنی مراد لینے کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے۔

علماء بیان نے لکھا ہے: “لا بد للمعجاز من قرینة” قرینہ داخل یا خارجی کا موجود ہونا تو درکنار آیت خاتم النبیین اور احادیث فتم نبوت مجازی معنی کے خلاف ہیں۔ سوئم لفظ رسولا آیت میں ایک بار مذکور ہوا ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ایک ہے رسول سابقین اور آخرین کے لئے بھیجا گیا ہے اور اگر دوسرے رسولوں کا مبعوث ہونا مراد الہی ہوتا تو لفظ رسولا کو بقید تنکید ہر یا جاتا اور یوں کہا جاتا: “هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم ورسولا فی الاخرین”

اور بقاعدہ النکرة اذا اعمدت کانت غیر الاولى دور رسولوں کی بعثت مراد ہو سکتی تھی اور جب لفظ رسول ایک بار بیان ہوا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ دور رسول مراد لئے جائیں۔ ایک سابقین میں اور دوسرا آخرین میں۔ لہذا تفسیر مرزا قادیانی بالکل اپنی نبوت کی طرح غلط ہے اور قواعد عرب کے خلاف ہے اور تفسیر خلاف سلف قواعد عرب لائق قبولیت نہیں۔ ایک حوالہ مجھے یاد آیا کہ سورہ

احزاب میں ہے: “واورثناکم ارضہم وادیارہم وارضالم تظنوها وکان اللہ علی کل شیء قدیدرا (احزاب: ۲۷)“ اور (مرزا قادیانی کی تقریر کے مطابق) یہ بعینہ ہو الذی بعث فی الامیین کی نظیر ہے لیکن یاد رہے کہ جب اورث کا تعلق ایسی چیز سے ہو جو زمانہ حاضرہ میں حاصل ہو چکے تھے تو اس نے ماضی کے معنی دیئے اور جب دوسرے متعلق سے اس کا علاقہ ہوا جو آئندہ زمانہ میں حاصل ہونے والا ہے۔ (ارضالم تظنوها) تو اسے بمعنی مضارع قرار دیا گیا۔ جو یہ دو معنی باختلاف زمانہ ہر دو متعلقات حاصل ہوئے اور وہ دونوں متعلقات بعد اورث کے جدا جدا مذکور ہیں لیکن بحث کے بعد صرف ایک متعلق رسولا متعمم مذکور ہے جس کی بعثت عمل میں آچکی ہے اور کوئی دوسرا متعلق جو آئندہ زمانہ میں ظاہر ہونے والا ہو عبارت میں موجود نہیں کہ اس کی اقتضاء سے ماضی کو بعضی مضارع لیا جائے تو آیت ہذا میں ماضی کو ہد معنی

لیتا بالکل باطل ہے۔ علامہ سلیمان الجمل کی رائے آیتہ احزاب کے متعلق یہ ہے المعنی لتحقق وقوعه یعنی تملیک ارض غیر موطؤہ چونکہ قطعی التحق ہے اس لئے ہر دو متعلقات کے لحاظ سے صیغہ ماضی (اورث) بیان کیا گیا اور اختلاف متعلقات نے اس کے اصل معنی میں کوئی تغیر پیدا نہیں کیا۔ بعث کا متعلق صرف واحد لفظ رسولاً، منہم مذکور ہے۔ اس لئے وہ حقیقت پر محمول ہے اور آئندہ زمانہ کے دوسرے رسول سے اسے کوئی تعلق نہیں اس لئے یہاں ارتکاب تاویل مذکور کی بالکل ضرورت نہیں۔

۲..... آنحضرت ﷺ کی تفسیر پر اگر لفظ کو مختصر سمجھا جائے تو مرزا قادیانی کسی طرح فارسی نسل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ مرزا قادیانی مغل ہیں اور مغل بلحاظ قوم تاری النسل ہیں یعنی ہلاکو خاں بن تولے خاں بن چنگیز خان سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے ایسی حالت میں آپ فارسی النسل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ تاری اقوام کا ایران سے کوئی تعلق نہیں۔ مغل قوم تو مغول کی اولاد سے ہیں جو اس خاندان کا جد اعلیٰ ہے پھر تعجب کی بات ہے کہ سلمان فارسی کی نسل سے آپ کو کس طرح تعلق ہے یہ تو جمع بین السامیہ اور غرض پرستی ہے گویا حدیث من رغب عن ایبہ فقد کفر کو مرزا قادیانی نے دیدہ دانستہ فراموش کر دیا۔

۳..... قرآن شریف میں جا بجا وحی کو زمانہ قبل آنحضرت سے وابستہ کیا گیا ہے اور زمانہ مابعد میں بھی اگر وحی کا نزول ہوتا تو قرآن میں اس کو بھی ذکر کیا جاتا۔ پارہ اول میں ہے ”والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك“ (بقرہ: ۴) ”اور من قبلك“ پر ہی عبارت قرآن میں اکتفا کیا گیا ہے۔ من بعدک اس کے ساتھ نہیں کہا گیا اور نیز سورہ شوریٰ میں بھی اسی سچ کو اختیار کیا گیا ہے: ”کذلک یوحی الیک والی الذین من قبلك اللہ العزیز الحکیم (شوری: ۳)“ یہ دلیل ہے کہ زمانہ مابعد میں وحی کا نزول نہ ہوگا۔

۴..... حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت ہے: ”انسی اٰخر الانبیاء وان مسجدی اٰخر المساجد“ یعنی میں سب نبیوں سے آخر ظاہر ہوا اور میری مسجد مساجد انبیاء کی خاتم ہے اس روایت کو مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ کا ہے اس روایت کو بشکل موقوف بیان کرتے ہیں اور کہتے تھے: ”ان رسول اللہ اٰخر الانبیاء وان مسجدہ اٰخر المساجد“ ابو سلمہ اور ابو عبد اللہ ہر دو راویوں کا بیان ہے کہ ہمیں بجائے خود یہ یقین تھا کہ ابو ہریرہ یہ حدیث

رسول خدا سے نقل کرتے ہیں لیکن ابو ہریرہ کی زبانی اس بات کو معلوم نہ کیا تھا اور ابو ہریرہ وفات پا چکے تھے ان کی وفات کے بعد اس حدیث کے متعلق ہمارے درمیان تذکرہ آیا تو ہم نے ایک دوسرے کو طاعت شروع کی کہ کیوں ہم نے ابو ہریرہ سے اس بارے میں تصریحی بیان طلب نہ کیا۔ اگر آپ نے اس کو حضرت ﷺ سے سنا تھا تو وہ ضرور رسول اللہ کی طرف سے اس کی نسبت بیان کر دیتے لیکن تصریح کے متعلق مطالبہ کے نہ ہونے نے ہمیں اندھیرے میں رکھا۔ ایک روز ہم عبد اللہ بن ابراہیم بن قاطب کی مجلس میں بیٹھے تھے تو ہم نے وہ سارا ذکر جو آپس میں کیا تھا ان کی خدمت میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ فرماتے تھے: ”قال رسول الله ﷺ فاني اخرج الانبياء وان مسجد اخرج المساجد“ یہ حدیث ختم نبوت کے ثبوت کے لئے قاطعہ حجت ہے جس میں شبہ اور تاویل کی گنجائش نہیں۔ فقہرہ وان مسجدہ اخرج المساجد کی تشریح امام بزار کی روایت میں منقول ہے جو بروایت حضرت عائشہؓ آنحضرت ﷺ سے مروی ہے: ”انا خاتم الانبياء ومسجدى خاتم مساجد الانبياء احق المساجد ان يزار وتشد اليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدى وصلاة فى مسجدى افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام“ یعنی میں خاتم الانبياء ہوں میری مسجد انبياء کی مسجدوں کی خاتم ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو مسجد بنائے۔ اس لئے دنیا میں میری مسجد کے بعد کوئی نبوی مسجد نہ ہوگی۔ مرزا قادیانی جو اپنی عبادت گاہ کو مسجد اقصیٰ کے برابر سمجھتے ہیں اور اپنی تحریروں میں شائع کرتے ہیں۔ اس اعتقاد اور قول کو سخت صدمہ پہنچا۔

حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کا لفظ انی اخرج الانبياء بیان کیا ہے اور حضرت عائشہؓ نے انسی خاتم الانبياء کہا ہے تو ظاہر ہے کہ یا تو رسول خدا ﷺ نے یہ دونوں الفاظ بہ تعدد مجالس بیان کئے ہیں اور یا ان میں سے ایک لفظ رسول خدا ﷺ کی زبان سے صادر ہوا اور دوسرا حدیث بالمعنی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ دونوں اہل زبان سے ہیں تبادلہ والفاظ میں سوائے لفظ مترادف کے دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ ردوبدل کے طریق کے پورے عالم ہیں۔ نخبہ میں لکھا ہے: ”ولا يجوز تعمد تغيير المتن ولا ابدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له الالعالم بما يحيل المعانى (ص ۴۵)“ لہذا معلوم ہوا کہ اہل زبان کے

زردیک خاتم الانبیاء اور آخر الانبیاء دونوں الفاظ ہم معنی ہیں اور مرزا قادیانی کے پیش کردہ معنی اہل زبان کے نزدیک غلط ہیں۔

رہا فقرہ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء تو روایت بزار میں انبیاء کا لفظ بہ نسبت روایت صحیح مسلم زیادہ موجود ہے جس کے متعلق فیصلہ اصولی ہے۔ ”زیادة الثقة مقبولة“ اور اختلاف طرق اور متون سے حدیث کی نوعیت اور معنی میں جو ابہام ہوتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے۔ علامہ زرقانی نے شرح مؤطا مالک میں لکھا ہے: ”قال بعض المحدثین لولم نکتب الحدیث من ستین وجہا ما عقلناہ لا اختلاف الرواة فی الفاظہ ونحوہا (زرقانی ج ۱ ص ۱۲۳)“ یعنی بعض محدثین کا قول ہے کہ اگر ہم حدیث کو کثیر التعداد طریق سے نہ لکھیں۔ تو اس کے مضمون کو نہ سمجھ سکیں بعض دفعہ حدیث کے مضمون کی توضیح حدیث کے الفاظ کے اختلاف سے ہو جاتی ہے۔ راقم کہتا ہے کہ بعض المحدثین سے مراد امام سیوطی ہے۔ انہوں نے رسالہ تنبیہ الاذکیاء میں یہ عبارت لکھی ہے اور حدیث ما من احد یسلم علی الاراد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام کے مطلب میں جو پیچیدگیوں سے اختلاف الفاظ حدیث سے حل کیا ہے اور کہا ہے کہ دوسرے لفظ میں یوں آیا: ”وقدر اللہ علی روحی“ یعنی جو مجھے سلام کہتا ہے وہ اس حال میں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر میری روح کو واپس کر دیا ہوا ہے اور میں زندہ ہوں۔ پہلی روایت سے جو یہ شبہ پڑتا تھا کہ حضرت ﷺ کا روح بدن سے مفارق ہے اور وہ اموات میں داخل ہیں اس دوسرے لفظ نے اس شبہ کو زائل کر دیا۔

اسی حدیث ابو ہریرہ کا مطلب حدیث حضرت عائشہؓ نے صاف کر دیا کہ رسول خدا کی مسجد آخر المساجد نہیں بلکہ آخر مساجد الانبیاء ہے۔ حضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا جو مسجد نبوی کی عمارت کرے جیسے مسجدیں اور بہت بنتی رہیں گی لیکن مسجد النبیؐ نہ بنے گی اس طرح اور بزرگ بہت سے ہوتے رہیں گے۔ لیکن نبی کوئی نہ ہوگا۔

۴.....ضمیمہ

حاشیہ حدیث نحن الاخرون السابقون! کنز العمال جلد سوئم میں یہ حدیث مندرج ہے لا نبی بعدی ولا امة بعدکم فاعبدوا ربکم میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور



تمہارے پیچھے کوئی دوسری امت نہ ہوگی۔ لہذا کسی دوسرے رسول کی ضرورت نہیں۔ البتہ توحید کی ضرورت ہے۔ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔

اس حدیث کے مدعا کی دوسری حدیث بھی تصدیق کرتی ہے۔ ”توفون سبعین امة انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ (مکتوٰۃ)“ تم کثیر التعداد امتوں کی میزان آخری کو پورا کرتے ہو۔ تمہارے بعد کوئی امت نہ ہوگی۔ سب امتوں سے تم بہترین امت اور خدا کے نزدیک زیادہ محترم ہو۔

پہلی حدیث آنحضرت ﷺ نے مجمع صحیح الوداع میں تمام حاضرین کے رو برو ارشاد فرمائی۔ جسے سب صحابہؓ نے آنحضرت ﷺ کے بعد قبول رکھا اور صحابہ کے بعد جملہ امت نے اس پر اتفاق ظاہر کیا اور یہی وجہ ہے کہ تمام مدعی کاذب جنہوں نے افتراء سے کام لیا۔ ان پر علماء بیک قلم کفر کے فتویٰ صادر کرتے رہے اور حضرت نے میلہ کذاب اور اسود غسی پر کفر کا فتویٰ دیا جو آپ کے ہم زمانہ تھے۔ اس طرز عمل نے حدیث لائبریری کے متعنے کو روشن کر دیا کہ حدیث ہذا کے معنی ہیں لا نبی بعد رسالتی۔ لا نبی بعد وفاتی اس کے معنی نہیں۔ اسی لئے شارحین نے لا نبی بعدی کے ساتھ بطور تشریح یہ فقرہ بڑھایا ہے۔ ولا معہ۔

۵..... ضمیمہ

قاری قرآن کے متعلق حدیث سے ثابت ہے کہ نبوت اس کے پہلوؤں کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ نبی نہیں ہوتا اور نہ وحی سے اسے سرفرازی حاصل ہوتی ہے۔ وگرنہ لازم آئے گا کہ تمام قرآن قرآن نبی ہو جائیں اور لازم باطل ہے فکذا الملزوم اس سے معلوم ہو گیا کہ حدیث من قرء ثلاث القرآن اعطی ثلث النبوة ومن قرء ثلثیہ اعطی ثلثی النبوة ومن قرء القرآن فکانما اعطی النبوة کلھا۔ (یعنی جو قرآن کا ٹکٹ پڑھ لے اسے نبوة کا ٹکٹ مل گیا اور دو بڑے تین حصہ قرآن کا جس نے پڑھا اسے دو تہائی نبوت کا حاصل ہو گئی اور جس نے سارا قرآن پڑھا اسے گویا ساری نبوت حاصل ہو گئی) بالکل باطل ہے۔ علامہ شوکانی نے فوائد مجموعہ میں لکھا ہے: ”فی اسنادہ بشر بن نمیر قال یحییٰ بن سعید کذاب یضع“ اس کی اسناد میں بشر بن نمیر ہے جس کی نسبت یحییٰ بن سعید کی رائے ہے کہ وہ جھوٹا ہے جعلی حدیثیں بنایا کرتا تھا امام سیوطی نے لآلی میں اس کا تعقب کیا ہے: ”ان بشرًا من رجال ابن ماجہ

وبانہ قد اخرجہ ابن الانباری والبیہقی “کہ بشر ابن ماجہ کے راویوں میں سے ہے اور ابن الانباری اور بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ امام سیوطی کا تعقب باطل ہے جو چند اہم مفید نہیں۔ کیونکہ جب یحییٰ بن سعید کی تنقید صحیح ہے تو ابن ماجہ کے رجال کی فہرست میں داخل ہونا مفید نہیں۔ اور ابن الانباری اور بیہقی کا روایت کرنا بھی نافع نہیں۔ جبکہ اسناد میں بشر بن نمیر موجود ہے۔ پھر امام سیوطی نے حدیث کے چند شواہد ذکر کئے ہیں۔ اول خطیب نے حضرت ابن عمرؓ سے مرفوعاً اس روایت کو بیان کیا ہے جس کی اسناد میں قاسم بن ابراہیم مطلبی ہے جو وضعی اور باطل روایتیں بیان کرتا تھا۔ حتیٰ کہ خود خطیب کی رائے ہے کہ اس نے امام مالک سے بہت نادر روایتیں جعلی بیان کی ہیں اور سعید بن منصور نے سنن میں حضرت حسنؓ سے مرسل اس کو روایت کیا ہے اور طبرانی نے باسناد و دیگر عبد اللہ بن عمرؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے مگر کوئی طریق بھی صحت کو نہیں پہنچتا۔

اگر خدا نخواستہ یہ حدیث صحیح بھی ہوتی تو حقیقت پر محمول نہ کی جاتی بلکہ مجاز اور تشبیہ سے اس کا مطلب صاف تھا یعنی قرآن کے پڑھنے والوں کو نبیوں سے مناسبت ہے۔ جیسے ”فکانما اعطی النبوة کلہا“ میں حرف تشبیہ کے موجود ہونے سے ظاہر ہے کہ نبوت کا حصول قرآن خوانی پر موقوف نہیں۔ بلکہ اس حالت کو نبوت سے مشابہت ہے۔

۶..... ضمیمہ

آیت من یطع اللہ کا حاشیہ

۲..... انجیل متی باب ۱۰ آیت ۴۱ میں ہے: ”جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجے والے کو قبول کرتا ہے جو نبی کے نام پر نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا اور جو راست باز کے نام پر راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔“

حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نبی کا قبول کرنے والا نبی ہو جائے گا بلکہ یہ کہا کہ نبی کا اجر پائے گا۔ جو آیت من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین (النساء: ۶۹) کا مطلب ہے۔ ابو نعیم اور حافظ ابو موسیٰ مدینی نے باسناد و خود سوید بن حارث کا بیان نقل کیا ہے کہ میں اپنی قوم کے چھ آدمیوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جب ہم آپ ﷺ سے

ہم کلام ہوئے تو ہمارا طلق اور وضع جناب ﷺ کو بہت پسند خاطر معلوم ہوئے جناب ﷺ کا پہلا سوال یہ تھا کہ تم کون ہو؟ خادموں نے جواب دیا کہ ہم مؤمن ہیں۔ آنحضرت ﷺ ہمارا قول سن کر مسکرائے اور یہ کہا کہ ہر بات حقیقت اور مفہور کھتی ہے۔ تمہارا قول کس قدر سچائی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ حضور ﷺ کے خدام نے جواب دیا کہ پندرہ خصال ہمارے جسم و روح میں ساری ہیں پانچ تو ہمیں آپ کے مشربیوں کی معرفت معلوم ہوئی ہیں جن پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے اور پانچ پر عمل بجالانے کے ہم مامور ہیں اور پانچ باتیں زمانہ جاہلیت میں ہمارے طلق میں داخل تھیں جو اب تک ہم ان کے پابند ہیں کیا آپ ﷺ ان میں سے کسی خصلت کو بنظر کراہت دیکھتے ہیں۔ حضور نے سوال کیا کہ جو اصول ایمان میرے ایلچیوں کی معرفت آپ کو معلوم ہوئے بتلاؤ کیا ہیں؟ ہم نے جواب دیا: ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و البعث بعد الموت پھر پانچ عملیات کے متعلق جناب نے استفسار کیا۔ ہم نے کہا: ”ان تقول لا اله و تقیم الصلوٰۃ و توتی الزکوٰۃ و تصوم رمضان و تحج البيت الحرام من استطاع الیه سبیلاً“

پھر ہم سے یہ دریافت کیا کہ وہ پانچ خصال بتلاؤ جس کے زمانہ جاہلیت میں پابند تھے؟ ہم نے کہا:

خوشحالی میں خدا کا شکر بجالاتے تھے اور مصیبت میں ثابت قدم اور صابر تھے اور قضاء پر سچے دل سے راضی رہتے تھے اور معرکوں میں ہمارے کارنامے ہماری سچائی کی داد دیتے تھے اور کسی دشمن کی حالت زار پر خوشی نہ منایا کرتے تھے۔ نبی ﷺ نے کہا:

”حکماء علماء کادوا ان یکنوا من فقہم انبیاء“ یعنی یہ قوم حکیم دین بھی ہے اور عالم بھی اور ان کی دانش اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ قریب ہے کہ وہ نبی ہو جائیں۔ لیکن نبیوں کے رتبہ پر نہیں پہنچے معلوم ہوا کہ حکماء اور علماء کا مدارج انبیاء کے قریب ہے لیکن معہذا وہ نبی نہیں اور فقہا ہمت دینی نبوت کا جزو ہے جس کے حصول سے انسان قریب نبوت ہو جاتا ہے۔ لیکن نبوت چونکہ وہی ہے وہ ایسے خصال کے دستیاب ہونے سے حاصل نہیں ہوتی۔

علامہ سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے: ”واشتهز علی الالسنۃ کثیرا ان نفیہا اثبات و اثباتہا نفی کقولک کاد زید یفعل بدلیل وان کادوا لیفتنونک و ما کاد

يفعله معناه فعل بدليل وما كادوا يفعلون اخرج ابن ابي حاتم من طريق الضحاک عن ابن عباس قال كل شيء في القرآن كادوا كاد ويكاد فانه لا يكون ابدا ثم قال والصحيح الاول انها كغيرها نفيها نفي واثباتها اثبات فمعنى كاد يفعل قارب الفعل ولم يفعل وما كاد يفعل ما قارب الفعل فضلا ان يفعل فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلا

پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ پانچ باتیں میں تمہیں مبتلا ہوں کہ جو چیز تمہارے کھانے میں نہ آئے اسے مت جمع کرو۔ جس مکان میں رہائش نہ ہو بلکہ زائد ہو اسے مت بناؤ۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے کل جاتی رہے گی اس کی رغبت مت کرو۔ اور خدا کا ڈرا اپنے دل میں رکھو جس کے پاس تم جاؤ گے اور اس کے دربار میں پیش کئے جاؤ گے اور عاقبت کی رغبت کرو جہاں تم پہنچو گے اور وہاں دوامی طور پر رہو گے۔ قوم حضرت ﷺ کی وصیت کو سینوں میں محفوظ لے کر واپس ہوئے اور اس پر عمل کیا۔ یہ سارا ماجرا وفد نبی از دکا ہے۔ جسے علامہ ابن القیم نے زاد المعاد ج ۱ کے ص ۱۵۲۰ پر لکھا ہے۔

.....ضمیمہ نمبر

”عن انس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات فقالوا يا رسول الله وما المبشرات قال روياء المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة رواه الترمذى واحمد فى مسنده والحكم فى المستدرک وصححه السيوطى فى الجامع الصغير“ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر کتاب نازل ہو اور نبی وہ پیغمبر ہے جو صاحب کتاب نہ ہو۔ آنحضرت ﷺ نے ہر دو قسم کی پیغمبری کو (خواہ تشریحی ہو یا غیر تشریحی) مسدود فرمایا ہے اور کہا کہ میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ نبی۔ لیکن مبشرات جو نبوت کا جزو ہیں۔ باقی رہ گئے ہیں۔ مبشرات منامات صالحہ کو کہتے ہیں جو مسلمان دیکھے۔

☆.....☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ آذَى عِرْسِي فَكُلُّهُ عِرْسِي  
مَنْ آذَى عِرْسِي فَكُلُّهُ عِرْسِي

# محکمت ربانی لنسخ القای قادیانی



حضرت مولانا حکیم ولی الدین بھاگلپوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## تعارف رسالہ

طیب عالی استعداد اور راسخ الایمان صاحب سلیم جناب مولوی حکیم ولی الدین صاحب پورینوی بھاگلپوری جن کی پختہ ایمانی و مستقل مزاجی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مولوی عبدالماجد قادیانی بھاگلپوری کے ساتھ نسبت قرابت، شب و روزی صحبت اور ان پر اثر ڈالنے کے مختلف تدابیر کے باوجود ان کے بھی معہدات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بلکہ اور زیادہ پختہ ہو گئی۔ اس رسالہ میں جو القائے ربانی کے ان فریبوں اور کذب بیانیوں کا پردہ کھولا ہے جس کے ذریعہ انہوں نے نادان مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈال کر فیصلہ آسانی کی ہدایتوں سے روکا ہے۔ رسالے کا یہ مضمون نہایت قابل قدر ہے کہ مؤلف القادسی حضرت مجددؑ کے جن مکاتیب کو اپنے دعوے کا موید خیال کیا تھا۔ انہیں مکاتیب سے ان کے دعوے کی غلطی دکھا کر مرزا قادیانی کا کاذب ہونا ثابت کیا ہے۔

## ضروری اطلاع

اس رسالہ (تکلمات ربانی) کے بروقت شائع ہونے میں جو اس قدر تعویق ہوئی اور شائقین کو شدید انتظار کی تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ ایک امر اتفاقی ہے جو رسالے کی کاپی و پروف کی تصحیح کے زمانہ میں اصل مسودہ کا بعض حصہ ڈاک میں ضائع ہونے اور مؤلف رسالہ جناب حکیم صاحب کی طویل علالت کی وجہ سے ظہور میں آیا۔ ورنہ رسالہ کب کا شائع ہوا ہوتا۔

ناظرین! اس رسالہ کو ملاحظہ فرما کر نہایت مسرور ہوں گے کہ مؤلف رسالہ نے کس خوبی سے قادیانی خدعات کا پردہ فاش کر کے روز روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ قادیانی جماعت کے مخصوص اہل علم کی یہ حالت ہے اور ان کی لیاقت علمی کی یہ کیفیت ہے۔

فَسَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

## عرض حال

سرگذشت اپنی کیا کہوں تم سے

اک فسانہ ہے حال دل میرا

میں کیا اور میری تحریر پر کیا کہنے کو اشرف المخلوقات ہوں پھر بھی مخلوق ہوں میری ہستی

خود بھی کوفنا کی چادر اوڑھنے کیلئے ہر وقت تیار ہے دنیا میں آنا جانے کی دلیل اور پیداؤں ناہید ہونے کی نشانی ہے۔

یہ اقامت مجھے پیغام سفر دیتی ہے  
زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے

ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جو کچھ کیا دھرا ہے نیک و بد سب دیکھنا ہے۔ قیامت کے تصور سے روٹکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمانیت اور حضرت رسول مقبول محمد مصطفیٰ ﷺ خاتم النبیین کی شفاعت سے بخشش اور مغفرت کی بہت کچھ امید ہے۔ مسلمان ہوں، خدا کرے مسلمان رہوں، اور مسلمان اٹھوں، چودہ صدی کا زمانہ ہے ضلالت اور گمراہی کا دور دورہ ہے۔ تاریکی اور جہالت ہر طرف پھیل رہی ہے عام انسان کو نبی بنانے کی ناجائز کوشش ہو رہی ہے جب میں دہلی میں علم طب حاصل کر رہا تھا کسی ضرورت سے مرزا غلام احمد دہلی آئے۔ آپ کو مہدی موعود مسیح ہونے کا دعویٰ تھا۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ وہ آئے ہیں دل نے کہا کہ یہی موقع ہے چلو زیارت سے مشرف ہو جاؤ خوشی خوشی گیا اور اپنی حاضری کی خبر کرائی آپ کی طبیعت ناساز تھی جواب ملا کہ آج باریابی نہیں ہو سکتی ناچار محرم واپس آیا۔

قطع امید سے امید اور بڑی اشتیاق دو چند ہوا اگلے دن پھر عرضی دی مطب کا ہفتہ تھا مشکلوں سے فرصت ملی چل کھڑا ہوا۔ جذبہ شوق کشاں کشاں جا رہا تھا کہ سر راہ ایک مسجد ملی خدا کو میری رہبری منظور تھی یک بیک دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرو ایک رقت کی حالت مجھ پر طاری ہو گئی قدم رک گیا میں ٹھہر گیا اور یوں گویا ہوا اے میرے خالق اے میرے رازق میرے پروردگار میرے پالنے والے تیری ہادی برحق ہے تیری ہی توفیق خیر رفیق ہو تو صراط مستقیم نصیب ہو۔ میں تیری رضا مندی کا جو بیاں ہوں اور تیرے مسیح موعود سے ملنے جا رہا ہوں اگر جناب مرزا غلام احمد صاحب واقعی مسیح موعود ہیں تو امر حق مجھ پر ظاہر کر دے، میرے قلبی امراض کی دوا اپنے مسیح موعود سے دلوا، اپنی چکار دکھلا ان کو نورانیت سے مجھے منور کر دے۔ نہیں تو ان کے شر سے محفوظ رکھ، دام تزدیر سے دور رکھ۔ یہ دعا کر کے چل نکلا اور درودت پر حاضر ہوا۔ مرزا قادیانی باہر کھلے پتھر رخ کے پختہ گمن میں موجود تھے۔ بہت سے لوگ ارد گرد فرش پر مختلف لباس اور مختلف ہیئت میں بے باکانہ بیٹھے تھے اور کچھ لوگ اتر رخ کے لیے سائبان میں جس کے اوپر بالا خانہ لوہے کے پینچے سے گھرا تھا چار پائی پر ننگے سر بیٹھے تھے اور بے تکلف آپس میں ہنس

بول رہے تھے۔ متانت کا لحاظ بالکل نہیں تھا آزادانہ روش تھی، میں سمجھا کہ یہ عام جلسہ ہے اندر مرزا قادیانی تشریف فرما ہو گئے فوراً میں وہاں سے اٹھ کر کمرے کے اندر چلا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص سادی وضع میں گردن جھکائے بالکل ہی خاموش بیٹھے ہیں وہاں چہل چہل دیکھی تو یہاں سکوت اور محویت کا عالم پایا کچھ بولنا خلاف تہذیب سمجھانا کام پھر اور پھر اسی جلسہ میں آ بیٹھا۔ بیٹھے ہی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ آپ مسیح موعود ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس دعوے کے زمانہ کی جو شہادت لکھی ہے اور جس تاریکی اور جہالت کا ذکر ہے وہ اس زمانہ میں موجود ہے سائل نے فوراً ہی کہا کہ میں نے مانا یہ زمانہ تو ہم آپ اور کل انسان کیلئے مشترک ہے۔ آپ اپنی خصوصیت کی کیا دلیل رکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ہاردرگ جوابا فرمایا کہ تم چالیس روز میرے ساتھ رہو تو اس کی تصدیق ہو جائے گی اور یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی یہ کہا اور ایک قسم کا اشارہ کیا معا کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کچھ بیٹھے بیٹھے ہم زبان ہو کر کہنے لگے کہ میں ساتھ رہ کر اس کی تصدیق کر چکا ہوں، یہ جملہ پورا ہوتے ہی سب ہنسنے بولنے اٹھنے بیٹھنے لگے۔ چھڑی ہوئی گفتگو یونہی رہ گئی۔ میں بھی چپکا کھڑا ہوا کسی قسم کی تبدیلی مجھ میں پیدا نہیں ہوئی مگر دل بول اٹھا کہ یہاں صداقت نہیں اتنے بڑے اولوالعزم مسیح موعود کی مجلس یوں چمکی نہیں ہوتی۔ طالب حق پر ضرور کچھ نہ کچھ اپنا اثر ڈالتی ہے۔ اور اسے الٹی رنگ میں بغیر رنگے نہیں چھوڑتی جس کی تڑپ تھی دل میں وہ صورت نہیں ملی، دل مطمئن ہو گیا اور اطمینان پر دونوں سے مہینے مہینے سے برس اور برس سے برسوں گزر گئے، ہاں کبھی درمیان نیز مرزا قادیانی کے دیگر قصائد نعتیہ کے دیکھنے کا اتفاقا اتفاق پڑتا رہا۔ رسول اللہ ﷺ کی تعریف اور توصیف سے دل کو مسرت ہوتی رہی لیکن مرزا قادیانی کے خاص دعوے کے متعلق میرا وہی خیال رہا کہ یہ دعویٰ صداقت پر مبنی نہیں اور بس۔ پھر مرزا قادیانی اپنی تحریر کس رنگ میں لکھتے رہے اور کیا لکھتے رہے جماعت احمدیہ کیا کرتی رہی اس سے بالکل ہی بے خبر رہا۔ آخر ان لوگوں کی پلندہ پروازی ”اے روشنی طبع تو برسن بلا شدی“ کے مصداق بھی خدا کو انکشاف حقیقت منظور ہوا علماء اہل حق اور اس جدید گروہ کے مابین مولیٰ میں مناظرہ کی ٹھہری۔ میں اس وقت سپول میں تھا طیب جیسا آزاد ہوتا ہے۔ اتنی ہی اسے پابندی بھی ہوتی ہے۔

باندھتے ہیں سرو کو آزاد اور وہ پابگ

کیسی آزادی کہ یاں یہ حال ہے آزاد کا

ان دنوں دو ایک ایسے لب فرش مریض زیر علاج تھے کہ وقت پر مولیٰ پہنچنے کی بہت



کوشش کی مگر بے کار، پہنچا بھی مگر اس وقت جب قادیانی جماعت کرسی اٹھائے صورت فرار اختیار کر رہی تھی۔ بے وقت پہنچنے کا بہت ہی افسوس ہوا دوسرے ہی دن میں واپس آیا اس مناظرہ کے کچھ دنوں بعد مرزا قادیانی کی چند متضاد تحریریں اتفاقاً میری نظر سے گزریں طبیعت کو پریشانی ہوئی بچپن سے انہی محترم مولانا عبدالمجاہد صاحب کو ایک ریفرار اور ذی علم تصور کرتا رہا۔ ان کی عظمت و وقعت جو میرے دل میں ہے کہ اوروں کے خیال میں بھی نہیں آسکتی۔

اور واقعی جو بھردری آپ میں ہے وہ پوری ہی کے اور حضرات میں مشکلوں سے پائی جاتی ہے غیر سے وہ بھی مرزا قادیانی کی بیعت حاصل کر چکے تھے۔ میرا خیال فطرتاً آپ کی طرف گیا اور میں نے اپنے محترم بھائی کی خدمت میں نہایت ہی اخلاص سے ایک خط انہیں متضاد تحریروں کے انکشاف حقیقت پر استفسار ارسال کیا پھر بے درپے کئی خطوط بھیجے۔ صرف ایک خط کا مجاہد بھائی کے یہاں سے جواب آیا اور وہ بھی سوال دیگر جواب دیگر رنگ میں یہ خطوط محض احقاق حق پر مبنی ہیں۔ عنقریب آپ انہیں ملاحظہ کریں گے۔ ان خطوط مرسلہ کے بعد مراسلات ہی کے رنگ میں مرزا قادیانی کی کتاب توضیح المرام پر کچھ لکھ رہا تھا کہ اتنے میں ”التقاء ربانی“ میرے محترم بھائی (عبدالمجاہد قادیانی) کے نام سے شائع ہوئی اور مجھے ملی نہایت غور سے مکرر اسے میں نے پڑھا پراسوس۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا

جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا

میرادل ہرگز اسے قبول نہیں کرتا اور مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ تحریر واقعی مجاہد بھائی کی تحریر ہے۔ العلم عند اللہ اتنی بات تو ضرور ہے کہ ایسی تحریریں تو رائیت اور حقانیت سے الگ ہیں اور ظلمات تک پہنچاتی ہیں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ انسان کو بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کی طرف رغبت دلائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ عصر کے وقت کی قسم کہ سارے ہی آدمی گماتے میں ہیں:

”والعصر . ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا و عملوا الصلحات

وتوا صوا بالحق وتواصوا بالصبر“ ﴿مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کئے اور

ایک دوسرے کو دین حق کی پیروی کی ہدایت کرتے رہے وہ البتہ گماتے میں نہیں ہیں۔﴾

غور کیجئے یہاں خدائے تعالیٰ نے صرف معرفت اور اس پر صبر کرنے کو بس نہیں فرمایا

بلکہ باہم ایک دوسرے کی نصیحت اور حق کی طرف ہدایت کرنے کو بھی ضروری شرط قرار دیا اور صاف فرما دیا کہ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب گھائے میں ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی یوں ہے۔

”ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک ہم المفلحون (آل عمران: ۱۰۴)“ ﴿تم میں سے ایسی ایک جماعت ہونی چاہئے جو لوگوں کو بھلائی اور نیکی کی رغبت دلاتی رہے اور برائی سے روکتی رہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں درحقیقت وہ فلاح پاگئے۔﴾

اس آیت شریف کی تفسیر خود حضرت رسول مقبول ﷺ نے بیان فرمائی ہے جس کے حدیث راوی ہیں۔

”قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر اولیو شکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا عندہ ثم لتدعنہم ولا یستجاب لکم رواہ الترمذی“ ﴿رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم ہے اس ذات برتر کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم لوگ لوگوں کو اچھی باتوں کی رغبت دلاتے رہو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو اگر تم اپنے تئیں اس اہم اور ضروری کام سے معزول کر دو گے تو خوب سمجھ لو کہ اگر اس وقت تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں کروں گا۔﴾

ایک اور حدیث مسلم شریف کی ہے اسے ملاحظہ کیجئے کس قدر قابل عمل اور ضروری ہے جو ابی سعید خدریؓ نے روایت کی ہے۔

”قال من رای منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان“ ﴿رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی خلاف شرع بات دیکھے تو چاہئے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے اور اگر اپنی ہاتھ سے روک نہ سکے اور اس پر بھی قادر نہ ہو تو زبان سے برا کہے اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو دل سے اسے برا جانے اور یہ دل سے برا سمجھنا ضعف ایمان کی نشانی ہیں۔﴾

اور یہ بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے اور مذہب اسلام بلکہ ساری دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی او، اپنے گھروں اور اپنے اقرباء اور اپنے ہم وطن کی ہدایت مد نظر رکھنی چاہئے پھر عام مخلوق خدا کی۔ بخاری میں نے القاء ربانی پر توجہ کرنا اپنا فرض تصور کیا۔ اعلیٰ محترم مولانا

عبدالماجد صاحب اور محترمی مولوی علی احمد صاحب ایم اے کے اس راہ (قادیانی ہونے) پر جانے سے اور سلسلہ حقہ سے الگ ہو جانے سے مجھے جیسی کچھ پریشانی ہے اور جیسا میں انہیں واجب احترام سمجھتا ہوں وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔

ہمارا درد دیکھا جائے کس سے  
ہمیشہ روح کھینچتی ہے دوا کی

یہ دنیاوی مراتب اور ہیں، دینی اعتبارات جدا۔ انسان کے کمال کا دار و مدار انہیں دو اصولوں کے تفاوت کے اعتبار سے خدا کے نزدیک انسان کا رتبہ اور درجہ بلند ہوتا ہے۔ ورنہ ہر فریبی کو جسم کی توانائی پر محمول کرنا اپنی عزیز جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ کبھی ورم سے بھی سارا جسم پھول جاتا ہے اور آدی فریبہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس لئے میں نے اپنے مقدر و بھر اس مختصر رسالہ میں اس کی علامت اور علاج کو نہایت ہی کھول کر سہل الوصول اور ممکن الحصول طریقہ پر بتا دیا ہے اور بیان کر دیا ہے یہ مجھ پر فرض تھا جسے میں نے محض اللہ ہی کے واسطے ادا کیا۔

خدا اس کو مقبول عالم بنائے سعید روحیں اس کے طرف متوجہ ہوں تاریک دلوں کے لئے شمع ہدایت بنے اور میرے لئے بموجب نجات، خدا نے جاہا تو ضرور ایسا ہو کر رہے گا اور اہل حق کو فتح و نصرت نصیب ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ بھی مظفر و منصور ہوں گے اللہ ہی کے نام سے میں نے اس تمہید کو شروع کیا ہے اور اسی کی خوشخبری بھرے ارشاد پر اس تمہید کو ختم کرتا ہوں۔ ”الاول والاخر هو اللہ۔ الظاهر والباطن هو اللہ“ نہایت ہی توجہ سے اس آیت شریف پر غور کریں۔ وہ یہ ہے:

”يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لکم ان کنتم تعلمون يفقر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنت تجری من تحتها الانهار و مسکن طيبة فی جنت عدن ذالک الفوز العظیم و اخری تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب و بشر المؤمنین“ ﴿مسلمانو! کہو تو میں تمہیں ایسے تجارت بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے (سنو یہ ہے) خدا اور اسکے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جانیں لڑا دو یہ تمہارے بھلائی کی باتیں ہیں بشرطیکہ تم اسے سمجھو (ان باتوں پر عمل کرنے سے) خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں بہشت کے لئے

(ایسے فرحت افزاء) باغ میں داخل کرے گا جس کے تلے نہریں پڑی رہ رہی ہیں۔ (اور اسی پر بس نہیں بلکہ) عمدہ عمدہ مکانات بہشت کے باغ میں (رہنے کو) تمہیں ملیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ (ان سب سے ایک اور بڑی نعمت جس کو تم بھی بڑی نعمت سمجھتے اور دوست رکھتے ہو ملے گی۔ یعنی خدا کی طرف سے تم کو مد ملے گی اور تم عقرب فتح یاب اور مظفر و منصور ہو گے۔ (اے محمد ﷺ) یہ خوشخبری مسلمانوں سے بیان کر دے اور انہیں بشارت دے دے۔ ﴿

والسلام مع التواضع والاکرام

ازرہ کین و تعصب دور شو

یک نظر از صدق کن معمور شو

بقلم ابوسعید محمد ولی الدین اشک بھا گلپوری پورینوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ!

محمد از تو می خواهم خدارا

الہی از توحب مصطفی را

الحمد لاهله والصلوة لاهلها

مجھے حیرت ہوئی ہے دیکھ کر القاء ربانی  
وہ باتیں ہیں لکھیں اس میں پتہ جن کا نہیں چلتا  
کہہ دیتی ہے خود تحریر میں حق سے مڑے ہوں  
عبارت اپنے مطلب کی جہاں پائی رقم کروئی  
طریقہ یہ نہیں دار کا سچے مسلمان کا  
غلط تحریر پر ایسی تعلق واہ رے جرات  
بھرم تھا قوم میں جو کچھ وہ اس تحریر نے کہہ دیا  
الہی درگزر فرما کہ تو غفار و رحمن ہے  
یہ حالت زار اپنے بھائی کی دیکھی نہیں جاتی  
تو ہی ہادی برحق ہے دکھا دے راہ حق ان کو  
طبیعت مضطرب ہے اشک کی تھم سے دعا یہ ہے

نہیں القاء ربانی یہ ہے اغواء شیطانی  
عیاں ہے غلط بحث سے مؤلف کی پریشانی  
دبائے سے کہیں دیتا ہے حضرت جوش نفسانی  
چھپا رکھا مگر حق کو بنا کر راز پنہانی  
طریقہ یہ مسیحی ہے عقیدہ ہے یہ نصرانی  
نہیں ہے نور دین کچھ بھی نہیں ہے آنکھ میں پانی  
ہوا کونوں سے مل کر آہ حیرہ لعل ربانی  
حیرے بندے ہیں بندے سے بہت ہوتی ہے مٹانی  
تجلی پر خوب روشن ہے میرے دل کی پریشانی  
کئی دل سے نکال ان کے ہٹا دے ان کو نورانی  
بہت بگڑے سب نہال ان کو دکھا اپنی درخشانی

معزز ناظرین! فیصلہ آسانی کے مبارک اور حقانی فیصلہ کے جواب میں تقریباً ڈیڑھ برس کی جان توڑ کوشش اور مرزائی جماعت کے ایک جانی اور اتحادی قوتوں سے بڑے غور و تدبر کے ساتھ ابھی ابھی ایک کتاب بنام ”القاء ربانی“ شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب اہل حق اور اہل علم حضرات کی نظر میں کیا وقعت رکھتی ہے اور اس میں کس قدر دانستہ فریب دہی اور دروغگوئی سے کام لیا گیا ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی کس رنگ میں تفسیر کی گئی ہے۔ صحابہ کرام ائمہ عظام کے پر مغز اور پر معنی محقق اور مدلل تقریروں سے کس درجہ علیحدگی اور خلاف ورزی اختیار کی گئی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان کل باتوں پر عقلاً اور نقلاً ایک تفصیلی کافی اور تسلی بخش بحث آپ اس رسالہ میں پائیں گے۔ نیز مؤلف القاء ربانی کے مفروضہ شمار کردہ غلطی میں بے شمار غلطیاں اور خدعات (دھوکہ دہی) ملاحظہ کریں گے مگر پہلے میں اس بات کو ثابت کرنا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ القاء ربانی قادیانی جماعت کی نظر میں کیا وقعت رکھتی ہے۔ کیونکہ جناب مرزا قادیانی کے دعوے اور ان کے اکثر کشف والہام میں ظہر اور بطن رہا کرتا ہے اگر حسن اتفاق سے پورا ہو گیا تو فیہا ورنہ پھولٹن سے کام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ استعارہ تھا، وہ کنایہ تھا۔ حقیقت اس کی کچھ اور ہی ہے غرض ایسا سچ سچ ہوتا ہے کہ محاذ اللہ محاذ اللہ بالکل مریض اصطلاح بطن کے التوائی کیفیت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ کیا عجب کہ اس مشن کے کوئی مقتدر اصحاب یوں کہہ دیں کہ القاء ربانی ایک معمولی شخص کے قلم سے نکلی ہے جماعت احمدیہ ان باتوں کی ذمہ دار نہیں۔

اس لئے میں آفتاب سے بھی زیادہ اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب یعنی القاء ربانی قادیانی جماعت کے ایک بڑے ریٹارمر اور قابل حضرت کے زور قلم اور برسوں کی دماغ سوزی کا نتیجہ ہے۔ وہ بھی بطیب خاطر انہیں بلکہ چارنا چار اپنے خلیفہ اسحٰب جناب حکیم نور الدین صاحب کے قبیل ارشاد نے مؤلف کو اس جان جو حکم میں ڈالا ہے۔ سنگ آمد و سخت آمد لا جواب بات کا جواب تو ہوتا ہی نہیں محض اپنی جماعت کی تفسی کے لئے چند سادے اور سفید اوراق کو سیاہ کر ڈالا اور ظاہر ہے کہ جب خلیفہ اسحٰب نے جواب لکھنے کے لئے مولوی صاحب کو خصوصیت کے ساتھ پسند کیا اور ان کو جواب لکھنے پر مامور فرمایا تو پھر ایسے شخص کا وزن جماعت احمدیہ میں کس قدر ہونا چاہئے اور وہ شخص کیسا متعز اور قابل ہوگا۔ اب ممکن تھا کہ یہ انتخاب جواب لکھنے کے بعد غلط ثابت ہوتا اور خلیفہ اسحٰب کے دربار میں جو کچھ مؤلف القاء ربانی نے جواباً لکھا ہے وہ مقبول نہ ہوتا تو بھی القاء ربانی کا وزن جاتا رہتا اس لئے یہ دکھانا بھی نہایت ہی ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ نے القاء ربانی کو اشاعت کے بعد کس نظر سے دیکھا الہد قادیان کا ایک مشہور اور مستند اخبار ہے جو ہر

ہفتہ مسیحی دارالسلطنت قادیان سے شائع ہوتا ہے اور ریو پبلیشرز دنیا کے مذاہب پر نظر کرنے والا قادیانوں کا مخصوص رسالہ ہے دونوں کے اہم اور مخصوص مضامین اکثر جناب حکیم نور الدین صاحب کی نظر سے گزر کر نکلتے ہیں اور ان کے محررہ احکامات کی تعمیل ہر قادیانی پر فرض ہوتی ہے غرض دونوں کی آواز جماعت قادیانیہ کی حقیقتاً آواز ہے۔ ایسے باوقعت اخبار اور پر شوکت رسالے کے مقتدر ایڈیٹر مفتی محمد صادق اور مولوی محمد علی نے القاء ربانی پر اس الفاظ سے ریو پبلیشرز کو کیا ہے۔

القارحمانی بہ تردید فیصلہ ابو احمد رحمانی

”ابو احمد رحمانی کوئی صاحب بنگال میں ہیں۔ جو کہ سلسلہ حقہ (قادیانیت) کی مخالف میں بڑے جو شیلے ہیں اور کئی ایک رسالے چھاپ کر شائع کر چکے ہیں ان کی تحریروں میں پراگندہ اقوال غلط استدلال اور کذب اور افترا کو پبلک پر ظاہر کرنے کے واسطے ہمارے مکرم حضرت مولانا مولوی ابوالجہد محمد عبدالماجد صاحب پروفیسر عربی و فارسی۔ ٹی ان جو ملی کالج بھاگلپور نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جو مولوی صاحب موصوف سے اور دفتر تحفید الاذہان سے تقسیم چھپ آندی نسیل سکتی ہے۔ احباب منگوا کر شائع کریں اور بالخصوص اس علاقہ کے لوگوں میں مفت تقسیم کر دیں۔“

(منقول از اخبار لہد ر قادیان ۱۳۰۶ء نومبر ۱۹۱۳ء)

ریو پبلیشرز کتاب القادیانی

”علامہ محمد عبدالماجد صاحب پروفیسر ٹی۔ ان جو ملی کالج کی محنت شاقہ کی تصنیف ہے

۱۔ حکیم ظلیل احمد صاحب برق آسانی کے ص ۲۱ میں جھنجھلا کر لکھتے ہیں: ”سلسلہ عالیہ احمدیہ کے مخالفین سن لیں کہ میں مسلمان ہوں سنت و الجماعت ہوں سارے آئمہ اور سارے اولیا و صلحا کو مانتا ہوں اور اپنے کو تمبر کے لئے احمدی کہتا ہوں۔ اگر آئندہ سے مجھ کو سوائے احمدی یا ہماری جماعت کے لوگوں کو سوائے جماعت احمدیہ کے مرزائی۔ کادیانی۔ قادیانی۔ کرشن۔ چنتھی وغیرہ جیسے الفاظ سے مخاطب کیا تو میں بھی ہمیشہ وہابی۔ نجدی۔ کوئی۔ دیوبندی۔ کی کورانہ تقلید کی وجہ سے دیوبانسی۔ خرز جیوٹی۔ گنگاوتی۔ سورحدیانی وغیرہ جیسے الفاظ سے مخاطب کروں گا۔“

حکیم ظلیل احمد صاحب! اگر آپ سچے ہیں اور آپ کی زبان ایک مسلمان کی زبان ہے تو رانہ تقلید۔ تقلید آپ کا شیوہ نہیں۔ دروغ گوئی آپ کا شعار نہیں۔ کبھی سے نفرت صاف گوئی سے آپ کو الفت ہے۔ آپ کا دل عورتوں کی طرح کمزور نہیں آپ صور تار نہیں بلکہ سیرۃ بھی آپ مرد ہیں تو بسم اللہ جو کہا ہے کر کے دیکھائیے۔ غضب خدا کا آپ کے گھر کا بھیدی بر ملا آپ کے ایک محترم بزرگ کی توہین کر رہا ہے۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

علامہ موصوف کا نام نامی کتاب کی خوبیوں کی کافی شہادت ہے۔ علامہ موصوف کا نام نامی تھا ویسا ہی روکیا ہے۔ احمدی احباب خصوصاً علاقہ بھاگلپور کے لئے بوقت ضرورت کام آنے والی رہنما ہے۔ مخالف کے لئے اس میں تسکین ہے خوبی یہ ہے کہ متانت اور تہذیب کا کما حقہ لحاظ رکھا ہے جس کے لئے دل سے دعا نکلتی ہے۔ حوالجات کو بہ کمال وضاحت دکھا دیا ہے۔ خدا کرے سلیم دلوں کے لئے باعث رہنمائی ہو۔ مصنف ماجور عند اللہ ہے خوب ہی مدلل لکھا ہے۔ محنت۔ کاغذ۔ لکھائی۔ چھپائی۔ ضخامت کے مقابل قیمت ۶ آنے بہت حد تک واجب ہے۔ طے کا پتہ منیجر تحفید الاذہان قادیان۔

(منقول از ریویو آف ریلیجز بائبل ماہ نومبر ۱۹۱۳ء)

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) اور اس پیارے نام القاء ربانی کو خراب سمجھ کر اس کی مٹی پلید کر کے بڑے جوش سے القاء ربانی کو کتاب القادیانی لکھ رہا ہے۔ بس برس پڑیے۔ یہی وقت ہے۔ دل میں غبار رکھنا مسلمان کا کام نہیں۔ اپنے اندرونی طیش سے ایڈیٹر موصوف کا باطنی تفسیر کر دیجئے ذرا انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ احمدی کو قادیانی لکھنے والے کی کیسی درگت ہوتی ہے۔ آپ تو آپ مجھے بھی ایسے ناپاک نام سے سخت نفرت ہے۔ جماعت احمدیہ پر ایسی گہری پھبتی اب تک کسی نے تصنیف نہیں کی تھی۔ میں خود ایڈیٹر موصوف سے پوچھتا ہوں کہ حضرت آپ نے ایک بہاری احمدی کی کتاب کو ”کتاب القادیانی“ کیوں لکھ مارا اور ہاں جناب حکیم ظلیل احمد صاحب آپ جو کچھ تادیبا انہیں برا بھلا لکھیں چھاپ کر بھیجوادیں جزاء سیفۃ مثلھا پوری گوشالی جب ہی ہوگی۔ شاید ناداری کی وجہ سے آپ ایسا نہ کر سکیں تو کم سے کم اس زجرہ توبیح کی ایک کاپی میرے پاس ضرور بھیج دیں تاکہ میری بھی تشفی ہو اور آپ بھی بات کے حتمی ثابت ہوں۔ نہیں تو آئے دن آپ کی جماعت کو نیز آپ کو نئے نئے خطابات سے وہ یاد کرتے رہیں گے۔ پھر کچھ کرتے دھرتے بن پڑے گی۔ مگر یہ رابرو زاوول بایسد کشت۔ ہاں ایک بات اور اپنے مذاق کے مناسب سمجھئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی چار لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ان چار میں سے دو لفظ مرزا غلام۔ جس سے مرزا صاحب کا نام متعین اور شخص ہوا ہے ان سے آپ بھاگتے ہیں اور اتنا اسے برا جانتے ہیں کہ اس کی نسبت سے بھی آپ کو شرم آتی ہے اور آخر کا لفظ قادیانی جو سکونت کی خبر دیتا ہو کہ اس سے بھی آپ بیزار ہیں نفرت کرتے ہیں۔ رہا لفظ احمد کہ جو مسلمانوں کے اکثر نام میں رہا کرتا ہے اور جو باعتبار سمیت مشترک لفظ ہو کوئی خصوصیت مرزا صاحب کے ساتھ اس مبارک اور پر نور لفظ کو نہیں۔ سر سید احمد کی جماعت کو بھی جماعت احمدیہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسے حبرک نام سے اپنی جماعت کو منسوب کرنے کی آپ تاکید کر رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اگر واقعی آپ کے نزدیک نہایت ہی برے الفاظ ہیں۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

غور کیجئے کس قدر عمدہ اور مستقیم بالشان ایک نہیں دو دو یو یو ہے اور القاء ربانی کا وزن جماعت قادیانیہ کی نظر میں کس قدر با وقعت اور پر شوکت ہے ساری جماعت قادیانی اس کتاب پر ناز کرتی اور تالی بجاتی ہے اب اس کتاب کے خدعات اور شیطانیات ملاحظہ کیجئے اور قدرت حق کا تماشا دیکھئے۔

چہ دلا ورست دزدے کہ بکف چراغ دارد

..... فریب

مؤلف القاء ربانی نے ناظرین سے انٹرو یوس کرنے کے بعد فیصلہ آسانی کے جواب میں تمہیداً کے جواب میں تمہیداً جو تحریر شروع کی ہے۔ خدا کی قدرت کہ اس کی پہلے ہی سطر میں دروغ بیانی سے کام لے کر تحریر کرتے ہیں۔ ”ایک اشتہار بھی مصنف (فیصلہ آسانی) کا جو کسی درہنگی مرید کے نام سے شائع ہوا ہے دیکھا“ مؤلف القاء ربانی ذرا سوچ کر جواب مرحمت فرمائیں کہ اس اشتہار کو جسے جناب ابراہیم حسین خان صاحب درہنگوی نے شائع کیا ہے کیونکر اسے علامہ مصنف فیصلہ آسانی کا اشتہار قرار دیتے ہیں۔ اشتہار کے اندر کوئی سطر کوئی جملہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ گمان بھی ہو سکتا ہو کہ یہ اشتہار علامہ مصنف فیصلہ آسانی کا اشتہار ہے ہاں المرء یقیس علی نفسه کے رو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ القاء ربانی کا مسودہ غالباً خلیفۃ المسیح کے قلم سے طیار ہوا ہے اور شاید کیا یقینی اسے مؤلف القاء ربانی نے اپنے نام سے شائع کر دیا جب ہی تو اس اردو تحریر کے اندر تذکیر اور تانیف اور اردو محاورہ کے تعظیم میں غلطی واقع ہوئی ہے بے چارے پنجابی کو اردو محاورہ کی کیا خبر حقیقت حال یہ ہے اس لئے اپنے ہی طرح مؤلف نے اردو کو بھی تصور کر لیا ہے۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ) اور سچ میں آپکو اس سے نفرت ہے تو غلامی سے الگ ہو جائے۔ سید ابوالاحمد رحمانی سے تو آپکو مرہمیں لگیں اور غلام احمد سے ٹھنڈک پڑے آسانی فیصلہ پر آپ برق ڈالیں اور شیطانی فیصلہ کو موجب نجات تصور کریں عجیب افتاد طبیعت اور نرالی فہم ہے۔ ورنہ صداقت کو مد نظر رکھتے تو قادیانی یا مرزائی یہی دو خطاب آپکی جماعت کیلئے موزوں ہیں۔ جب تو ایڈیٹر یو یو آف ریلینجز قادیان نے ”کتاب القادیانی“ لکھا۔ ان کی بات آپ کو بری نہیں لگی۔ کیوں جناب آپکی جماعت میں سے کوئی شخص آپ کے ساتھ تازہ بہ حرکت کرے تو وہ روا، اور آپ ہی کی جماعت سے سن کر میں وہ بات کروں تو بیخ پکار ہوں۔

ہم جو کچھ بولیں تو کہلائیں سٹری کان کی بات سے مرغل ٹھہرے  
جس کو تم چاہو چڑھا لو سر پر ورنہ یوں دوش پہ کاکل ٹھہری



گر خدا خواهد کہ پردہ کس درد  
میلش اندر طعنہ پلکان برد  
۲..... فریب

پھر مولف القاء ربانی تحریر کرتے ہیں یہ کہ مصنف (فیصلہ آسانی) نے مثل اور مکذبین سلسلہ کے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کو صریح خدا اور رسول پر افتراء کرنے والا قرار دے کر عوام کو خوش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ "علامہ مصنف فیصلہ آسانی نے آیات قرآنیہ احادیث نبویہ اور دلائل عقلیہ سے نہایت محققانہ طور پر منکوحہ آسانی والی پشتگونی پر روشنی ڈالی ہے اور وہی شیوہ اختیار کیا ہے جو راستی اور حق طلبی کا شیوہ ہے۔ علامہ کی روش بالکل ہی سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سی ہے اور انہوں نے یہ تحریر عوام کے خوش کرنے کو نہیں لکھی ہے بلکہ اس کے اول مخاطب جماعت قادیان کے خلیفہ اسحٰق حکیم الامت جناب حکیم مولوی نور الدین قادیانی ہیں اگرچہ کتاب فیصلہ آسانی عام فہم ہونے کے خیال سے اردو زبان میں شائع کی گئی۔ مگر اس میں وہ وہ معارف اور نکات بیان کئے گئے ہیں۔ جسے عوام الناس اچھی طرح سمجھ بھی نہیں سکتے، اصل مقصود علامہ مصنف کا اس فیصلہ سے اہل علم کی تفہیم ہے۔ جب تو خلیفہ اسحٰق رخ بیخ ہو کر اور اپنا پہلو بچا کر جواب لکھنے کے لئے اپنے گروہ کے ایک مقتدر عالم کو مامور کرتے ہیں مولف القاء ربانی کے جوش نفسانی پر تعجب ہے کہ وہ اپنے خلیفہ اسحٰق کے ارشاد کو بھی عامیانہ ارشاد سمجھتے ہیں اگر ذرا بھی تدبیر سے کام لیتے تو اس ارشاد کی باریکی اور علامہ مصنف کی قابل قدر علمی گفتگو کی راستی آپ پر اظہار من الغش ہو جاتی یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص جہل مرکب کو علم سمجھ کر کج فہمی سے کام لے اور سائل کی خوبی کو پس پشت ڈال دینے۔ مولف القاء ربانی (ضمیمہ انجام آہتمم کا ص ۵۲، خزائن ج ۱۱ ص ۲۳۸) ملاحظہ فرمائیں جناب مرزا قادیانی خود تحریر کر گئے ہیں۔ "یاد رکھو اس پیش گوئی کی دوسری خبر پوری نہ ہوئی (یعنی احمد بیک کا داماد میرے سامنے نہ مرا) تو میں ہر ایک بد سے بدتر ظہروں گا۔ اے استغویہ انسان کا افتراء نہیں۔ یہ کسی غیبت مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔" پھر اسی (انجام آہتمم کا ص ۲۳۳، خزائن ج ۱۱ ص ۲۳۳) ملاحظہ ہو۔

یہاں یوں تحریر کرتے ہیں کہ: "اصل امر بر حال خود قائم است  
وہیچکس با حیلہ خود اورا ردنتوان کرد واین تقدیر از خدائے بزرگ  
تقدیر مبرم است و عنقریب وقت آن خواهد آمد پس قسم آن خدائیکہ  
حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ما مبعوث فرمود اورا بہتر از مخلوقات

گردانید کہ ایس حق است و عنقریب خواہی دیدہ و من این را برائے صدق خود یا کذب خود میعارمی گردانم و من نگفتم الا بعد زانکہ از رب خود خبر دادہ شد“ جناب مرزا قادیانی خود ہی اس زور و شور سے اس پیش گوئی کو اپنے صدق اور کذب کا معیار قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ: ”اگر یہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو مجھے کاذب اور ہر بد سے بدتر سمجھو۔“ اب مرزا قادیانی ہی کے توجہ دلانے سے ایک راست گفتار اور پاکباز انسان جو علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں بھی محتاج شناسائی نہ ہو، وہ اس الہام پر غور و تدبر سے نظر فرمائے اور اس پیش گوئی کے پوری نہ ہونے پر اور بالبداہت غلط ہو جانے پر یہ کہہ دے کہ مرزا قادیانی اپنے اقرار کے بموجب کاذب اور ہر بد سے بدتر ٹھہرے تو یہ اس کی خطا سمجھی جائے گی یا احقاق حق؟

علامہ مصنف نے خود کوئی فیصلہ اپنی جانب سے نہیں کیا بلکہ جناب مرزا قادیانی کے میعاد مقرر کردہ کو صفائی کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مثلاً یوں تصور کیجئے کہ ایک شخص مجمع عام میں یہ دعویٰ کرے کہ کل آفتاب غیر طبعی طریقہ سے مغرب سے طلوع ہوگا کہ اگر ایسا نہ ہو اور کل آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو تو میں کاذب اور ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ لوگوں نے اس دعوے کو استعجاب سے سنا خدا خدا کر کے دن ختم ہوا۔ رات گزری صبح ہوتے ہی مغرب کی جانب لوگوں کی کٹنگلی لگ گئی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لوگ دیکھنے لگے۔ مگر آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہوا۔ بلکہ اپنے مقررہ مطلع یعنی جانب مشرق سے برآمد ہوا۔ لوگوں نے اس کاذب مدعی کی دھڑکناڑ کی اور ڈٹکنے کی چوٹ سے اسے یہ سنا دیا کہ تو اپنے اقرار کے بموجب کاذب اور ہر بد سے بدتر ٹھہرا تو کیا آپ کے نزدیک ایسا فیصلہ منصفانہ فیصلہ نہ ہوگا اور کیا ایسے گروہ کو بھی آپ ملذب ہی کے نام سے یاد کریں گے۔ اور کیا منصفانہ فیصلہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو اور مشرق ہی سے نکلے تاہم ایسے مدعی کو محض اس کے زبانی دعویٰ پر صادق ہونے کی ڈگری دے دینی چاہئے؟ فافہم و تدبر فانہ دقیق!

۳..... فریب

مؤلف القاء ربانی تحریر کرتے ہیں کہ: ”ایسے شبہات کا ازالہ خود حضور مغفور (مرزا قادیانی آنجمانی) نے اپنے قلم سے اور دیگر خادمان سلسلہ نے بہت کچھ کیا ہے میں نے کتاب کو قابل التفات نہیں سمجھا مگر اشتہار کے متکبرانہ دعوے نے پھر مجھ کو متوجہ کیا کہ میں اس کو بخور دیکھوں۔“ اگر یہی غور و تدبر ہے تو خدا حافظ۔ دیانت اور حق پسندی کو مد نظر فرما کر (انجام آہستم

ص ۲۱۶، خزائن ج ۱۱ ص ۲۱۶) میں مرزا قادیانی کا عربی الہام محدثہ ترجمہ قاری درج ہے جس میں حرید سہولت کے لئے لفظ بلفظ سے یہاں نقل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے: ”قال كذبوا بآياتي وكانوا بها مستهزئين فسيفيكفكم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد فاشار في لفظ فسيفيكفكم الله الى انه يرد بنت احمد اني بعد اهلاك المانعين وكان اصل المقصود الاهلاك وتعلم انه هو الملاك واما تزويجها اياك بعد اهلاك الها لكين والها لكات فهو لا عظام الاية في عيني المخلوقات“

﴿گفت این مردم مکذب آیات من هستند وبدانها استهزای کنند من ایشان را نشانے خواهم نمود و برائے تو این همه را کفایت خواهم شد و آن زن را کہ زن احمد بیگ دختر ست باز بسوئے تو واپس خواهم آورد یعنی چونکہ او از قبیلہ بیاعث نکاح اجنبی (مراد از شوہر محمدی بیگم) بیرون شدہ باز بتقریب نکاح تو (مراد مرزا قادیانی) بسوئے قبیلہ رد کردہ خواہد شد در کلمات خدا وعدہائے او ہیچکس تبدیل نتوارد کرد و خدائے تو ہر چہ خواہد آن امر بہر حالت شدنی ست ممکن نیست کہ در معرض التواء بماند پس خدائے تعالیٰ بلفظ فسيفيكفكم الله بسوئے این امر اشارہ کرد کہ او دختر احمد بیگ را بعد میرا نیدن مانعان بسوئے من واپس خواہد کرد۔ و اصل مقصود میرا نیدن بود تو میدانے کہ ملاک این امر میرا نیدن ست و بس﴾

اس الہام میں ”یردها اليك لا تبديل لكلمات الله يرد بنت احمداني بعد اهلاك المانعين“ کے وسیع معنی پر نظر فرمائیے یعنی اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس لڑکی محمدی بیگم کو تیرے نکاح میں ضرور لائیں گے اور جو لوگ اس نکاح میں رخنہ انداز ہیں اور جن کی وجہ سے اب تک یہ الہام پورا نہیں ہوا اور تیری آرزو نہیں آئی ان سب موانع کو دور کر دیں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے یہ خدا کی بات ہے اور خدا کی باتیں بدلتی نہیں۔ محمدی بیگم کو میرے نکاح میں آنا ضرور ہے اور ضرور ایسا ہو کر رہے گا اس الہام کی صحیح معنی دلہا دلہن یعنی مرزا قادیانی اور محمدی بیگم کی حیات تک ہی باقی رہتی ہے۔

مرزا قادیانی کی وفات سے ایک گھنٹہ پہلے کیا ایک منٹ پہلے بھی کوئی شخص دوست ہو یا دشمن، شتی ہو یا سعید اس کے دل میں یہ خدشہ نہیں گزر سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ عظیم الشان الہام پورا نہ ہو کیونکہ مرزا قادیانی حیات تھے بلکہ اپنی طبعی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ محمدی بیگم بھی ماشاء اللہ اپنے حسن دل آویز کے ساتھ صحبتی جاتی، صحیح و سالم اپنے شوہر کے گھر بیٹے مرزا قادیانی مرد اجنبی سے تعبیر کرتے ہیں پھول پھل رہی تھی، پھر معلوم نہیں کہ مؤلف القاء ربانی کس نامعلوم معترض کو قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کونسا جواب ایسے اعتراض کا خود حضور مغفور۔ (مرزا قادیانی) نے اپنے قلم سے اور دیگر خادمان سلسلہ نے دیا ہے۔ جب اعتراض ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو جواب کیسا؟ یہ بالکل سفید جھوٹ اور دیدہ و دانستہ فریب دہی ہے۔ این کسار از تو آید و مردان چنیں کنند!

۴..... فریب

مؤلف القاء ربانی تحریر کرتے ہیں کہ: ”بعض دوسرے دوست بھی جنہوں نے اس کتاب (فیصلہ آسانی) کو پڑھا تھا مجھے باور کرانے کی کوشش کی کہ اس کے مصنف مولوی سید محمد علی صاحب کانپوری ہیں یہ لوگ اگرچہ سلسلہ احمدیہ کے ممبر نہ تھے مگر ان لوگوں نے بوجہ علمی دستگاہ کے کتاب کے طرز استدلال کو محض سمجھ کر مجھے اس کے جواب لکھنے کی بھی فرمائش کی۔“

مؤلف القاء ربانی انظرالی قال ولا عظم علی من قال کے مسلم اور سترے دستور العمل کو نظر انداز فرما کر خواہ مخواہ کے الجھن میں گرفتار ہوئے، کام کی بات تو یہ تھی کہ فیصلہ آسانی کے طرز استدلال اور نفس مضامین کی جانچ پڑتال کرتے خیر ہر شخص کی سمجھ جدا ہوتی ہے شاید ان کے نزدیک اس کے انکشاف میں کوئی مصلحت مضمر ہو مگر یہ تو مسلم مسئلہ ہے کہ ہر دعویٰ کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔ مؤلف القاء ربانی کا یہ تحریر کرنا کہ: ”بعض دوسرے دوست جو اس سلسلہ کے ممبر نہ تھے کتاب (فیصلہ آسانی) کے طرز استدلال کو لغو سمجھا۔“

یہ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اگر اس کی اصلیت اور واقعیت تھی تو کیوں نہیں ایسے ایک بھی زعیلم حضرات کا نام واقعہ تحریر کے لئے دلیلا پیش فرمایا ہوتا کہ ہر طالب حق اس بات پر غور فرماتا اور اس سے بہت کچھ جماعت احمدیہ کو فائدہ پہنچتا۔ ایک دعویٰ قوم کے سامنے پیش کر کے دلیل سے گریز کرنی یہ کوئی عقلمندی اور حق پسندی ہے جن کو خدا نے محض اپنے فضل سے علمی دستگاہ مرحمت فرمائی ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ہماری اس تحریر پر غور فرمائیں۔ غالباً یہ بھی منجملہ خدمات

کے ایک خدع ہے کیا خوب خود را نصیحت دے دیکرے را نصیحت اگر واقعی اس کا جواب لکھنا لغو تھا تو پھر جناب خلیفۃ المسیح نے کیوں اس لٹوکام پر آپ کو مامور فرمایا۔ فیصلہ آسانی کے قوی دلائل کی ایک کھلی اور بین شہادت ہے۔

۵، ۶، ۷..... فریب

مؤلف القاء ربانی نے فیصلہ آسانی کے نفس اور اصل مضامین کے رد میں بزم باطل جو تمہید کی تمہید لکھی ہے اس کی بڑی بڑی فاش غلطیاں اور دروغ بیانیوں کو میں ناظرین کے سامنے پیش کر کے اصل تمہید پر تنقیدی نظر ڈالتا ہوں مبارک ہیں وہ جنہیں خدا نے ہم سلیم عطا فرمایا ہے اور جن کا شعرا راستی اور حق طلبی ہے۔ سچی باتوں کو ہر وقت مان لینے کے لئے تیار اور جھوٹی باتوں سے بیزار ہیں ایسے پاک نفس حضرات نہایت غور سے خالی الذہن ہو کر ذیل کی تحریر کو غور سے پڑھیں۔

اصل تمہید کو مؤلف القاء ربانی نے ذیل کی تحریر سے شروع کیا ہے اور یوں تحریر کرتے ہیں۔ ”ناظرین قبل اس کے کہ ہم ابو احمد صاحب کے فیصلہ کی تردید کریں حضرت مجدد الف ثانی کے کلام سے آپ کی توجہ ایک ایسے امر کی طرف دلانا چاہتے ہیں جس سے آپ کو حقیقت کے تہ تک پہنچنے میں بڑی مدد ملے گی اور مصنف فیصلہ اور دوسرے ان سے بڑے عالم اس وقت حضرت مسیح موعود مہدی مسعود مرزا غلام احمد قادیانی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو زیادہ حیرت ہوگی اور حق کے ماننے میں یہ لوگ حجاب واقع نہ ہوں گے۔ ہاں وہ امر یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب تو ان لوگوں کے خیال میں اپنے دعوے میں غلطی پر ہیں۔ مگر اس پر کیا دٹوق ہے کہ جس مسیح اور مہدی کے یہ لوگ منتظر ہیں۔ اس کو یہ لوگ مان لیں گے۔ سنئے اور خوف خدا کو دل میں رک کر غور فرمائیے۔“

”نزديك است كه علمائے ظواہر مجتہدات اور اعلیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام از کمال دقت غموض ماخذ انکار نمایند و مخالف کتاب سنت دانند (ص ۱۷۰ مکتوب ہجوادہ پنجم جلد ثانی)“ ﴿نزديك ہے کہ علمائے ظواہر حضرت عیسیٰ کے اجتہادی مسائل کو بوجہ باریک اور دقیق ماخذ ہونے کے انکار کریں گے اور مخالف کتاب سنت کہیں گے۔﴾

”ہم منقول است کہ حضرت مہدی در زمان سلطنت خود چون ترویج دین نماید و احیائی سنت فرماید عالم مدینہ کہ عادت بعمل بدعت

گرفته بود آن را حسن پنداشته ملحق بدین ساختہ از تعجب گوید کہ ابن مرد رفع دین مانمودہ و امانت ملت مافرمودہ ص ۱۲۸ (کتب دومرد و پنجاہ جلد اول) ﴿یہ بھی منقول ہے کہ حضرت مہدی اپنے زمانہ سلطنت میں جب دین کی ترویج کریں گے اور احیائے سنت فرمائیں گے۔ مدینہ طیبہ کا ایک عالم کہ بدعت کا عامل ہوگا اور اس کو حسن سمجھ کر دین میں ملحق کئے ہوگا۔ تعجب سے کہے گا کہ یہ شخص یعنی امام مہدی ہمارے دین اسلام کو خراب کرتا ہے اور ہمارے مذہب کو برباد کرتا ہے۔﴾

یہ ہیں تمہیدی مضامین جن سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں سب سے پہلی اور سب میں قوی اس تحریر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مؤلف القاء ربانی کے نزدیک حضرت مجدد الف ثانی ایک عالی شان مجدد اور بڑے صاحب فضل اور صاحب کشف تھے اور آپ کے مراسلات جو بنام مکتوبات امام ربانی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں وہ نہایت ہی محقق اور مدلل ہیں علی الخصوص وہ تحریریں جو مہدی مسعود مسجوعود کے نشانات اور آیات کے متعلق ہیں اور یہی ایک ایسی قابل قدر کتاب ہے جس کے مطالعہ سے انسان کو مسجوعود اور مہدی مسعود کی حقیقت کے تہ کی باریکی تک پہنچنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ دوسری بات اس تحریر سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ مسجوعود اور مہدی مسعود دونوں جدا جدا دو نہیں بلکہ دونوں خطاب ایک ہی محترم بزرگ کا ہے اور یہ بات خود مؤلف القاء ربانی کی مانی ہوئی بات ہے۔ میں کسی قضایا سے اس نتیجہ پر نہیں پہنچا ہوں۔ نہایت صاف اور کھلی ہوئی تحریر مؤلف القاء ربانی کی ہے لکھتے ہیں ”مصنف فیصلہ اور دوسرے ان سے بڑے عالم اس وقت حضرت مسجوعود و مہدی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی مخالفت کر رہے ہیں۔“ فرض مہدی مسعود مسجوعود دونوں ہی خطاب صرف ایک ہی شخص جناب مرزا غلام احمد صاحب کو مؤلف نے دیے ہیں تیسری بات یہ نکتی ہے کہ مکتوبات امام ربانی کے ذیل کی تحریر سے مؤلف کے نزدیک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب مرزا صاحب مہدی مسعود مسجوعود تھے اور مسجوعود کے بیشتر ایک عالم مدینہ جو محض بدعتی ہوگا۔ مہدی مسعود مسجوعود اپنی سلطنت کے زمانہ میں جب دین کی ترویج فرمائیں گے تو یہ شخص کہے گا کہ یہ ہم لوگ کے دین و دولت کو تباہ برباد کرتا ہے۔ علمائے علواہر اس کا انکار کریں گے۔ اب میں نہایت ہی وضاحت سے اس بات کو دکھانا چاہتا ہوں کہ واقعی حضرت مجدد الف ثانی نے جو نشانات مہدی مسعود مسجوعود کے بیان فرمائے ہیں وہ جناب مرزا غلام احمد صاحب میں پائے جاتے تھے یا نہیں؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ مہدی مسعود اور مسجوعود دونوں ایک

عی شخص ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اور ان نا فہموں کے جواب میں جناب مہدی علیہ السلام کا فرمان کیا ہوگا؟ مکتوب پنجاہ و پنجم جلد ثانی میں حضرت مجدد الف ثانی نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے جو احکام شریعت مستہبط ہوتے ہیں ان کی اقسام کو بیان فرمایا ہے اور ان کے مراتب کے متعلق فرماتے ہیں کہ نبی کے اجتہادین غلطی واقع نہیں ہو سکتی بلکہ بسو حسی قطعاً صواب محقق از خطائے مخطی متمیز میگذشت این باباطل ممتاز نمی ماند کہ تقریر و تشبیت مبنی بر خطا مجوز نیست۔ یعنی نبی مسائل اجتہادیہ میں خطا پر ہرگز قائم و برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس بحث کی تشریح فرماتے ہوئے منجملہ اور امثلہ کے ایک مثال یوں بیان فرماتے ہیں۔

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد از نزول کہ متابعت این شریعت خواهد نمود اتباع سنت آن سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام خواهد کرد و نسخ این شریعت مجوز نیست نزدیک ست کہ علمائے ظواہر ہر مجتہدات اور اعلیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام از کمال وقت و غموض ماخذ انکار نمایند و مخالف کتاب و سنت دانند“

﴿حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام جب آپ (دوبارہ) دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ بھی (حالانکہ آپ خود نبی ہوں گے) شریعت محمدیہ کی پیروی کریں گے اور (کوئی

۱۔ حضرت مجدد الف ثانی تحریر فرماتے ہیں کہ علمائے ظواہر ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادی مسائل میں بوجہ کمال دقت و غموض ماخذ انکار کریں مگر یہاں معاملہ بالکل عی برعکس ہے جتنے جہال اور دین کے ظلم سے بے بہرہ حضرات ہیں اور جنہیں دوسرے الفاظ میں علمائے ظواہر کہا جاتا ہے وہ مرزا قادیانی کو نا فہمی سے مسخ موعود مان رہے ہیں اور جتنے اکابر علماء اور مجدد وقت گزرے ہیں اور موجود ہیں سب مرزا قادیانی کے دعوے کو غلط بتا رہے ہیں۔ مثلاً قطب ہند حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قدس سرہ، جناب مولانا رشید احمد صاحب (گنگوہی)، جناب مولانا سید نذیر حسین صاحب محدث دہلی، جناب مولانا محمد لطف اللہ (علی گڑھی) صاحب اور کاظمین علمائے حرمین شریفین علمائے ظواہر میں داخل ہیں؟ ہرگز نہیں۔

مؤلف القاء ربانی علمائے ظواہر پر مکرر دیانت کو مد نظر رکھ کر غور فرمائیں اور اس عقائد باطلہ سے رجوع فرمائیں۔

بھی اجتہاد آپ کا ایسا نہ ہوگا) جس سے تلخ شریعت محمدیہ لازم آئے ممکن ہے کہ علمائے نطوہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادی مسائل پر بوجہ باریک اور دقیق ماخذ کے انکار کریں اور مخالف کتاب و سنت جائیں۔ ﴿

مسلمانو! ذرا انصاف سے کہنا خدا لگتی کہ مؤلف القادربانی نے کس طرح سے حضرت محمد الف ثانیؑ کے قول کو پیش کیا ہے۔ اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں جہاں ان کے اجتہاد کا وزن حضرت محمد الف ثانیؑ نے مثال دیکر بیان فرمایا ہے کہ مثل روح اللہ و مثل امام اعظم کو اس مثال کو بھی تحریر نہیں فرمایا اور مزید برآں جہاں کو خوش کرنے کے لئے عربی اور فارسی کے پروفیسر ہوتے ہوئے اس فارسی عبارت کا ترجمہ بھی غلط لکھ دیا اور اس ایک مختصر سے حوالہ میں تین دانستہ فریب دہی اور دروغ گوئی سے کام لیا ہے جس کے دل میں ذرا سا بھی نور ایمان اور کچھ بھی خشیت خداوندی ہو وہ ہرگز ایسا فریب جاتز نہیں رکھ سکتا۔ چہ جائے کہ مسیح موعود سے بیعت حاصل کر کے تاریکی کے زمانہ سے نکل کر نورانی زمانہ میں اپنے کو داخل سمجھتا ہو۔ اس دانستہ فریب دہی کی وجہ اعظم من الغمس ہے اگر راست گفتاری سے کام لیا جاتا تو ایسی ایک تحریر سے ساری حقیقت منکشف ہو جاتی اور یہ بات ہر انسان سمجھ جاتا کہ درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے انہی کے سر مسیح موعود کا مبارک تاج رکھا جائے گا اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر بحث ہی کا خاتمہ ہو گیا۔ مرزا غلام احمد صاحب ایک عام انسان کی ہستی میں نظر آنے لگے پھر الہام کیا اور اس کے صدق و کذب پر بحث کیسی؟ الغرض حضرت محمد الف ثانیؑ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور کا اجتہاد امام اعظمؑ جیسا ہوگا۔ چنانچہ آگے چل کر آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (جب دوبارہ)

”حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بعد از نزول مذهب امام ابی حنیفہ عمل خواہد کرد یعنی اجتہاد حضرت روح اللہ علیہ السلام موافق اجتہاد امام اعظم خواہد بود نہ آنکہ تقلید این مذهب خواہد کرد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کہ نشان او علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام از ان بلند تر هست“

﴿تشریف لائیں گے تو امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر آپ کا عمل ہوگا یعنی آپ کا اجتہاد امام ابوحنیفہؒ کے اجتہاد کے موافق ہوگا اگرچہ آپ ان کے مقلد نہ ہوں گے کیونکہ آپ کی شان (بوجہ نبی ہونے کے) اس سے بلند تر ہے۔ ﴿



اس تحریر میں ایک جگہ مجدد صاحبؒ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تحریر فرمایا ہے اور اسی تحریر میں دوسری جگہ آپ نے روح اللہ کہہ کر یا دفرمایا جو کہیں بھی مسیح موعود کا لفظ ارقام نہیں فرمایا حالانکہ اس نام سے بھی وہی بات پیدا ہوتی یہ بھی ایک نہایت ہی لطیف اور باریک نکتہ ہے اور اس سے بھی صاف طور سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے نہ کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب الحاصل مجدد صاحب کے کلام سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادی مسائل امام ابوحنیفہؒ کے موافق ہوں گے اب ناظرین فیصلہ کریں کہ آیا مرزا صاحب کے مسائل بھی ایسے ہیں یا مرزا قادیانی نے امام صاحب سے مسائل میں اختلاف کیا ہے غرض کہ مجدد صاحب نے مسیح موعود کی جو علامت بیان فرمائی تھی ان کا امام صاحب سے اجتہاد میں متفق ہونا یہ علامت مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔ اس لئے مجدد صاحبؒ کی بھی تحریر کے موافق مرزا صاحب مسیح موعود ہرگز نہ تھے) اب ناظرین مکرر میرے ترجمہ کو غور سے پڑھیں ان پر ایک عجیب حقانیت اور محویت کا عالم طاری ہوگا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ نزدیک کا ترجمہ نزدیک ہی لکھ دینا اور انکار نمایندگان کا ترجمہ (انکار کریں گے) قرینہ کے خلاف تحریر کر کے مؤلف القاء ربانی نے جو کچھ عارضی تفسیری اپنی جماعت کو دی تھی اس کی کیسی قطع دہرید ہوئی۔ خلیفہ جی ملاحظہ فرمائیں۔

۸..... فریب

پہلے حوالہ کی جو حقیقت تھی وہ معلوم کرنے کے بعد دوسرے حوالہ پر نظر دوڑائیے خدا کی شان یہاں بھی وہی دانستہ فریب دہی اور مقررہ خدع ہے پوری عبارت یہاں بھی مؤلف القاء ربانی نے تحریر نہیں کی حوالہ بھی غلط دیا۔ مکتوب دو صد و پنجاہ و پنجم جلد اول ص ۲۷۸ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں:

”منقول است کہ حضرت مہدی در زمان سلطنت خود چون ترویج دین نماید و احیاء سنت فرماید عالم مدینہ کہ عادت بعمل بدعت گرفتہ بود و آرا حسن پندارستہ ملحق بدین ساختہ از تعجب گوید کہ اسین مرد دفع دین نامود و امانت ملت ما فرمود، حضرت مہدی امر یکشتن آن عالم فرماید و حسنہ اور اسمہ انکار و ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذوالفضل العظیم“

منقول ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے زمانہ سلطنت میں جب دین کی ترویج اور احیاء سنت فرمائیں گے۔ ایک (نافہم) عالم مدینہ جو بدعت کو حسن سمجھ کر اپنے دین میں ملحق کر کے اس پر عمل کرتا ہوگا۔ تعجب سے کہے گا کہ یہ شخص میرے دین اور ملت کو برباد کرتا ہے۔ (جب

حضرت مہدی علیہ السلام کو اس کی حالت کی خبر ہوگی) آپ اس نا فہم عالم کے قتل کرنے کا فرمان جاری فرمائیں گے اور جس برے عمل کو (اپنی نا فہمی سے) اس نے اچھا سمجھ رکھا تھا۔ اس کی برائی لوگوں پر ظاہر کر دیں گے۔ ایسا مہتمم بالشان فضل اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنے فضل کو جسے چاہے عطا فرمائے۔ حقیقت میں وہ بڑا ہی صاحب فضل ہے۔

اس مکتوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام بادشاہ وقت ہوں گے اور ان کی ایک مستقل سلطنت ہوگی اور آپ ہی کے شاہی فرمان سے عالم کا نظم و نسق ہوگا۔ آپ عاقبت درجہ کے متبع سنت ہوں گے اور احیائے سنت فرمائیں گے۔ مدینہ طیبہ کا ایک بدعتی کج فہم عالم ان کے درپے تخریب ہوگا اور لوگوں کو بہکائے گا اور کہے گا کہ یہ شخص اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے میرے دین کو خراب و برباد کرنا چاہتا ہے مگر اس نا فہم عالم کا اقتدار حضرت مہدی علیہ السلام کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے فتنہ و شر سے مخلوق خدا کو محفوظ رکھنے کے لئے حضرت مہدی علیہ السلام یہ فرمان جاری فرمائیں گے کہ اس بیہودہ نا فہم عالم کو قتل کر ڈالو۔

یہ مہتمم بالشان واقعہ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ مؤلف القاء ربانی مجدد صاحب کی اس تحریر سے مرزا غلام احمد صاحب کو جو ایک معمولی انسان تھے بادشاہ وقت اور مہدی قرار دینا چاہتے ہیں اور بزرگم بطل خود پہلے حوالہ سے مرزا غلام احمد صاحب کو مسجح موعود ثابت کر چکے ہیں اور یوں دونوں خطاب مسجح موعود اور مہدی مسعود کا مرزا غلام احمد صاحب کو عطا فرماتے ہیں جنہیں میں اچھی طرح دکھا چکا ہوں کہ یہ بالکل فریب دہی اور نری جہالت ہے شاید کوئی جاہل اس دام تزدیر میں آجائے تو آجائے ورنہ ایک معمولی فہم کا آدمی بھی بھولے سے کبھی اس تحریر سے یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس تحریر سے مرزا غلام احمد قادیانی مسجح موعود مہدی مسعود ٹھہرنے بلکہ ہر ایک شخص ایک ادنیٰ غور فکر سے اس حقیقت کی تک نہایت آسانی سے پہنچ جائے گا کہ اسی ایک مکتوب سے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ مسجح موعود و مہدی مسعود کی غلطی ظاہر ہوگئی کیونکہ حضرت مجدد الف ثانی کے صرف اسی مکتوب سے یہ تین باتیں صاف طریقہ سے ظاہر ہوتی ہیں (۱) مہدی علیہ السلام کی ایک مستقل سلطنت ہوگی وہ بادشاہ وقت ہوں گے (۲) مدینہ طیبہ کا ایک بدعتی عالم ان کی ترویج دین کو برا سمجھے گا۔ (۳) حضرت مہدی اس کے قتل کا فرمان جاری فرمائیں گے۔ ان تین باتوں میں سے ایک بات بھی مرزا غلام احمد قادیانی میں پائی نہیں جاتی سلطنت تو ایک بڑی چیز ہے ایک خود مختاری نہیں بلکہ ایک غیر اختیاری ریاست کی باگ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی پھر

جب سلطنت ہی حاصل نہیں تھی تو یہ اپنے سلطنت کے زمانہ میں ترویج دین کیا خاک کریں گے؟ اور کون سے مدینہ طیبہ کے عالم کے قتل کا فرمان جاری کریں گے؟ کہاں وہ مدینہ طیبہ کا بدعتی عالم ان کے حکم سے قتل کیا گیا اللہ اللہ یہ کس قدر فریب دہی اور سفیہانہ دلیری مولف القاء ربانی کی ہے انہوں نے دانستہ ناحق کوشی اور حق پوشی کا شیوہ اختیار کیا ہے اور مجدد الف ثانی کے مکتوب میں سے جتنی عبارت پر میں نے خط دیدیا ہے اسے چھپا رکھا ہے عالم ہو کر خدائی زجر سے بھی خشیت پیدا نہیں ہوتی ولا تکتموا الشهادة ویکتمها فانہ آثم قبلہ ارشاد خداوندی ہے اور جناب اس الہی فرمان کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ انا لله وانا الیہ راجعون!

زیادتی وضاحت نیز مزید بصارت کے لئے میں اور چند مکتوب سے حضرت مجدد الف ثانیؑ کے اقوال نقل کرتا ہوں۔ راسخی کے شیدائی اسے پڑھ کر مسرت حاصل کریں۔

”علامت قیامت کہ مخبر صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات از من خبر داده است حق است احتمال تخلف ندارد کہ طلوع آفتاب از جانب مغرب برخلاف عادت و ظہور حضرت مهدی علیہ الرضوان ونزول حضرت روح اللہ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام و خروج دجال و ظہور یاجوج و ماجوج و خروج دابة الارض ودخانہ کہ از آسمان پیدا شود و تمام مردم را فرو گیرد و عذاب دردناک کند مردم از اضطراب گویند اے پروردگار۔ این عذاب را از ما درکن کہ ما ایمان می آریم و آخر علامات آتش هست کہ از عدن خیزد و جماعت از نادانی گمان کنند شخصی را کہ دعویٰ مهدویت نموده بود از اہل ہند مهدی موعود بوده است پس بزعم اینہا مهدی گذشتہ است وفوت شدہ ونشان سید ہند کہ قبرش در فرامست درواحدیث صحاح کہ بحد شہرت بلکہ بحد تواتر معنی رسیدہ اند تکذیب ابن طائفہ است چہ آن سرور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام مهدی را علامات فرمودہ هست در احدیث کہ در حق آن شخص کہ معتقد ایشان است آن علامات مفقود اند در حدیث نبوی آمدہ است علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کہ مهدی موعود بیرون آید و بر سر روی پارہ ابر کہ بود در ابر فرشتہ باشد کہ ندا کند کہ این شخص مهدی است اور امتابعت

کنید و فرمودہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام کہ تمام زمین را مالک شدند چارکس دوکس از مومنان و دوکس از کافران ذوالقرنین و سلیمان از مومنان و نمرود و بخت نصر از کافران مالک خواهد شد آن زمین را شخص پنجم از اہل بیت من یعنی مہدی و فرمودہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام دنیا نرود تا آنکہ بعث کند خدائے تعالیٰ مرد را از اہل بیت من کہ نام او موافق نام من بود و نام پدر او موافق نام پدر من باشد پس ہر سلاطین و زمین دابداد و عدل چنانچہ پر شدہ بود بجور و ظلم و در حدیث آمدہ است کہ اصحاب کھف اعوان مہدی خواہند بود و حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام در زمان بے نزول خواہد کردہ او موافقت خواہد کردیا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام در قتال دجال و در زمان ظہور سلطنت او در چہار دہم شہر رمضان کسوف شمس خواہد شد و در اوّل آن ماہ خسوف قمر بر خلاف حساب منجمان و بر خلاف عادت زمان بنظر انصاف باید دید کہ این علامات در آن شخص میت بودہ است یا نہ و علامات دیگر بسیار است کہ مخبر صادق فرمودہ است علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام“ (ج ۲ مکتوب شصت و ہفتم ص ۱۹۰)

رسول مقبول علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے جو علامت قیامت کی بیان فرمائی ہے اور آپ ﷺ سے جو کچھ مجھے ملی ہے ہرگز اس میں غلطی اور تکلف کا احتمال نہیں۔ یعنی آفتاب کا چہم سے طلوع ہونا، حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا، حضرت روح اللہ (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) کا نزول فرمانا، یا جوج ماجوج اور دلبہ الارض کا پایا جانا اور ایک ایسے دھواں کا آسمان سے پیدا ہونا جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے اور لوگ عذاب دردناک میں مبتلا ہو جائیں اور بڑی بے چینی سے خدا کے درگاہ میں زاری کریں کہ اے پروردگار یہ عذاب دردناک ہم لوگ سے دور فرما۔ ہم لوگ تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ کھجلی علامت آگ ہوگی جو عدنان سے پیدا ہوگی۔ ایک نادان جماعت گمان کرتی ہے کہ ہند میں مہدی علیہ الرضوان گذر کر چکے ہیں اور اس مہدی کی قبر فراموش ہے۔ مگر صحاح کی وہ حدیثیں جو حدیث شریعت بلکہ حدیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں اس فرقہ باطلہ (حامیان مہدی کا ذب) کی تکذیب کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو علامت مہدی موعود کی رسول

اللہ ﷻ نے بیان فرمائی وہ اس جھوٹے مہدی میں نہیں پائی جاتی۔ جس کے یہ لوگ معتقد ہیں اور کہتے ہیں کہ مہدی ہند میں پیدا ہو کر ناپید ہو گئے۔ حدیث نبوی میں مذکور ہے کہ مہدی موعود ظاہر ہوں گے اور ان کے سر پر ایک ککڑا ہوگا اور اس پر مہدی فرشتہ ہوگا اور یہ فرشتہ پکار پکار کر کہے گا کہ (اے دنیا کے لوگو) یہ شخص مہدی ہے۔ اس کی پیروی کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں اب تک صرف چار ہی شخص ایسے ہوئے ہیں جو تمام زمین کے مالک اور بادشاہ ہوئے۔ دو بادشاہ مسلمان گذرے ہیں۔ سلیمان اور ذوالقرنین اور دو کفار سے نمرود اور بخت نصر یہ چابڑے جلیل القدر بادشاہ ہوئے۔ تمام روئے زمین پر ان کی سلطنت تھی۔ ان چاروں کے علاوہ میرے اہل بیت سے ایک ایسا پانچواں شخص ہوگا جو تمام زمین کا مالک ہوگا اور وہی مہدی ہوگا۔ نیز فرمایا رسول مقبول ﷺ نے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی اور قیامت نہیں آسکتی۔ یہاں تک کہ ظاہر کرے خدا تعالیٰ ایک مرد کو میرے اہل بیت سے اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ یہ شخص زمین کو جو اس کے ظہور سے پہلے شرفساد سے بھری تھی۔ آشتی صلح اور انصاف سے بھر دے گا۔ حدیث نبوی میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے مددگار اصحاب کہف ہوں گے۔ اس مہدی علیہ الرضوان کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مہدی قتال دجال میں آپ کی موافقت کریں گے۔ مہدی کے ظہور سلطنت کے زمانہ میں برخلاف عادت زمان و بخلاف مناسبت نمجان چودہ رمضان شریف کو کسوف شمس ہوگا اور اقل ماہ رمضان شریف میں خسوف قمر ہوگا انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس فوت شدہ مہدی میں یہ علامت پائی جاتی ہے یا نہیں (نہیں اور ہرگز نہیں) ہاں اور بھی بہتر علامتیں خبر صادق کی تعلیمات نے بیان فرمائی ہیں۔

حضرت مجدد صاحب اس مکتوب میں علامت قیامت حدیث نبوی سے بیان فرماتے ہوئے مدعیان مسیح کا زب پر استہجاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے مہدی کی تکذیب کے لئے صحاح کی احادیث کافی ہیں حدیث نبوی میں مہدی کی علامتیں یہ ہیں۔ (۱) مہدی کے سر پر ایک ککڑا ہوگا اور مہدی فرشتہ ہوگا اور فرشتہ پکار پکار کر کہے گا کہ یہ شخص مہدی ہے اس کی اتباع کرو (۲) چار شخص تمام دنیا کے مالک اور بادشاہ ہوئے ہیں مہدی وہ پانچواں شخص ہوگا جو ساری دنیا کا مالک ہوگا اور دنیا کا کوئی حصہ بھی اس کی بادشاہت سے خالی نہیں ہوگا۔ (۳) مہدی دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ ساری دنیا میں سکھ اور امن پیدا ہو جائے گا (۴) نسبی علامت

ان کی یہ ہوگی کہ مہدی آل رسول اور فاطمہؑ کی اولاد سے ہوگا (۵) اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا (۴) اصحاب کہف اس کے مددگار ہوں گے (۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے زمانہ میں تشریف لادیں گے۔ (۸) دجال کے قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موافقت کریں گے (۹) مہدی کے ظہور سلطنت کے زمانہ میں برخلاف عادت زمان و برخلاف حساب مہمان چودہ رمضان المبارک کو سورج گرہن اور ازل ماہ میں چاند گرہن ہوگا۔

یہ نواب جلی اور روشن علامتیں حدیث نبوی سے بیان فرما کر حضرت مجدد صاحبؒ دریافت فرماتے ہیں کہ تمہارے فوت شدہ مہدی میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں آپ کے مکتوب میں یہ عبارت بنظر انصاف باید دید کہ این علامت دران شخص میت بودہ است یا نہ! کس قدر پاکیزہ ہے اور کیا حرف بحرف جماعت قادیانی پر صادق آتی ہے۔ میں بھی مجدد صاحبؒ کے سوال کو مؤلف القاء ربانی کے سامنے پیش کر کے دریافت کرتا ہوں کہ یہ علامتیں اور یہ نشانات باہرہ جو مجدد صاحب کے مکتوب میں حدیث نبوی مذکور ہیں اور جن کے مکتوب کو آپ مسلم الثبوت مان کر حقیقت مہدی میں جواباً پیش کرتے ہیں آپ کے جناب مرزا غلام احمد صاحب متوفی میں پائے جاتے تھے یا نہیں (نہیں ایک بھی نہیں ہرگز نہیں) جواب اس کا نفی میں دیجئے یا اثبات میں یا حکیم خلیفہ آسٹ سے دریافت فرما کر ہاں کہیے یا نہیں جو فرمائیے صاف فرمائیے۔ اب ایچ بیج کا وقت باقی نہیں رہا اب وہ وقت آ گیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دکھایا جائے اما الزبد فی ذہب جفاء و اما ما ی نفع الناس فی مکث فی الارض۔ آفتاب کی گردش کی طرح قیامت تک اگر آپ اس کے جواب دینے کی کوشش کرتے رہیں اور اسی ہیر پھیر میں لگے رہیں پھر بھی اسے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ علامات مرزا غلام احمد قادیانی میں پائے جاتے تھے اگر دنیا کے اندر راستی کوئی چیز ہے اور:

راستی موجب رضائے خداست

کس نندیدم کہ گم شدہ از رہ راست

پر عمل کرنا مسلمان کا سب سے پہلا شعار ہے تو آپ بے تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ علامات مرزا غلام احمد قادیانی میں نہیں پائے جاتے تھے۔ خدا کے فضل اور اس کی ہدایت سے تو مجھے ایسی ہی امید رکھنی چاہیے مگر القاء ربانی کا غلط استدلال زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ مؤلف

القائد ربانی اس تحریر کے بعد گویم مشکل و مگر نہ گویم مشکل کی صورت اختیار کریں گے۔ الحاصل آپ کے مسلم الثبوت مکتوب سے یہ بات صاف طور سے معلوم ہوگئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود تو کیا مہدی موعود بھی نہ تھے۔ آپ کو یہ پڑھ کر حیرت ہوگی کہ میں مسیح موعود کو اور مہدی موعود کو جدا جدا دو شخص تصور کرتا ہوں اور آپ کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی شخص ہیں آپ القائد ربانی کے ص ۳۳ میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی غرض مہدی مسعود و مسیح موعود دونوں آپ کے نزدیک ایک ہی بزرگ کا خطاب ہے۔ لیکن یہ آپ کی نری جہالت ہے دیانت انصاف اور حق پسندی موعود اور نیز یہ تفریق ایجاد بندہ نہیں کہ آپ چون و چرا فرمائیں۔ خود مجدد صاحب کے مکتوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام در زمان وے نزول خواہد کرد۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں تشریف لائیں گے دیکھئے کیسی کھلی کھلی شہادت ہے اور کس قدر صاف تحریر ہے۔ اب مجال دم زدن نہیں یا رائے گفتگو باقی نہیں کون کہہ سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی شخص کا خطاب تھا اور وہ بھی مرزا غلام احمد صاحب کا استغفر اللہ من الفہم السقیم بیشک حضرت مجدد صاحب کے کلام سے جناب مہدی علیہ السلام و حضرت مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے تہ تک پہنچنے میں بڑی مدد ملتی ہے اور واقعی اس پیش بہا اور آپ کے مسلم الثبوت مکتوب سے یہ بات آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہ مسیح موعود تھے نہ مہدی مسعود، مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور مہدی یوں نہ تھے کہ ان میں وہ علامات پائے نہیں جاتے جن کو مجدد صاحب نے بیان فرمایا ہو نہ پچھارے کو سلطنت نصیب ہوئی نہ ان کے فرمان سے عالم مدینہ قتل کیا گیا۔ نہ ان کے سر ابر کا ایک ٹکڑا بطور نشان ظاہر ہوا نہ اس سے فرشتہ نے آواز دی کہ یہ مہدی ہیں ان کی اجاع کرو نہ مرزا غلام احمد قادیانی آل رسول اور حضرت فاطمہ کے اولاد سے تھے۔ مرزا کا لفظ خود ہی شہادت کے لئے کافی ہے۔ نہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں برخلاف عادت زمان اور برخلاف حساب منجمنان چودہ ۱۴ رمضان شریف کو کسوف شمس اور اس کے اوّل ماہ میں خسوف قمر ہوا۔ مرزا قادیانی کے گھنٹی میں یہ بات پڑی تھی اور ان کی طبیعت ثانیہ ہوگئی تھی کہ جہاں کہیں قرآن مجید کی آیتیں اور صحاح کی حدیثیں آپ کے مفروضہ اور خیال باتوں کے معارض نکلیں۔ سرے سے اسے رد کر دیا یا موضوع کہہ دیا یا اس کے معنی کچھ ایسے ہیر پھیر سے بیان فرمائے جیسے لفظ سے مطلق تعلق اور مناسبت نہیں اور اس کے پردہ پوشی کے لئے کہیں تو یہ فرمایا کہ

ان میں ظاہر اور وطن ہوا کرتے ہیں یہ تفسیر باطنی ہے یا الہام خداوندی ہے، کون ہے جو خدا کی باتوں کو رد کر سکے اور اگر خیر سے کوئی ضعیف حدیث یا عامیانہ باتیں کسی پہلو سے (اگرچہ وہ پہلو غلط ہی کیوں نہ ہو) اپنے خیال کے کس قدر مناسب نکل آئیں تو مالاید رک کلمہ لا تیرک کلمہ کے رو سے بڑی طول طویل مگر پیچیدہ اور بے سرو پا جملوں سے ربط دیتے ہوئے لکھ دیا کہ فلان شخص نے جو یہ پیشگوئی کی ہے اس کا مصداق میں ہوں اور یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں۔ خاص میری ہی شہادت کے لئے جو زمانہ میں کس قدر جہالت اور تاریکی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ حدیث کو بھی وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے یہ اندھیرا ہے اور یہ غضب ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس مکتوب میں حضرت مجدد صاحب<sup>۹</sup> علامتیں حدیث نبوی سے بیان فرماتے ہیں آٹھ سے مرزا قادیانی کی تحریریں بالکل دم بخود ہیں اور نویں علامت یعنی رمضان شریف کے اول ماہ میں چاند گہن اور اس کے ۱۳ تاریخ کو سورج گرہن کا ہونا۔ جو زمانہ کے عادت اور نجوم کے حساب کے بالکل خلاف بطور خرق عادت اور معجزہ کے ہوگا۔ اس طرح پر تو واقع نہیں ہوا۔ مگر اتفاق سے زمانہ کے عادت کے موافق اور نجوم کے مقررہ قاعدہ پر رمضان شریف میں چاند گہن اور سورج گہن ہوا۔ بس لگے کہنے کہ دیکھو زمین آسمان دونوں نے میری شہادت دی خدا کی پناہ یہ افتراء اور یہ غلط ادعا۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات نہایت ہی حیرت خیز ہے۔

قبل اس کے کہ میں اس پر کافی روشنی ڈالوں مرزا صاحب کی کتاب سے تھوڑی عبارت نقل کئے دیتا ہوں اسے ملحوظ خاطر فرما کر ذیل کی بحث کو ملاحظہ فرمائیں۔ جناب مرزا قادیانی (کتاب البریہ ص ۶۷ خزائن ج ۱۳ ص ۹۲، ۹۱) میں تحریر فرماتے ہیں: ”اور ہم یقینی طور پر ہر ایک طالب حق کو ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہمارے سید و مولانا آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے آج تک ہر ایک صدی میں ایسے باخدا ہوتے رہے ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ غیر قوموں کو آسمانی نشان دکھلا کر ان کو ہدایت دیتا رہا ہو۔ جیسا کہ سید عبدالقادر جیلانی اور ابوالحسن خرقانی اور ابو یزید بسطامی اور جنید بغدادی اور محی الدین ابن عربی اور ذوالنون مصری اور مبین الدین چشتی اجمیری اور قطب الدین بختیار کاکی اور فرید الدین پاک پٹی اور نظام الدین دہلوی اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ احمد سرہندی اسلام میں گزرے ہیں اور ان لوگوں کا ہزار تک عدد پہنچا ہے اور اس قدر ان لوگوں کے خوارق علماء اور فضلاء کی کتابوں میں منقول ہیں کہ ایک متعصب کو باوجود سخت تعصب کے آخر ماننا پڑتا ہے کہ یہ لوگ صاحب خوارق و کرامات تھے۔“



پھر (سرمد چشم آریہ کے ص ۱۳، خزائن ج ۲ ص ۲۹، ۳۰، ۳۱) میں مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں: ”اگر ہم خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو غیر محدود مانتے ہیں تو یہ جنون اور دیوانگی ہے کہ اس کی قدرتوں پر احاطہ کرنے کی امید رکھیں کیونکہ اگر وہ ہمارے مشاہدہ کے پیمانہ میں محدود ہو سکیں تو پھر غیر محدود اور غیر متناہی کیونکر رہیں اور اس صورت میں نہ صرف یہ نقص پیش آتا ہے کہ ہمارا قافی اور ناقص تجربہ خدائے ازیلی اور ابدی کی تمام قدرتوں کا حد بست کرنے والا ہوگا بلکہ ایک بڑا بھاری نقص یہ ہے کہ اس کی قدرتوں کے محدود ہونے سے وہ خود بھی محدود ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہنا بڑے گا کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی حقیقت اور کنہ ہے ہم نے سب معلوم کر لی اور اسکے گہراؤ اور تہ تک پہنچ گئے ہیں اور اس کلمہ میں جس قدر کفر اور بے ادبی اور بے ایمانی بھری ہوئی ہے وہ ظاہر ہے حاجت بیان نہیں سو ایک محدود زمانہ کے محدود درجہ و درجہ کو پورا پورا قانون قدرت خیال کر لینا اور اس پر غیر متناہی سلسلہ قدرت کو ختم کر دینا اور آئندہ کے لئے اسرار کھلنے سے ناامید ہو جانا ان پست نظروں کا نتیجہ ہے۔ جنہوں نے ذوالجلال کو جیسا کہ چاہیے شناخت نہیں کیا۔“

مرزا صاحب کی پہلی تحریر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد مصلح مامور من اللہ ہوتے رہتے ہیں جن سے بیشار نشانات خوارق و کرامات ظاہر ہوتے ہیں ان برگزیدگان اور خاصان خدا سے اصلاح خلق اللہ ہوا کرتی ہے اور انہیں کے مبارک فیض سے اسلام کا باغ سرسبز اور شاداب ہر ا بھرا دکھلا دیتا ہے انہیں میں مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی اور محی الدین عربی وغیرہ وغیرہ تھے۔

دوسری تحریر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت غیر محدود ہے اور انسان کے تجارب محدود اپنے فہم سے قانون قدرت کو محدود مان لینا اور کسی خارق عادت اور معجزہ کے نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ فطرت اور قانون قدرت کی خلاف ہے اس لئے غلط ہے کفر بے ادبی اور بے ایمانی میں داخل ہے۔ اور ایسے شخص نے خدائے ذوالجلال کو جیسا کہ چاہئے نہیں پہچانا۔ ان دو باتوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین فرما کر مرزا قادیانی کے ذیل کی تحریر ملاحظہ فرمائیں۔

مرزا قادیانی (حمیرہ انجام آختم ص ۳۶، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲) میں تحریر فرماتے ہیں: ”پیش گوئی اصل الفاظ جو امام محمد باقر سے دارقطنی میں مروی ہیں یہ ہیں۔ ان لمہدینا لیتین لم تکنونا منذ خلق السموات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف من الخ یعنی ہمارے مہدی کی تائید اور تصدیق کے لئے

دو نشان مقرر ہیں۔ اور جب سے کہ زمین و آسمان پیدا کئے گئے وہ دو نشان کسی مدعی کے وقت ظہور میں نہیں آئے اور وہ یہ ہیں کہ مہدی کے ادعا کے وقت میں چاند اس پہلی رات میں گرہن ہوگا جو اس کے خسوف کے تین راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی تیرہویں رات اور سورج اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے یعنی اٹھائیس ۲۸ تاریخ کو اور جب سے دنیا پیدا ہوئی جو کسی مدعی کے لئے یہ اتفاق نہیں ہو کہ اس کے دعویٰ کے وقت میں خسوف رمضان میں ان تاریخوں میں ہوا ہو۔ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ خسوف و کسوف قانون قدرت کے برخلاف ظہور میں آئے گا اور نہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے بلکہ صرف یہ مطلب تھا کہ اس مہدی سے پہلے کسی مدعی صادق یا کاذب کو یہ اتفاق نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے مہدویت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں کسوف خسوف ہوا ہو۔“ پھر علمائے اہل سنت و الجماعہ کو برا بھلا کہتے ہوئے آگے چل کر یوں لکھتے ہیں۔ ”یہودیوں کے لئے خدا نے اس گدھے کی مثال لکھی جس پر کتابیں لدی ہوں مگر بیخالی گدھے ہیں اور اس شرف سے بھی محروم ہیں جو ان پر کوئی کتاب ہو۔ ہر ایک عقلمند جس کو ذرا انسانی عقل میں سے حصہ ہو سمجھ سکتا ہے کہ اس جگہ ہم تکون کا لفظ آیتوں سے متعلق ہے جس کے معنی ہیں کہ یہ دونوں نشان بجز مہدی کے اور کسی عطا نہیں کیے گئے۔ پس اس جگہ یہ کہاں سے سمجھا گیا کہ یہ کسوف خسوف خارق عادت ہوگا۔ بھلا اس میں وہ کونسا لفظ ہے جس سے خارق عادت سمجھا جائے اور جبکہ مطلوب صرف یہ بات تھی کہ ان تاریخوں میں کسوف خسوف رمضان میں ہونا کسی کے لئے اتفاق نہیں ہوا صرف مہدی موعود کے لئے اتفاق ہوگا تو پھر کیا حاجت تھی کہ خدا تعالیٰ اپنے قدم نظام کے برخلاف چاند گرہن پہلی رات میں جبکہ خود چاند کی کالعدم ہوتا ہے کہ تا خدا نے قدیم سے چاند گرہن کے لئے ۱۳، ۱۴، ۱۵ اور سورج گرہن کے لئے ۲۷، ۲۸، ۲۹ مقرر کر رکھے ہیں سو پیش گوئی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ نظام اس روز ٹوٹ جائے گا جو فرض ایسا سمجھتا ہے وہ گدھا ہے نہ انسان۔“ پھر اسی کتاب میں فرماتے ہیں: ”اے اسلام کے عار مولویو ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھو کس قدر تم نے غلطی کی ہے۔ جہالت کی زندگی سے تو موت بہتر ہے صاف ظاہر ہے کہ اس حدیث میں کسوف خسوف کو بے نظیر نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ اس نسبت کو بے نظیر ٹھہرایا گیا ہے۔ جو مہدی کیساتھ اس کے واقع ہے۔“ پھر مرزا غلام احمد قادیانی (حقیقت الہی ص ۱۹۶، خزائن ج ۲۳ ص ۲۰۴، ۲۹۳) میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ چاند کی پہلی رات کو قمر نہیں کہتے ہلال کہتے ہیں قمر کا اطلاق محاورہ عرب میں

تیسری رات کے چاند سے شروع ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک ساتویں رات سے قمر بولا جاتا ہے۔ چاند کی پہلی رات سے مراد تیرہویں رات ہے اور سورج کے چمک کے دن سے مراد اٹھائیسواں دن ہے تحریر فرماتے ہیں۔ ”اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت میں یہ دونوں گریہن رمضان میں کبھی کسی زمانہ میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ثبوت دے خاص کر یہ امر کس کو معلوم نہیں کہ اسلامی سن یعنی تیرہ سو برس میں کئی لوگوں نے محض افتراء کے طور پر مہدی موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا بلکہ لڑائیاں بھی کیں مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ ان کے وقت میں چاند گریہن اور سورج گریہن رمضان کے مہینہ میں دونوں جمع ہوئے تھے اور جب تک یہ ثبوت پیش نہ کیا جائے تب تک بلاشبہ یہ واقعہ خارق عادت ہے۔ کیونکہ خارق عادت اسی کو تو کہتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے۔ اور صرف حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن شریف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھو آیت و خسف القمر و جمع الشمس والقمر!“

پھر اسی کتاب کے (ص ۱۹۷ خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۵) میں تحریر فرماتے ہیں: ”اور اس حدیث سے بڑھ کر اور کون سی حدیث صحیح ہوگی۔ جس کے سر پر محمد مبین کی تنقید کا بھی احسان نہیں بلکہ اس نے اپنی صحت کو آپ ظاہر کر کے دکھلایا کہ وہ صحت کے اعلیٰ درجہ پر ہے۔“

پھر جناب مرزا غلام احمد (رسالہ جاہ الحق صراج منیر ص ۵۸، خزائن ج ۱۲ ص ۶۷) میں تحریر فرماتے ہیں اٹھارہویں پیش گوئی۔ یہ پیش گوئی وہ ہے جو (براہین احمدیہ ص ۳۸ خزائن ج ۱ ص ۲۶۶) میں مندرج ہے قل عندی شهادة من اللہ فهل انتم مومنون۔ قل عندی شهادة من اللہ فهل انتم مسلمون۔ یعنی کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے جس کی تم اس پر ایمان لاؤ گے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے کیا تم اس کو قبول کرو گے یہ دونوں فقرے بطور پیش گوئی کے ہیں اور اسی آسمانی نشانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بطور پیش گوئی کے ہوں کیونکہ خدا کی گواہی نشان کو ملاتی ہو چنانچہ بعد اس کے یہ گواہی کہ خسوف کسوف رمضان میں کیا۔ جیسا کہ آثار میں مہدی موعود کے نشانوں میں آچکا تھا۔“

یہ ہیں مرزا قادیانی کے غلط اور پیچیدہ استدلال جو آپ نے دارقطنی کی ایک ضعیف حدیث سے کیا ہے۔ دارقطنی کی وہ حدیث یہ ہے:

محمد بن علی قال ان لمهدینا آیتین لم تکوننا منذ خلق السموات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف

منه و لم تكونا منذ خلق الله السموات والارض!

یعنی محمد بن علی کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی کے لئے دو نشان ہیں اور وہ نشان ایسے ہیں کہ زمین آسمان کی جب سے پیدا کرنا ہوئی ہے کبھی ان نشان کا ظہور نہیں ہوا۔ وہ دو نشان یہ ہیں کہ رمضان شریف میں قمر کی پہلی رات کو چاند گہن اور سورج گہن ایسے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا ان نشانوں کو ظاہر نہیں فرمایا اور ان کا ظہور نہیں ہوا۔

دارقطنی نے عمرو بن شمر سے اس حدیث کو روایت کیا ہے جو محمد شین کے نزدیک کذاب ہے اور اس کذاب نے جابر کے واسطے سے محمد بن علی سے اس روایت کو نقل کیا ہے اب جابر اور محمد بن علی کئی ہیں خدا جانے مرزا قادیانی ہر جگہ کیونکر جناب امام باقر کو راوی بتاتے ہیں۔ بہر کیف مجھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ حدیث کی پیش گوئی پوری ہوئی یا نہیں۔ حدیث کا لفظ لفظ اس بات کا شاید حال ہے۔ کہ یہ گہن نہایت ہی عظیم الشان اور بطور خرق عادت ہو گا نہ کہ معمولی طور پر جو حسب معمول ہوا کرتا ہے۔ معمولی گہنوں کو اس پیش گوئی کا مصداق کہنا آفتاب صداقت پر خاک ڈالنا ہے اور بخیاں مرزا قادیانی در پردہ حضرت روحی فدائے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم و جناب امام باقر علیہ السلام کی توہین اور تکذیب کرتی ہے۔

مرزا قادیانی نے اپنے کو اس حدیث کا مصداق ٹھہرانے کے لئے چند در چند تراویح سے کام لیا ہے اور ان سے بڑی بڑی فاش غلطیاں اس حدیث کی تفہیم میں سرزد ہوئی ہیں پہلی غلطی ینکسف القمر لاول لیلة من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف منه کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ چاند اس پہلی رات میں گرہن ہو گا جو اس کے خسوف کے تین راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی تیرہویں رات اور سورج اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہو گا جو درمیان کا دن ہے یعنی اٹھائیس تاریخ کو۔ اگر قابلیت اسی کا نام ہے اور عربی زبانہانی کا ماہر وہی شخص کہلا سکتا ہے جو رجل کا ترجمہ مردوں کے تھری بیگم لکھ دے اور امراة کا ترجمہ عورت نہ کر کے مرزا قادیانی کی عربی دانائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس پر یہ دلیری کہ علمائے اہل حق کو الزام دیتے ہیں برا کہتے ہیں جاہل ہتلتے ہیں کہ ان لوگوں کے محاورہ عرب کی خبر نہیں مرزا قادیانی تو فوت ہو گئے مگر میں حکیم نور الدین قادریاں ہے دریافت کرتا ہوں کہ ینکسف القمر لاول لیلة محاورہ عرب میں کہاں تیرہویں رات کے چاند کے گہن پر بولا جاتا ہے اور کہاں محاورہ عرب میں کسی درمیانی رات یا دن کو نصف بولتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے قصاید نیز لغات عربیہ میں کثرت سے یہ

محاورہ پایا جاتا ہے کہ قمر کا اطلاق مہینہ بھر کے کل راتوں کے چاند پر ہوتا ہے اور آدھے کی جگہ نصف بولتے ہیں اور بیچ کو وسط بولا کرتے ہیں اگرچہ یہ قصاید وغیرہ عربی علم ادب کی مسلم کتابیں ہیں پھر بھی فانی مخلوق کی زبان اور ان کی تصنیف بالآخر فنا کا مرتبہ رکھتی ہے اس لئے میں اس محاورہ کے ثبوت میں زندہ محاورہ اور زعمہ شاہد یعنی قرآن مجید پیش کرتا ہوں۔ قادیانی جماعت میں علامہ جناب حکیم نور الدین صاحب ہیں اور وہ علمی فضائل میں مشہور ہیں وہ بھی مرزا قادیانی کے محاورہ کو قرآن مجید سے ثابت کر دیں۔ قمر کا اطلاق محاورہ عرب میں اس کے پورے دورے پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتیٰ عادنا العرجون القديم۔ میں نے قمر کے منازل کو انداز کر رکھا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اپنی اگلی حالت پر آجاتا ہے۔ بیچ کی جگہ محاورہ عرب میں وسط بولتے ہیں وکذالک جعلناکم امۃ وسطاً اے امت محمدیہ ﷺ میں نے تم کو درمیانی امت گردانی۔ نصف محاورہ عرب میں ہرگز وسط اور درمیان پر نہیں بولا جاتا بلکہ آدھے کی جگہ بولتے ہیں۔ ملاحظہ ہو یا ایہا المزمئل قم الیل الا قلیلا نصفہ اونقص منه قلیلا اوزد علیہ۔

اے کلی اوڑھنے والے (مراد محبوب خدا حضرت رسول مقبول ﷺ) تورات میں کھڑا ہوا کر مگر تھوڑا (یعنی اعتدال کو مد نظر رکھ کر) آدمی رات یا کم کر اس سے یا کچھ زیادہ۔ بتا بر تحقیق و تحریر مرزا صاحب اگر قمر کا اطلاق محاورہ عرب میں پورے ماہ کے دورے پر نہیں ہوتا تو ارشاد خداوندی یوں ہونا چاہیے تھا۔ والہلال والقمر والبدر والحقا قدرناہ منازل الخ حالانکہ آیت مذکورہ میں صرف مطلق قمر ہے اور ایسی ہی اگر درمیان کی جگہ محاورہ عرب نصف بولتے تو ارشاد خداوندی یہاں ہوتا وکذالک جعلناکم امۃ نصفاً۔ مگر قرآن وسطاً بتا رہا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ وسط کی جگہ نصف بولنا محاورہ عرب میں ناجائز کیا بالکل ہی غلط ہے۔ اور پھر اگر نصف کے معنی وسط کے صحیح ہوتے اور آدھے کی جگہ محاورہ عرب میں وسط بولا جاتا تو طرز بیان قرآن مجید یوں ہوتا۔

یا ایہا المزمئل قم اللیل الا قلیلا وسطہ اونقص منه قلیلا اوزد علیہ۔ اس محاورہ سے بھی قرآن ساکت ہے اور نصف کی جگہ وسط بولنا قرآن کے زعمہ محاورہ کے بالکل ہی خلاف ہے۔ بر تقدیر اول مرزا صاحب کی تحریر سے قرآن مجید پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر منازل محض قمر سے نہیں ہوتا بلکہ ہلال بدر حاق ان تینوں کے ساتھ قرآن نے ایسا جملہ

بیان کیا جس سے مقصود اصلی فوت ہوتا ہے اور نحوذ باللہ قرآن شریف فصیح و بلیغ نہیں۔

دیر تقدیر جانی آیت موخر الذکر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اسے کملی اورڑھنے والے تو رات کو کھڑا ہو کر مگر تھوڑا۔ ٹھیک دو پہر رات یا اس سے کچھ کم کر یا زیادہ یعنی ساڑھے گیارہ بجے رات سے ساڑھے بارہ بجے تک تو رات کو قیام کر سکتا ہے۔ اور یہ ہرگز مقصود خداوندی اور عنوان بیان قرآن نہیں۔ حضرت رسول مقبول ﷺ رات بھر جاتے تھے اور اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کا قدم مبارک درم کر جاتا تھا حتیٰ و رمت قدماء۔ حدیث نبوی میں مذکور ہے خدا نے آپ ﷺ کی اس قدر ریاضت دیکھ کر اپنے محبوب سے فرمایا کہ تو رات کو اس قدر مت قیام فرما رات نیند اور سکھ اور دن بھر کی تھکان رفع کرنے کے لئے بنائی گئی۔ اس میں اس قدر شاقہ محنت نہ کرنی چاہئے۔ جس سے جسمانی صحت جاتی رہے اور ترک فرائض بھی لازم آئے پس آدمی رات یا کچھ کم و بیش تک قیام کرنا کافی وافی ہے اور چونکہ آپ اولوا لزم نبی اور مفخر و مقتدی بنی آدم تھے صحابہ آپ کے شیدائی تھے قدم بقدم آپ کی اتباع کو فرض تصور کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتہ للعالمین کا لقب عطا فرمایا ہے اور یہ لقب بالکل ہی حقیقت اور صداقت پر مبنی ہے اس لئے اپنے حبیب کے طرز عمل سے یہ بات ظاہر کر دی کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے عبادت ناقلہ کو ایک انداز سے ادا کرنا چاہئے۔

معزز ناظرین! اب آپ ہی انصاف فرمائیں کہ محاورہ عرب سے نابلد مرزا غلام احمد قادیانی تھے یا علماء اہل حق ہیں؟ مرزا قادیانی اپنی کج فہمی سے کج بخشی میں کچھ اس قدر الجھتے ہیں اور وہ باتیں تحریر کر جاتے ہیں جو خدا کے مقدس اور پاک ارشاد کے خلاف ہوتا ہے مگر بندہ خدا کے سر پر جوں تک نہیں ریگلتی ہے۔ ینکسف القمر لا اول لیلۃ کا ترجمہ تیرہویں رات بالکل ہی غلط ہے حدیث کے لفظ سے یہ ترجمہ مطابقت نہیں رکھتا۔ بلکہ سراسر اس کے خلاف ہے مراتب قمر پر بھی اگر لحاظ کیا جائے تو بھی یہ ترجمہ غلط ہے کوئکہ محاورہ عرب میں مطلقاً قمر کا اطلاق اس کے پورے دورہ اور پورے ماہ پر ہوتا ہے ہاں مرہما ابتدائی دور راتوں کے قمر کو ہلال چودھویں کے قمر کو بدر اور ۲۷-۲۸-۲۹ کے قمر کو خاق بولتے ہیں۔ اس مراتب پر خیال کر کے زیادہ سے زیادہ تیسری رات ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تیرہویں رات تو درمیانی رات ہے۔ اگر حدیث میں مد نظر تیرہویں رات کا اظہار ہوتا تو اول لیلۃ کی جگہ لیلۃ الوسطی ہوتا۔ یہ کیسی فاش غلطی ہے۔

دوسری غلطی

وتنکسف الشمس فی النصف منہ سے کوف شمس کا نصف مراد لینا

مجاورہ عرب کے بالکل ہی خلاف ہے میں نے قرآن مجید کا زندہ مجاورہ پیش کر دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجاورہ عرب میں درمیان کی جگہ وسط بولتے ہیں نہ کہ نصف۔ تو پھر مرزا قادیانی کا یہ لکھنا کہ سورج اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جو گرہن کا درمیانی دن ہے۔ کس قدر کھلی غلطی ہے۔

مرزا قادیانی اسلام کے آفتاب میں گرہن لگانا چاہتے ہیں مگر واللہ متعم نورہ از شاد خداوندی ہے۔ سرمو اس کے خلاف ہونے لگا اور اس سے بھی زیادہ جہالت کی بات یہ ہے کہ تنکسف الشمس فی النصف منہ میں منہ کی ضمیر مذکور صاف رمضان کی طرف پھرتی ہے اس ضمیر کو مرزا صاحب شمس کی طرف یا من ایام کسوف الخمس کی طرف یا خدا جانے کس طرف راجع فرماتے ہیں حدیث شریف میں سوائے رمضان کے اس ضمیر کا کوئی مرجع مذکور نہیں اور لطف تو یہ ہے کہ مرزا صاحب مجاورہ عرب پر گفتگو کر رہے ہیں مگر اتنا بھی خیال نہیں رکھتے کہ نصف کا ترجمہ درمیان درست نہیں بلکہ یہ تو وسط کا ترجمہ ہے۔ عربی علم ادب میں مقابلہ کا بہت کچھ خیال رہتا ہے اور ظاہر کہ اول کا مقابل نصف ہے نہ کہ وسط۔

تیسری غلطی

مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ: ”ہر ایک عقلمند جس کو ذرہ انسانی عقل میں سے حصہ ہو سمجھ سکتا ہے کہ اس جگہ لم تکونہ کا لفظ آیتیں سے متعلق ہے (ضمیمہ انجام انہم ص ۷۲ خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۱) مرزا قادیانی کے نزدیک ہر معمولی عقل و فہم والا انسان قرآن اور احادیث کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے اور وہ بھی اس درجہ پر سمجھ سکتا ہے کہ عربی عبارت کی ترکیب بھی بتلا دے یعنی خود سمجھ جائے نیز اوروں کو سمجھا دے میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک بڑے سے بڑا فلاسفر بھی جو تمامی زبان پر عبور رکھتا ہو مگر عربی زبان دانہ سے اس کے کان آشنا نہ ہوں۔ وہ کیوں کہ عربی عبارت کی تشریح کر سکتا ہے اور اس کی صحت و عدم صحت کو پرکھ سکتا ہے۔ عربی عبارت سمجھنے کے لئے علم کی ضرورت ہے نہ کہ معمولی عقل کی۔ یہ تو بالکل ہی طفلانہ تسلی ہے۔ جب تو مرزا قادیانی کے ماننے والے اکثر ناقابل اور جاہل ہیں الا ماشاء اللہ جسے خدا نے علم عطا فرمایا ہے اور عربی زبان دانہ سے واقف ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ صرف لم تکونہ آیتیں سے متعلق نہیں بلکہ لم تکونہ منذ خلق السموات والارض یہ چورا جملہ آیتیں سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے ورنہ منذ خلق السموات والارض کی پھر کیا ضرورت ہی کیا تھی۔ تمام دنیا اس بات کو جانتی ہے اور خود

مرزا قادیانی اس بات کو مان رہے ہیں کہ تیرہ چودہ پندرہ۔ تین راتوں میں چاند گہن اور ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ان تین دنوں میں سورج گرہن مقررہ نظام عالم ہے اور ان تاریخوں میں برابر چاند گہن اور سورج گہن طبعی نظام پر ہوتا رہتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ ان تاریخوں میں گرہن نہیں ہوا نحوذ باللہ غلط اور واقعات کے خلاف ہے۔ کوئی ذی علم قادیانی منذ خلق السموات والارض کو محذوف مان کر اس حدیث کی ترکیب بیان کرے اور اس جملہ کے مرزا قادیانی کے خیال کے اعتبار سے ذکر کرنے کی وجہ ظاہر کرے۔

چوتھی غلطی

لم تکنو نامنذ خلق السموات والارض کا لفظی ترجمہ یہ ہے وہ دونشائیاں جب سے دنیا پیدا ہوئی نہیں ہوئیں اور مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کسوف خسوف کو بے نظیر نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ اس نسبت کو بے نظیر ٹھہرایا گیا۔ کیا خوب اگر اس بے نظیر نسبت اظہار مطلوب تھا تو صرف لم تکن کافی تھا کونا مشنی کی کیا ضرورت تھی مزید برآں جو شے کہ عامتہ الورد و ہوا اور جس کا دورہ برابر بقاعدہ علم نجوم ہوتا رہے وہ ہرگز بے نظیر نہیں اور جو خود بے نظیر نہیں اس کی نسبت بے نظیر کیونکر ہو سکتی ہے؟ زیادہ تعجب تو اس پر ہے کہ مرزا قادیانی لسم تکنو نا کو آفتوں کے متعلق بتا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ نسبت ہی بے نظیر ہے اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہ کسوف خسوف بے نظیر نہیں ٹھہرایا گیا آپ ہی اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ نشانی بے نظیر ہے اور آپ ہی انکار بھی کرتے ہیں کہ یہ قدیم نظام عالم اور معمولی گہن ہے جو ہمیشہ اپنے مقرر وقت پر ہوتا رہتا ہے۔ گہن کے آثارات سے یہی انسانی قوی میں مختلف اثر باعتبار استعداد بدنی ہوا کرتا ہے چونکہ چاند اور سورج دونوں کے گرہن پر مرزا قادیانی نے نظر دوڑائی اس لئے طبیعت میں مختلف اثر پیدا ہو گیا۔

پانچویں غلطی

مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ: ”آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ کسوف خسوف قانون قدرت کے برخلاف ظہور میں آئے گا اور حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے بلکہ صرف یہ مطلب تھا کہ اس مہدی سے پہلے کسی مدعی صادق یا کاذب کو یہ اتفاق نہ ہوا ہوگا کہ اس نے مہدویت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں کسوف خسوف ہوا ہوتا۔“ (ضمیمہ انجام آختم من ۳۶، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۰) بیٹک آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا اس



غرض سے تھا کہ وہ کسوف خسوف قانون قدرت کے برخلاف ہوگا۔ اور جب تو ایک نہیں دو مرتبہ اول اور آخر لم تکوننا منذ خلق السموات والارض سے اس کی تاکید کی گئی ہے اور اسے ذہن نشین کر لیا گیا ہے۔ میں مؤلف القاء ربانی سے دریافت کرتا ہوں کہ حدیث میں وہ کون سا ایسا لفظ ہے جس سے یہ مطلب سمجھا جائے جو مرزا قادیانی نے بیان فرمایا ہے۔ خصوصاً مرزا قادیانی کا یہ فرمانا کہ اس مہدی سے پہلے کسی مدعی صادق یا کاذب کو یہ اتفاق نہیں ہوا ہوگا۔ اہل انصاف اور اہل فہم مرزا قادیانی کے اس مطلب پر غور کریں اور حدیث کے الفاظ کو بھی دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے جو مطلب اس حدیث کا بیان کیا ہے۔ آیا الفاظ حدیث کا بھی یہی مطلب ہے اور حدیث میں کسی طرح سے بھی اس مطلب کا احتمال اور گنجائش ہے یا یہ محض مرزا قادیانی کا من گھڑت اور اختراعی مطلب ہے۔ اس حدیث کے مطلب میں مرزا قادیانی نے جو غلطیاں کی ہیں یا قصداً فریب دیا ہے ان میں محض ایک امر کی طرف میں یہاں توجہ دلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ ہمارے مہدی یعنی مہدی صادق کے ایسے دو نشان بالکل نئے اور جدید ہوں گے یعنی مہدی صادق کے ایسے دو نشان ہیں جو اس مہدی کے قبل نہیں ہوئے بلکہ وہ دونوں نشان بالکل نئے اور جدید ہوں گے یعنی مہدی صادق کے وقت میں ایسا خسوف اور کسوف ہوگا جو اس سے پہلے ہرگز نہیں ہوگا بلکہ یہ محض اس مہدی صادق کے وقت میں ہوگا اب مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ کسی مدعی صادق کے وقت میں بھی نہیں ہوا ہوگا عجیب تماشے کی بات ہے اس خسوف و کسوف کو تو مہدی صادق کی علامت ٹھہرایا گیا ہے اب بھلا اس علامت کے کوئی مدعی صادق کس طرح ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں یہ نشان کیونکر ہوگا اور اس نشان کے بیان کا کیا نفع ہوگا افسوس ہے کہ قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے ان اہلہ فریبوں پر غور نہیں کرتی اور کورا نہ تقلید سے ایک دم کے لئے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ نیز مرزا قادیانی اسی تحریر سے بیوستہ فرماتے ہیں کہ: ”اس نے مہدیت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہوا اور اس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں کسوف و خسوف ہوا ہو۔“

ابھی تو مرزا قادیانی یہ فرما رہے تھے کہ یہ نشانیاں ہمارے مہدی کے لئے مخصوص ہیں اور ابھی اس نشانی کو عام بنا کر اسے رسول سے بھی متعلق کرتے ہیں اور اس عن الحق سے ایسے ہی بدحواس انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اہل اسلام تو آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ سے حضرت رسول مقبول ﷺ کو خاتم المرسل مانتے ہیں یعنی آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں ہو سکتا اس لئے کوئی ایسا مہدی نہیں ہو سکتا جو رسالت کا مدعی ہو اور جب قرآن و حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی ایسا مہدی

نہیں آسکتا پھر اس کی نشانیاں کیسی؟ اب یہ کہنا ضرور ہے کہ یا تو یہ روایت صحیح نہیں ہے یا مرزا قادیانی اس کے مصداق نہیں ہیں کیونکہ انہیں رسالت کا دعویٰ ہے۔  
چھٹی غلطی

پھر مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں: ”بھلا اس میں وہ کونسا لفظ ہے جس سے خارق عادت سمجھا جائے اور جب کہ مطلوب صرف یہ بات تھی کہ ان تاریخوں میں کسوف خسوف رمضان میں ہونا کسی کے لئے اتفاق نہیں ہوا صرف مہدی موعود کے لئے اتفاق ہوگا تو پھر کیا حاجت تھی کہ خدا تعالیٰ اپنے قدیم نظام کے برخلاف چاند گرہن پہلی رات میں جبکہ خود چاند کا لحدم ہوتا ہے کرتا خدا نے قدیم سے چاند گرہن کے لئے ۱۳، ۱۴، ۱۵ اور سورج گرہن کے لئے ۲۸، ۲۹ مقرر کر رکھے ہیں۔“

(ضمیمہ انجام اسٹیم ص ۲۷، خزائن ج ۱ ص ۳۳۱)

سو پیش گوئی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ نظام اس روز نوٹ جائے گا جو شخص ایسا سمجھتا ہے وہ گدھا ہے نہ انسان پہلے میں اسے اچھی طرح ثابت کر چکا ہوں کہ حدیث کے الفاظ نہایت تاکید سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نشانی بطور خارق عادت ہوگی اور یہ بھی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کا زندہ محاورہ پیش کر کے بتا چکا ہوں کہ قمر کا اطلاق پورے ماہ کے چاند پر ہوتا ہے۔ ہاں مراہبا تیسری کے چاند کو قمر بولتے ہیں اگر مرزا قادیانی غایت درجہ کے منصف اور محتاط بننا چاہتے تھے تو اول لیلۃ سے تیسری کا چاند مراد لیتے ہیں پہلی رات کے چاند کو پیش کر کے کیوں قوم کو جل دینا چاہتے ہیں اور جب پہلی کا چاند صفائی سے نظر آتا ہے اور برابر دنیا سے دیکھتی رہی ہے تو یہ گرہن کا نظر آجانا خدا کی خدائی میں کیوں ممکن نہیں کیا اس حدیث میں یہ بھی شرط ہے کہ دنیا کا ہر فرد واحد اس کو دیکھ بھی لے سب سے زیادہ محکمہ خیر تو یہ جملہ ہے کہ ”خدا کو کیا حاجت تھی کہ قدیم نظام کے خلاف کرتا“ میں پوچھتا ہوں کہ خدا کو اس بات کی کیا حاجت تھی کہ لن معمولی گہن کو جو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اور جنہیں ماہران علم نجوم نیز دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر زمین کی جبابی گردش پر محمول کرتے ہیں کوئی خدائی بات نہیں جانتے ایسے معمولی بے وزن اور غیر مفید گرہن کو اپنی مہدی کے لئے مخصوص نشانی گردانا۔ نشانی تو اسی کو کہتے ہیں جس کے دیکھتے ہی پوشیدہ چیز کے ظہور کی خبر ہو جائے۔ ایسے مجہول الصفت نشان سے تو کبھی رہبری نہیں ہو سکتی۔ علمائے اہل حق تو یہ فرما رہے ہیں اور حدیث کا لفظ لفظ یہ بول رہا ہے کہ مہدی موعود ہنوز ظاہر نہیں ہوئے اور یہ نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئیں۔ ایک اور امر نہایت ہی قابل غور یہ ہے کہ مصلح مامور من اللہ مہدی مسیح موعود رسول نبی

وغیرہ عام اصلاح خلق اللہ کے لئے آتے ہیں اور ان کی نورانیت سے ہر تارک دلوں کو عام اس سے کہ وہ بیہودہ ہونصاری ہو کر یہ ہودہریہ ہو کوئی بھی ہو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے ہاتھوں مشرف باسلام ہوتا ہے اور یہ کیوں محض اس وجہ سے کہ اس کے اندر وہ کھلی کھلی نشانیاں ہوتی ہیں جو عام انسان میں پائی نہیں جاتیں۔ تا سید ایزدی اور خوارق اس کے ساتھ اور اس کے بھرکاب ہوتے ہیں اس کا دعویٰ عام دعویٰ ہوتا ہے اور اس کی نشانیاں عام نشانیاں ہوتی ہیں کسی خاص فرقہ اور خاص ٹولی میں محدود نہیں ہوتیں۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ مرکب دعویٰ ہے وہ اپنے کو مجدد مہدی مسیح رسول نبی سب ہی کچھ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں کس صلیب کے لئے آیا ہوں اور وہ خود لکھتے ہیں کہ میں ان تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جو زمین پر رہتے ہیں۔ خواہ وہ یورپ کے ہوں خواہ ایشیا کے خواہ امریکہ کے یہ دعویٰ عام دعویٰ ہے۔ مگر اپنی خاص نشانی جو دنیا پر پیش کرتے ہیں اس کے ثبوت میں وہ ایک ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں جو صلیب پرستوں یعنی عیسائی اور آریہ وغیرہ اقوام کے نزدیک خود مسلم نہیں پھر وہ کیونکر اسے مہدی کی مخصوص نشانی تصور کریں گے۔ ان منکرین اسلام کو تو عام گہن سے خس برابر بھی اثر نہیں ہو سکتا اگر فرقہ باطلہ کا کوئی فرد واحد کسی مسلمان سے یہ دریافت کرے کہ آپ خدا کو ایک اور واحد مان رہے ہیں۔ اس کے وحدانیت پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے عجیب ہوں کہے کہ بھائی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ”قل هو اللہ احد“ یعنی کہ اللہ ایک ہے۔ تو کیا اس جواب سے مسائل کی تفسی ہو جائے گی۔ نہیں بلکہ برعکس مسائل کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اسلام کے اندر عقلی دلائل خدا کی وحدانیت پر ایک بھی نہیں ہیں اور یہ مذہب ہرگز قابل قبول نہیں۔ ایسے ہی مرزا قادیانی سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ ایک معمولی گریہ کو جو برابر تو احد نجوم کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اپنے دعوے مہدویت کی خاص نشانی قرار دیتے ہیں۔ اس دعوے پر آپ کیا دلیل رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بجز اس کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث میں ایسا لکھا ہے۔ (اگر کوئی دوسرا جواب ہو سکتا ہے تو کوئی ذی علم قادیانی بیان کرے) کہ یہ گہن مہدی کی خاص نشانی ہوگی۔ اس لئے یہ نشانی خاص میرے ہی لئے ٹھہری۔ ایسا جواب جس قدر قابل تحسین و آفرین ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ اس سے مقصود خداوندی فوت ہوتا ہے اور ارشاد نبوی غلط ٹھہرتا ہے۔ نیز تحصیل حاصل لازم آتا ہے مسلمان تو پہلے ہی سے خدا کو واحد مانتے ہیں اور حضور پر نور حضرت محمد مصطفی ﷺ کو خاتم النبیین جانتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کا ارشاد لفظاً و معنی پورا ہو کر رہے گا اور جب ہی مرزا قادیانی کے ہر قول کو ارشاد نبوی سے جانچتے ہیں اور اس

جانچ کے بعد یقین رکھتے ہیں کہ یہ گہن حدیث نبوی کے مطابق نہیں ہوا۔ مگر اقوام غیر اس سے کیا مستفید ہوں گے اور کس صلیب کیونکر ہوگا۔ خود ایک غلط دعویٰ کر رہے ہیں اور اس لئے اہل حق سے حاجت دریافت کرتے ہیں۔ خدائی حاجت دریافت کرنے والے مرزا قادیانی کون تھے۔ اس کی مشیت جو چاہے کرے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انسان ضعیف الہیان کی کیا ہستی کہ مخلوق بن کر خالق کے راز کی لم اور حاجت دریافت کرے سوائے شیطانی دوسرے کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

توان در بلاغت بسبحان رسید

نہ درکنہ بیچوں سبحان رسید

خدا کو کیا حاجت تھی مرزا قادیانی کا یہ جملہ سراسر بے ادبی سے بھرا ہوا ہے۔ خدا جب حاجت مند ظہر اتو وہ خدا کیونکر رہا۔ میرے خدا کی توصیف یہ ہے: ”قل هو اللہ احد، اللہ الصمد“ مرزا قادیانی کے نزدیک کوئی دوسرا محتاج خدا بھی ہے۔ ”اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئاً“

تلاش دیو حزم میں عبث نہ کیونگر ہو

تیرا ظہور بھی جب استعجاب میں رکھے

ستہ ضروریہ کا ص ۴ ملاحظہ ہو: حضرت خواجہ عبید اللہ الاحرار جو حضرت جانیؒ کے پیرو مشد تھے اور جن کے فیضان انوار کا ایک زمانہ قائل ہے وہ خدائے بے نیازی درگاہ میں نہایت ہی خشوع و خضوع سے یوں عرض کرتے ہیں:

چوں بدرگاہ تو خود ادر پناہ آورده ام

یا الہ العالمین بار گناہ آورده ام

بردرت زین بار خود پشہت دو تا آورده ام

عجزو زاری بردر عالم پناہ آورده ام

من نمی گویم کہ بودم سالہا در راہ تو

ہستم آن گمرہ کہ اکنون روبراہ آورده ام

چار چیز آورده ام حقا کہ در راہ تو نیست

نیستی و حاجت و عذر و گناہ آورده ام

درد در ویشی و دلریشی و بیخویشی بہم

ایں ہمہ بردعوی عشقت گواہ آورده ام

چشم رحمت برکشائے موٹے سفید من بہ بین

زانکہ از شر مندگی روی سیاہ آورده ام

اللہ اکبر کیا مناجات ہے اور کیسی خاکساری ہویدا ہے۔ جس وقت آپ کی زبان سے یہ ورد بھری دعا نکلے ہوگی۔ کیسی کیفیت آپ پر طاری ہوگی۔ آپ کی صداقت اور خلوص کا یہ اثر ہے کہ اس کے لکھے میرا دل بے اختیار ہو گیا۔ روح تازہ ہو گئی جی چاہتا ہے کہ مکرر اس مناجات کو پڑھے جاؤں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ناظرین پر یہاں خود ایک کیفیت طاری ہوگی اور وہ معلوم ہو جائے گا کہ خدا کے کلام میں کیا اثر ہوتا ہے۔ کتنا صاف ارشاد ہے کہ فنا حاجت عذر گناہ یہ چار چیز خدا کی شایان شان نہیں۔ یہ لوازم بشریہ ہیں اور مرزا قادیانی ان باتوں کو خدا میں تلاش کر رہے ہیں۔ مہدویت کا دعویٰ اور اتنی بھی خبر نہیں کہ خوارق کا ظہور کیوں ہوتا ہے۔ ایک زمانہ جانتا ہے کہ خوارق کا ظہور اس وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ مامور من اللہ کی تصدیق کرے اور منکرین اسلام کو مذہب حقہ کی طرف بلائے۔ یہی غرض اور حاجت ہے جو عام گنہ میں مفقود ہے۔ ورنہ یوں تو آفتاب ماہتاب چاند گہن سورج گہن سب ہی خدا کی نشانیاں ہیں مگر یہ کسی کی نبوت اور کسی مجدد کے ظہور پر دلالت نہیں کرتیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں دیکھو جہاں لکھا ہے۔ ان الشمس والقمر آیتان لا ینخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آیتان من آیات اللہ۔ (مسلم ج ۱ ص ۶۹۰) یعنی دنیا کے عام اور معمولی نظارے آفتاب ماہتاب چاند گہن سورج گہن خدا کی ہستی پر دلالت کرتے ہیں اور بس۔ مجدد اور مامور من اللہ کی شناخت کے لیے تو خوارق کی سخت ضرورت اور حاجت ہے۔ نعوذ باللہ!

مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں: ”سو پیش گوئی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ نظام اس روز ٹوٹ جائے گا جو شخص ایسا سمجھتا ہے وہ گدھا ہے نہ انسان“ (انجام آقہم ص ۴۷، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۱) اللہ اللہ کیا شائستہ اور تہذیب سے بھرا ہوا جملہ ہے الہام اور پیش گوئی سے تو مرزا قادیانی مہدی ثابت نہیں ہوتے۔ ہاں ان مبارک جملوں سے البتہ مرزا قادیانی کی مہدویت کی شان معلوم ہوتی ہے۔ کس قدر مرزا قادیانی کے دل میں اصلاح خلق اللہ کی تڑپ تھی۔ بے چارے کس کس طرح گالیاں دے کر مخلوق خدا کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ! (سرمد چشم آریہ ص ۱۶، ۱۷، خزائن ج ۲ ص ۶۳، ۶۵) میں مرزا قادیانی نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے نقل کر چکا ہوں ناظرین نے ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ ذرا پھر بھی ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے کیسی لطیف باتیں پیدا ہوتی ہیں

مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ: ”اس کی قدرتوں کے محدود ہو جانے سے وہ خود بھی محدود ہو جائے گا اور پھر یہ کہتا پڑے گا کہ جو کچھ خدائے تعالیٰ کی حقیقت اور کہتا ہے۔ ہم نے سب معلوم کر لی ہے۔ اور اس کے گہراؤ تک ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کلمہ میں جس قدر کفر اور بے ادبی اور بے ایمانی بھری ہوئی ہے۔ وہ ظاہر ہے۔ حاجت بیان نہیں۔ سو ایک محدود زمانہ کے محدود دور محدود تجارب کو پورا پورا قانون قدرت خیال کر لینا اور اس پر غیر متناہی سلسلہ قدرت کو ختم کر دینا اور آئندہ کے نئے اسرار کھلنے سے نا امید ہو جانا۔“ ان پست نظروں کا نتیجہ ہے جنہوں نے خدائے ذوالجلال کو جیسا کہ چاہے شناخت نہیں کیا۔“ میں دنیا کے ہر فرد واحد سے جس کے ہاتھ میں یہ کتاب ہو دریافت کرتا ہوں کہ کیا مرزا قادیانی نے مضمون زیر بحث میں قانون قدرت کو محدود زمانہ کے محدود دور محدود تجارب پر محمول نہیں کیا اور ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ کو چاند گہن اور ۲۷، ۲۸، ۲۹ کو سورج گہن کے لئے مخصوص اور محدود نہیں کیا اور کیا وہ اس کے گہرائی تک نہیں پہنچے کہ ان ایام مقررہ کے خلاف چاند گہن اور سورج گہن ہو نہیں سکتا اور اگر ہو تو وہ قانون قدرت کے برخلاف ہے اور حدیث کا یہ منشاء ہرگز نہیں کہ وہ قانون قدرت کے برخلاف ہوگا اور اس گہن سے نظام عالم ٹوٹ جائے گا۔ اس جملہ سے کیا جناب مرزا قادیانی نے سلسلہ قانون قدرت کو ختم کر کے آئندہ اسرار کے دروازہ کھلنے کو اپنے اوپر بند نہیں کیا؟

ضرور انہوں نے خدا کی معرفت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا اور گہن کے ان ایام کو ذکر کے ان تاریخوں میں قانون قدرت کو محدود سمجھا اور محدود سمجھانے کی مختلف رسالے میں مختلف طرز سے تحریریں لکھیں جب یہ ثابت ہو گیا تو ساتھ ہی ساتھ مرزا قادیانی ہی کے تحریر سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ مرزا قادیانی کے مذکورہ بالا تحریر کفر بے ادبی بے ایمانی بھری ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی نے خالق ذوالجلال کو جیسا کہ چاہے نہیں پہچانا اور واقعی مرزا قادیانی نے بہت ہی سچ فرمایا کہ ”جہالت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔“

تامرد سخن نگفته باشد

عیب و هنرش نہفته باشد

فارسی کا مشہور قول ہے اور آواز سے بھی حیوان اور انسان اور پھر حیوان کی جنسیت کا پتہ چلتا ہے۔ گدھے کی آواز تو اور بھی جانوروں کی آواز میں سے بڑی آواز ہے۔ ان انکرا لا اصوات لصوت الحمیر۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ گدھا کون تھا انسان کون ہے؟

لکھ دیا قہر و جفا مہر و وفا کے بدلے  
مہربان آپ مگر طرز رقم بھول گئے

مرزا قادیانی (سرمہ چشم آریہ ص ۱۶، ۱۷، خزائن ج ۲ ص ۶۲، ۶۵، شخص) میں فرماتے ہیں کہ:  
”خدا نے تعالیٰ کی قدرت کو زمانہ کے محدود و محدود تجارت پر محدود نہ کروا اور جو باتیں خلاف تجربہ  
معلوم ہوں۔ اس کی نسبت یوں مت کہو کہ یہ بات خلاف فطرت ہے اور یہ خدائی بات نہیں۔ جس  
طرح خدا غیر محدود ہے۔ اس طرح اس کے اسرار غیر محدود ہیں۔“ اور یہاں گرہن کی بحث  
میں خدا کی قدرتوں کو ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۷، ۲۸، ۲۹ میں زمانہ کے محدود تجربہ کی وجہ سے محدود بتا رہے  
ہیں اور ان تاریخوں کے علاوہ وقوع گرہن کو خلاف قدرت اور خلاف فطرت سمجھ رہے ہیں۔ دوریہ  
تحریر ہے۔ جہاں جیسا موقع دیکھا کہہ دیا لکھ دیا ایسے شخص کی نسبت حدیث میں وعیدین آئی ہیں۔  
ایک وعید ملاحظہ ہو:

”وعن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ ﷺ تجدون شر الناس يوم  
القيمة ذا الوجهين الذي ياتي هتولاه بوجهه وهتولاه بوجهه متفق عليه“  
فرمایا رسول اللہ ﷺ نے قیامت کے روز بدترین لوگوں میں وہ شخص ہوگا جو دو رویہ ایک جماعت  
کے پاس اور طریق سے آتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس اور طریق سے: فاتقوا اللہ یا اولی  
الالباب۔  
ساتویں غلطی

پھر مرزا قادیانی (حقیقت الوحی ص ۱۹۶، خزائن ج ۲ ص ۲۰۳) میں تحریر کرتے ہیں کہ: ”اگر  
کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت میں یہ دونوں گرہن رمضان میں کبھی کسی  
زمانہ میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ثبوت دے۔“ گفتگو مہدی کی مخصوص نشانی پر  
ہے اور پیش کرتے ہیں رسول کو یہ حیرانی اور سراپہ سبکی ملاحظہ کے قابل اور بحث سے خارج ہے۔  
ناظرین تحریر اور حقانیت کے شیدائی اس بیچ کو ملاحظہ فرمائیں۔ زان بعد تحریر فرماتے ہیں: خاص کر  
یہ امر کس کو معلوم نہیں کہ اسلامی سن یعنی تیرہ سو برس میں کئی لوگوں نے محض افتراء کے طور پر مہدی  
موجود ہونے دعویٰ بھی کیا۔ بلکہ لڑائیاں بھی کیں مگر کون ثابت کرتا ہے کہ ان کے وقت میں چاند  
گرہن اور سورج گرہن رمضان کے مہینہ میں دونوں جمع ہوئے تھے اور جب تک یہ ثبوت پیش نہ کیا  
جائے تب تک بلاشبہ یہ واقعہ خارق عادت ہے۔ بے شک یہ امر اہل علم کو معلوم ہوا کہ تیرہ سو برس

کے اندر کئی جھوٹے مہدی گزرے مگر جہاں یہ معلوم ہے وہاں یہ بھی معلوم ہے کہ ان لوگوں کے دعویٰ کے زمانہ میں رمضان شریف میں چند گہن اور سورج گہن ہوا۔ صالح بن طریف، ابو صبیح، عبداللہ مہدی صاحب افریقہ سید محمد جو چوہری ان کا حال ابن خلدون تاریخ کامل رسالہ ہدیہ مہدیہ میں ملاحظہ فرمائیے اور حدائق الخجوم کو بھی اٹھا کر دیکھئے جہاں ان گہن کے وقوع کا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے اور مرزا قادیانی جس گہن کو اپنی نشانی شمار کرتے ہیں اسے بھی سال پہلے لکھ دیا ہے۔ جماعت قادیانی ان کتابوں کو دیکھ کر رجوع الی الحق کرے۔

ایجاد ستم سے تمہیں بردہا کر دیں گے  
گرتیں دن ایسا ہی وہ ایجاد کریں گے

اور لطف دیکھئے کہ ابھی تو مرزا قادیانی اسے خارق عادت کہنا رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے خلاف بتلاتے تھے۔ (حالانکہ آپ کے ارشاد کے مطابق حدیث کی پیش گوئی کے مصداق جب گہن ہوگا وہ ضرور خارق عادت ہوگا اور یہ گہن محض معمولی گہن ظہرا جو برابر اپنے مقررہ قاعدہ پر ہوتا ہے رہتا ہے اور ابھی اس معمولی گہن کو خارق عادت بتا رہے ہیں۔ شاید مرزا قادیانی کے نزدیک خارق عادت اسے بھی کہتے ہیں جو طبعی اور فطرتی طور پر برابر ہوتا رہے۔ آفتاب کا طلوع وغروب ہونا ہی جماعت قادیانی کو خارق عادت تصور کرنا چاہئے کسی جملہ کا ایسا ترجمہ کرنا جسے ساری دنیا جھٹلا دے یہ بھی خارق عادت ہے۔ جس میں مرزا قادیانی کو یہ طوطی تھا۔

چلا ہے اور دل راحت طلب کیا شادمان ہو کر  
زمین کوئے جاناں رنج دے گی آسمان ہو کر

آنکھوں میں غلطی

مرزا قادیانی اس حدیث کو معمولی گہن کا مصداق بنا کر مہدی کے لئے مخصوص کرتے ہیں پھر بالآخر اس خصوصیت کو اپنے ساتھ متعلق کر کے چند اور چند کتابوں میں اس معمولی نشانی کو خواہ مخواہ اپنی من گھڑت معنی پر منطبق کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مقدور بجز بڑی چوٹی سے زور لگاتے ہیں مگر اتنی جان کا اور درد سہری کے بعد مرزا قادیانی کا دل خود ہی ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ طرز استدلال غلط ہے۔ اہل علم کا قلب سلیم اس رکیک تحریر پر ہرگز مائل نہیں ہو سکتا۔ یہ تحریریں دل کو نہیں بھاتیں۔ بالکل ہی بے سرو پا ہیں۔ کوئی ایسا ثبوت پیش کیجئے۔ جو راستی پر مبنی ہو دل کے اس ادھیڑ بن سے مرزا قادیانی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ گھبرا اٹھتے ہیں۔ اس آپادھانی میں اور کچھ تو بن نہیں پڑتا۔ جہاں کو خوش کرنے کے لئے قرآن مجید کو سیدہ پھر بنا نا چاہتے ہیں۔ پرافسوس



صدافسوس کہ یہاں بھی ساحل مراد مرزا قادیانی کو نظر نہیں آتا اور ان کا تھل بیڑہ نہیں لگتا۔

مدعی خواست کہ آید بتماشا گہ راز

دست غیب آمد و برسینہ ناظر می زد

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھو

آیت ”خسف القمر و جمع الشمس والقمر“ یہ پارہ ۲۹، سورہ قیامت کی نویں آیت شریف ہے۔ جس کے دیکھنے کے لئے مرزا قادیانی ہدایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی اس معمولی کہن کی طرف جو ۱۳۱۲ھ میں واقع ہوا اشارہ کرتی ہے بالفاظ دیگر قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے کہ مہدی کے وقت میں رمضان شریف میں کسوف و خسوف ہوگا۔

اور وہی کسوف و خسوف میرے دعویٰ کے زمانہ میں ہوا۔ یہ ہیں وہ معارف و حقائق قرآنیہ جنہیں مرزا قادیانی کے فہم ریک کے لئے استخراج کیا ہے۔ مگر یہ استخراج حقیقت سے عاری اور منشاء خداوندی سے بالکل ہی الگ ہے۔ قرآن مجید ہرگز اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ چند آیات اور ملاحظہ فرمائیے: ”یستل ایان یوم القيامة فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وذر الی ربك يومئذ المستقر۔ ینبغا الانسان يومئذ بما قدم و اخر“ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ پس جس وقت کے پھرا جائیں گی آنکھیں اور گہ جائے گا چاند اور اکٹھے کئے جائیں گے سورج اور چاند۔ کہے گا انسان اس دن کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں آج ہرگز کہیں پناہ نہیں۔ تیرے پروردگار ہی کی طرف اس روز ٹھہرنا ہے۔ ان کو جتا دیا جائے گا۔ اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ اس سورۃ کا نام ہی سورہ قیامت ہے۔ آیات محرمہ بالا سے پہلے خدا نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے کہ منکرین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری ہڈیاں جمع نہیں کی جائیں گی۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ ضرور ایسا ہوگا۔ اور میں اس بات پر قادر ہوں کہ ان کو پھر سے درست کر ڈالوں انسان نافرمانی پر تیار ہوتا ہے۔ اور ایسا نافرمان اور مکذب استہزاء کے طور پر یہ سوال کرتا ہے کہ اے محمد ﷺ قیامت کب ہے۔ جو اب اسے کہہ دے کہ جب آنکھیں تیرہ ہو جائیں گی۔ چاند گہ جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیئے جائیں گے۔ انسان اس دن گھبرا کر بھاگنا چاہے گا۔ مگر اس کو فرار کی جگہ نہیں ملے گی۔ خدا ہی ان کی درگاہ میں چارونا چار سے کھڑا ہونا پڑے گا اور ہر شخص کو اپنے نلمہ اعمال کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ جو کچھ اس نے کیا

ہے وہ پیش نظر کر دیا جائے گا۔ ”یَسْئَلُ اِيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ یعنی قیامت کب ہوگی یہ ایک سوال ہے۔ جس کے جواب میں خدا نے آٹھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ قیامت ایسا ہولناک نظارہ ہے اور اس میں یہ باتیں پیدا ہوں گی اور ظاہر ہے کہ یہ علامتیں اب تک وجود میں نہیں آئیں اور کیونکر آئیں یہ علامتیں قیامت پر موقوف ہیں۔ مرزا قادیانی شاید قیامت کے منکر ہیں اور اسے ایک فرضی بات تصور کرتے ہیں۔ نیز قرآن مجید میں صریح تحریف کرتے ہیں اور ایک کامل انسان اور اعلیٰ درجہ کا مسلمان جو یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی مسعود اور مسیح موعود ہوں۔ وہ یہودیوں کی روش اختیار کرے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَيَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا“ یہودی کلام کو اپنی جگہ سے پھرتے رہتے ہیں اس سے بڑھ کر ”يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَافِعِهَا“ اور کیا ہو سکتا ہے کہ قیامت میں جو واقعات پیدا ہوں گے اسے معمولی گہن پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے یہ محض ان کا افتراء ہے اور ”مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلٰى اللّٰهِ كَذْبًا وَاُوْ كَذِبًا“ میں داخل ہے۔

نویں غلطی

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی حدیث صحیح ہوگی جس کے سر پر محدثین کی تنقید کا بھی احسان نہیں ہے۔ بلکہ اس نے اپنی صحت کو آپ ظاہر کر کے دکھلا دیا کہ وہ صحت کے اعلیٰ درجہ پر ہے۔ (حقیقت الوحی ص ۱۹۷، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۵) حدیث کی تنقید کا یہ نیا طریقہ مرزا قادیانی نے بتایا اور وہ ابھی تک پردہ خفا میں ہے۔ علاوہ ازیں (ضمیمہ انجام آئتم کا ص ۴۷، خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۰) ملاحظہ کیجئے کہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کو پورا نقل نہیں کیا اور جتنا نقل کیا ہے اس میں یہ جدت ہے کہ تکلف الغتس فی الھفص تک تو قلم نہایت ہے جلی ہوا اور منہ کا لفظ جو نہایت ضرور اور دہتم بالشان لفظ انکشاف حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کو نہایت باریک لکھ دیا ہے۔ تاکہ اس طرف کسی کا ذہن منتقل نہ ہو ورنہ ضمیر مذکور جو رمضان کی طرف پھرتی ہے۔ میرے مدعا کے خلاف پھرے گی۔ اور جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ہوگا مگر الحمد للہ کہ یہ جدت بھی مرزا قادیانی کی مفید نہیں پڑی۔ اچھی طرح اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا اس کی پوری تفصیل رسالہ شہادت آسمانی میں دیکھی جائے۔

دسویں غلطی

(رسالہ جاہلن و ذہبن الباطل و صراح ضمیر ص ۵۸، خزائن ج ۱۲ ص ۶۷) میں مرزا قادیانی لکھتے

ہیں کہ (براہین احمدیہ کے ص ۱۳۰، خزائن ج ۱ ص ۲۶۶) میں جو الہامِ قل عندی شہادۃ من اللہ  
 فهل انتم مومنون قل عندی شہادۃ من اللہ فهل انتم مسلمون درج ہے وہ اسی  
 کسوف و خسوف کی گواہی کے متعلق ہے۔ جسے بالآخر خدا نے پورا کر کے دکھلادیا جیسا کہ آثار میں  
 مہدی موعود کی نشانیوں میں آچکا تھا۔“

میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان الہامی جملہ میں کون سا ایسا لفظ ہے جس سے یہ بات معلوم ہو کہ  
 مہدی کے زمانہ میں کسوف و خسوف ہوگا۔ شاید مرزا قادیانی نے مسلموں کے سین سے آسمان اور  
 مومنوں کے فون سے زمین سمجھا اور جب زمین و آسمان کا وجود ٹھہرا تو آفتاب و ماہتاب کا ہونا  
 ضروری ہے اور پھر بقاعدہ نجوم ان دونوں کے لئے کسوف و خسوف بھی لازم ہے۔ اب ہم ان بے  
 تکی باتوں کو بیان کر کے دریافت کرتے ہیں کہ اس معمولی گہن کو من اللہ کی شہادت کیونکر کہا جاتا  
 ہے۔ آیا کوئی عقلی دلیل ہے یا نقلی بیان کیا جائے۔ مگر ہم نہایت زور سے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی  
 قادیانی کسی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے اس معمولی گہن کو آسانی شہادت کہا ہے۔  
 نہ حدیث میں اس کا پتہ ہے۔ جس حدیث کو مرزا قادیانی پیش کر رہے ہیں۔ اس کے معنی وہ نہیں  
 ہیں۔ جو مرزا قادیانی بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے رو سے ۱۳۶۲ ہجری کا گہن ہرگز مہدی کی  
 نشانی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کو اپنی شہادت میں پیش کرنا مرزا قادیانی کی سخت غلطی یا نہایت نازیبا  
 فریب دہی ہے۔

ناظرین! میں کہاں تک غلطیاں شمار کروں۔ ”تلك عشرة كاملة“ ارشاد باری ہے:  
 لہذا درست میں اسی نمبر پر بس کرتا ہوں اور آخر مرزا قادیانی کی غلط فہمی پر دو شاہد پیش کرتا ہوں۔  
 ایک شاہد مولوی عبدالجید صاحب بی اے ٹرانسلیٹر ہیں جو مرزا قادیانی کے نہایت سخی  
 مخلص مرید ہیں اور جنہوں نے آئمہ حمید مجید لکھ کر قوم کو شائع کیا ہے۔ موگیٹز اور بھاگپور کیا  
 مرزا قادیانی کے ماننے والے جن قادیانی حضرات سے میں ملا ہوں ان میں سے اول درجہ کی  
 اخلاصانہ حالت اور فدایانہ کیفیت جناب مولوی علی احمد صاحب ایم اے میں موجود ہے اور دوسرا  
 نمبر مولوی عبدالجید صاحب کا ہے۔ ایسے مقتدر شخص نے علامہ مصنف فیصلہ آسانی کی کتاب  
 شہادت آسانی دیکھ کر مخدومی مولانا محمد عصمت اللہ صاحب مرحوم کی خدمت میں ۴ نومبر ۱۹۱۲ء کو  
 ایک خط آفت کلکتہ سے روانہ کیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں: ”شہادت آسانی میں نے دیکھا ہے  
 شک جہاں تک میری سمجھ ہے قواعد حضرت مرزا قادیانی کے معنی کو قلم تار رہا ہے۔ دوسرے شاہد  
 عادل جو بطور خود مرتبہ میں ہزار ہا شاہد کا حکم رکھتے ہیں اور جنہیں خود مرزا قادیانی مامور من اللہ لکھتے

ہیں۔ یعنی حضرت مجدد الف ثانی وہ فرماتے ہیں: ورنہ ان ظہور سلطنت اور در چہار دم شہر رمضان کسوف الشمس خواہد بودر اول آن ماہ خسوف برخلاف عادت زمان و برخلاف حساب منجمان بہ نظر انصاف باید دید کہ این علامت در ان شخص میت بودہ است یانہ "اب اس سے بڑھ کر اور کیا شہادت ہو سکتی ہے! احادیث نبویہ آیات قرآنیہ حالات موجودہ واقعات گزشتہ شہادت مجدد و ظہار قادیانی۔ ان سب نے مل کر فیصلہ کر دیا کہ مرزا قادیانی ہرگز مہدی نہ تھے۔ اور ان میں ایک بھی وہ علامت پائی نہیں جاتی ہے۔ جو حدیث نبویہ میں مسیح موعود اور مہدی کے لئے مذکور ہیں۔ اگر اس قدر وضاحت کے بعد بھی کوئی ناہم نہ سمجھے تو خود اس کی فہم واستعداد باطل کا اثر سمجھنا چاہئے۔

گرنہ بیند بروز شہرہ چشم

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

وہ کسوف عس تو ہوا نہیں۔ خدا قلب کو بھی کہن سے بچائے۔ مولف القاء ربانی کے دل میں اگر واقعی حق کی تڑپ باقی ہے اور وہ واقعی اس مکتوب سے جن کو مجدد صاحب نے بیان فرمایا ہے مرزا قادیانی کے مسیح موعود ہونے پر استدلال لاتے ہیں تو آج سے مرزا قادیانی کو ضرور مسیح کا ذب کہیں۔ کیونکہ نہ بے چارے کو سلطنت نصیب ہوئی۔ نہ ان کے فرمان سے عالم مدینہ قتل کیا گیا۔ نہ ان کے سر پر ابر کا کلڑہ بطور نشان ظاہر ہوا۔ اور نہ اس سے فرشتے نے یہ آواز دی کہ مہدی یہی ہیں تم لوگ ان کی بیروی کرو۔ جناب مرزا غلام قادیانی سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین کے مانند ساری دنیا کے تو کیا بادشاہ ہوتے۔ چار دن کے لئے بے چارے پنجاب کے بھی حاکم نہ ہوئے ایسے ہی مرزا قادیانی اہل بیت میں سے بھی نہ تھے۔ مرزا قادیانی کا لفظ خود شہادت کے لئے کافی ہے۔ غرض کن کن ہاتوں کو لکھوں اور کہاں تک لکھوں۔ ایک بھی بات جناب مرزا قادیانی میں ایسی نہ تھی کہ ان کو مہدی کہا جائے۔ اور جس طرح مہدی نہ تھے۔ ویسی ہی مسیح موعود نہ تھے۔ کیونکہ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام در زمان وے نزول خواہد کرو۔ پھر فرماتے ہیں: ونزل حضرت روح اللہ الخ! یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے۔ پھر مرزا قادیانی کو آپ حضرات یعنی جماعت قادیانی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتی ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریر سے تو خود ہی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تھے اور جناب مرزا قادیانی اپنے کونے کو اور بتاتے ہیں۔ اور پھر حضرت مجدد کے مکتوب کے خلاف ہے اگر مولف القاء ربانی کو حق کی تڑپ دل میں باقی ہے۔ اور واقعی وہ اس مکتوب سے جناب مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی

حقیقت کی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میں نے اس حقیقت کو نہایت وضاحت سے انہیں کے مسلم الثبوت مکتوبات سے پیش کر دیا وہ سر تسلیم خم کر کے اس حقیقت کی تہ تک پہنچ جائیں کہ مرزا قادیانی فی الحقیقت نہ مہدی مسعود تھے نہ مسیح موعود مؤلف القائے ربانی بڑے بھولے بن کر بے چارے سیدھے سادھے ناظرین کو ابلیہانہ فریب دینا چاہتے ہیں اور یوں تحریر کرتے ہیں مگر اس پر کیا وثوق ہے کہ جس مسیح اور مہدی کے یہ لوگ منتظر ہیں۔ اس کو یہ لوگ مان لیں گے۔

معزز ناظرین! آپ نے دیکھا یہ کس قدر جہالت کی بابت ہے اگر کوئی عایت درجہ کا چالباز مکر اور چھاپا پھیری جا کر اپنے کو کلکٹر ظاہر کرے اور مجسٹریٹ کورٹ میں حاضر ہو کر خود صاحب کلکٹر بہادر سے یوں کہے کہ آپ مجھے چارج دے کر فلاں ضلع چلے جائیں۔ آپ کی تبدیلی ہوگئی ہے۔ مگر کلکٹر یہ سمجھ کر کہ یہ شخص محض دیوانہ ہے۔ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ اگر واقعی یہ کلکٹر ہوتا اور واقعی میری تبدیلی یہاں سے ہوتی تو ضرور پہلے سے اس کی مجھے خبر ہوتی۔ گزٹ ہو گیا ہوتا یا کوئی سرکاری لیٹر یا ٹیلیگرام میرے پاس آ گیا ہوتا۔ فرض اسے جھوٹا اور دیوانہ سمجھ کر کانسٹیبل سے دھکے دلا کر کورٹ سے نکلوا دے تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ اب جب کبھی سرکاری طور پر اس کی تبدیلی ہوگئی وہ ہر چارج لینے والے آفیسر کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گا اور اپنی جگہ کو نہیں چھوڑے گا۔ مؤلف القائے ربانی ایسا سمجھیں تو سمجھیں، پر دنیا کا کوئی دانشمند ایسا نہیں سمجھ سکتا۔ پھر جب اس دنیا کے ادنیٰ ادنیٰ بادشاہوں نے ایسے ایسے قوانین مقرر کر رکھے ہیں تو وہ قادر مطلق خدا جس کا خطاب احکم الحاکمین ہے اور جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اصلاح خلق اللہ کے لئے اپنا رسول بھیجے اور کوئی قواعد و ضوابط اس کے جانچ پڑتال کے لئے مقرر نہ کرے۔ کس قدر تعجب خیز ہے۔ یقین رکھیں کہ جب مہدی موعود ظاہر ہوں گے۔ اور حضرت روح اللہ تشریف لائیں گے۔ تو ان کو علمائے اہل سنت ان ہی نشانات سے جو حدیث شریف میں مذکور ہیں اور جنہیں مجدد صاحب نے نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے اور جس کو میں خدا کے فضل سے اچھی طرح لکھ چکا ہوں۔ ان ہی نشانات سے جانچ پڑتال کریں گے۔ اگر اس میں یہ سب نشانات پائے گئے تو آمنا و صدقاً کہہ کر ان کے حلقہ بگوش ہو جائیں گے اور جو نہیں پائے گئے تو انہیں ایسی ہی مردود کر دیں گے جسے مرزا قادیانی کے بے اصل دعویٰ کو رد کر دیا ہے، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے اور جب جب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ایسے کام کی انجام دہی میں علمائے وقت مشغول رہتے ہیں۔ خلیفہ اسحاق قادیانی اور مؤلف القائے ربانی فرمائیں کہ انہوں نے کن نشانات سے مرزا قادیانی کو مسیح موعود اور مہدی مسعود مان لیا؟ کہ مؤلف القائے ربانی کے نزدیک تو کوئی نشانات ہرگز بندگان خدا میں

ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جس سے انسان اصل حقیقت پر پہنچ سکے۔ پھر اس تودہ طومار اور غلط حوالہ، غلط عبارت، غلط منشاء سے حقیقت مسج پر رسالہ لکھنے کی جرأت کی کہ خواہ مخواہ اپنے افتخار کو کھو بیٹھے وہی جہال مرزائی کی طرح یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی اور الہام اگر غلط ہوں تو ہوں میں نے جناب مرزا قادیانی کو بے دلیل مسج موعود مان لیا۔

الحاصل کہ حضرت مجدد صاحبؒ کے مذکورہ بالا مکتوب سے نیز اس کی وضاحت اور تشریح سے یہ بات اچھی طرح روشن ہوگئی کہ مرزا قادیانی نہ مہدی تھے نہ موعود اگر چہ اتنی ہی تحریر سے بحث کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر مزید تفسیح کے لئے میں اس کی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور حضرت مجدد صاحبؒ کے مکتوب سے چند جملے اور نقل کرنا چاہتا ہوں جس سے ناظرین کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ جو روش جناب مرزا قادیانی کی تھی وہ کیسی تھی اور مجدد صاحبؒ ایسے شخص کی نسبت (جو خلاف عقائد اہل سنت والجماعت اپنا کشف شائع کرتا ہو) کیا حکم صادر فرماتے ہیں۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدان ارشادك اللہ تعالیٰ والہمك سواء الصراط کہ از جملہ ضروریات طریق سالک اعتقاد و صحیح است کہ علمائے اہل سنت آنرا از کتاب و سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ اند و کتاب سنت را محمول داشتن بر معانی کہ جمہور علمائے اہل حق یعنی علمائے اہل سنت و جماعت آن معنی را از کتاب و سنت فہمیدہ اند نیز ضروری است و اگر بالفرض خلاف آن معنی مفہومہ بکشف والہام امرے ظاہر شود آن را اعتبار نباید کرد و ازان استعاذ باید نمود مثلاً آیات و احادیث کہ از ظواہر آنها وجود توحید مفہوم می شود و ہمچنین احاطہ و سریان و قرب و معیت ذانیہ معلوم می گرد و چون علمائے اہل حق ازان آیات و احادیث این معنی نہ فہمیدہ اند اگر در اثنائے راہ ہر سالک این معانی منکشف شود و موجود جزیکہ نیا بدیا اور ابالذات محیط داند و قریب ذاتاً بیابد ہر چند از درینوقت بواسطہ غلبہ حال سکر معذرت اما باید کہ ہمیشہ بحق سبحانہ تعالیٰ ملتجی و متضرع باشد کہ اور ازیں و ربطہ بر آوردہ اموریکہ مطابق آرائے صائمہ علمائے اہل حق است بروی منکشف گرداند و سرموی۔ خلاف معتقدات حقہ ایشان ظاہر نسلز دبالجملہ معانی مفہوم علمائے اہل حق را مصداق کشف خود باشد ساخت و محک الہام

خود راجز آن نبلید داشت۔ چه معانی که خلاف مفومہ ایشان است از حیز اعتبار ساقط است زیرا کہ ہر مبتدع و ضال معتقدات مقتدائے خود کتاب و سنت میداند و باندازہ افہام رکیکہ خود از ان معانی غیر مطابقہ می فہمد یضل بہ کثیر او یهدی بہ کثیرا۔ و آنکہ گفتیم کہ معانی مفومہ علمائے اہل حق معتبر است و خلاف آن معتبر نیست بنا بر آنست کہ آن معانی را از تتبع آثار صحابہ و سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اخذ کردہ اندواز انوار نجوم ہدایت شان اقتباس فرمودہ اند لہذا نجات ابدی مخصوص بایشان گشت و فلاح سرمدی نصیب شان آمد اولئک حزب اللہ ہم المفلحون نہ اگر بعضی از علماء باوجود حقیقت اعتقاد درقرعیات مداہنت نمایند و مرتکب تقصیرات باشند در عملیات انکار مطلق علماء نمودان و ہمہ را مطعون ساختن بے انصافی محض است و مکابره صرف بلکہ انکار است اورا اکثر ضروریات دین چہ ناقلان آن ضروریات ایشانند و ناقد ان جیدہ آنرا ازردیہ ایشانند لولا نور ہدایتہم لما اہتدینا لولا تمييز ہم الصواب من الخطاء لغوینا ہم الذین بذلوا جہدہم فی اعلاء کلمة الدین البقویم و اسکو اطراف کثیرة من الناس علی صراط مستقیم فمن تابعہم نجی و اقلع و من خالفہم ضل و اضل“

(کتوب دوم و ہشاد ہشتم ج ۱ ص ۳۷۳)

و جان اے عزیز خدا تمہیں سبھ عطا فرمائے اور اچھے راستے پر چلائے کہ طریق سلوک میں سب سے اصل اور ملاک امر و اعتقاد صحیح ہے جسے علمائے اہل سنت نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور آثار سلف سے استنباط کیا ہے۔ قرآن اور احادیث کو ان معانی پر محمول کرنا جن جمہور علمائے اہل حق نے یعنی علمائے اہل سنت و جماعت نے اس معنی کو کتاب اور سنت سے سمجھا اور بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ اگر بالفرض خلاف اس معنی کے جس کو علمائے اہل حق نے سمجھا ہے۔ کشف یا الہام سے کوئی امر ظاہر ہو تو اس پر اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ اس سے پناہ مانگنا چاہئے۔ یعنی الگ ہو جانا چاہئے مثلاً ان آیات اور احادیث سے کہ جس کے ظاہر معنی سے وحدت و جود کی صورت نکلتی ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہر جگہ حاوی و ساری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قربت و معیت ذاتیہ معلوم ہوتی ہے مگر علماء اہل حق نے ان آیات اور

احادیث سے یہ معنی نہیں سمجھا ہے اگر راہ سلوک میں کسی عارف کو اس کے خلاف صورت معلوم ہو تو ہر چند کہ سالک اللہ کی محبت میں سرشار ہونے کی وجہ سے مجبور اور معذور ہے۔ لیکن چاہئے کہ ہمیشہ حق سبحانہ تعالیٰ سے التجا کرتا اور اس کی درگاہ میں گڑگڑاتا رہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس بھنور سے نکال کر اس پر وہ امور منکشف کر دے جو علمائے اہل حق کی صاحب رائے نے مستحکم کئے ہیں۔ اور سرموان کی رائے کے خلاف نہ کرے اور ایسے امر کو ظاہر نہ کرے جو علمائے اہل حق کے معتقدات کے خلاف ہو۔ غرض ان معانی مفہومہ اور کشف کو علمائے اہل حق کے اقوال سے استحسان کرنا اور جانچنا چاہئے کیونکہ ہر شخص کے فرادئی فرادئی معانی مفہومہ غیر اعتبار سے ساقط ہیں اور مبتدع و ضال اپنے معتقدات کی سند میں ناہمی یا کج فہمی کی وجہ سے قرآن اور حدیث نبوی پیش کر دیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معانی قرآن اور احادیث سے مستحکم ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کا فہم ریکہ ہے جو اس معانی مفہومہ کو جو خلاف رائے صاحب علمائے اہل حق کتاب و سنت کے موافق سمجھتا ہے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت کرے اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ علمائے اہل حق نے جو معنی قرآن اور احادیث کو سمجھا جاتا ہے وہی حق اور معتبر ہے اور جو معنی اس کے خلاف کسی فہم ریکہ نے استخراج کیا ہو وہ معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علمائے اہل سنت والجماعت کے اجتہاد کا چشمہ صحابہ اور سلف صالحین کے آثارات سے ہے اور ان ہی کی ہدایت بھری روشنی سے ان علماء نے اقتباس نور کیا ہے۔ اس لئے نجات ابدی ان ہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے اور فلاح سرمدی انہیں کا حصہ ہے وہی لوگ اللہ والے تھے اور خبردار ہو جا کہ ایسے ہی ممتاز کردہ فلاح پانے والے ہیں۔ ﴿

اگر بعض علماء اعتقاد کی مشیت کو سمجھ کر فروعی امور میں سستی اختیار کریں اور تقصیر کے مرتکب ہو جائیں تو ان کو پیش نظر رکھ کر مطلقاً علمائے اہل حق سے منکر ہو جانا اور سارے علمائے اہل سنت کو مطعون کرنا اور برا سمجھنا غایت درجہ کی بے انصافی اور محض مکابرہ میں داخل ہے بلکہ ان علماء اہل سنت والجماعت کے مطلقاً انکار سے ضروریات دین کا انکار لازم آتا ہے کیونکہ ان ہی علمائے اہل حق نے ضروریات دین کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے پھر جب خود ان کی نسبت گمان فاسد ہو جائے گا تو ان کے اقوال اور بھی بدرجہ اولیٰ مقبول ہوں گے۔ اور یہ نہایت بری بات ہے۔ اگر یہ علمائے اہل حق نہ ہوتے اور ان کی ہدایت کی نورانی روشنی ہم لوگوں پر ضوہ نکلن نہ ہوتی تو ہم لوگ ہرگز صراط مستقیم پر پہنچ نہیں سکتے۔ اور اگر ان لوگوں نے خدا کے احکام کے سنانے اور تبلیغ شریعت میں بڑی جان توڑ کوشش کی ہے۔ الحاصل جو ان علمائے اہل حق کے راستہ پر چلا اور اپنے فہم کی ان کے فہم عالی



سے تصدیق کرتا رہا وہ نجات پا گیا اور اسے فلاح نصیب ہوئی اور جن لوگوں نے ان کے خلاف کیا یعنی اپنی معافی منسوبہ کو جو ان علماء کے تحقیق کے خلاف ہو بے جا نچے۔ پڑتالے لوگوں میں پھیلا دیا وہ خود گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ بنایا۔

اسی مکتوب میں مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جو معرفت خداوندی کا شیدائی ہو اور صراط مستقیم پر نہایت ہی استحکام سے چلنا چاہتا ہو اس کے لئے سب سے پہلے صحیح التواہد کی ضرورت ہے اور اعتقاد صحیح اس کا نام ہے کہ عقائد کے متعلق جو کچھ علمائے اہل حق یعنی علمائے اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے نہ دل سے اس کو مانے اور راہ سلوک میں جو کچھ امور بذریعہ کشف یا الہام کے اسے معلوم ہوں وہ ان ہی علمائے اہل حق کے اقوال سے اس کی جانچ پڑتال کرتا رہے۔ اگر موافق رائے صاحب علماء معلوم ہو قبول کرے۔ ورنہ مردود سمجھ کر باری تعالیٰ کے حضور میں نہایت ہی عاجزی سے گڑگڑا کر دعا کرے کہ اے خدا اے میرے مالک ہم تیری رضا مندی کے شیدائی ہیں تو میرے قلب کی اصلاح فرما اور مجھ پر وہ امور ظاہر اور منکشف فرما۔ جو علمائے اہل حق کی تحقیق کے موافق ہوں کیونکہ ان علمائے اہل حق کا ماخذ اور سرچشمہ آثار صحابہ و سلف صالحین ہے اور یہ ایسی مقبول اور مبارک جماعت ہے جو کبھی غلطی پر قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نامفہم مسائل دینیہ کو اپنی ناانہی سے کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اور نفسانیت کی وجہ سے یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہی معنی قرآن اور احادیث سے مستنبط ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس کی صریح غلطی ہے۔ الغرض نہایت درجہ کے احتیاط سے کام لے اور ہرگز ان امور کو ظاہر نہ فرمائے جو علمائے اہل حق کی تحقیق کے خلاف ہوں۔ اگر شخص مذکور نے اس احتیاط کو برتا، اس پر عمل کیا تو ضرور وہ فلاح پا گیا ورنہ وہ خود گمراہ ہوا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب مرزا قادیانی اس جانچ میں کیسے نکلے اور انہوں نے اپنے کشف یا الہام کو کبھی اس طریقہ سے جانچا اور کیا وہ درحقیقت فلاح پا گئے؟ یا انہوں نے خود گمراہ ہو کر لوگوں کو گمراہ کیا اور اس جانچ پڑتال میں مجھے ان ہی باتوں کو معزز ناظرین کو دکھانا ہے۔ جن سے مرزا قادیانی کے عقیدہ کا اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ علمائے اہل حق کے عقائد سے جناب مرزا قادیانی کے عقیدہ کو کیا نسبت ہے؟ ”وما توفیقی الا باللہ علیہم توکلت والیہ انیب“

یوں تو جناب مرزا قادیانی کی بہت سی تحریریں اور ایسے سینکڑوں کشف والہامات ہیں جو عقیدہ علمائے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ مگر طوالت تحریر کے خیال سے اس رسالہ میں مرزا قادیانی کے صرف چار الہام اور ایک کشف ان ہی کی کتاب سے مع حوالہ پیش کرتا ہوں۔

..... ۱ "انت منى وانا منك" ﴿تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں﴾ یعنی وجود خدا  
وندی باعث وجود مرزا قادیانی اور وجود مرزا قادیانی باعث وجود باری تعالیٰ ہے۔

(حقیقت الہی ص ۷۴، خزائن ج ۲۲ ص ۷۷)

..... ۲ "ظهورك ظهورى" ﴿تیرا ظہور میرا ظہور ہے﴾ یعنی مرزا قادیانی بذات خود خدا  
تھے۔ ﴿تذکرہ ص ۷۰۴ طبع سوم﴾

..... ۳ "انت منى بمنزلة توحيدى و تفريدى" ﴿تو مجھ سے ہے اور تو مرتبہ میں  
میری وحدانیت اور یگانگت کے ہے﴾ یعنی جس طرح میری وحدانیت کا کوئی مقابل نہیں ویسے  
ہی تیرا مرتبہ عظیم الشان ہے کوئی تجھ سا ذی مرتبہ نہیں اور کوئی شخص تیرے برابر ذی مرتبہ نہیں  
کر سکتا۔ (حقیقت الہی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

..... ۴ "انت منى بمنزلة ولى" ﴿تو مجھ سے ہے اور میری اولاد کا مرتبہ رکھتا ہے﴾  
(حقیقت الہی ص ۸۶، خزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

ان چاروں الہاموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ خدا تھے۔ خدا کے  
بیٹے تھے۔ چنانچہ وہ خود اپنا کشف یوں بیان کرتے ہیں کہ: "میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ خود  
خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔" (کتاب البریہ ص ۷۸، خزائن ج ۱۰۳ ص ۱۰۳) نعوذ باللہ من  
هذا الكشف والالهام۔ تثلیث کے شیدائی یعنی عام عیسائی کو مرزا قادیانی و جاں تاتے ہیں اور  
کہتے ہیں کہ میں ان ہی کے قتل کے لئے زبان تیغ سے نہیں بلکہ زبان قلم سے مامور کیا گیا ہوں اور  
خود انہوں نے جو کچھ دجل اختیار کیا ہے اور جس قدر گہری تثلیث پرستی دنیا میں قائم کی ہے وہ  
عیسائی تثلیث سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ اس پر جماعت قادیانی غور و خوض نہیں کرتی۔

عیسائیوں کے کفارہ کا مسلم الثبوت جملہ ایسی ایسی لعا سبق تنى۔ یعنی اے خدا  
اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ جو عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے  
مصلوب ہوتے وقت نکلا تھا۔ اس سے خود مترشخ ہے کہ روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام کے سوا بھی  
کوئی بڑی ہستی ہے اور اسی کا نام خدا ہے۔ مگر مرزا قادیانی خود ہی خدا بن بیٹھے اور پھر ان پر یہ الہام  
ہونے لگا۔ "انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون اريد ما تريد"

(حقیقت الہی ص ۱۰۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸)

یعنی تو جس بات کا ارادہ کرے کن فیکون کہہ دیا کر ہو جائے گا۔ جو کچھ تو ارادہ کرتا ہے۔ وہی میں بھی ارادہ کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کے اس بے نگہی اور اس بلندی پر وازی اور مجذوبانہ الہام کو عقائد اہل سنت والجماعت اور ارشاد خداوندی یعنی قرآن مجید سے پرکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت رسول مقبول ﷺ سے ارشاد فرماتا ہے: ”قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد“ یعنی اے میرے پیارے نبی ﷺ ان لوگوں سے کہہ دے جو مخلوق پرستی میں جلتا ہیں۔ آفتاب کو بت اور ہر ایسی چیز کو جو فانی ہے۔ اللہ یا اس کا بیٹا سمجھتے ہیں وہ نہایت غلطی پر ہیں اور پرلے درجہ کے بے وقوف ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے۔ کوئی اس کی توحید اور تفرید میں برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ بے نیاز (کسی کی خواہش کا وہ تابع نہیں اس کا ارادہ کسی کے ارادہ کے ماتحت نہیں) وہ کسی سے جتا اور نہ اس سے کوئی جتا۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ اللہ واحد ہے بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا ہے تو پھر ان لوگوں سے کہہ دے۔ جو بے جان چیز اور فانی مخلوق کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور اس کے قوی ارادہ میں دوسروں کو شریک سمجھتے ہیں وہ تو بے نیاز ہے۔ غرض کہ کوئی اس کے مثل نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے: ”وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا“ یعنی اللہ کی ایسی قوی ہستی ہے کہ اس کا بیٹا ہونا تو بڑی بات ہے۔ جو خدا کے شان شایان نہیں۔ کہ مثلاً بھی کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ قرآن شریف کا یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے کہ ہر زمانہ میں ہر فرقہ باطلہ کی غلط دعویٰ کا کما حقہ رد کر دے۔ ”انت بمنزلۃ توحیدی و تفریدی و ظہورک و ظہوری“ کا کیا اچھا رد قل ہو اللہ احد ہے۔ اور ارید ما ترید کا کیا دماغ ممکن جواب اللہ الصمد ہے۔ جو اس کی صفت ازلی وابدی ہے اور پھر انت منی وانا منک کا کیا خوب جواب لم یلد ولم یولد ہے۔ نیز انت منی بمنزلۃ ولدی کا کس خوبی سے وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا سے رد ہو رہا ہے۔ اللہ کی اولاد کے مقابل اور ہم مرتبہ کوئی دوسرا مولود جب ہی ہو سکتا ہے۔ جب حقیقتاً خدا کی کوئی اولاد ہو۔ پھر جب خدا کا کوئی ولد نہیں اور اتخا ذولدا خدا کے شایان شان نہیں۔ تو انت منی بمنزلۃ ولدی کیونکر خدائی الہام ہو سکتا ہے اور جب ان چاروں الہام کی قرآن مجید سے قطع و برید ہوگئی تو یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ایسا الہام ہرگز الہام رحمانی نہیں ہو سکتا اور کوئی خدا کے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

غرض خدا کی نسبت مرزا قادیانی کے جو کچھ خیالات تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ اب رسالت کی بابت جو کچھ ان کے خیالات ہیں قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

## رسالت کے دعوے میں مرزا قادیانی کے اقوال

.....۱ ”سچا خدا ہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دائع البلاغ، ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

.....۲ ”لولاك لما خلقت الافلاك“ (حقیقت الوحی ص ۹۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۲)

یہ الہام تو صاف طور سے یہ بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء کے وجود اور ان کے کمالات کے باعث مرزا قادیانی ہیں تمام انبیاء مرزا قادیانی کے ظل ہیں۔ اصل مرزا قادیانی ہی ہیں اس الہام کے بعد مرزا قادیانی کو ظلی نبی کہنا صرف عوام کو دھوکا دینا ہے۔

.....۳ ”یسانی قمر الانبیاء (حقیقت الوحی ص ۱۰۶، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۹)“ الہام صاف طور

سے مرزا قادیانی کو تمام انبیاء کا چاند بتا رہا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوا کہ مرزا قادیانی افضل الانبیاء ہیں۔ جس طرح تاروں میں چاند بہت زیادہ روشن ہے۔

.....۴ یا نبی اللہ کنت لا اعرفک (القلم ص ۸۵، خزائن ج ۲۲ ص ۱۱۳)

.....۵ انی معک ومع اهلك اريد ما تريدون (القلم ص ۸۷، خزائن ج ۲۲ ص ۱۱۵)

.....۶ ”خدا نے اس امت میں سے مسخ موعود بھیجا جو پہلے مسخ سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔“ (دائع البلاغ، ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۲)

ان اقوال اور الہامات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی رسول تھے نبی تھے۔ مرزا قادیانی کی شان ایسی بلند تھی کہ اگر مرزا قادیانی پیدا نہ ہوتے تو یہ دنیا پیدا نہ ہوتی۔ مرزا قادیانی سب نبیوں کے سر تاج اور چاند تھے اور انتہائی ہوئی کہ ایسے بلند مرتبہ تھے کہ خود خدا آپ کی شان کو پہچاننے کی آرزو رکھتا تھا جیسا کہ الہام کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور خدا جانے مرزائی خدا نے ایسا ذہول کیوں اختیار کیا۔ خدا اور یہ بے خبری۔

غرض جب مرزا قادیانی نے اپنا یہ مرتبہ ثابت کیا اور قوم کو الہام کے ذریعہ سے یہ ذہن نشین کرایا کہ ہمارا وجود نہایت ہی متم بالشان اور میں ہی افضل البشر اور فخر الانبیاء ہوں۔ اور نافرمانوں نے اسے مان لیا تو مرزا قادیانی کی جرأت اور بڑھی اور پھر یوں کہنے لگے کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ: ”یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں۔ تحریف معنوی اور لفظی سے آلودہ ہیں یہ سرے سے موضوع ہیں اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو خدا سے علم پا کر چاہے رد کر دے۔“ (ضمیمہ تھڈ کلا دیہ ص ۱۰، خزائن ج ۱۷ ص ۵۱)

پھر (اعجاز احمدی کے ص ۲۹، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۹) میں تحریر کرتے ہیں کہ: ”ہم اب تک سمجھتے

ہیں کہ حکم اس کو کہتے ہیں کہ اختلافات رفع کرنے کے لئے اس حکم کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گو وہ ہزار حدیث کو موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے۔ "مرزا قادیانی یہ کہہ کر تمام مسلمانوں کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ان کے قول کے یا فضل کے کوئی حدیث مخالف ہو اور ان کے سامنے پیش کی جائے تو اسے رومی میں پھینکنے کو کہہ دیں گے اور اگر کوئی آیت پیش کی جائے تو اس کے معنی ایسے گڑھ دیں گے کہ تیرہ سو برس تک کسی ذی علم اور کسی مفسر نے نہیں کئے اور کہہ دیں گے کہ ہم حکم ہیں جو ہم کہیں اسے تسلیم کرو۔ غرض کہ مسلمانوں کے متوجہ کرنے کے لئے تو اسلام کا نام ظاہر میں ہے اور باطل میں اسلام وہ ہے جو مرزا قادیانی کہیں اگرچہ کیسا ہی وہ قول اسلام کے خلاف ہو۔ جب سادہ لوحوں نے یہ بات مان لی تو اس کے مناسب احکامات بھی جاری ہونے لگے۔ جو قرآن و احادیث کے بالکل خلاف ہیں۔ مثلاً آپ نے بیٹے کی نسبت یہ حکم جاری کر دیا کہ "اگر فضل احمد اپنی بیوی کو طلاق نہ دے تو عاق کیا جائے اور ایک پیسہ وراثت کا اس کو نہ ملے۔" چنانچہ جب محمدی بیگم (یعنی منکوحہ آسمانی کا نکاح سلطان احمد بیگ سے ہو گیا) تو مرزا قادیانی نے اپنے لڑکے پر زور ڈالنا شروع کیا کہ جب احمد بیگ نے میری بات نہ مانی اور اپنی لڑکی محمدی بیگم کی شادی دوسری جگہ کر کے مجھے ذلیل و رسوا کیا تو بھی اس کی بھانجی یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے کر میرا بدلہ ان سے لے لے۔ مگر مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا قادیانی سے زیادہ خدا ترس اور انصاف پسند تھا۔ اس کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اس نے ایک ناکردہ گناہ اور اپنے دل کے آرام و خوشی کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ طلاق نہ دی۔ مرزا قادیانی اس کی حرکت سے آگ بھبھوکا ہو گیا اور اسے عاق کر کے اپنی جائیداد کے ترکہ سے محروم رکھا۔ نیز مرزا قادیانی بلا شرعی اجازت کے اپنے خواہش کے مطابق جب چاہا نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیا وغیرہ وغیرہ۔

الغرض مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس دعوے سے جو مقصد تھا وہ بھی میں نے مجملہ ظاہر کر دیا اب میں اس دعوے کی غلطی بسوجب عقیدہ اہل سنت والجماعت اسی کتاب سے دکھانا چاہتا ہوں۔ جسے ہمارے برادر مکرم مانتے ہیں اور سب سے پہلے اس کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کیا ہے اور اپنے کو نبی سمجھ لیا لیکن نبوت کے متعلق جو اعتقاد اہل سنت والجماعت کا ہے وہ میں مجدد صاحب ہی کے مکتوب سے لکھتا ہوں۔

حضرت مجدد الف ثانی مکتوب بست و چہارم جلد ثالث میں تحریر فرماتے ہیں۔ چون در شان حضرت عمر فاروق فرمودہ است علیہ وعلیٰ الہ الصلوٰۃ والسلام لو کان بعدی نبی لکان عمر یعنی لوازم کمالاتی کہ در نبوة درکار ست ہمہ

را عمر دارد اما چون منصب نبوت بخاتم الرسل ختم شده است علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام بدولت منصب نبوت مشرف نگشت۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمرؓ ہوتے۔ جو کچھ لازمہ نبوت ہے وہ عمرؓ میں موجود ہے مگر منصب نبوت چونکہ ختم ہو چکا اس لئے عمرؓ نبوت کے منصب سے مشرف نہ ہوا۔ ہمارے برادر نے ایک یہ بھی دھوکا کھایا ہے کہ نبی کے معنی نائب رسول کے سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نبوت کا دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ اس کے معنی نائب رسول کے ہیں مگر انہیں چاہئے کہ اس حدیث پر غور کریں اس سے بخوبی روشن ہے کہ نبی کے معنی نائب رسول کے نہیں ہوتے کیونکہ اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمرؓ نائب رسول تھے اور ایسے عظیم الشان نائب تھے کہ اپنی نیابت کے زمانہ میں اسلام کا وہ کام کیا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دس ہزار پیدا ہوں تو نہیں کر سکتے۔ اگر نبی کے معنی کسی وقت نائب رسول کے ہوتے تو حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتا۔

اب دوسرا قول حضرت امام ربانی کا ملاحظہ ہو۔ اسی مکتوب میں آگے چل کر ارقام فرماتے ہیں کہ مقرر است کہ ہیچ ولی امتی بمرتبہ صحابی آن امت نرسد فکیف بہ بنی آن امت۔ یعنی عقیدہ با علماء اہلسنت والجماعت نے اس بات کو مان لیا ہے اور یہ قاعدہ مقرر ہو چکا ہے کہ اس امت کا کوئی ولی صحابی کے درجہ کے ہمسری نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیونکر وہ نبی ہو سکتا ہے۔ جس کا درجہ صحابی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ پھر اسی مکتوبات کے جلد اول مکتوب ۳۳۲ ص ۳۳۲ میں حضرت مجدد صاحب ارقام فرماتے ہیں کہ نبوت عبارات از قرب الہی است کہ شائبہ ظلیت ندارد یعنی نبوت قرب الہی کو کہتے ہیں۔ اس میں ظلیت تو کجا شائبہ ظلیت بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قول سے مرزا قادیانی کی نبوت ظلیہ اڑ گئی۔ جماعت قادیانی کے زبان زد ہے کہ مرزا قادیانی ظلی نبی ہیں جب نبوت میں ظلیت کا شائبہ نہیں ہے تو ظلی نبی چہ معنی عرض مجدد صاحب کے محررہ بالا دونوں مکتوبوں سے بہ بات ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین تھے آپ کے بعد منصب نبوت باقی نہیں رہا اور اب کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا اور نبی تو بڑی چیز ہے ظلی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نبوت ایک ایسے قرب الہی کا نام ہے جس میں شائبہ ظلیت ممکن نہیں ہے۔ پھر ظلی نبی چہ معنی دارد۔ جماعت قادیانی عموماً اور جناب حکیم نور الدین مولف القاء ربانی خصوصاً مجدد صاحب کے اس مکتوب کو دیانتداری و ایمانداری سے ملاحظہ کر کے بتائیں کہ وہ اپنی مسلم الثبوت اور پیش کردہ کتاب سے کیوں الگ ہو کر مرزا قادیانی کو بعض مستقل انبیاء

سے افضل اور پھر کہیں ظلی نبی مان رہے ہیں اور بعض ان کے مخلصین یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی غیر تشریحی نبی تھے۔ یعنی مرزائی حضرات کے نزدیک نبوت کی دو اقسام ہیں۔ ایک تشریحی اور دوسری غیر تشریحی۔ غرض نبوت ایک ہی ہے جو دو چیز پر مشتمل ہے مگر جب مطلق نبوت کی نفی کر دے گی تو دونوں کی نفی ہوگئی اور ثابت ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد نہ کوئی تشریحی نبی ہونے پر تشریحی۔ اور مجھے زیادہ حیرت تو اس بات پر ہے کہ مرزائی جماعت مرزا قادیانی کو قوم کے سامنے غیر تشریحی نبی بنا کر پیش کرتی ہے اور مرزا قادیانی ہیں کہ تشریحی نبی کی طرح احکامات جاری کر رہے ہیں۔ کیا جناب خلیفہ المسیح حکیم نور الدین صاحب کتب فرائض سے یہ بات مجھے دکھلا سکتے ہیں کہ موانع ارث میں عاق بھی ہے اور لڑکا عاق ہونے سے محروم الارث ہو جاتا ہے۔ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا اور جناب خلیفہ المسیح یاقوف القاء ربانی ہرگز ایسے دکھا نہیں سکتیں۔ ہاں موانع ارث میں سے ارتداد ہے۔ اگر مرزا قادیانی کا فرزند ولید مرتد ہو جاتا تو وہ البتہ محروم الارث ہو سکتا ہے۔ والا فلا!

ایسے میں مؤلف القاء، ربانی عقائد اہل سنت والجماعت سے یہ دکھا سکتے ہیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی تو اربعین میں صاحب طور سے نبوت تشریحی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پھر یہ عذر بدتر از گناہ پیش ہو رہا ہے اور یہاں سے پتہ چل گیا کہ بغیر آپ کسی کی بیروی کے انسان مدارح علیہا پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ مگر افسوس ہے جناب مرزا قادیانی اور مؤلف القاء ربانی پر کہ وہ اس راہ سے الگ ہیں اور مرزا قادیانی: ”یا ایہا الذین امنوا اذا تنازعتم فی شئی فردوه“ اللہ اور رسول کے خلاف اپنے کو حکم قرار دینے جہیں اور پھر لطف یہ ہے کہ حدیث قرآن سے الگ ہو کر یوں فرماتے ہیں کہ: ”حکم کے معنی یہی ہیں کہ اللہ سے علم پا کر جو چاہے فیصلہ کر دے۔ چاہے اس سے ہزار حدیث کیوں نہ روی کے برابر سمجھی جائیں۔“

قادیانیوں کی حالت دیکھو نہ راہ ہوئے بس است کی سی ہے۔ ضعیف سے ضعیف روایت کا اگر ایک نقطہ افتراء بھی کسی پہلو سے ان کی مدعا کے موافق نکل آیا۔ بس تا لیاں بجانے لگتے ہیں اور زبان اور قلم سیکڑوں جگہ پر اسے مستہتر کرتے ہیں۔ اس تحریر میں حکم کا لفظ آ گیا ہے شاید مؤلف القاء ربانی یہ کہہ دیں کہ حدیث شریف میں حکماً عدلاً مسیح موعود کے شان میں آیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود تھے۔ پھر انہوں نے اگر اپنے کو حکم کہا تو استہجاب کیا ہوا۔ لہذا میں اسے ذرا وضاحت سے تحریر کرتا ہوں۔ گوش دل سے سنئے۔ محررہ بالا تحریر سے اولاً یہ بھی اچھی طرح ثابت کر چکا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود نہ تھے۔ ثانیاً حدیث شریف میں یہی ایک لفظ حکماً عدلاً نہیں

ہے۔ بلکہ پوری حدیث یہ ہے: ”ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا . فیکسر الصلیب،

ویقتل الخزیر، ویضع الجزیة، ویفیض المال حتی لایقبلہ احد . حتی تکون

السجدة الواحدة خیر امن الدنیا والآخرہ“ یعنی مسیح ابن مریم تم میں حاکم عادل ہو کر

نازل ہوں گے۔ صلیب (پرستی کی بنیاد) کو توڑ ڈالیں گے۔ (سور) کو توڑ کریں گے۔ یعنی بے غیرتی

جاری رہے گی۔ بے حیا لوگ تباہ و برباد ہوں گے۔ (جزیہ) یعنی ٹیکس جو اسلام میں مقرر تھا۔ وہ

اٹھا دیا جائے گا۔ (مال) کی ایسی کثرت ہوگی کہ اس کا لینے والا کوئی نہ ہوگا (عبادت الہی کا شوق اس

درجہ غالب ہوگا کہ) ایک سجدہ میں دولت کو نین سے زیادہ لطف آئے گا۔

اب فرمائیے کہ کہاں صلیب پرستی دنیا سے اٹھی۔ کہاں مسلمانوں میں: ”استفتاء نفس“

حاصل ہوا۔ بے حیائی اور بے غیرتی کب مفقود ہوئی۔ عبادت الہی کا شوق اس درجہ پر کہاں موج

زن ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ بلکہ برعکس ادیان باطلہ اور خصوصاً صلیب پرستی کا

زور و شور ہے۔ عموماً لوگوں میں استفتاء نفس نہیں۔ الاماش اللہ! خصوصاً مرزا قادیانی اور ان کے

خلیفہ بروز نئے نئے طریقہ سے قوم سے روپیہ لیتے ہیں۔ بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ قرآن اور

حدیث اگر مرزا قادیانی کے مدعا کے خلاف نکلے تو اسے روپی میں پھینکنے کا کہا جاتا ہے۔ اس حدیث

شریف کا ایک حرف بھی مرزا قادیانی کے شایان شان نہیں۔ یوں مذاق کی تو اور بات ہے کہ کوئی

فحش اپنے کو بادشاہ وقت اور حکم سمجھنے لگے۔ مرزا قادیانی صرف اپنے کو حکم ہی تصور کرنے پر بس

نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ میں نوح الانبیاء ہوں۔ یعنی سب نبیوں کا چاند یعنی سرتاج

ہوں۔ حالانکہ حضرت محمد و صاحب کے کتب سے جسے مولف القاء ربانی نے مسلم الثبوت مانا

ہے۔ میں دکھا چکا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین تھے اور آپ ﷺ کے بعد اب منصب نبوت

باقی نہیں بلکہ آپ کی امت کا کوئی ولی صحابہ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر اپنے کو نبی کہنا

سوائے ہفوات اور بے تکہ خیال اور نیز مجذوبانہ بڑے اور کیا ہو سکتا ہے۔

معزز ناظرین! آپ کو معلوم ہوگا کہ کلام خدا اور کلام رسول کے متعلق کیا عندیہ ہے

مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت سے تو نص قرآنی کا صاف انکار ہے۔ لیکن مسلمانوں کے خوف سے

صاف طور پر نہیں کہتے۔ مگر اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کا حاصل کلام یہی ہے۔ ملائکہ اور حشر

اجساد کے متعلق بھی مرزا قادیانی کا عقیدہ بالکل ہی اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ فرشتہ کو

مرزا قادیانی ایک جدا مخلوق نہیں سمجھتے بلکہ اسے دہریہ کی طرح کہیں آفتاب، کہیں ستاروں کی روح

اور الہی کی گرمی سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے اس پر توضیح مرام کے جواب میں کافی روشنی ڈالی



ہے۔ انشاء اللہ عقب میں وہ آپ کے پیش نظر ہوگا۔ سر دست مجھے اتنا ہی ثابت کرنا ہے کہ مرزا قادیانی کی روش بالکل فرقہ ناجیہ علماء اہل سنت کے خلاف ہے اور مرزا قادیانی کے معتقدات کو عقائد اہل سنت والجماعت سے کوئی مناسبت نہیں۔ کبھی انہوں نے احتیاط سے کام نہیں لیا اور بھولے سے بھی اپنے الہام کو مجدد صاحب کے ارشاد کے مطابق عقائد اہل سنت والجماعت اور نیز قرآن مجید اور احادیث شریف سے نہیں جانچا۔ اگر وہ خدا ترس ہوتے تو ضرور ایسا کرتے اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے امور کشفیہ جو انہیں منکشف ہوئے۔ سراسر موجب ہلاکت ہیں۔ باری تعالیٰ کی درگاہ میں نہایت عاجزی سے گڑگڑا کر دعا کرتے کہ اے خدا میرے گناہ سے درگزر فرما۔ مجھ پر وہ امور ظاہر فرما جو معتقدات اہل سنت والجماعت کے خلاف نہ ہوں۔ مگر افسوس اور صد افسوس کہ انہوں نے اس طرح سے کبھی بھولے سے بھی اپنے الہام کو نہیں جانچا۔ بلکہ وہ اور بھی اس پر دلیر ہو گئے اور اپنی رفعت شان سمجھنے لگے۔ ایسے نا فہم کی نسبت مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مولف القاء ربانی نے حکم مان لیا ہے۔

یہ ہی وہ ناطق فیصلہ جو مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ مولف القاء ربانی اسے اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ انہیں کی مسلم الثبوت کتاب مکتوبات امام ربانی سے لکھا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی انہیں کی مسلم الثبوت کتاب سے بحث کروں گا۔ جو اب تو کافی وشافی ہو گیا اور اس مکتوب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مجدد صاحب کی تحریر کے مطابق مسیح موعود اور ہیں اور مہدی مسعود جدا۔ مسیح موعود حضرت روح اللہ ہوں گے اور مہدی موعود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں گے جن کی علامتیں بیان کی گئیں اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ علامتیں مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتیں۔ مزید براں حضرت مجدد صاحب کے مکتوب ہی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعد بعثت ختم المرسلین منصب نبوت باقی نہیں اور اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نہ تشریحی نہ غیر تشریحی نہ ظلی۔ پھر ان سب سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسا شخص جو خلاف معتقدات اہل اسلام اپنے کشف اور الہام کو پیش کرے۔ وہ خود گمراہ ہوا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایسے ناطق فیصلہ کے بعد اب ایک سطر ایک جملہ کیا ایک لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر بھی مولف القاء ربانی کی مزید بصارت اور معزز ناظرین کی مزید واقفیت کے لئے مولف القاء ربانی کی تحریر کے مطابق فتوحات مکیہ سے اس بحث کو اور صاف کرنا چاہتا ہوں۔ مولف القاء ربانی یوں تحریر فرماتے ہیں کہ اس امر کو اور صاف ہو جانے کے لئے حجج الکرملہ اور روایات الملیب فتوحات مکیہ کو بھی دیکھنا چاہئے جس میں مہدی کو کافر اور دجال ٹھہرانے کا ذکر ہے..... الخ۔

شاید حج الکرمۃ۔ دراسات اللیب اور فتوحات مکہ کو خود اپنی آنکھوں سے مولف القاء ربانی نے ملاحظہ نہیں کیا۔ خلیفۃ المسیح یا کسی اور اپنے ہم خیال سے سن کر بلا دیکھے بھالے جس طرح مرزا قادیانی کو اپنے دعوے میں صادق سمجھا ایسے ہی باور کر لیا ورنہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ایسا نہ کرتے۔

ان تین پیش کردہ کتابوں میں سے پہلی کتاب حج الکرمۃ۔ نواب صدیق حسن خان مرحوم کی ہے اور دوسری کتاب دراسات اللیب بھی کسی مستند اور مسلم الثبوت متبحر فاضل کی نہیں ہے۔ عام تصنیفات میں اس کا شمار ہو۔ اس لئے میں آن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا (اگرچہ مولف نے عوام پر اثر ڈالنے کے لئے متعدد نام لکھ دیئے ہیں) ہاں! تیسری کتاب فتوحات مکہ محی الدین ابن عربی کی مبارک اور قابل قدر تصنیف ہے۔ میں بھی ناظرین کو اسی پر اسرار کتاب کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ فتوحات مکہ ایک بڑی مبسوط کتاب ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اول سے آخر تک اس کتاب کو محض پڑھ جانے کے لئے ایک عمر چاہئے اور شاید ایسا ہی سمجھ کر مولف نے لکھ دیا کہ کون ایسی مبسوط کتاب کو دیکھ سکتا ہے۔ سروسٹ تو محض اس کے نام ہی سے میری تحریر کی وقعت ہو جائے گی۔ شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ طالب حق کی جستجو نہایت ہی گہری ہوتی اور راستی کے لئے تائید ایزدی ہوتی ہے۔ ہر مشکل کام اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ نظر بران میں نے بسم اللہ کر کے فتوحات مکہ سے اس بحث کو نکالنا چاہا اور اللہ کا ہزار شکر ہے کہ نہایت ہی آسانی سے یہ بحث نکل آئی جسے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں:

”اعلم ایدنا اللہ وایاک ان للہ خلیفۃ یرج و قد امتلات الارض جورا وظلما فیملوها قسطا وعدلا لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد طول اللہ ذلک الیوم حتی یلی هذا الخلیفۃ من عترۃ رسول اللہ ﷺ من ولد فاطمۃ جدہ الحسین ابن علی ابن ابی طالبؑ یواطئ اسمہ اسم رسول اللہ ﷺ یمائع الناس بین الرکن والمقام یشبه رسول اللہ ﷺ رسول فی الخلق بفتح الخاء وینزل عنہ فی الخلق بضم الخاء لانه لا یكون احد مثل رسول اللہ ﷺ فی اخلاقہ واللہ یقوم فیہ وانک لعلی خلق عظیم۔ وهو الجلی الجبہۃ اقنی الانف اسعد الناس بہ اهل الکوفۃ یقسم المال بالسویہ ویعدل فی الرعیۃ ویفصل فی القضیۃ یاتیہ الرجل فیقول له یامهدی اعطنی وبین یدیہ المال فیحشی له فی ثوبہ ما استطاع ان یحملہ یرج علی فترۃ من الدین یدع اللہ

به لايدع بالقران يمسى الرجل جاهلا بخيلا جبانا فيصبح اعلم الناس اشجع الناس اكرم الناس يصلحه الله في ليلة يمسى النصرين يديه يعيش خمسا اوسبعا اوتسعا يقف اثر رسول الله ﷺ لا يخطئ له ملك يسدده من حيث لا يراه يحمل الكل ويقوى الضعف فى الحق ويقرى الضيف ويعين على نوابغ الحق يفعل مايقول ويقول مايعلم ويعلم مايشهد ويفتح المدينة الرومية بالنبكير فى سبعين الفا من المسلمين من ولد اسحق يشهد الملحمة العظمى مادبة الله بمجمع عكا يبديد الظلم واحله يقيم الدين وينفخ الروح فى الاسلام مايعز الاسلام به بعد ذله وحى بعد موته يضع الجزية ويدعو الى الله بالسيف ماكان فمن ابى قتل ومن نازعة خذل يظهر من الدين ما هو الدين عليه فى نفسا مالوكان رسول الله ﷺ حيا الحكم به يرفع المذاهب من الارض فلا يبقى الا الدين الخالص اعداؤه مقلدة العلماء اهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف مذاهب اليه اتتهم فيد خلون كرهاتحت حكمه خوفاً من سيفه وصلته ورغبة فيما لديه يفرح به عامة المسلمين اكثر من خاصتهم يباثعه العارفون بالله من اهل الحائق عن شهود وكشف وتعريف الهى لارجال الهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء يحملون اثقال المملكة ويعبنو على ماقلده الله ينزل عليه عيسى بن مريم بالمنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهر وذتين متكئا على ملكين ملك عن يمينه وملك عن يساره يقطر راسه ماء مثل الجمان يتحدر كانما خرج من ويماس والناس فى الصلوة العصر فتتحى له الامام من مقام فيتقدم فيصلب بالناس يوم الناس بسنت رسول الله ﷺ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقبض الله المهدي اليه طاهرا مطهرا . انتھ

﴿مجھو خدا ہمارى تمہارى مدد کرو بے شک اللہ کا ایک خلیفہ ایسے وقت میں ظاہر ہوگا جبکہ زمین ظلم سے بھر جائے گی اور وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو خدا اس دن کو اس قدر روز کرے گا کہ یہ خلیفہ ظاہر ہو (یعنی اس خلیفہ کا آنا ضرور ہے) یہ خلیفہ رسول اللہ ﷺ کے اولاد میں حضرت فاطمہؑ کی اولاد سے ہوں گے اور حسین ابن علی ابن ابی طالب آپ کے اجداد میں ہوں گے۔ آپ کا نام رسول خدا کے نام کی طرح محمد

ہوگا۔ مقام اور کن کے درمیان میں آدمی ان کی بیعت کریں گے۔ صورت میں رسول اللہ ﷺ کے مشابہ ہوں گے اور سیرت آپ سے گئے ہوں گے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق میں مثل ہونا ناممکن ہے۔ آپ کا اسلین اعلیٰ مرتبہ ہے جس کا قرآن شاہد ہے۔ پیشانی روشن اور ناک بلند ہوگی۔ لوگوں میں اہل کوفہ آپ کے زیادہ معاون ہوں گے۔ مال کے دینے میں مساوات اور رعایا میں عدالت کا لحاظ رکھیں گے۔ محکموں کو مٹائیں گے۔ جب آپ سے کوئی مال کا سوال کرے گا تو اس کا دامن مال سے بھر دیں گے۔ اگر ان کے پاس مال ہوگا اور اس قدر دیں گے کہ جتنا وہ اٹھا سکے اور یہ خلیفہ ایسے وقت میں ظاہر ہوگا جب کہ دین و دنیا سے اٹھ جائے گا۔ مستعد کرے گا ان کی وجہ سے خدا امور خیر پر اس قدر کہ قرآن سے بھی اس قدر آمادہ نہ ہوئے تھے۔ لوگوں کے انقلاب کی یہ حالت ہوگی کہ جو شام کو بخیل، جاہل، بزدل تھا وہ آپ کی صحبت سے صبح ہی کو عالم، سخی، بہادر ہو جائے گا اور ایک ہی رات میں اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ مد آپ کی ہم رکاب ہوگی۔ پانچ یا سات یا نو سال تک زندہ رہیں گے۔ سنت کا ایسا اجراع کریں گے کہ سرمواس سے تجاوز نہ کریں گے۔ خدا کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو ہدایت کرے گا محتاج وضعیفون کی مدد کریں گے اور مہمان نواز ہوں گے اور حق کے طرفدار۔ آپ کا قول و فعل دونوں موافق ہوگا اور بلا جانے بوجھے کچھ نہ کہیں گے اور ان کا علم شہودی ہوگا اور دم شہر کو ۷ ہزار مسلمان نئی اسرائیل کے ساتھ فتح کریں گے۔ شہر عکا کے میدان میں سخت لڑائی ہوگی۔ اس میں وہ خلیفہ اللہ موجود ہوں گے۔ ظلم کو اور خالصوں کو مٹائیں گے اور دین کو قائم کریں گے اور اسلام میں از سر نو روح پھونکیں گے۔ یہاں تک کہ اسلام پھر غالب اور زندہ ہوگا۔ جزیہ کو اٹھائیں گے اور خدا کے لئے تلوار چلائیں گے۔ اپنے منکر کو قتل کریں گے اور آپ کے مخالف ذیل و رسوا ہوں گے۔ اس وقت خالص دین ظاہر ہوگا جیسا کہ رسول خدا کے وقت میں تھا۔ دین خالص کے سوا دنیا سے سب مذاہب اٹھ جائیں گے۔ مجتہدوں کے مقلدین اس لئے آپ کے دشمن ہوں گے کہ ان کے اماموں کے خلاف آپ فتویٰ دیں گے۔ مگر وہ بھی آپ کی صولت اور قہر کے خوف سے اور آپ کے انعامات کی امید پر سر تسلیم خم کریں گے۔ تمام مسلمان آپ کے ظہور پر خوش ہوں گے۔ اہل اللہ اپنے کشف سے اور خدا کے الہام سے آپ کی بیعت کریں گے۔ نیک اور ابرار لوگ آپ کی دعوت کو قائم کریں گے اور مدد کریں گے۔ جو کہ آپ کے وزیر ہوں گے۔ تمام سلطنت کے بار کو اٹھائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔

انہیں کے وقت میں مسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس منارہ بیضاء سے نازل ہوں گے جو

دمشق کے مشرق کی جانب واقع ہے اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوزر دو چاروں میں دو فرشتوں کے سہاروں سے نازل ہوں گے۔ موٹی کی طرح آپ کے سر سے پانی ٹپکتا ہوگا جیسے کہ آپ ابھی حمام سے برآمد ہوئے ہیں اور اس وقت لوگ عصر کی نماز میں ہوں گے اور امام آپ کو دیکھ کر جگہ چھوڑ دے گا اور (اس نماز کے علاوہ) آپ رسول اللہ کی سنت کے مطابق آگے ہو کر امامت کریں گے۔ صلیب توڑیں گے اور غنڈے کو قتل کریں گے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو دنیا سے پاک و صاف اٹھائے گا۔

اب جماعت قادیانی دیکھے کہ مولف القاء کی مستند کتاب نے ان کے مرشد کو کیسا صریح جھوٹا کر دیا۔ حضرت امام مہدی کی وہ علامات بیان فرمائیں جن کا پھر مرزا قادیانی میں نہ تھا۔ کچھ ایک علامت بیان فرمائے۔ مستند علامتیں بیان کی ہیں جن میں سے ایک کا نشان مرزا قادیانی میں نہ تھا۔ عبارت مع ترجمہ موجود ہے۔ مگر ملاحظہ کیا جائے۔ حضرت محی الدین عربی نے یہ بھی روشن کر دیا کہ امام مہدی اور ہوں گے اور حضرت مسیح اور ہوں گے۔ اس عبارت میں حضرت امام مہدی کے صفات بیان کئے ہیں اور ان کی علامتیں لکھی ہیں۔ یہ اس نے نہیں لکھا کہ مہدی کو لوگ کافر، گمراہ، دجال، ملحد ٹھہرائیں گے۔ البتہ یہ لکھا ہے کہ بعض مقلدین ان کے مخالف ہوں گے۔ الحمد للہ کہ مرزا قادیانی کے سب سے اول اور بڑے مخالف علماء اہل حدیث ہوئے مثلاً مولوی محمد حسین پٹالوی اور مولوی عبدالحق غزنوی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری غرضیکہ فتوحات مکیہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ مولف القاء اور ان کے مرشد کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی بھی وہی ارشاد فرماتے ہیں جو حضرت مجدد کے کتب سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مہدی علیہ الرضوان اہل بیت سے ہوں گے۔

آپ کا نام وہی ہوگا جو رسول اللہ ﷺ کا نام ہے یعنی محمد۔ آپ بادشاہ وقت ہوں گے۔ دنیا کو شر و فساد جو رو ظلم سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نا فہم علماء ان کے مخالف ہوں گے۔ مگر تلوار کے خوف سے اور دنیاوی مطیع سے آپ کے مطیع ہو جائیں گے۔ آپ ہی کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ غرض حضرت محی الدین عربی کی نورانی تحریر سے بھی یہ بات آفتاب کی سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ جناب مہدی علیہ الرضوان اور ہوں

۱۔ قادیانی حضرات امام مہدی کے نشانات کو دیکھیں ان میں سے ایک نشانی بھی مرزا قادیانی میں پائی گئی۔ کہوں کو روایت بنا کر تو چھوٹے نشان کو نقل کر دیا۔ بزرگوں نے جو سچے نشانات بیان کئے ہیں ان کا خیال بھی نہیں مگر کراہی پھیلانے کو چھوٹے نشانات کا نقل ہے۔

کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام (یعنی مسیح موعود) اور ہوں گے۔ ہاں فتوحات مکہ سے ایک اور نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں سارے مذاہب باطلہ نیست و نابود (یعنی تمام مذاہب باطلہ کی قوت نیست و نابود ہو جائے گی) ہو کر صرف دین خالص یعنی مذہب اسلام باقی رہ جائے گا۔

مرزا غلام احمد کے زمانہ میں تو اور بھی مذاہب باطلہ کو فروغ ہوا۔ اور دیا نند سرتی کے آریہ دھرم کی روز افزوں ترقی رہی۔ اور ہندو ایک سیلاب عظیم آئے دن مذہب اسلام پر آتا رہتا ہے۔ مولف القاء ربانی اپنے مسلم الثبوت شاہد حضرت مجدد حضرت محی الدین عربیؒ کے کلام کو خوف خدا دل میں رکھ کر ملاحظہ کریں اور بتائیں کہ کیا واقعی ان حوالہ کو جو میں نے مکتوب امام ربانی اور فتوحات مکہ سے نہایت ہی دیانت اور احتیاط کے ساتھ لفظ بہ لفظ مع با محاورہ ترجمہ کے نقل کر دیا ہے۔ اس سے پیشتر ان کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے پہلے ہی سے ان حوالوں کو دیکھا ہے تو پھر کیوں تعصب اور ضد سے محض مقلدانہ اپنے علم و فضل کو الگ رکھ کر اسلام کے سرسبز و شاداب باغ سے کیوں دور جا پڑے ہیں۔ اگر انہوں نے واقعی ان حوالہ جات کو اس سے پیشتر ملاحظہ نہیں کیا تو پھر کیوں یہ عامیانا فریب دیتے ہیں کہ مکتوب امام ربانی اور فتوحات مکہ سے مرزا قادیانی کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

افسوس صد ہزار افسوس میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکلا کے مصداق ان دو معتبر اور محترم بزرگ نے جو کچھ گواہی دی اس سے معلوم ہو گیا کہ مرزا قادیانی نہ مسیح موعود تھے نہ مہدی مسعود۔ حقیقت کا انکشاف تو بفصلہ بہت ہی خوبی سے ہو گیا۔ مگر اس انکشاف کے ساتھ ہی مرزا قادیانی اپنے دعوے میں کاذب ٹھہرے۔

جب اس تمہید کے تمہیدی مضامین کا یہ حال ہے اور اس میں اس قدر افتراء ہے تو اس کے آگے اصل مضامین کی بحث میں تو کیا کچھ نہ ہوگا۔ جی تو نہیں چاہتا ہے کہ اب اس سے آگے ایک سطر بھی تنقید انہ نظر دیکھوں مگر مختلف الخیال انسان کا مختلف فہم مجھے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ میں پوری کتاب پر ایک مختصر مفید ریمارک لکھ دوں۔ شاید کوئی بندہ خدا ایمان واری سے کام لے اور اس تحریر سے اسے صراط مستقیم نصیب ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین!

مؤلف القاء ربانی تحریر کرتے ہیں۔ ابو احمد صاحب نے اپنے فیصلہ کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے۔ پہلا حصہ اگرچہ شائع نہیں ہوا۔ پھر آگے چل کر تحریر کرتے ہیں کہ یہ میرا سالانہ ان کے دوسرے حصہ کا جواب ہے۔ یہ دونوں باتیں واقعات کے اعتبار سے بالکل ہی غلط ہیں۔ فیصلہ آسانی کا پہلا حصہ برسوں ہوئے شائع ہو چکا اور القاء ربانی کی بعض پوشیدہ تحریریں یہ کہہ رہی ہیں

کہ مولف کی نظر سے پہلا حصہ گزر چکا ہے۔ بہر کیف جب وہ خود ہی ابھی اس کے جواب کے متعلق کچھ نہیں لکھتے تو میں بھی ایفاء وعدہ کا منتظر ہوں۔ جب پہلے حصہ کا جواب شائع ہوگا تو میں بھی انشاء اللہ دیانت اور انصاف سے اسے دیکھوں گا۔

مؤلف القاء ربانی نے علامہ مصنف فیصلہ آسمانی کی دیگر تصانیف اس بات کو قوم میں پیش کیا ہے۔ کہ معجزہ اور خوارق کو نا فہم وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور عوام خواہ خواہ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ مگر اس تحریر اور حوالہ سے فائدہ اس مضمون کی تو بہت سی آیتیں خود قرآن مجید مذکورہ ہیں۔ منشاء ایسی تحریر کا تو صرف اس قدر ہے کہ نا فہموں کی بدگمانیوں سے حق مذہب باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ استدلال بے شک اس وقت صحیح ہوتا جب مولف القاء ربانی آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ و دلائل عقلیہ حالات موجودہ اور اجتہاد آئمہ سے یہ ثابت کر دیتے کہ مرزا قادیانی درحقیقت مسیح موعود مسعود تھے اور جب اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں لائے۔ پھر فضول تحریر سے کا فائدہ۔

مؤلف القاء ربانی اس مضمون کو ذرا زور دار اور با وقعت بنانے کے لئے یہاں مجدد صاحب کے مکتوب سے چند جملہ پیش کرتے ہیں۔

معزز ناظرین! حضرت مجدد صاحب اس مکتوب میں مریدوں کے لئے جو ضروری آداب ہیں۔ اس کو نصیحتاً بیان فرماتے ہوئے اور پیر کی اتباع کس درجہ مرید کو کرنی چاہئے اسے دکھلاتے ہوئے اور پیر کے سامنے جس آداب و لحاظ سے مرید کو بیٹھنا چاہئے اس کے لئے ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ اور بادشاہی میں بادشاہ اپنے تخت پر متمکن تھا اور وزیر سامنے مودب کھڑا تھا۔ ناگاہ وزیر کی نگاہ اپنے کپڑوں پر جا پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اچکن کا بند کھل گیا ہے۔ وزیر اس کی بندش اور درستگی میں مشغول ہو گیا۔ وزیر کی اس حرکت پر بادشاہ کی نظر جا پڑی۔ نہایت غضب ناک ہو کر وزیر سے کہا کہ تو میرا وزیر اور میرے سامنے اپنی توجہ کو مجھ سے الگ کر کے اپنے جامہ کے بند کی طرف ملتفت ہوتا ہے۔ یہ حرکت نہایت نازیبا ہے۔ اس حکایت کو بیان فرما کر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جب دنیائے دنیہ کے وسائل کے لئے ایسی باریکیاں ہیں تو پھر وسائل وصولی الی اللہ کے لئے کیا کچھ رعایت ملحوظ رکھنی چاہئے۔ یوں سونا چاہئے یوں کھانا چاہئے۔ آخر تحریر فرماتے ہیں: ”بدانکہ گفتہ اندالشیخ یحییٰ ویمیت احیاء امامت مقام شیخی است مراد از احیاء احیاء روحی است نہ جسمی و ہمچنین مراد از امامت روحی است نہ جسمی و مراد از حیات و موت فنا و بقا است کہ بمقام ولایت و کمال میرساند و شیخ مقتدا بنان اللہ سبحان متکفل این هر

دوامر است پش شیخ رازین احیا و اماتت چارہ نباشد و معنی یحیی و یمیت ببقی و یفینی احیاء اماتت جسمی بمنصب شیخ کاری نیست شیخ مقتدا حکم کردہ بادار اھرکس رابوا مناسبت است در رنگ خس و خاشاک در عقب او میدہد و نصیب خورد از او استیفامی نماید۔ خواری و کرامات از برائے جذب مرید ان نیست مریدان بمناسبت معنویہ منجذب میگردداند و اتکہ باین بزرگوار ان مناسبت ندارد از دولت کمالات ایشان محروم است اگرچہ ہزار۔ معجزہ و خواری و کرامت بیند ابو جہل و ابولہب راشہد این معنی باید گرفت!

(مکتوب دوم در دو روز و دو جلد اول ص ۴۱۳، ۴۱۷)

اور یہ جو بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ شیخ محیی و یمیت، اس سے مراد روح کی ترد تازی اور پڑمردگی ہے۔ کسی جسم مردہ میں نہ شیخ جان ڈال سکتا ہے نہ اسے مار سکتا ہے۔ یہ تو خدا کا کام ہے۔ احیاء اور اماتت کے معنی بقاء اور فناء کے ہیں اور یہ ولایت میں ایک اعلیٰ درجہ کا مقام ہے۔ شیخ کی توجہ سے انسان فناء اور بقاء کی ہستی معلوم کر کے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ شیخ پاؤں خدا وندی اس فناء اور بقاء کا کفیل ہوتا ہے۔ مگر شیخ مقتدا ایک گاہ (گاہ ربا و حق ہے جسے کہہ ربا کہتے ہیں۔ ایک قسم کا پتھر ہے۔ جس طرح معناتیس لوہے کو کھینچتا ہے اسی طرح کہہ ربا خس و خاشاک کو کھینچتا ہے) پیچھے مرید خود بخود دوڑتا ہے اور اپنے حصہ کو پالیتا ہے اور جس میں یہ قابلیت نہیں ہوتی وہ شیخ کے فیض سے محروم رہتا ہے اور ہزار معجزے اور خواری کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ مثلاً ابو جہل و ابولہب کو دیکھو کہ حضرت رسول اللہ ﷺ تبلیغ اسلام فرماتے رہے اور وہ مشرب با اسلام نہ ہوا۔

۱۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے اس جملہ کو دیکھو جو انصاف پسند مرزا قادیانی کے حالات سے واقف ہوگا وہ بے تامل کہہ دے گا کہ یہ حوالہ پیش کرنا بے کار ہے۔ کیونکہ وہاں تو کمالات باطنی کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ ان کے صحبت یافتہ جس قدر دیکھے اور سنے گئے وہ سب ایمانی خصائل سے محروم ہیں اور کمالات باطنی تو بہت بڑی بات ہے۔ البتہ جموٹ اور فریب اور اشاعت کذب میں بڑے مستعد ہیں۔ نہ نماز و روزہ کی پابندی ہے نہ معاملات کی صفائی ہے۔ دیکھئے خواجہ کمال الدین جو مرزا قادیانی کے نہایت خاص مرید اور صحبت یافتہ ہیں۔ ان کے حالات اخباروں میں چھپ رہے ہیں۔ کسی کسی ذی ایمانیت انہی کے بھائی ظاہر کر رہے ہیں۔ اخبار وطن اور رسالہ الحق وغیرہ دیکھا جائے۔ اب وہ خلیفہ ہوئے ہیں ان کے حالات بھی پیام صلح وغیرہ میں چھپے ہیں۔ پیسہ اخبار دیکھا جائے۔ یہ نہایت مخصوص صحبت یافتوں کی مرزا قادیانی کی حالت پر پوری روشنی ڈالتے ہیں۔



جو جیسا رہتا ہے اس پر ویسا ہی فیضان ہوتا ہے۔ شعر  
 یاران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست  
 در باغ لاله رویدہ در شور بوم خس

## الہامی تحقیق

ناظرین! اس کی شرح ملاحظہ کریں۔ حضرت مجددؑ پہلے مرشد کی حالت بیان کرتے ہیں کہ وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ یعنی مرتبہ فنا اور بقاء اسے حاصل ہوتا ہے۔ فنا فی اللہ کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی خبر نہیں رہتی اور جس قدر اس بندے کی خواہشیں اور لذتیں ہوتی ہیں وہ سب فنا ہو جاتی ہیں اور اس کی خواہشیں وہی ہوتی ہیں جو پسندیدہ اللہ اور اس کے مرضیات ہیں۔ اب یہ بندہ اپنی خواہشات سے علیحدہ ہو کر دوسرے قسم کی روحانی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اسی کا نام بقاء ہے۔ شیخ وقت اور مرشد کامل میں یہ صفت ایسی پختہ اور راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ہمت اور توجہ سے اپنے مرید میں یہ حالت پیدا کرتا ہے۔ مگر باذن خداوندی۔ یہ صفت تو مرشد کامل کی حضرت مجددؑ نے بیان فرمائی۔ اب مرید کی دو حالت بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی جبلت میں ایسی استعداد اور قوت رکھی ہے کہ فیض روحانیت کو بلا تکلف قبول کرتا ہے اور مرشد کامل اور مکمل کا گویا بے اختیار مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے اور اس کی روحانیت کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ جس طرح خس و خاشاک کہریا کے اثر کو قبول کرتا ہے اور جس مرید کی سرشت میں یہ خوبی نہیں رکھی گئی ہے۔ بلکہ اس کے خلاف باتیں اس میں ہیں۔ اب اس خلاف کے مراتب ہیں۔ ادنیٰ یہ ہے کہ ظاہری افعال میں اگرچہ نیک ہو مگر روحانیت جس کا نام ہے وہ نہیں ہے اور اس کا اعلیٰ مرتبہ شیطانیت ہے۔ ایسے مرید کامل و مکمل کے فیض سے یعنی اس کی روحانیت سے محروم رہتے ہیں۔ یہاں سے دیکھنا چاہئے کہ حضرت مجددؑ نے پہلے مرشد کامل کی حالت بیان کی۔ اسے مولف القاء چھوڑ گئے کیونکہ اس سے قلعی کھلتی تھی کیونکہ جس طرح مرید کی حالتیں بیان کی گئیں۔ اسی طرح مرشد کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے جن کی صفت حضرت مجددؑ نے بیان فرمائی۔ دوسری وہ ہیں جن میں روحانیت کی جگہ شیطانیت ہے۔ گو ظاہر میں تقدس کا دعویٰ ہو اور یہاں تک ان کا دماغ پہنچے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ دونوں اقسام کے مرشد گزرے اور گزر رہے ہیں۔ اب سچے کامل و مکمل اور جھوٹے مدعیوں میں تمیز کرنا نہایت مشکل ہے۔ حضرت

مہدؑ اسی مکتوب میں (جس میں مولف القاء نے عبارت نقل کی ہے) تحریر فرماتے ہیں:  
 ”برکشف خود ز نہار اعتماد ننہند کہ حق یا باطل درین دار (دنیا)  
 ممتاز است و صواب باخطا مختلط“

کہ طالب خدا کو چاہئے کہ اپنے کھٹوں پر اعتماد نہ کرے کیونکہ اس دار فانی دنیا میں حق  
 و باطل اور سچ و جھوٹ مل گئے ہیں۔

عام مخلوق اس میں فرق نہیں کر سکتی اور اپنے خیال اور طبیعت کے مناسب اس پر حکم لگا  
 دیتی ہے اور اس کی پیروی ہو جاتی ہے۔ یہاں علم بھی کام نہیں دیتا۔ گزشتہ اور موجودہ زمانے کے  
 واقعات اس پر کامل شہادت دیتے ہیں۔

خیال کرنا چاہئے کہ حضرت سرور انبیاء ﷺ نے دعویٰ نبوت کیا اور آپ کو اس وقت  
 کے اہل عرب نے مانا آپ کے دعوے کے کچھ دنوں بعد ہی مسیلہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور  
 اس طرح دعویٰ کیا کہ حضرت سرور انبیاء ﷺ کو تسلیم کر کے جس طرح مرزا قادیانی نے کیا۔ اس  
 کے ماننے والے بھی عرب تھے اور ان کی مقدار بھی اس وقت اسی کے قریب تھی جس قدر حضرت  
 سرور انبیاء ﷺ کے ماننے والے تھے۔ حضور سرور عالم ﷺ نے اور سب مسلمانوں نے اسے جھوٹا  
 کہا اب اس کے ماننے والے مسلمانوں کے مقابل میں یہی تقریر کر سکتے تھے جو مولف القاء نے  
 یہاں پیش کی ہے۔ پھر کیا اس سے اس کذاب کی صداقت ثابت ہو سکتی تھی؟ اور اس کی منکر یعنی  
 مسلمان نعوذ باللہ ویسے ہی ہو سکتے تھے۔ جیسے منکر حضرت خاتم النبیین ﷺ کے ذرا مولف القاء  
 ہوش کر کے اس جواب دیں۔

اسی طرح دوسری صدی میں صالح نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت لوگوں نے اسے مانا  
 اور ۴۷ برس تک اس نے دعویٰ نبوت کے ساتھ بادشاہت کی۔ پھر کیا یہی تقریر اس کے مریدین  
 مسلمانوں کے مقابل میں نہیں کر سکتے تھے اور کی نہ ہوگی۔ پھر کیا اس سے اس کی سچائی ثابت  
 ہوگئی؟ ذی فہم حضرات غور فرمائیں۔ حضرت مہدؑ کے وقت میں ایک مدعی مہدویت گزرا ہے جسے  
 حضرت ممدوح جھوٹا کہتے ہیں۔ اس کے ماننے والے خود حضرت مہدؑ کے اس قول کو پیش کر کے  
 اسی طرح الزام دے سکتے ہیں۔ سید محمد جو نہری کے ماننے والے اس وقت تک موجود ہیں جس کو  
 دعویٰ مہدویت کے علاوہ افضل الانبیاء ماننے کا دعویٰ تھا اور عبدالمہمخود مدعی اس وقت موجود  
 ہے۔ اس دونوں کے مریدین مہدو صاحب کی یہ عبارت اپنی صداقت میں پیش کر کے مولف القاء

کو ابولہب کی مثال دے سکتے ہیں۔ مولف القاء نے جو جواب ان کیلئے تجویز کیا ہو وہی ہماری طرف سے سمجھ لیں۔ مولف القاء اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نشانات کے مدعی ہیں۔ اسی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ سید محمد نشانات کا مدعی تھا۔ پھر اب اس کے منکر کو مولف القاء کیا کہیں گے۔

الغرض مدعیان تقدس کی واقعی حالت معلوم کرنا بہت دشوار ہے۔ دو قسم کے حضرات معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور انہیں نور قلب اور سچی فراست عنایت کی ہے۔ جس سے وہ انسان کی قلبی حالت اور اس کی روحانیت اور شیطانیت اسی طرح معلوم کر سکتے ہیں جس طرح ہم آفتاب کی روشنی میں چیزوں کو معلوم کرتے ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ حضرات ہیں جو علم و فضل اور تقویٰ کے ساتھ اپنی جبلت و سرشت میں صداقت اور روحانیت رکھتے ہیں اور کسی شیخ کامل اور مکمل کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی مثال میں ہم حضرت مولانا فضل رحمان صاحب (سچ مراد آبادی) قدس سرہ کو اور علامہ مؤلف فیصلہ آسانی (مولانا سید محمد علی موٹھیری) کو پیش کر سکتے ہیں اور ایک عالم اس کی تصدیق کر سکتا ہے اور اس مثال کو صحیح کہہ سکتا ہے۔ ان دقیق باتوں کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا کذب قرآن مجید سے، صحیح حدیثوں سے، اجماع امت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے کاذب ہونے میں کوئی حق طلب تامل نہیں کر سکتا۔ مرزا قادیانی کا کذب اسی طرح ثابت ہے۔ پھر کسی مسلمان کو اس میں کیا تامل ہو سکتا ہے۔ یہاں کالمین کی حالت کو پیش کرنا اور حضرت مجدد کے کلام کو سند میں لانا عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ مگر مؤلف القاء کے بہکانے سے وہی بچے گا جس کے سرشت میں کم و بیش خرابی ہے۔ ”اللہم احفظنا من شرہ“

مجملہ اور دلائل کے ایک دلیل تازہ یہ بھی ہے کہ جس جس مکتوب کو مؤلف القاء ربانی نے اپنی تاقی سے اپنے مدعا کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ اسی مکتوب سے مؤلف کے غلط دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے اور وہ مکتوب مؤلف کے احوال کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتا ہے۔

حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قدس سرہ جن کی ولایت اور عرفانیت کا چارواگ عالم میں شہرہ ہے اور جو اپنے زمانہ میں آپ اپنی نظیر تھے۔ مؤلف القاء ربانی ابتدا آپ ہی کے بیعت سے سرفراز ہوئے۔ مگر انہوں نے بیعت حاصل کر کے آپ کے طریقہ سے الگ ہو گئے اور اعلیٰ

حضرت نے مرزا قادیانی کی نسبت جو کچھ اُرشاد فرمایا ہے اس سے چشم پوشی بلکہ اس کی خلاف ورزی کی جو مرید کے لئے قایت درجہ کی بے ادبی ہے۔ چنانچہ اسی مکتوب میں حضرت مجدد فرماتے ہیں: ”مثل مشہورست یقچ بے ادب بخدا رسد۔“ نتیجہ اس اس سوء ادبی کا یہ ہوا کہ مولف صراط مستقیم سے دور جا پڑے۔ اس سوء ادبی کی وجہ سے محض مولف کی فطرت ہوئی ورنہ اعلیٰ حضرت کے فیضان انوار سے ایک زمانہ روشن ہو گیا اور روشن ہے۔ پھر جب انسان صراط مستقیم سے الگ ہو گیا اور ایسے شخص کا پیرد ہوا جس نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی توہین کی اس سے جو کچھ خدعات ظاہر نہوں وہ تھوڑی ہیں۔

محتسب گرمے خورد معذوردار دست فاعتبروایا اولی الابصار  
 پھر مؤلف القاء ربانی تحریر کرتے ہیں کہ: ”پہلی ہی تصنیف میں ابوالاحمد صاحب نے نہایت سخت زبان اختیار کی اور احمدیوں کے دل ہلا دینے والے فقرات استعمال کئے۔“ یہ بھی ایک مغالطہ اور ناظرین کو فیصلہ کے مفید مضامین سے دور رکھنے کا ایک انوکھا ڈھنگ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ کیونکہ تصدیق ہو سکتی ہے۔ اگر واقعی علامہ مصنف نے قادیانیوں کے دل ہلا دینے والے فقرات استعمال کئے ہیں تو زیادہ نہیں صرف ایک ہی جگہ مجھے دکھا دیجئے۔ فیصلہ آسانی کی اشاعت بہت کثرت سے ہوئی ہے۔ ہر مصنف مزاج ہر جگہ نہایت آسانی سے اسے دیکھ سکتا ہے۔ ہاں اتنی بات تو علامہ مصنف نے ضرور کی ہے کہ پیشین گوئی کے نہ پورے ہونے پر جو کچھ گندے اور دل ہلا دینے والے فقرات مرزا قادیانی نے بطیب خاطر اپنے نفس قبول کر لئے ہیں اور اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ انہیں الفاظ کو انہیں کی کتاب کے حوالے سے نقل کیا ہے اور وہ بھی اس غرض سے کہ دعوے کو ثابت کر کے نادانوں کو دکھائیں کہ مرزا قادیانی اپنے اقرار سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ غرضیکہ ان کے الفاظ کی نقل بھی بغرض خیر خواہی عوام کے کی گئی ہے جس کا کرنا ضروری تھا۔ اس سے مؤلف کا کبیدہ ہوتا اور ملال کرنا فضول اور بالکل فضول ہے۔ اس کے سوائے اور کوئی بات ہو تو دکھائیے اور مرزا قادیانی کے اس سخت اور نہایت درشت الفاظ کو کبھی پیش نظر رکھئے جو اس وقت کے تمام ہادیان امت محمدیہ کی نسبت لکھے ہیں۔ مؤلف کی قابلیت اور اعلیٰ درجہ کی تقریر

۱۔ حضرت ممدوح سے ایک مرتبہ مرزا قادیانی کی ہنسوت دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ سلف کے خلاف جو کہے یا کرے وہ شیطان ہے۔ دوسری مرتبہ دریافت کیا گیا تو فرمایا جھوٹا ہے۔ صحابہ کے مخالف ہے۔ وقت پر جب کوئی اس کا ثبوت چاہے گا دیا جائے گا۔

سے مجھے ذاتی واقفیت ہے۔ اسے ملحوظ رکھ کر جب القاء ربانی کی خدمات صلحانہ پر نظر پڑتی ہے تو سخت حیرت ہوتی ہے اور بار بار خیال آتا ہے کہ شاید یہ کسی اور کے قلم سے نکلی ہے۔ نیز مؤلف کے ایسے رکیک شبہات سے اور بھی اس کی تائید ہو جاتی ہے لیکن اس جانچ پڑتال سے کوئی فائدہ نہیں۔ تفسیح اوقات کے سوا اور کچھ حاصل نہیں۔ اس لئے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں۔ اسے نظر انداز کر کے نفس مضمون پر توجہ کرتا ہوں۔ مؤلف القاء ربانی شوق سے لکھے جاتے ہیں۔ الجھاؤ کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ لکھتے ہیں کہ: ”ابو احمد صاحب نے جو اعتراضات اپنے فیصلہ میں کئے ہیں۔ یہ کوئی نیا علمی اعتراض نہیں ہے بلکہ وہی سولہ، سترہ برسوں کا بوسیدہ اعتراض ہے جس کے جوابات خود مسیح موعود (مرزا قادیانی) اور آپ کے خدام زبان قلم سے بارہا دے چکے ہیں۔“

مؤلف القاء یہ بتائیں کہ کون جھوٹا اپنے جھوٹ کو چھپانے سے خاموش رہا ہے اور کچھ باتیں نہیں بتائیں اور اس کے پیروؤں نے پانی پر دیوار اٹھانا نہیں چاہی۔ مگر نہ جھوٹ چھپ سکتا ہے اور نہ پانی پر دیوار اٹھ سکتی ہے۔ ایسا ہی آپ کا دعویٰ ہے۔ اس کا کافی جواب میں پہلے ہی دے چکا ہے اور بتا چکا ہوں کہ علامہ مصنف نے جو اعتراضات منکوحہ آسانی پر پیش کئے ہیں اور جس خوبی سے اس پر گفتگو کی ہے اس کا موقع اور ایسا اعتراض مرزا قادیانی کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب اعتراض پیدا نہیں ہوتا تو جواب کیسا۔ اور جن اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ ان جوابوں کی ہڈی پسلیاں بھی چور کر دی گئیں۔ جواب دینے والوں میں مرزا قادیانی اور ان کے مریدین کے جوابوں کی ایسی دجھیاں اڑائی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ میں آپ کو صرف فیصلہ آسانی اور خصوصاً اس کا حصہ ۳ ص ۸۹ سے اور بالخصوص ص ۱۱۴ سے آخر تک اور تخریبہ زبانی اور معیار صداقت کا حوالہ دیتا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے پھر سب جوابوں کی حقیقت کھل جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ ایسے منطقی اعتراض تھے کہ اتنی مدت تک خود مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ جی اور تمام مریدین زور لگا کر تھک گئے۔ مگر اعتراضوں کی بنیاد ایسی منطقی تھی کہ اسے جنبش نہ ہوئی اور جماعت قادیانی زور لگاتے لگاتے عاجز ہو گئی۔ مگر اس بنیاد کی اینٹ بھی نہ اکٹری۔ مؤلف القاء بتائیں کہ مذکورہ رسالوں میں جو قادیانیوں کے جوابوں کی دجھیاں اڑائی گئی ہیں۔ کسی قادیانی نے ان

۱۔ ناظرین اس بدحواسی کو ملاحظہ کریں کہ ابھی ایک سطر پہلے تو متعدد اعتراض بیان کئے اور لکھ دیا کہ جو اعتراضات اپنے فیصلہ میں کئے ہیں اور ایک سطر کے بعد اسی کو بوسیدہ اعتراضات کہتے ہیں۔

کا جواب دیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں دیا اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ مولف القاء کچھ ہمت کریں پھر دیکھیں کہ ان کی قابلیت کا پردہ کیسا فاش ہوتا ہے۔ مگر اس کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ ازان بعد مولف القاء ربانی تحریر کرتے ہیں کہ: ”مولوی سید محمد علی صاحب کو بارہ برس سکوت کے بعد مونگیر میں سلسلہ احمدیہ کی مخالفت پر کھڑے ہونا اور حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی توہین پر کمر بستہ ہو جانا کسی مصلحت اور دور اندیشی پر مبنی ہے۔ اس کو ہم آپ کے فیصلے کے پہلے حصہ کے جواب میں ظاہر کریں گے۔“ بہتر ضرور اس کا اظہار کیجئے گا۔ سر دست اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے مجھ سے سنئے اس سے پیشتر صوبہ بہار میں لوگ اس طرح عالمگیر فریب میں مبتلا نہیں تھے۔ جن جن مقامات میں قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے خیالات ظاہر کرتی تھی۔ وہاں کے علماء وقت و مقاماً بقدر ضرورت لکھ دیتے تھے۔ اب جب یہ سیلاب نے بہار کا رخ کیا تو آپ کو مسلمانوں کی گمراہی بے چین کرنے لگی۔ اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لئے ان پر حق بات کا اظہار کر دیا۔ اس کو آپ مصلحت تصور فرمائیں یا کسی اور نام سے یاد کریں۔ مرزا قادیانی امام وقت اور مسیح موعود ہو کر خدا کی وحی کے خلاف کیوں بارہ برس دم بخود ہے۔

(اعجاز احمدی ص ۷، خزائن ج ۱ ص ۱۱۳، ۱۱۴)

ملاحظہ فرمائیے حضرت مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ: ”میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر بھرا ہوا۔ جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت آ گیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے تب تو اتار سے اس بارے میں الہامات شروع ہو گئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔“ پھر اسی کتاب میں آگے چل کر مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ: ”میں نے باوجودیکہ براہین احمدیہ میں مسیح موعود بنایا گیا تھا۔ بارہ برس تک یہ دعویٰ کیونکر کیا اور کیوں براہین خدا کی وحی کے مخالف لکھ دیا۔“ یہ امر قابل غور نہیں جو ظہور میں آیا۔ بے شک قابل غور ہے اور مولف القاء ربانی بتائیں کہ بارہ برس تک کیوں مرزا قادیانی وحی الہی کی مخالفت پر اڑے رہے اور مرزا قادیانی کا وہ کیسا خدا تھا جس کی وحی بارہ برس تک معرض التواء میں پڑی رہی۔ مرزا ایسے کند ذہن اور نافرمان تھے کہ اس مدت دراز تک الہام الہی کو نہیں سمجھا اور خدا نے بھی ان کو نہ سمجھایا۔ پھر ایسے ظہم اور صاحب الہام کے اور الہاموں پر کیونکر اعتبار کیا جاسکتا ہے؟ اگر عقل ہے تو غور کیجئے۔ سید محمد جو ننوری مہدی کا ذہب کا بھی یہی مقولہ ہے کہ اٹھارہ برس تک برابر مہدی ہونے کے الہامات مجھے ہوتے رہے۔ مگر میں

خاموش رہا۔ جب وعید آئی اس وقت میں نے اعلان کیا۔ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو یہ بات مسلم ہے کہ نبی نہ خدا کے حکم یا آوری میں تامل کر سکتا ہے نہ ایسے امور میں اجتہادوی غلطی ہو سکتی ہے اور جن امور میں غلطی ہو سکتی ہے اس میں نبی اپنی خطاب پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی اگر اس سے اجتہاد میں کوئی غلطی ہوئی تو وہ فوراً مطلق کیا جاتا ہے۔ چنانچہ محمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ ”تقریر و شہیت نبی برخلاف مجوز نیست“ پھر ایک دن دودن نہیں۔ مہینہ دو مہینہ نہیں۔ سال دو سال نہیں۔ پورے بارہ سال مرزا قادیانی کیوں خطا پر قائم رہے؟ اور قائم ہی نہیں بلکہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ گویا بارہ برس تک خدا انہیں مسخ موعود بناتا رہا اور وہ اسے ہنوات سمجھتے رہے اور وہ رکی عقیدہ کی اشاعت کرتے رہے۔ خدا جو چاہتا تھا نمود باللہ وہ نہ ہوا۔ جب مرزا قادیانی باوجود دعویٰ نبوت کے بارہ برس خلاف مشیت الہی اور ارشاد باری تعالیٰ خاموش رہے تو کسی دوسرے بزرگ کے سکوت پر کیا اعتراض ہے۔ میں اس کے لئے ایک کافی وقت دیتا ہوں۔ فرمائیے ورنہ فیصلہ کے پہلے حصہ کے جواب میں جب آپ مصلحت کا انکشاف فرمائیں گے تو میں بھی مرزا قادیانی کے سکوت کی مصلحت قوم کو بتا دوں گا شاید ذی فہم ناظر کا بھی خیال اس طرف جائے تو عجب نہیں۔ کیونکہ دنیا میں ایسا اندھیرا اور اس قسم کا افترا ہوتا رہتا ہے۔

تالیف قلوب کے لئے مولف القاء ربانی نے اپنی نانہی سے جس اعتراض کو ضمنی اعتراض قرار دیا ہے اس کے جواب سے پیشتر ناظرین سے التجا کرتے ہیں کہ آپ نزول اسخ وغیرہ کو دیکھیں۔ کیا بار بار اس قسم کی یاد دہانی اور این اضطرار سے کوئی مفید بات پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین ہرگز ایسے شخص کی کتاب نہیں دیکھ سکتے جس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں اعتراضات قرآن و احادیث سے وارد ہوتے ہیں۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں اور پھر بھی مکرر لکھتا ہوں کہ پہلے قرآن مجید اور حدیث نبویہ سے مرزا قادیانی کی نبوت اور دعویٰ مسخ موعود کی صداقت آپ ظاہر کر دیجئے۔ ثبوت دیجئے اور مرزا قادیانی کو اس لائق بتائیے کہ اہل علم ان کے طرف ملتفت ہو سکیں۔ سردست تو محمد صاحب نے مرزا قادیانی پر: ”ہو ضل و اھل“ کا فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ کوئی ذی فہم ان کی کتاب کو مقبولیت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ضمنی اعتراض کے جواب میں مولف القاء ربانی تحریر کرتے ہیں: ”یہ بالکل ابوالاحمد صاحب کا دعویٰ غلط اور دھوکہ دہی ہے بلکہ آپ نے اپنی اکثر پیش گوئیوں کو عظیم الشان اور اپنے دعوے کے سب دلائل کو یکساں قرار دیا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ صرف یہی پیش گوئی بڑی عظیم الشان ہے اور صرف یہی دلیل بہت بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ آئندہ ہم کتابوں کے حوالہ سے تصریح بھی کریں گے۔“

(ص ۱۸ القاء ربانی)

خدا جانے یہ آئندہ کا زمانہ کب آئے گا قیامت میں۔ بات تو جب تھی کہ آپ اسی تحریر میں اس بات کو دکھا دیتے کہ واقعی ابوالحسن نے غلط دعوے اور دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ ہمت کر کے جس اعتراض کے جواب میں ایسے شددوم سے کام لیتے ہیں۔ اصل جواب کے موقع پر کیوں گریز کرتے ہیں اور آئندہ پر کیوں اٹھا رکھتے ہیں۔ شعر

دو چیز تیرے عقل است دم فردائیں  
ہوت گفتن و گفتن ہوت خاموشی

معزز ناظرین! مولف القاء یہاں ایک مسلمانوں کے سچے ہی خواہ، علامہ وقت پر دو الزام لگاتے ہیں۔ ایک یہ کہ غلط دعوے کیا۔ دوسرا الزام یہ کہ دھوکہ دیا۔ اب میں فیصلہ آسانی کی پوری عبارت نقل کرتا ہوں۔ حق پسند حضرات غور سے ملاحظہ فرما کر یہ دیکھیں کہ حضرت مولف فیصلہ نے غلطی کی ہے اور دھوکہ دیا ہے۔ یا مولف القاء ایک حقانی بزرگ کا مقابلہ کر کے کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں؟ جس عبارت میں مولف القاء غلط دعوے اور دھوکہ دہی کا الزام بتاتے ہیں۔ وہ ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ فیصلہ آسانی حصہ دوم کے ص ۸ میں لکھا ہے۔

”منکوہ آسانی کی پیش گوئی کو مرزا قادیانی نے بہت عظیم الشان نشان ٹھہرایا تھا۔ اس کی وجہ سے شہادۃ القرآن میں اس طرح بیان کی ہے کہ پیش گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔ سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیشین گوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔ یہ تینوں پیش گوئیاں ہندوستان اور پنجاب کے تینوں بڑی قوموں پر حاوی ہیں۔ یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں سے اور ایک عیسائیوں سے اور ان میں سے وہ پیش گوئی جو مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجراء یہ ہے۔

۱..... کہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی معیار کے اندر فوت ہو۔

۲..... اور پھر مادا داس کا جو اس کی دختر کلان کا شوہر ہے۔ اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

۳..... اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی دختر کلان فوت نہ ہو۔

۴..... اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے تک اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔

۵..... اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔

۶..... اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار

میں نہیں۔“ (شہادۃ القرآن ص ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷)



اس عبارت سے یہ اظہر من الشمس ہے کہ منکوحہ کا نکاح میں آنا مرزا قادیانی کا ایسا عظیم الشان نشان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اردو کے محاورے میں معمولی عظمت کی شے کو عظیم الشان نہیں کہتے بلکہ اس کے لئے بڑی عظمت کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس بڑی عظمت میں بھی تین درجے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ادنیٰ درجے کو عظیم الشان کہیں گے اور متوسط درجے کو بہت عظیم الشان کہیں گے اور سب سے اوّل درجے کو بہت ہی عظیم الشان کہیں گے۔ مرزا قادیانی نے اس نشان کے لئے یہی لفظ لکھا ہے جو نہایت کمال مرتبہ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جس سے بڑھ کر عظمت نہیں ہو سکتی۔“

فیصلہ کی یہ اردو عبارت ہے اور سلیس و صاف ہے جسے ہر ایک اردو دان بے تامل سمجھ سکتا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کے کتاب کی عبارت ہے اور مولف فیصلہ نے اس کتاب کی عبارت سے دو باتیں نکال کر بیان کی ہیں۔

۱..... یہ کہ مرزا قادیانی نے منکوحہ آسمانی والی پیشین گوئی کو بہت عظیم الشان نشان ظہرایا ہے۔

۲..... مرزا قادیانی کی عبارت سے یہ نتیجہ نکالا کہ منکوحہ آسمانی کا نکاح میں آنا مرزا قادیانی کا ایسا عظیم الشان نشان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہو سکتا۔

اس لکھنے کے بعد محاورہ سے اس دعوے کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس پیشین گوئی کو بہت ہی عظیم الشان بتایا ہے اور اردو کے محاورہ کے لحاظ سے یہ جملہ اس پیشین گوئی یعنی اس نشان کی ایسی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر عظمت کا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا نہایت صاف نتیجہ یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی ایسی عظیم الشان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہو سکتا۔ علامہ مولف فیصلہ آسمانی یہی فرماتے ہیں۔ مگر اس بیان سے کوئی فہمیدہ اردو دان بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ علامہ ممدوح یہ کہتے ہیں کہ دوسرا نشان اس کے مثل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے مثل نہ ہونا اور اس سے بڑھ کر نہ ہونا دونوں دعوؤں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علامہ ممدوح دوسرے دعوے کو فرما رہے ہیں۔ پہلے دعوے کا مطلق ذکر نہیں کیا۔ یعنی یہ اس کا ذکر کسی طرح نہیں کیا کہ مرزا قادیانی نے اپنے کسی دوسرے نشان کو اس نشان کے مثل نہیں کہا اور عظیم الشان نہیں بتایا۔ غرضیکہ علامہ ممدوح کے کسی جملہ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مرزا قادیانی نے اپنے کسی نشان عظیم الشان نہیں کہا۔ صرف اسی کو کہا ہے۔

اب میں ناظرین سے ہاتھ اکھٹا ہوں کہ فیصلہ کی عبارت کو مکرر ملاحظہ کر کے فرمائیں کہ علامہ مولف فیصلہ نے کیا غلطی کی اور کس بات کا دھوکہ دیا؟ آفتاب کی طرح روشن ہے کہ حضرت

مولف فیصلہ نے نہ یہاں کوئی غلطی کی ہے نہ کوئی دھوکہ دیا ہے۔ اس لئے اس کہنے پر ہم مجبور ہیں کہ مولف القاء نے یا تو اپنے علم و فضل کو مرزا قادیانی پر نثار کر کے پھینک دیا۔ یا یہاں تک کہ اردو عبارت بھی نہیں سمجھتے۔ یا حضرت ابو احمد صاحب کی کرامت ہے کہ جب ان کے حقانی رسالہ کا جواب لکھنے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقل اور علم کو سلب کر دیا۔ اسی وجہ سے ایسی غلط باتیں انہوں نے لکھی ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو انہوں نے قصداً سمجھ کر جھوٹا الزام مولف پر لگایا اور اپنے نفسانی خیال سے عوام کو حضرت مولف کی طرف سے بدگمان کرنا چاہا۔ فیصلہ کی عبارت سے اس کا کافی ثبوت ہو گیا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ مولف القاء کی حالت کو صرف اسی مقام سے متعدد طریقوں سے ظاہر کروں تاکہ انہیں غیرت آئے۔ دوسرا طریقہ ملاحظہ ہو:

شہادۃ القرآن کی جو عبارت نقل کی گئی ہے اس کے ابتداء میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ”پیش گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ کے اختیار میں ہیں۔“ دیکھا جائے کہ یہ قول کیسا صریح غلط بلکہ دروغ محض ہے۔ کیونکہ سینکڑوں پیش گوئیاں نجومی کیا کرتے ہیں۔ اخباروں میں شہتہر ہوتی رہتی ہیں اور ان میں سے اکثر صحیح بھی ہوتی ہیں۔ ساری دنیا اس کا تجربہ کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی نے اپنی صداقت کے ثبوت میں اپنی پیشین گوئیوں کو پیش نہیں کیا۔

مرزا قادیانی غلط دعوے کر کے اپنی پیشین گوئیوں کی عظمت بیان کر کے عوام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ غرضیکہ غلط دعوے اور دھوکہ یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی دے رہے ہیں۔ اب صریح غلطی اور نہایت روشن دھوکا مولف کو یا تو سوجھتا نہیں ہے۔ عقل سلب ہو گئی ہے۔ یا قصداً مرزا قادیانی کی اس صریح غلطی پر پردہ ڈال کر ایک راست باز علامہ پر محض غلط دعوے اور افتراء کرتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔

اب تیسرے طریقے سے مولف القاء کی حالت کا ثبوت دیکھا جائے وہ یہ ہے۔ لکھتے ہیں: ”آپ نے (مرزا قادیانی) اپنے اکثر پیش گوئیوں کو عظیم الشان اور اپنے دعوے کو سب دلائل کو یکساں کہا ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ صرف یہی پیش گوئی بڑی عظیم الشان ہے۔“ اس قول میں تین غلطیاں ہیں۔ اول یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنی پیشین گوئیوں کو عظیم الشان کہا ہے غلط ہے۔ انہوں نے سینکڑوں ایسی پیشین گوئیاں اپنی بتائی ہیں۔ اب مولف القاء بتائیں کہ ان میں سے کتنے کو عظیم الشان بتایا ہے۔ مگر وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ خوب خیال رہے کہ انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی نے اس قدر پیشین گوئیاں کیں۔ ان میں سے فلاں فلاں پیشین گوئی کو عظیم الشان کہا ہے یا یہی

دکھادیں کہ بہت سی پیشین گوئیوں کو ذکر کر کے یہ کہا ہو کہ یہ سب عظیم الشان ہیں جب تک یہ ثابت نہ کریں تو کہنا بلاشبہ غلط ہے کہ مرزا قادیانی نے اکثر پیشین گوئیوں کو عظیم الشان کہا ہے۔

دوم..... یہ کہنا غلط ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے دعوے کے سب دلائل کو یکساں قرار دیا ہے۔ شہادۃ القرآن کی جو عبارت منقول ہوئی اس میں تین پیش گوئیاں بیان کر کے لکھتے ہیں کہ: ”ان میں وہ پیشین گوئی جو مسلمانوں کے متعلق ہے، نہایت ہی عظیم الشان ہے۔“ یعنی وہ دو پیشین گوئیاں جو ہندوؤں اور عیسائیوں سے متعلق ہیں۔ وہ ایسی نہیں ہیں۔ ہر ایک پیشین گوئی مرزا قادیانی کے دعوے کی ایک دلیل ہے۔ یہاں تین دلیلوں کا ذکر کر کے ایک کو نہایت ہی عظیم الشان بتاتے ہیں۔ اب اردو کے جاننے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنے سب دلائل کو یکساں نہیں کہتے۔ جب ان تین دلیلوں میں ایک کو بہت فوقیت دے رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اور دلیلوں کو اسی پر قیاس نہ کیا جائے اور سب کو یکساں سمجھا جائے؟

الغرض اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مرزا قادیانی اپنی سب دلیلوں کو یکساں قرار نہیں دیتے۔ مؤلف القاء کو ایسی بات بھی نہیں سوچتی اور غلط دعوے کرتے ہیں۔

سوم..... ”یہ کہنا کہ کہیں نہیں لکھا کہ (مرزا قادیانی نے) کہ صرف یہی پیشین گوئی بڑی عظیم الشان ہے اور صرف یہی دلیل بہت بڑی دلیل ہے۔“

مؤلف القاء کچھ ایسے بداحواس ہو گئے ہیں کہ فیصلہ آسانی کی اردو عبارت ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور جو خود لکھتے ہیں۔ اسے بھی بخوبی نہیں سمجھ سکتے۔ ذرا ہوش کر کے یہ تو فرمائیے کہ جناب مؤلف فیصلہ نے یہ کہاں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی بطور حصر کہتے ہیں کہ یہی پیشین گوئی بڑی عظیم الشان ہے؟ میں نے فیصلہ کی پوری عبارت اس کے متعلق نقل کر دی ہے۔ ناظرین اسے ملاحظہ کر کے مؤلف القاء کی بداحواسی یا بددیانتی کو دیکھیں۔ غرضیکہ مؤلف فیصلہ نے ہرگز نہیں لکھا کہ صرف یہی پیشین گوئی بڑی عظیم الشان ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کا یہ قول نقل کیا ہے یہ پیشین گوئی بہت ہی عظیم الشان ہے۔

ان دونوں عبارتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلی عبارت میں حصر ہے۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ صرف یہ ایک پیشین گوئی عظیم الشان ہے۔ دوسری نہیں۔ دوسری عبارت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اردو دان بھی خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ یہ پیشین گوئی عظمت کے لحاظ سے اتنی بڑی ہے کہ اس سے زیادہ عظمت والی نہیں ہو سکتی۔ مگر اس عبارت میں یہ حصر نہیں ہے کہ یہی بڑی عظمت والی ہے۔ دوسری نہیں۔ عبارت میں حصر بیان کر کے مؤلف فیصلہ

کی طرف منسوب کرنا صریح افتراء ہے یا سخت جہالت ہے۔

خدا جاننے القاء ربانی کس تاہم کے قلم سے نکلے ہے جسے اردو کے محاورہ سے بھی خبر نہیں۔ غالباً حکیم غلیظہ اسخ کی یہ خاص جدت ہے وہ پنجابی ہیں اور پنجابی کو اردو محاورہ کی کیا خبر۔ اور جو یہ نہیں تو مولف القاء ربانی بتائیں کہ یہ ابو احمد کا غلط دعویٰ اور دھوکہ دہی ہے۔ یا آپ کی ناہنجی اور ہٹ دھرمی ہے۔ آپ کا علم و فضل کیا ہوا۔ صراط مستقیم سے دور جا پڑنے کا یہ لازمہ ہے اور: ”قد طبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون“ کا یہ نتیجہ ہے۔ اپنے حال زار پر رحم فرما کر توبہ استغفار سے کام لیجئے۔ خدا آپ کی عظمت اور وقار کو قائم کر سکتا ہے:

این درگہ مادرگہ نامیدی نیست

صدبار اگر توبہ کھلتی باز آ

ناظرین! یہ بھی معلوم کریں کہ مولف القاء کو اس غلط الزام دینے کی اندرونی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ مولف فیصلہ کی اس تقریر سے عوام یہ سمجھیں گے کہ مرزا قادیانی کا نہایت عظیم الشان معجزہ غلط ہو گیا اور کوئی دوسرا معجزہ اس کے مثل نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی کا دعویٰ گویا بلا دلیل رہ گیا۔ اس لئے عوام کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اور بھی معجزے اس کے مثل ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔ مگر حق پسند دور میں حضرات اس پر نظر کریں کہ مثلاً چاول کے پختہ ہونے کی شناخت دیک کے ایک چاول سے کی جاتی ہے۔ جب چاول نکال کر دیکھا اور اس میں خامی پائی گئی تو معلوم ہوا کہ دیک کے کل چاول کچے ہیں۔ اسی طرح جب مرزا قادیانی کی نہایت عظیم الشان دلیل غلط ہو گئی تو تمام دلائل بیکار اور مخدوش ہو گئے۔ کیونکہ اس دلیل کے غلط ہو جانے سے مرزا قادیانی کا دعویٰ نصوص قرآنی سے غلط ہو گیا۔ اور نہایت ظاہر ہے کہ جس کے دعوے کو نصوص قرآنی غلط بتائیں اور وہ نصوص صریح قرآن مجید سے جموٹا ثابت ہوں۔ اسے کوئی دلیل سچا نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل حصہ سوم فیصلہ آسانی سے معلوم ہو سکتی ہے اور اگر اس کے دیکھنے کے بعد بھی کسی کو تامل رہے گا تو بشرط اطلاع میں تشریح کرنے کو حاضر ہوں۔

اب میں جواب کے پہلے حصے کو ختم کرتا ہوں اور بھائی صاحب (عبدالماجد قادیانی) کے لئے دعا گو ہوں کہ اے میرے کریم میرے بھائی کو صراط مستقیم دکھلا اور صریح کذب کی پیروی سے بچا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ لَمْ يَلْمِ يَلْمَىٰ وَمَنْ لَمْ يَلْمَ يَلْمَ  
مَنْ لَمْ يَلْمِ يَلْمَىٰ وَمَنْ لَمْ يَلْمَ يَلْمَ

# فیصلہ قرآنی

معروف بہ تکذیب قادیانی



حضرت مولانا محمد الدین کاہنہ کاچھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## خلاصہ تکذیب قادیانی مرزا قادیانی کی علمی لیاقت آپ کی ہی ایک تحریر دوسری تحریر کی تکذیب کر رہی ہے

مرزا غلام احمد قادیانی اپنے رسالہ دافع البلاء پر صحنی ابن مریم علیہ السلام کی نسبت لکھتے ہیں: ”ہم مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں سے البتہ اچھا تھا۔ واللہ اعلم!“ (دافع البلاء ورق دوم، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۹) پھر اپنے قول کی آپ ہی تردید کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے: ”یاد رہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ حضرت صحنی علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے۔ یہ ہمارا ایمان محض نیک خلقی کے طور پر ہے ورنہ ممکن ہے کہ حضرت صحنی علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر راست باز اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت صحنی علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت فرماتا ہے ”وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین“ (ایضاً حاشیہ)

پھر اپنے قول اور خدا کے قول کی خود ہی تکذیب کرتے ہیں وہ یہ ہے ”لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں راست بازوں بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بچی علیہ السلام نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر صراطا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں بچی کا نام حضور رکھا مگر مسیح کا نام یہ نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام سے مانع تھے۔ آخر میں لکھتے ہیں: ”اور مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ صحنی علیہ السلام اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں۔ اس کے معنی نادان لوگ نہیں سمجھتے۔“

رسالہ ازالۃ الادہام میں لکھتے ہیں کہ: ”میں مشابہت تامہ اور مماثلت شدید کی وجہ سے مسیح ابن مریم علیہ السلام کا مثل بھی ہوں۔“ (یعنی مانند) (ازالہ ادہام ص ۱۹۱، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

ارباب بصیرت پر عقلی ندر ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے اعتقادات مذکورہ بالا میں دس

غلطیاں کی ہیں۔

غلطی اوّل..... عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو راست باز آدمی بتایا نہ بغیر حالانکہ خدا تعالیٰ ان کے حق میں رسول بنی اسرائیل (ال عمران ۴۹) فرماتا ہے۔

غلطی دوم..... پھر راست بازی کی تردید خود ہی فرمائی۔

غلطی سوم..... وجیہاً فی الدنيا والآخرۃ ومن المقربین (ال عمران ۴۵) شہادت باری تعالیٰ تصدیق راست بازی مسیح میں پیش کی۔ مرزا قادیانی کا عجیب علم ہے۔ خیال خود مسیح کو راست بازی طور پر مانتے ہیں پھر اپنے قول کی تردید کے لئے مقرب قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔

غلطی چہارم..... مسیح علیہ السلام پر شراب کا بہتان لگاتے ہیں۔

غلطی پنجم..... مسیح کو فاحشہ عورت کا مال کھانے کی تہمت لگاتے ہیں۔

غلطی ششم..... مسیح علیہ السلام کو زانی بتاتے ہیں۔

غلطی ہفتم..... معاذ اللہ مسیح کو ولد الزنا بتاتے ہیں۔

غلطی ہشتم..... مریم علیہا السلام کو زانیہ بتاتے ہیں۔ یہ دو نمبر مذکورہ بالا مرزا قادیانی کی عبارت مفصل ذیل سے ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ عبارت پہلے بھی لکھی گئی ہے مگر دوبارہ رفع شکوک کے لئے لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے۔

اور مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہے۔ اس کے معنی شیطان لوگ نہیں سمجھتے۔

(داغ البلاء ص..... خزائن ج ۸ ص ۲۴۰ حاشیہ)

اے ارباب بصیرت جب مریم علیہا السلام معاذ اللہ مس شیطان سے پاک نہ ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ظہرے (نعوذ باللہ منہا) مرزا قادیانی نے جس قدر بہتان نسبت مسیح علیہ السلام تحریر کئے ہیں وہ سب کے سب قرآن شریف کے برخلاف، موافق اعتقاد یہودی لکھے ہیں۔ بلکہ قرآن شریف میں پروردگار نے مریم علیہا السلام کی دو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک برگزیدگی یعنی پاک وامنی۔ دوم برگزیدگی تمام عالمین کی عورتوں سے یہ دو تو خطاب کسی عورت کو حاصل نہیں۔ ”ان الله اصطفك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين (آل عمران ۴۲)“

ناظرین پر مٹھی ندر ہے کہ یہودی بھی مریم علیہا السلام کو مس شیطان سے پاک نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ آیت ہذا سے ثابت ہے ”قلو ایامریم لقد جئت شیئاً مغریلاً (مریم ۲۷)“

مگر یہ بریت مریم علیہا السلام کی بہت مقامات پر قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ مثلاً "وامہ صدیقہ (المائدہ: ۷۰۰) التي احصنت فرجها فنحننا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمین (الانبیاء: ۹۱)" آیت ہذا سے تین امر ثابت ہوتے ہیں۔ مریم زانیہ نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ ہے۔ مریم علیہا السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا نشان ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت گیارہ اوصاف سورت آل عمران میں خدا تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ منجملہ ان میں مقرب اور رسول بھی ہے۔ ہم مرزا قادیانی سے پوچھتے ہیں کیا بخیاں آپ کے جیسا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بہتان لگاتے ہیں۔ زانی، شرابی حتیٰ کہ ناجائز فطرتی۔ ایسے شخص کو خدا عالم الغیب مقرب اور رسول بنا سکتا ہے؟ معاذ اللہ یہ بہتان تو پلید یہود لگایا کرتے تھے۔ جن کی بریت کے لئے قصہ مسیح علیہ السلام کا قرآن شریف میں بیان ہوا۔

غلطی وہم ..... انوس ہے پھر انوس مرزا قادیانی باوجود بہتان مذکورہ بالا کے پھر لکھتے ہیں کہ میں مشابہت تام اور مماثلت شدید کی وجہ سے مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کا مثل بھی ہوں (یعنی مانند) ہم مرزا قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ ایک طرف تو مسیح ابن مریم علیہ السلام کو شرابی، زانی حرام کا مال کہنے والا حتیٰ کہ ناجائز فطرتی اپنی ظلم سے لکھتے ہو اور دوسری طرف آپ لکھتے ہو کہ سخت مشابہت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کی وجہ سے مسیح علیہ السلام ابن مریم کا مثل بھی ہوں۔ فرمادیں آپ کی مشابہت بہتان مذکورہ بالا میں ہے یا کسی اور بات میں کیونکہ اسی، پیدا اسی، قوی، فعلی، قوی، ملکی آپ کی مشابہت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہرگز ہرگز نہیں۔ اس فیصلہ کے لئے ہم قرآن شریف کو منصف اختیار کرتے ہیں۔

مشابہت اسی ..... عیسیٰ علیہ السلام کے قتل از تولد خدا تعالیٰ کی طرف سے تین اسم مقرر ہیں۔ مسیح علیہ السلام خطاب ہے۔ معنی اس کے جس کے ہاتھ لگانے سے سخت بیمار اچھے ہوں یا مردہ زندہ ہوں اور یہی وصف مسیح کے قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اسم علم عربی ہے۔ ابن مریم کنیت ہے۔ آپ کا علم عربی غلام احمد مکرو الدین کا دیا ہوا لقب مرزا۔ خطاب خدا کی طرف سے تو کیا بلکہ بادشاہ وقت کی طرف سے بھی نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ اسی کوئی مشابہت نہیں۔ بلکہ سفید جھوٹ ہے۔

مشابہت پیدا اسی ..... عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم بے شک بن باپ ہے۔ مرزا قادیانی کا باپ بزرگوار مرزا غلام مرتضیٰ جن کو سب عورتیں قادیان کی بھی جانتی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی



کی عیسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہونے کی کوئی مشابہت نہیں بلکہ سرخ جھوٹ۔

مشابہت قوی..... عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا خدا تعالیٰ قول قرآن شریف میں بیان فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کو کہا کہ تحقیق میں رسول ہوں۔ طرف تمہاری ماننے والا واسطے اس چیز کے آگے میرے ہے تو رات سے۔ سورۃ صاف آپ کا قول تو کیا بلکہ اسم بھی غلام احمد قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا۔ پس ثابت ہوا کہ قوی بھی کوئی مشابہت نہیں بلکہ سفید جھوٹ۔

مشابہت فعلی..... خدا تعالیٰ قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کا فعل بیان فرماتا ہے کہ تولد کے روز ہی باتیں کرتا تھا۔ بیماروں کو اچھا کرتا تھا۔ بلکہ مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قبل از تولد خدا تعالیٰ نے مسج رکھا۔ مرزا نے نہ تولد کے روز باتیں ہی کیں اور نہ کوئی بیمار اچھا کیا۔ اگر کرتے تو مولوی عبدالکریم صاحب کو کرتے۔ جناب جب بیماری کو اچھا نہیں کر سکتے تو مردوں کو کس طرح زندہ کر سکتے ہیں؟ پس ثابت ہوا کہ فعلی بھی کوئی مشابہت نہیں بلکہ جھوٹ۔

مشابہت قومی..... عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی ہیں اور آپ مغل ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ قومی مشابہت بھی نہیں بلکہ زرد جھوٹ۔ مشابہت مکی، جیسے ابن مریم علیہ السلام شامی ہیں اور آپ ہندی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ مکی مشابہت بھی نہیں بلکہ جھوٹ بیداع۔ پس ثابت ہوا کہ تمام تحریرات مرزا قادیانی اور دعوے مسیح موعود آپ کی تحریروں سے ہی غلط ہیں۔

مرزا قادیانی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سخت مشابہت کی وجہ سے مسیح ابن مریم علیہ السلام کا متعلی ہوں پھر اس کی بھی تردید کر دیتے ہیں اور اپنا درجہ بخیاں خود مسیح ابن مریم علیہا السلام سے زیادہ لکھتے ہیں۔ بلکہ ان کو اپنے غلاموں سے بھی کم درجہ سمجھتے ہیں۔

(رسالہ داغ البلاء ص ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴) اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح علیہ السلام کا نام غلام احمد کہا تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنیٰ غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔“ (رسالہ داغ البلاء ص ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

(رسالہ داغ البلاء ص ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰) میں لکھتے ہیں:

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو  
اس سے پھر غلام احمد ہے

ارباب بصیرت پر لازم ہے کہ مرزا قادیانی کے اعتقاد پر غور کریں۔ ایک طرف لکھتے ہیں کہ سخت مشابہت کی وجہ سے مسیح ابن مریم علیہ السلام کا مانند ہوں۔ پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ میری شان مسیح ابن مریم سے زیادہ ہے۔ ہم مرزا قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کا نام خدا کی طرف سے خطاب قبل از تولد ہے۔ عیسیٰ علم ہے قبل از تولد۔ آپ کا نام غلام احمد ہے اور مسیح موعود آپ ہی اپنا نام رکھنے والے ہو۔ وہ بھی کب جبکہ یہ دکان نئے مذہب کا شروع کیا۔ حضرت آپ اپنی تحریروں ہی سے اپنے دعوے کو جھوٹا کر رہے ہیں۔ ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔

اعتقاد مرزا قادیانی اپنے ایک الہام میں اپنی نسبت ولدیت خدا کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھو (رسالہ داغ البلاص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) وہ دعویٰ یہ ہے ”انت منی بمنزلة اولاد انت منی وانا منک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا“

ہم مرزا قادیانی سے بڑے ادب سے پوچھتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ خدا کے بیٹے مقرر کرتے تھے کہا ”وقالت الیہود عزیز بن ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ“ مگر اس اعتقاد کی تردید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ”ذالک بافواہم۔ یضاهئون قول الذین کفر وامن قبل قاتلہم اللہ انی یوفکون (التوبہ: ۳۰)“ آیت ہذا سے صاف ثابت ہے یہود و نصاریٰ خدا کے بیٹے مقرر کرتے تھے۔ اس کی تردید میں پروردگار نے تین امر بیان فرمائے ہیں۔ اول! یہود و نصاریٰ اپنے منہ سے کہتے ہیں کوئی شہوت نہیں۔ دوم! یہود و نصاریٰ اور بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں یعنی کافروں میں۔ تیسرا! لعنت ہو اللہ کی یہود اور نصاریٰ پر کیسا برا اعتقاد کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ یہود و نصاریٰ کو اس اعتقاد کے بدلے مشابہت کافروں کی دیتا ہے اور آپ باوجود دعویٰ واقفیت قرآن پھر خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نحوذ باللہ منہما۔ ناظرین مرزا قادیانی کے دعوؤں پر غور کرو پھر غور کرو۔

مرزا قادیانی بخمال خود رسول بھی ہیں۔ (داغ البلاص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷)

”براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آخری دنوں میں طاعون بھیجوں گا تاکہ میں ان خبیثوں اور شریروں کا منہ بند کروں جو میرے رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔“

(داغ البلاص ۹، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۹)

”قادیان کو اس کے خوفناک چاہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے لئے رسول کا

(داغ البلاص ۱۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

تخت گاہ ہے۔“

دعویٰ رسالت مرزا قادیانی کا چاروجہ سے صحیح نہیں۔

وجہ اول..... رسول اصطلاح اسلام میں اس شخص کو کہتے ہیں جو نبی شریعت لاوے۔ یعنی وحی اس پر نازل ہو اور کتاب الہامی بھی رکھتا ہو۔ مرزا قادیانی تو محمدی شریعت کے ہیرو ہیں۔ لہذا دعویٰ رسالت صحیح نہیں۔

وجہ دوم..... مرزا قادیانی مثل مسیح ابن مریم علیہ السلام کے، اپنے آپ کو لکھتے ہیں۔ پھر رسول کیونکر ہو سکتے ہیں۔

وجہ سوم..... مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں میں غلام احمد ہوں۔ یعنی غلام محمد۔ اگرچہ دعویٰ غلامی بھی بخیاں خود مرزا قادیانی کرتے ہیں تاہم ان کی رسالت کی نفی کرتا ہے کیونکہ ایک طرف تو محمد ﷺ کے غلام بنتے ہیں۔ پھر دعویٰ رسالت کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ دعویٰ غلامی احمد ﷺ کی عبارت جو مرزا قادیانی لکھتے ہیں یہ ہے۔ ”کیونکہ عیسائی مشنریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا یا اٹھ ہمارے سید و مولا حقیقی شفیع ﷺ کو گالیاں دیں اور بدزبانی کی۔ کتابوں سے زمین کو نجس کیا۔ اس لئے اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا تا کہ یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح علیہ السلام کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنیٰ غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔“ (داغ البلاغ، ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰، شخص)

ارباب بصیرت پر حتمی نہ رہے کہ مرزا قادیانی اپنی عبارت میں دو دعویٰ کی خود ہی نفی کی ہے۔ مثلاً اپنا درجہ بڑھانے سے مثل ابن مریم علیہ السلام کے نہوئے اور غلام احمد ﷺ بننے سے دعوے رسالت باطل ہو جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی عبارت مذکورہ میں علاوہ جمع کرنے تقیض اور ابطال دعویٰ دو بڑے جموٹ لکھے ہیں۔

جموٹ اول..... فقرہ عبارت مذکورہ مرزا قادیانی۔ اس لئے اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا۔ اس امت میں مسیح موعود بھیجا۔

معاذ اللہ بخیاں خود مرزا قادیانی یہ لکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں کہیں مرزا غلام احمد کا نام نہیں آیا لہذا مرزا قادیانی کا لکھنا جموٹ ثابت ہوا۔

جموٹ دوم..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ میرا نام خدا نے غلام احمد اس لئے رکھا تا کہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے۔ عبارت مرزا قادیانی کی یہ ہے ”اور اس نے اس دوسرے مسیح کا

نام غلام احمد رکھا تاکہ یہ اشارہ ہو کہ مسلمانوں کا مسیح کیسا خدا ہے کہ احمد کے ادنیٰ غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم مرزا قادیانی سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ سفید جھوٹ آپ نے کیوں لکھا۔ آپ کا نام غلام احمد آپ کے والدین رکھنے والے ہیں نہ کہ خدا تعالیٰ۔ جناب اپنے دعوؤں کو خود ہی باطل کر رہے ہیں اور اجتماعِ قلمیں لکھنے سے ناظرین کو اپنی علمی لیاقت سے مستفیض کر رہے ہیں۔

وجہ چہارم..... اگر مرزا قادیانی کے لکھنے پر ہی مرزا قادیانی کو رسول جانیں تو مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ تو خود محمدی شریعت کی پابندی کا دعویٰ رکھتے ہیں اور مسلمان شریعت محمدی کو پہلے بھی ماننے ہیں۔ اسی واسطے اپنا نام مسلمان بھی رکھاتے رہیں۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے دعوؤں سے ہوس نفس کو پورا کر رہے ہیں۔ دعاوی تو ٹرینوں کے ٹرین ہی ہیں۔ لیکن بفضلِ خدا ثبوت ایک کا بھی نہیں۔ ہم مرزا قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی بو الہوس اپنا نام دائمیر آرکھ لیوے تو کیا اختیار اصل دائمیر کے حاصل کر سکتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ علیٰ ہذا جناب بھی تمام القاب اور خطابات بخيال خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں مگر اپنے آپ رسول بننے سے اصل کب بن سکتا ہے۔

ایضا مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ مجھے الہام ہوتے ہیں اس دعویٰ میں مرزا قادیانی نے دو غلطیاں کی ہیں۔

غلطی اول..... اصطلاح اسلام میں الہام وہ حکم ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبروں پر بذریعہ وحی جبرائیل پہنچایا جاتا ہے۔ جب مرزا قادیانی پیغمبر ہی نہیں تو وحی کیونکر نازل ہو سکتی ہے؟ پس جب وحی نازل نہیں ہوتا تو مرزا قادیانی الہام کے دعویدار کیونکر ہو سکتے ہیں۔

غلطی دوم..... اظہر من الشمس ہے کہ مرزا قادیانی کے تمام الہامات جھوٹے ہیں۔ اس امر کی تصدیق کے لئے شہادت ان کے چچازاد بھائی مرزا امام الدین سلطان العارفین المشہور لال بیگ چوہڑوں کے ہیں جو کہ اپنی کتاب گلِ شگفتہ ص ۱۸ باب الہام مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں ہم پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ”میں مرزا امام الدین حقیقی چچازاد بھائی امام کاذب قادیانی کا ہوں اور اس کے چال چلن سے ابتداء سے آج تک بخوبی واقف ہوں۔ غیر کو کیا خبر ہے۔ اس خدا کو

۱۔ مرزا قادیانی عام الہام کے مدعی نہیں۔ بلکہ خاص الہام جو پیغمبروں کو ہوا کرتے تھے، اس کے مدعی ہیں۔ یہ دعویٰ براہین احمدیہ ہیں۔

حاضر و ناظر جان کر کج کہتا ہوں جو عالمین ہے کہ جس قدر اس کے دعاوی الہامات ہیں۔ سب غلط اور لہجہ بوج ہیں۔ اگر یہ سچا اور حق پرست ہوتا تو میں اس کا بیدہ ہوتا۔ جس مکر کو مکار پورا کرنا چاہتے ہیں تو چار مکار شفق ہو کر پورا کرتے ہیں۔“ اتنی ہم طوالت کے لئے سب عمارت نہیں لکھ سکتے۔ صرف تین الہام جو مرزا امام الدین سلطان العارفین رسالہ گل شکفت میں لکھتے ہیں۔ ”ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں وہ یہ ہے۔ سنو الہام کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور نام اس کا امواتیل ہوگا اور وہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ تمام جہاں کو فیضان اس کا پہنچے گا۔ بفضل خدا بجائے امواتیل کے امواتیلی ہوگی۔ پھر محمد صاحب نے پہلے نکر بدل کر جو ابدیہا کہ اس حمل سے نہیں کہا تھا۔ دوسرے حمل سے لڑکا تو پیدا ہوا اور پھر دو چند۔ اس لڑکے کی تعریف لکھی۔ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ وہ بھی لڑکا تین سال زعمہ رہ کر مر گیا اور طہیم صاحب کو شرمندہ کر دیا۔ پھر الہام ہوا کہ عبد اللہ آقہم صاحب فلانے مینے اور فلانے روز مرے گا۔ اگر اس روز نہ مرے گا تو میرا منہ کالا کر کے اور گدھے پر سوار کر کر پھانسی دلایا جاوے وہ بھی بفضل خدا اس تاریخ پر نہ فوت ہوا اور چاروں طرف سے ”لعنت اللہ علی الکاذبین“ کی بارش ہونے لگی تو آٹھ روز تک شرمندہ ہو کر گھر سے نہ نکلا۔ پھر الہام ہوا مرزا احمد بیگ ہو شیار پوری کی لڑکی میری زہبہ بنے گی۔ اگر ولد خان لڑکی دوسری جگہ نکاح کریں گے تو وہ خاندان کا تین سال میں مرے گا اور وہ پھر میری زہبہ بنے گی۔ وارث لڑکی آدی محمد تھا۔ اس نے اس کو جو سنا سمجھ کر موضع پٹی سٹلاں میں اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ بفضل خدا وہ لڑکی اب صاحب اولاد ہے اور اپنے خاندان کے گھر آباد ہے (جس کو قریباً ۱۴ سال کا عمر گزر چکا ہے) پھر ایک لڑکے بعد و سائکن گادبان کو کہا گیا کہ تیری نسبت الہام نازل ہوا کہ دو برس کے عرصہ میں اگر تو مسلمان ہو گیا تو پھر وہ نہ مر جائے گا۔ یہ بھی الہام بفضل خدا جمیع نکلا اور صد الہام ایسے جموں اور نونو بوج ہیں۔ اگر ان کو تحصیل دار لکھا جاوے تو گویا ایک دختر چاہئے۔“

ہم مرزا احمد پٹی سے بڑے ادب سے پوچھتے ہیں کہ کیا جناب سچے مدعی ہیں یا مرزا امام الدین صاحب جو کہ وہ ہانگی اور لال بیگی اور سلطان العارفین اپنے آپ کو لکھتے ہیں۔ ناظرین اصل میں پنجاب غراب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک کام کرنے لگتا ہے تو شیعوں اور بھی اسی کام کو شروع کر دیتے ہیں۔ گمان کو قائمہ ہونہ ہو مگر دوسرے کے کام میں ہرج ہوسی جاتا ہے۔ دور نہ جائیے پہلے مرزا احمد پٹی نے دعویٰ محدودیت کیا۔ پھر آپ کے حقیقی چچا زاد بھائی مرزا امام الدین صاحب نے لال بیگ بن کر چوہڑوں کے حیر بن بیٹھے۔ پھر مرزا غلام احمد نے دوسرا دعویٰ

مہدویت کر لیا۔ جالانگہ پہلے بھی دعویٰ مہدویت ایک شخص سوڈانی نے کیا ہوا تھا۔ اب کوئٹہ اور کابل میں مدعی مہدویت سے جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا وہ سچے مدعی ہیں یا آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بڑی محنت کی چنانچہ (تحد کلاز یہ ص ۱۹، خزائن ج ۷ ص ۶۶) میں جناب نے لکھا ہے کہ: ”ہم نے چالیس کتابیں اور ساٹھ ہزار اشتہار اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دیئے ہیں۔“ ہم بھی صد آفرین کہتے ہیں کہ جناب نے اپنی قلم کے زور سے خالص پتیل کو سونے کے نرخ پر فروخت کیا۔ مگر واضح رہے کہ چالیس کتابیں اور ساٹھ ہزار اشتہار جو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں جناب نے دیئے ہیں یہ سب کے سب محض فضول ہیں۔ ہم اس میں آپ کی کوئی لیاقت نہیں سمجھتے بلکہ یہ لیاقت ڈاکٹر سر سید احمد خان صاحب مرحوم کی ہے۔ کیونکہ جناب کے عہدہ وہی ثبوت ہیں جن کو سر سید مرحوم نے تردید اعتراضات مخالفین اسلام کے لئے اپنی تفسیر میں آپ کے دعوے سے پیشتر ہی لکھ چکے پھر جناب کی کیا لیاقت ہے؟

ارباب بصیرت پر مخنی نہ رہے کہ سر سید احمد خان صاحب مرحوم نے چند ایک سپاروں کی تفسیر بنائی ہے۔ ہم خلاصہ مضمون اس تفسیر کا ناظرین کو دکھلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے۔ انکار وجود فرشتگان و جنات، انکار بہشت و دوزخ، انکار ابلیس، انکار وجود آسمان، انکار تعظیم کعبہ اللہ، انکار معجزات پیغمبران۔ پھر سر سید مرحوم نے ثبوت کے لئے تیرا، ۱۳ وجوہات سے اپنا مدعا ثابت کیا۔

اول..... قرآن شریف کے حقیقی معنوں کو مجازی معنی ثابت کیا یا برعکس اس کے مجازی معنوں کو حقیقی بنایا۔ دوم..... اختلاف مفسرین۔ سوم..... حدیث۔ چہارم..... لغت۔ پنجم..... رواج ملک۔ ششم..... جغرافیہ۔ ہفتم..... تاریخ۔ ہشتم..... اقوال انجیل۔ نہم..... اقوال تورات۔ دہم..... اقوال سیاحین عرب۔ یازدہم..... اقوال سیاحین یورپ۔ دوازدہم..... اقوال فلاسفہ۔ سیزدہم..... نحو۔

اب ہم تفسیر سید مرحوم کی غرض بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمانہ حال میں بسبب نئی تحقیقات کے کئی ایک امور ایسے بھی دریافت ہوئے ہیں جو بظاہر قرآن شریف کے برخلاف ہیں۔ مثلاً سات آسمان قرآن شریف نے بیان فرمائے اور نئی تحقیقات کے مطابق آسمان کا کوئی وجود نہیں۔ مخالفین اسلام اس پر طعن کرنے لگے کہ قرآن شریف غلط کلام ہے۔ سید مرحوم مخالفوں کی تردید کے لئے کوئی دلیل کافی پیش نہ کر سکے لہذا قرآن شریف کے معانی عقل کے موافق اور فلاسفہ حال کے مطابق بیان کر کے مخالفوں کی تردید کی۔ چونکہ یہ تردید علماء کے نزدیک ناجائز تھی

اسی واسطے سید مرحوم کو علماء نے کفر کے فتوے بھی دیئے۔ تاہم سید احمد مرحوم کی ہمت پر آفرین ہے کہ مخالفوں کی تردید انہوں نے فرمائی۔ الغرض اعتراضات مخالفین میں سے ایک معجزہ بھی تھا جس کو سید مرحوم نے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی اختیار کر کے ثابت کیا کہ معجزہ نبوت کی کوئی دلیل نہیں منجملہ معجزات سے معجزے عیسیٰ ابن مریم کے بھی تھے۔ چونکہ کل معجزوں کی سید مرحوم نے نفی کی تھی لہذا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی بھی نفی کرنا پڑی۔

ایضاً دو امر نسبت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانہ قدیم سے ہی مختلف فیہ تھے۔ ایک تولد عیسیٰ علیہ السلام، دوم موت۔ ان دونوں امروں میں سید مرحوم نے بحث کی۔ گو وہ بحث کوئی نئی نہیں تاہم مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے نئی ہے۔ ہم اس بحث کو تفصیلاً سمجھاتے ہیں۔ مثلاً تولد عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ قدیم سے ہی اختلاف چلا آتا تھا کہ بعض یہود عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف بن یعقوب کا بیٹا جانتے تھے اور بعض ناجائز فطرتی سمجھتے تھے۔ سید مرحوم نے اس بحث میں یوسف کا بیٹا ہی قرار دیا۔ اس لئے کہ بعض نصاریٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بن باپ پیدا ہونا معجزہ جانتے تھے چونکہ سید مرحوم نے معجزوں کی نفی کا دعویٰ کیا تھا لہذا بعض یہود کے اعتقاد کو لیکر یوسف کا بیٹا ثابت کیا۔

امروم ..... موت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اسی میں بھی بہت اختلافات تھے۔ بعض یہود اعتقاد رکھتے تھے کہ پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام کو سنگسار کر کے پھر سولی دیا گیا پھر قتل کیا گیا اور بعض کہتے تھے کہ پہلے سولی دیا گیا پھر قتل کیا گیا۔ نصاریٰ برخلاف ان کے سولی دیا جانا قرار کرتے تھے مگر پھر زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ جانا معجزہ ابن مریم علیہ السلام کا سمجھتے تھے۔ اس مقام پر بھی سید مرحوم نے ابطل معجزے کے لئے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بعد سولی دیئے جانے کے اپنی طبیعت سے مرنا ثابت کیا۔ گو یہ ثبوت بھی سید مرحوم کا پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا کیونکہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر فلاں جگہ ہے۔ تاہم اس اختلاف کو اختیار کر کے اپنے دعوے کو ثابت کیا۔

پس ناظرین کو ثابت ہو گیا ہوگا کہ سید مرحوم نے اپنے وہم میں تفسیر کا مانا ثواب سمجھا ہے اور جہاں تک سنا جاتا ہے اور ان کی تحریروں سے بھی پایا جاتا ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے تفسیر نیک نیتی اور مخالفوں کی تردید پر تیار کی۔ مگر سید مرحوم نے نہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام پر بہتان لگائے نہ اور کسی تغیر اور بزرگ پر۔ افسوس مرزا قادیانی پر ہے اول تو دعویٰ مثیل

اسح کا قائم کیا۔ پھر سح اور اس کی والدہ پر یہودیوں کی طرح بہتان لگائے اور کشمیر میں قبر عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی۔ حالانکہ یہ خیال سید مرحوم نے بھی نہ فرمایا بلکہ یہ اعتقاد کسی یہودی کا بھی نہیں۔ مرزا قادیانی ہم بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کی تکذیب کی ہے۔ دیکھو صرف سورہ بقرہ میں ہی چاروںہ پروردگار فرماتا ہے کہ کسی تکذیب کی شان میں فرق نہ کیا جاوے ہم ایک آیت کا آخر آپ کے لئے لکھتے ہیں: ”وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من زہم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون (البقرہ: ۱۳۶)“ آپ رہا فیصلہ قرآنی چمکے آپ کے دعاوی قرآن شریف کے برخلاف ہیں۔ لہذا آپ اس آیت کے حکم کے مصداق ہیں: ”ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون (سورہ مائدہ: ۴۴)“

سرسید احمد خان صاحب مرحوم کے اعتقاد پر سرسری بحث

ناظرین! پرواضح رہے کہ مذہب مرزا قادیانی بھینہ دہی ہے جس کو سید مرحوم نے اپنی تفسیر میں بخیاں نیک نیتی لکھا تھا۔ چونکہ سید مرحوم کے لکھنے سے یہ فساد ہوا کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ مسیح موعود کیا۔ لہذا ہم کو تکذیب قادیانی میں یہ دکھانا پڑا کہ سید مرحوم نے اپنے تفسیر میں عیسیٰ بن مریم کی نسبت اور علاوہ کیا لکھا ہے۔ اگرچہ تمام رسالہ میں اعتقاد سید مرحوم کی تردید کی گئی ہے تاہم مختصر اعتقاد قرآن شریف سے ان کی تردید ناظرین کو دکھلاتے ہیں۔

یاد رہے کہ تین امروں میں سید مرحوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنی تفسیر میں بحث کی ہے۔ (۱) عیسیٰ ابن مریم بن باپ نہیں۔ (۲) عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ سولی پر چڑھائے گئے لیکن اپنی عیسیٰ موت سے مرے۔ (۳) مجرات عیسیٰ علیہ السلام کے بلکہ تمام ظہیروں کے سچ نہیں۔

..... عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں یہ اعتقاد سید مرحوم کا چھب سے سچ نہیں۔

جد اول ..... زمانہ نزول قرآن شریف میں نسبت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے دوا اعتقاد تھے۔ بعض عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف کا بیٹا جانتے تھے اور بعض کا جاننا فطری برخلاف جن کے نصاریٰ بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور بعض خود خدا اور بعض تثلیث پر یقین رکھتے تھے اور قرآن شریف نے ان کی تردید فرمائی۔ الغرض اگر عیسیٰ علیہ السلام یوسف کا بیٹا ہوتا تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو ابن مریم علیہ السلام نہ فرماتا حالانکہ ہر قوم اور ہر مذہب میں ولد، والد کے نام سے نامزد ہوتا ہے۔



جس کو علم کثیف بھی کہتے ہیں۔ پس جب واقعہ عیسیٰ علیہ السلام میں کہیں بھی یوسف کے نام پر عیسیٰ علیہ السلام نہیں پکارا گیا تو بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے۔

وجہ دوم..... قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مریم علیہ السلام کو پروردگار نے بذریعہ فرشتہ خودی کہ تم کو لڑکا پیدا ہوگا۔ میرے حکم سے خطاب اس کا حکم ہے۔ علم اس کا عیسیٰ علیہ السلام، کثیف اس کی ابن مریم ہوگی۔ دیکھو یہی مضمون آیت ہذا سے لکتا ہے: "اذ قالت الملكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى ابن مريم (آل عمران: ۴۰)" "پس آیت ہذا سے تین امر ثابت ہوئے۔

۱۔ مریم علیہا السلام کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی۔

۲۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم پر پیدا ہوئے ہیں یعنی بن باپ۔

۳۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب صحیح اور علم عیسیٰ اور کثیف ابن مریم ہے۔ یہ تینوں اسما قبل از تولد خدا کی طرف سے ہیں۔ پس یوسف کا بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے؟

وجہ سوم..... آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آیت ہذا خدا نے ان کے اعتراض کو رد کیا: "ب" اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ آدم علیہ السلام بغیر والدہ پیدا ہوا ہے تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی نسبت بحسب والد کی طرف سے تھی نہ والدہ کی طرف سے۔ اس اعتبار سے "لن مثل عیسیٰ کمثل ادم" مخالفین کے لئے کافی جواب ہے۔ نیز سید مرحوم نے آدم علیہ السلام کا حسی انسان قلمی پیدا کر لیا ہے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ جہاں پروردگار عام انسان کو خدا کرتا ہے وہاں حسی آدم یا انسان کے لفظ سے پکارتا ہے دیکھو ثبوت اس کا فرض صحیح مگر یہود میں مفصل بیان ہم نے کیا ہے۔

۴۔ سید مرحوم نے اپنے دعوے کے ثبوت میں لکھا ہے کہ اسمیل علیہ السلام کا نسب نامہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوسف ابن یعقوب کے ساتھ ملتا ہے۔ مگر اس میں حضرت سید مرحوم نے یوی قلمی کی اگر یہ نسب نامہ صحیح ہوتا تو زمانہ حضرت ﷺ میں جھگڑا کیوں کرتا۔ قلمی دیگر اگر یہ نسب نامہ بالفرض مانا بھی جاوے تو وہ اختلاف جو کہ بعض یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز فطرتی سمجھتے ہیں۔ محاذ اللہ کیوں نہ مانا جاوے۔ الغرض یہاں عقائد قرآن شریف کے رو سے صحیح نہیں۔

۵۔ سید مرحوم نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ عیسیٰ کے بن باپ پیدا ہونے میں کیا حکمت

اور کیا غرض ہے؟ مگر ہم کہتے ہیں کہ تمام نباتات و اشجار میں سے بذریعہ تخم یا شاخ لگانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ برخلاف ان کے اقیقوں بغیر بیج نمو کیوں کرتا ہے اور خدا نے اس کو برخلاف نباتات کے کیوں پیدا کیا۔ الغرض ایسے بیہودہ اعتراض کئی ہو سکتے ہیں جن کا علم سوائے خالق حقیقی کے دوسرے کو نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ یہ اعتراض مرید احمد کا قانون قدرت پر ہے نہ علماء مفسرین پر۔

وجہ ششم..... عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ تولد ہونا آیت مفصلہ ذیل سے بدیع امر ہے: "قالت انسی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیبا (مریم: ۲۰)" آیت ہذا سے تین امر ثابت ہوتے ہیں۔

امراؤل..... زمانہ نزول قرآن شریف میں یہ اختلاف موجود تھا کہ بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف کا بیٹا ہے اور بعض ناجائز فطرتی سمجھتے تھے۔ لہذا پروردگار نے قول مریم علیہ السلام بیان فرمایا: "لم یمسنی بشر" سے صاف نہ ہونے نکاح سے مراد ہے اور "لم اک بغیبا" سے بدکاری سے پاک ہونا مراد ہے۔

امردوم..... پروردگار نے قول مریم علیہ السلام مذکورہ کی تصدیق فرمائی: "قال کذا ملک" پھر اس کے بعد بن باپ ہونا عیسیٰ کی بابت کہا میرے اوپر پیدا کرنا آسان ہے "قال ربک هو علی ہین۔"

امرسوم..... مریم کو اپنی پہلی آیت کے جواب میں پروردگار نے پیدا ہونے عیسیٰ علیہ السلام کی علت بیان فرمائی: "ولنجعله ایه للناس ورحمة منا وکان امرأ مقضیا"۔ ناظرین کو واضح رہے کہ بن باپ ہونے عیسیٰ علیہ السلام کی بابت تین وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔

جداؤل..... عیسیٰ علیہ السلام نشان قادریت پروردگار کا ہے۔

جدودوم..... احسان مریم علیہ السلام پر جیسا کہ "رحمة منا" سے ظاہر ہے۔

جدسوم..... خدا کے علم میں یوں ہی ہوتا تھا: "وکان امرأ مقضیا" پس ناظرین کو آیات مذکورہ بالا سے ثابت ہو گیا ہوگا کہ مریم علیہ السلام شیطان سے پاک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ اور مریم علیہا السلام پروردگار کی طرف سے احسان ہے اور تقدیر میں یوں ہی ہونا تھا۔ حقیقت میں تمام اعتراضات یہود و نصاریٰ بلکہ مرید احمد خان کی آیات مذکورہ بالا سے ہی تردید ہوتے ہیں۔ افسوس! اگر ہم ان آیات سورت مریم کو پورا بیان کرتے۔ قبل اور ما بعد کے ساتھ تو بہت بڑا ناظرین کو فائدہ پہنچتا مگر طوالت کے خوف سے یہاں نہیں بیان کرتے۔ کتاب میں حسب موقعہ ہر ایک واقعہ کو بیان کیا جائے گا۔

سر سید احمد خان نے عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف کا بیٹا بنانے کے واسطے تاویلیں کیں مگر آیت: "لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا" کے بیان کرنے پر کافیر تحویلات آپ کا ٹھک ہو گیا۔ اس آیت پر آپ یہ لکھتے ہیں۔

سب سے زیادہ غور لائق لفظ "لم یمسسنی وبشر ولم اک بغیا" ہے۔ بلاشبہ یہ دونوں کلمات نہایت صحیح ہیں اور جس زمانہ میں بشارت ہوئی اس زمانہ میں بلاشبہ حضرت مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے نہیں چھوا تھا۔ بلکہ غالباً خطبہ بھی یوسف کے ساتھ نہ ہوا تھا۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے بعد بھی امر واقعہ نہیں ہوا۔ ناظرین کو واضح رہے کہ سر سید احمد خان مرحوم کے مذکورہ بالا عبارات پر بحث کرتے ہیں۔ سید مرحوم کا یہ اعتقاد کہ جب یہ آیت "لم یمسسنی" الخ آئی ہے تو اس کے بعد خطبہ ہوا۔ یہ بات مریم کا یوسف سے خطبہ ہوا آٹھ دلیلوں سے بالکل غلط ہے۔

دلیل اول ..... ابتداء نزول قرآن شریف میں یوسف کے خطبہ کا یہودیوں میں اختلاف موجود تھا۔ قرآن شریف نے اس اعتقاد کی تردید فرمائی ہے۔ اس واسطے قرآن شریف کا نام فرقان ہے بلکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اکثر یہودیوں کے اختلاف کو قرآن شریف بیان فرماتا ہے: "ان هذا القرآن ان یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون" چونکہ مریم و یوسف کے خطبہ کا اختلاف نزول قرآن شریف سے پہلے ہی تھا اور قرآن شریف میں بیان ان کی تردید کے لئے نازل ہوا ہے لہذا سر سید احمد مرحوم کا قول مذکورہ بالا غلط ثابت ہوا۔

دلیل دوم ..... کسی عورت کو جس طرح کہ مریم کو بیٹا پیدا ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ پہلے نہیں دی گئی۔ لہذا ثابت ہوا کہ بن باپ ہی بیٹا پیدا ہوا تھا۔

دلیل سوم ..... پروردگار فرماتا ہے کہ میرے پر بن باپ بیٹا پیدا کرنا آسان ہے۔

دلیل چہارم ..... عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا خدا کی قادریت کا نشان ہے۔

دلیل پنجم ..... خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہونا میری طرف سے مریم علیہا السلام پر مہربانی ہے جیسا کہ "ورحمة منا" سے ظاہر ہے۔

دلیل ششم ..... پروردگار خود فرماتا ہے کہ ازل میں یوں ہی ہوتا تھا جیسا کہ "وکان امرأ مقضیا" سے ظاہر ہے۔

دلیل ہفتم ..... مریم علیہ السلام کے ذکر کے قبل یحییٰ کے تولد کا ذکر ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی

پیدا آتش بن باپ سے اس کی پیدا آتش کم نہیں کیونکہ بچی کے والد اور والدہ دونوں ناقابل اولاد تھے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو قابل تولید تھی مگر اس میں ہماری اجلائیہ لفظی ہے کہ بچی کی پیدا آتش کو ہم قدرت سے مانیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ ہونے میں کیا مشکل ہے۔

دلیل ہشتم..... سرسید صاحب مرحوم نے جو بحث عیسیٰ علیہ السلام پر یوسف کے بیٹا ہونے پر کی ہے محض فضول اور لغو ہے کیونکہ مریم علیہ السلام آزاد شدہ تھیں۔ جس کو ہمارے ملک میں آج کل تارک بولا جاتا ہے۔ جو زمانہ حال میں بعض خاندانوں ہند اور مسلمانوں میں لڑکیوں کا تارک بنانا رواج موجود ہے۔ گو یا یہ رواج اس کے قریب قریب ہے اور یہودیوں میں اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ پس جب مریم علیہا السلام کو والدین نے آزاد کر دیا تو پھر وہ والدین مریم علیہا السلام یوسف کے ساتھ کیونکر خطبہ کر سکتے تھے حالانکہ یہودیوں میں رواج تھا کہ جو آزاد کیا جاتا تھا۔ پھر وہ تمام عمر بیت المقدس میں ہی اپنی عمر عبادت میں بسر کرتا تھا۔ تاہم وہ شادی کر کے صاحب اولاد ہو۔ اسی واسطے تو مریم علیہا السلام کو بہتان لگائے گئے تھے کہ باوجود آزاد ہونے کے اس نے بیٹا بنا۔ برخلاف ان کے جو معتقد مریم علیہا السلام ہوئے۔ انہوں نے یہ غضب کیا کہ بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے کیونکہ ان کا کوئی باپ نہ تھا اور بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا بیٹھے کیونکہ جب خدا کا بیٹا ہوا محاذ اللہ تو خدا کے ملک کا وارث ہوا۔ پس اس اعتبار سے وہ خدا کہنے لگے اور بعض نصاریٰ عین خدا بنا بیٹھے کیونکہ جب خدا محاذ اللہ مریم علیہا السلام کا خادم ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہوا تو ہر ایک خدا ہی کا حصہ دار ہوا۔ لہذا ہاشمہ انہیں مذکورہ بالا اعتقاد کے لئے پروردگار نے تمام ائمہ مریم علیہا السلام بیان کیا تھا۔

نمبر ۲..... عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ سولی پر چڑھائے گئے۔ لیکن اپنی طبیعت سے مرے۔ یہ اعتقاد سید مرحوم کا اکل مطلق ہے۔ ناظرین اس بحث کی فرض مجہم کر یہود میں ملاحظہ فرمائیں ہم نے اعتقاد مذکورہ کی اپنے مقام پر پوری تردید کر دی ہے اس مقام پر اتنا ہم ناظرین کے ذہن نہیں کرانا چاہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام سولی دے جاتے تو پھر طبیعت سے مرے تو پروردگار: "وماصلوہ و ماقتلوہ" نہ فرماتا۔ سید مرحوم نے "وماصلوہ" پر یہ تاویل فرمائی ہے کہ بعض یہود اہل کفر کہتے تھے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام سنگسار کر کے پھر سولی دے دیے گئے پھر قتل کئے گئے۔ لہذا ان دونوں اعتقادوں کی تردید کے لئے خدا تعالیٰ نے "وماصلوہ و ماقتلوہ" فرمایا۔ لیکن خوب ہے سید مرحوم کی تاویل پر کہ لٹی اڑنے شکل الوجوہ ہوتی ہے نہ لٹی

بعض اشیاء خدا کے کلام سے تو یہ مفہوم ہے کہ نہ سولی دینے گئے اور نہ قتل کئے گئے۔ معاذ اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام سولی دیئے جاتے بزم سید مرحوم صاحب تو کیا خدا تعالیٰ یہ عبادت نہ بنا سکتے تھے کہ عیسیٰ سولی دیا گیا لیکن سولی پر فوت نہیں ہوا اور اپنی طبیعت سے مر گیا اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ حالانکہ یہ اعتقاد کسی یہود اور نصاریٰ کا بھی نہیں اور نہ کسی انجیل میں لکھا ہے اور نہ قرآن شریف میں عیسیٰ کی قبر کا کہیں پتہ لگایا۔ لہذا یہ اعتقاد سید مرحوم کا گویا بہارِ دانش ہے۔

معجزات ..... عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بلکہ تمام پیغمبروں کے صحیح نہیں۔ سید مرحوم نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر آیات مفصلہ ذیل پر بحث کی ہے۔ آیت ”آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات“ آیت ہذا پر بحث کرتے کرتے آخر سید مرحوم نے یہ نتیجہ نکالا کہ لفظ آیات یا بیانات دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ کیونکہ آیات موصوف ہے اور بیانات صفت پر جہاں لفظ صفت بیانات کا ہے وہاں موصوف اس کا مقدر ہے۔ لفظ آیت کا معنی لغوی نشان آپ نے ثابت کیا ہے۔ ان دونوں امر مذکورہ بالا میں ہم کو بھی کوئی انکار نہیں مگر انکار اس بات میں ہے کہ سید مرحوم نے آیت یا بیانات کا معنی صرف احکام ہی لئے ہیں۔ حالانکہ لفظ آیت کا معنی قرآن مجید میں تین ثابت ہوتے ہیں۔ اول حکم، دوم نشان، سوم معجزہ۔ لیکن سید مرحوم نے چونکہ کل معجزات کی لفظی ہی ہے لہذا انہوں نے دو معنی لفظ آیت کے طرف توجہ ہی نہیں فرمائی ہے۔ نہ تو لغوی معنی لفظ آیت کا لیا اور نہ لفظ آیت کا معنی معجزہ ثابت کیا۔ پس ہم پہلے بیان کرنے اپنے ثبوت کے سر سید مرحوم کی عبارت کو ناظرین کے لئے لکھتے ہیں۔

عبارت سر سید صاحب۔ پس جہاں قرآن شریف میں اس لفظ کے معنی آیت یا آیات یا بیانات یا آیات بیانات کا استعمال خدا کی جانب سے ہوا ہے۔ اس سے ہمیشہ وہ احکام یا نصائح اور مواضع مراد ہیں جو خدا تعالیٰ نے بذریعہ اپنے کلام یا وحی کے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں۔ آخر سید مرحوم لکھتے ہیں کہ ہم آیات بیانات سے جہاں کہ وہ خدا کی طرف سے بولا گیا ہے وہ چیز مراد نہیں لیتے جس کو لوگ معجزہ یا معجزات کہتے ہیں۔

ہم اس بحث کو دو قسم پر بیان کرتے ہیں۔

قسم اول ..... تحقیق معنی لفظ آیت، قسم دوم ثبوت وجود معجزات۔

قسم اول ..... ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ لفظ آیت کا معنی قرآن شریف سے تین ثابت ہوتے ہیں کہ اول حکم، دوم نشان، سوم معجزہ۔ لفظ آیت حکم دیکھو: ”یسأل الكتاب لم تکفرون بآیات

اللہ وانتم تشہدون (آل عمران: ۷۰) ”اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو ساتھ حکماں اللہ کے اور حالانکہ تم گواہ ہو۔“ یہ آیت جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے سورت آل عمران رکوع ۷ کی ہے۔ اس ما قبل عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت جھگڑا ہو چکا تھا اور یہودی اور نصاریٰ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی مذہب ہیں حالانکہ یہودی عزیز کو خدا کا بیٹا اور نصاریٰ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور بعض خدا بعض تثلیث کو مانتے تھے۔ لہذا پروردگار نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا ”اہل الكتاب لم تکفرون بايات الله وانتم تشهدون“ یعنی دونوں فریق اہل کتاب یہودی اور نصاریٰ توریت اور انجیل میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر خدا کے ساتھ شریک لاتے ہیں اور قرآن شریف کو منزل من اللہ اور محمد ﷺ کو رسول نہیں سمجھتے۔ پس ناظرین اس میں سوائے حکم کے دوسرا نہیں بن سکتا۔ دیکھو۔ ایضا سورت بلد: ”ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة واولئك اصحاب الميمنة والذين كفروا بايتنا هم اصحاب المشيمة (البلد: ۱۷، ۱۸، ۱۹)“ ”آیت ہذا سے بھی صاف ثابت ہے کہ لفظ آیت بمعنی حکم ہے۔ کیونکہ ایمان لانا اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنا اور ایک دوسرے پر رحم کرنا جو کہ پہلی آیت میں گزرا ہے بلاشبہ یہ احکام ہیں۔ پھر مابعد کی آیت میں جو کہ ”والذين كفروا بايتنا هم اصحاب المشيمة“ ”آیت ہذا میں جو لفظ آیت کا ہے ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ لفظ آیت معنی حکم نہ ہو۔“

ایضاً ”هو الذي بعث في الامم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته (الجمعه: ۲)“ ”آیت ہذا میں جو لفظ آیت کا معنی حکم ہے کیونکہ ”یتلوا علیہم“ سے صاف ظاہر ہے کہ لفظ آیت کا معنی حکم ہے نہ نشان اور نہ معجزہ۔“

دوم..... لفظ آیت بمعنی نشان دیکھو: ”وتصريف الرياح ولسحاب المسخر بين السماء الارض لا ينت لقوم يعقلون (البقره: ۱۶۴)“ ”آیت ہذا میں پروردگار نے اپنے دلائل الوہیت کے وہ بیان کئے ہیں جو کہ طاقت البشریت سے باہر ہیں۔ یعنی ہوا کا چلانا اور بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان بغیر واسطہ کے ہائل کرنا بلاشبہ عقلمندوں کے واسطے الوہیت کے نشان ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آیت مذکورہ میں لفظ آیت بمعنی نشان نہیں۔“ ایضاً دیکھو ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مبادكا وهدى للعالمين. فيہ آیت بینات مقام ابراہیم (آل عمران: ۹۶، ۹۷)“

ناظرین غور کریں کہ آیت ہذا میں دو لفظ جتنے بیت اور مقام ایسے صریح ہیں جس سے ذرا بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دو الفاظ سے خانہ کعبہ کی عمارت و دیواریں مراد ہیں۔ پس جب یہ ثابت ہوا کہ آیت مذکورہ میں خانہ کعبہ کا بیان ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے عبادت کے لئے خدا کے حکم سے تیار کیا تھا۔ پھر بلاشبہ لفظ آیات میںات کا معنی نشان ہوا کسی وجہ سے حکم کا معنی نہیں بن سکتا۔ بلکہ نشان سے حجر اسود جو کہ کعبہ شرقی و شمالی کو نہ منس لگا ہے اور حاجی لوگ اس کو تبر بوسہ بھی لیا کرتے ہیں، مراد ہے۔ سید مرحوم صاحب نے بھی اس نشان کو اپنی تفسیر نقشہ کعبۃ اللہ میں لکھا ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام عام لوگوں کے نزدیک وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی دیوار چنی تھی۔ پس سر سید مرحوم کی مذکورہ بالا عبارت میری تحقیق کو ثابت کرتی ہے کہ لفظ آیت مذکورہ موقعہ پر بمعنی نشان ہے نہ حکم۔

ایضاً ”الم تلك ايات الكتاب الحكيم ايضاً۔ الر تلك ايت الكتب وقران مبین (سورۃ الحجرات: ۱)“ ﴿یہ بمعنی نشانیاں ہیں۔ کتاب کی یعنی قرآن بیان کرنے والے کی۔﴾ پس ثابت ہوا کہ پروردگار نے الر کو نشان فرمایا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ عبارت مذکورہ قرآن میں لفظ آیت بمعنی نشان نہیں فرمایا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس مقام لفظ آیت کا معنی حکم نکلتا ہے۔

سوم..... لفظ آیت بمعنی معجزہ دیکھو پروردگار۔ قول فرعون کا بیان کرتا ہے۔ ”قال ان كنت جئت بايت فات بها ان كنت من الصادقين (الاعراف: ۱۰۶)“ ﴿کہا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہیں تو آیا ساتھ نشانی یعنی معجزہ کے پس لے آؤ اس کو اگر ہیں تو چوں سے۔﴾ پس موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال معجزہ پر اپنا عصا ڈال دیا پھر وہ عصا اڑ دھا بن گیا۔ پھر ہاتھ اپنا نکالا پھر وہ سفید تخب خیز ہو گیا واسطہ دیکھنے والوں کے دیکھو: ”فالفی عصاه فاذا هی ثعبان مبین۔ و نزع یدہ فاذا هی بیضاء للنظرین (الاعراف: ۱۰۸، ۱۰۷)“

پہلی آیت سے صاف ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے معجزہ طلب کیا اور دوسری آیت سے صاف ثابت ہے کہ جو فرعون نے معجزہ طلب کیا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے پورا کیا۔ پھر بعد اس واقعہ کے پروردگار نے وہ بیان شروع فرمایا ہے جو فرعون نے معجزہ دیکھ کر کہا: ”قال الملاء من قوم فرعون ان هذا الساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تاملون (الاعراف: ۱۰۹، ۱۱۰)“ ﴿کہا فرعون نے قوم کے سرداروں سے تحقیق یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے بڑا دانا چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو زمین تمہاری سے۔ پس کیا حکم

کرتے ہوئے مجھ کو۔ پھر فرعون کے سرداروں کا خدا تعالیٰ جواب بیان کرتا ہے جو کہ انہوں  
فرعون کے مشورہ پر دیا تھا: ”قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك  
بكل ساحر عليم (الاعراف: ۱۱۱، ۱۱۲)“

﴿کہا فرعون کے سرداروں نے اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور سچے شہروں  
کے اکٹھا کرنے والے لے جئے جو کیدار آویں حیرے پاس ہر جادوگر دانا کو، آخر جادوگر بلا لئے گئے﴾  
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاٹھی اور رسیوں کے سانپ بنائے مگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا  
اڑوہا بن کر ان کو کھا گیا۔ جب ساحروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ ساتھ رب العالمین کے جو  
رب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ہے۔ بلاشبہ یہ معجزہ مذکورہ بالا میں جو لفظ آیت آیا ہے  
۔ اس کے معنی اس مقام پر حکم نہیں ہو سکتا۔ صرف نشان بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اعلانیہ طرز مباحثہ سے  
معجزہ ہی ثابت ہوتا ہے۔

ایضاً: ”وماتك بيمينك ياموسى۔ قال هي عصاى اتوكوا عليها و  
اهش بها على غنمى ولى فيها مارب اخرى۔ قال القها ياموسى فاذا هي حية  
تسغى۔ قال خذها ولا تخف۔ سنعيدها سيرتها الاولى۔ واضم يدك الى  
جناحك تخرج بيضاء من غير سوء اية اخرى (طہ: ۱۹ تا ۲۲)“

ارباب بصیرت پر مخفی نہ رہے کہ آیات مذکورہ بالا سورۃ مریم پہلی آیت جو کہ سورۃ  
اعراف کی جس میں معجزہ لفظ آیت کا معنی نکالا تھا۔ اس کی مصدقہ ہیں کہ لفظ آیت بمعنی معجزہ ہے  
اور آیات ہذا سے آٹھ امر ثابت ہوتے ہیں۔ اول! عصا موسیٰ علیہ السلام کا کٹڑی ثابت ہونا۔  
دوم! اس کا اڑوہا بننا۔ سوم! پھر اصلی حالت پر عود کرنا۔ چہارم! اس سے موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا۔  
پنجم! پروردگار کا موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینا۔ ششم! دست مبارک موسیٰ علیہ السلام کا سفید تعجب خیز  
ہونا۔ ہفتم! او معجزہ کا موسیٰ علیہ السلام کو دیا جانا۔ ہشتم! لفظ آیات کا معجزہ پر اطلاق ہونا خدا کی طرف  
سے ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ لفظ آیت اس مقام پر معجزہ پر خدا کی طرف سے اطلاق نہیں ہوتا۔ کون  
کہہ سکتا ہے کہ لفظ آیت سے حکم یا نشان کا معنی نکالا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ سید مرحوم کو دھوکہ ہوا جو  
انہوں نے لفظ آیت کا معنی صرف حکم پر ہی عمل کیا ہے نہیں، معجزات و معجزوں کے قرآن شریف  
سے ثابت ہیں۔ چنانچہ یہی ثبوت مذکورہ جو کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا ہے مگر علماء اس کے ہم  
وجود معجزہ کا قرآن شریف سے کرتے ہیں۔ انشاء اللہ!



## قسم دوم ثبوت معجزہ

قرآن شریف سے معجزات کا وجود بلاشبہ ثابت ہے۔ اگرچہ ہم مذکورہ بالا آیت سے وجود معجزہ ثابت کر چکے ہیں۔ تاہم اسی آیت میں پھر بحث کرتے ہیں۔ دیکھو: ”وما تالك بيمينك يا موسى“ اور کیا ہے یہ بیچ ہاتھ تیرے کے اے موسیٰ علیہ السلام؟ یہ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ وہ تو عالم الغیب ہے۔ اس لئے کہ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اڑو دھا بانا تھا اور انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ سانپ یا اڑو دھا سے ڈرتا ہے۔ سو اس لئے عالم الغیب کو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن نشین کرنا منظور تھا کہ یہ لکڑی تمہاری ہے۔ پھر ہم اسی بحث کو لکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو جواب دیا کہ یہ عصا ہے۔ جیسا کہ پروردگار موسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فرماتا ہے۔ دیکھو: ”قال هي عصاى“ آخر پروردگار نے فرمایا کہ ڈال اس کو: ”قال القها يا موسى“ پھر پروردگار خود فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا۔ پھر ناگہاں عصا موسیٰ علیہ السلام اڑو دھا دوڑنے والا دیکھو آیت ہذا: ”فالقها فاذا هى حية تسفح“ ناظرین اب کون کہہ سکتا ہے کہ عصا لکڑی نہیں ہوتی اور کون کہہ سکتا ہے کہ جیہ کے معنی سانپ نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تسع سے مراد حرکت کرنا یا دوڑنا امر نہیں۔ پھر معجزات سے انکار کرنا تو علانیہ قرآن شریف کا انکار کرنا ہوا۔ اب ہم یہ بیضا کی تعریف نہیں کرتے جو کہ مابعد مضمون مذکورہ بالا کے ہے۔ ناظرین خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب ہم ایک اور نظیر ثبوت معجزات پیش کرتے ہیں: ”واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق۔ انذربا قربانا فتقبل من احد هما ولم يتقبل من الاخر (المائدہ: ۶۷)“

ارباب بصیرت پر مخفی نہ رہے کہ آیت ہذا سے چار امر ثابت ہوئے ہیں۔

امر اول ..... آنحضرت ﷺ کو حکم ہوا کہ قصہ دونوں بیٹوں آدم کا مخالفین کو سنا۔

امر دوم ..... یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ قصہ دونوں بیٹوں کا تھا۔

امر سوم ..... یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے قربانی دی۔

امر چہارم ..... یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک کی قربانی جناب الہی میں قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ نتیجہ بحث ہذا کا یہ ہے کہ جس کی قربانی قبول ہوئی۔ اس کا وہ قبول ہونا ہی معجزہ ہے۔ اول یہ قول منجانب اللہ ہے۔ پس اس آیت ہذا سے یہ بھی ثابت ہوا کہ معجزہ کا رواج آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہے۔ لہذا آنحضرت ﷺ کو مخالفین اہل کتاب اور کفار اسی قدمہ رواج

مشہورہ کی وجہ سے معجزہ طلب کرتے تھے۔ چنانچہ پروردگار ان کا قول بیان فرماتا ہے: ”قلوا لواءتسی مثل مساوتسی موسیٰ (القصص: ۳۸) ﴿﴾ کہا انہوں نے یعنی جانفوں کیوں نہیں دیا گیا یہ پیغمبر تھے رسول اللہ ﷺ مثل اس کے جو دیا گیا موسیٰ تھے معجزہ ﴿﴾ اب قابل غور یہ بات ہے کہ انہوں نے معجزہ رسول اللہ ﷺ سے طلب کیا۔ اگر معجزہ پیغمبروں کا قدیمی فعل نہ ہوتا تو وہ آنحضرت ﷺ کیوں طلب کرتے۔ نہیں ضرور رواج قدیم تھا۔ دیکھو ما قبل کی آیت کا جواب: ”اولم یکفروا بما لاونی موسیٰ من قبل (ایضاً)“ ﴿﴾ کیا نہ کفر کرتے تھے ساتھ اس چیز کے کہ دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام تھے معجزہ پہلے اس سے ﴿﴾ مابعد اس کے پروردگار پہلی آیت کی تفسیر کرتا ہے۔ ان کا قول بیان کر کے: ”قالوا اسحران تظارہر (ایضاً)“ ﴿﴾ کہتے تھے یہ دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کا مددگار ﴿﴾ یعنی عصاء موسیٰ وید موسیٰ اس کے بعد پروردگار ان کا قول بیان فرماتا ہے جو انہوں نے موسیٰ کے دو معجزے دیکھ کر کہا تھا: ”وقالوا اننا بكل کفرون (ایضاً)“ ﴿﴾ اور کہتے تھے ہم ساتھ ایک کے یعنی معجزہ موسیٰ کے کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے۔ ﴿﴾

ناظرین! یہاں تک آیات مذکورہ بالا میں بیان ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھ کر انکار کر دیا تھا۔ اگر معجزہ کا وجود قدیم سے نہ ہوتا تو نہ وہ رسول اللہ ﷺ سے معجزہ طلب کرتے اور نہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا جو کہ تمثیلاً بیان ہوا ہے، پروردگار بیان فرماتا۔ اب یہ امر بحث طلب ہے کہ پہلی آیت میں جانفوں کا آنحضرت ﷺ پر معجزہ دکھانے کا سوال تھا اور معجزہ قدیم سے پیغمبروں کا شیوہ تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے سوال کو پورا کیا۔ بلاشبہ آنحضرت نے بموجب حکم باری تعالیٰ ان کے سوال کو جتنے معجزہ کا دکھانا دکھلایا۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ بلاشبہ ای جتنے ان پڑھ تھے۔ اس زمانہ میں شاعروں کا زور تھا۔ چونکہ ہر زمانہ میں جو پیغمبر ہوتا رہا۔ موافق رواج قوم یا یوں کہو کہ جو اس زمانہ میں لوگ کسی ایک امر کے مدعی ہوتے تھے اور اپنے دعوے میں خدا کے ساتھ شکر کرتے تھے۔ ان کی تردید کے لئے پیغمبر کو پروردگار ان سے بڑھ کر فضیلت بخشتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے وقت ساحروں کا زور تھا۔ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطاء کئے۔ جتنے عصاء وید بیضا۔ جن سے انہوں نے ساحروں کو مغلوب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے یہ خواص بخشا کہ سخت بیماروں کو اچھا کرتے تھے۔ بے علاج اوویس۔ بلکہ مرزوں کو زندہ کرتے تھے۔ علی ہذا زمانہ آنحضرت ﷺ میں شاعروں کا زور تھا۔

ان کے عاجز کرنے کے لئے ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی کہ بغیر پڑھے ایسا کلام سناوے جس سے شاعر عاجز ہوں اور شرک و کفر سے نجات پائیں۔ اگرچہ دوسرے مجرے بھی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بخشے تھے۔ جیسا کہ شیخ القمر سے ظاہر ہے۔ تاہم شاعروں کا عاجز کرنا اہم مجرہ تھا۔ ناظرین بھول نہ جاویں مخالفوں کے مجرہ طلب کرنے پر آنحضرت ﷺ نے قرآن بتانے کا مجرہ مخالفین کو حکم باری تعالیٰ پیش کیا۔ دیکھو: ”قل فاتوا الكتاب من عند الله هو اهدى اتباعه ان كنت صادقين (القصص: ۷۹)“ ﴿کہہ دے اے محمد مخالفوں کو پس لاؤ تم جتنے یہود و نصاریٰ سے ایک کتاب اللہ کی طرف سے جو کہ وہ کتاب بہت ہدایت کرنے والی ہو یعنی راہ مستقیم کی ان دونوں سے یعنی توریت و انجیل سے﴾

یہ کیوں کہا کہ قرآن شریف و انجیل سے اہدئی ہے اور وہ دونوں کتابیں بوجہ تحریف یہود و نصاریٰ اہدئی نہ رہی تھیں۔ بیرونی کروں میں اس کی جتنی مقولہ آنحضرت ﷺ اگر ہوتی سچ نبی اپنے دعوے شاعری میں۔ داؤد کو پروردگار نے تین مجرے دیئے۔ ایک پہاڑوں کا داؤد کے کہنے پر تسبیح کرنا۔ دوم جانوروں کا ان کے کہنے پر تسبیح پڑھنا۔ سوم لوہا کا داؤد کے ہاتھ میں مثل موم ہونا۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کا زرہ بنانا۔ دیکھو: ”ولقد آتينا داؤد منا فضلا يا جبال اوبى معه والطير والناله الحديد۔ ان عمل سابقات و قدر فى السر دوا عملوا صالحا (سبأ: ۱۰، ۱۱)“ ﴿اور البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگی جتنے کہا اللہ تعالیٰ نے اے پہاڑ اور جانوروں کو تسبیح کرو سنا تم اس کے جتنے داؤد کے۔ اور نرم کیا ہم نے واسطے اس کے جتنے داؤد کے ہر طرح کا لوہا۔ اس لئے کہ بنائیں زرہ ہیں پوری۔ اور امر کیا ہم نے داؤد کو اندازہ رکھ کر ایک دوسری کنڈی کے پرونے میں اور عمل کرا جتھے﴾ ایضاً۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تین مجرے دیئے گئے۔

اول! ہوا جو بموجب حکم سلیمان علیہ السلام کے ان کے تخت کو جہاں چاہیں لے جاتی تھی۔ دوم! تانبے کا پانی ہو جانا حکم سلیمان علیہ السلام سے۔ سوم! جنوں کا مطیع ہونا۔ دیکھو: ”ولسلیمان الريح غدوها شهر ورواها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزرغ منهم من امرنا نذقه من عذاب السعير (سبأ: ۱۲)“ ﴿اور واسطے سلیمان کے تالچ کیا ہوا کومج کی سیر اس کی ایک مہینہ تھا اور شام کی سیر اس کی ایک مہینہ تھا اور بہا یا ہم نے واسطے اسکے جتنے سلیمان کے چشمہ گلے ہوئے

تانبے کا اور تالچ کیا جنوں میں سے واسطے سلیمان کے اور جو کوئی بے فرمانی کرے ان میں سے جتنے جنوں سے سلیمان کے حکم ہمارے سے چکھادیں گے ہم اس کو جتنے بے فرمان کو عذاب دوزخ سے اور سلیمان نے فرمان جنوں کو خود ہی عذاب فرما دیا کرتا تھا۔ ﴿

الغرض وجود معجزات کا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جو لوگ ان کے منکر ہیں۔ حقیقت میں ان کو علم قرآن ہرگز نہیں۔ اعتقاد نمبر ۴ میں سرسید مرحوم کے نزدیک فرشتوں کا کوئی وجود نہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں بحث فرشتوں میں آخر یہ اعتقاد اپنا ظاہر کیا ہے ان سب باتوں سے یعنی مذکورہ بالا بحث سے صاف پایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے نام یہودیوں کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف قواے کی تعبیر کرنے کو انہوں نے رکھ لئے تھے۔ مگر یہ اعتقاد قرآن کے رو سے ہرگز صحیح نہیں۔ خاکسار نہیں بلکہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ بلکہ فرشتوں کے انکار سے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو: ”لیس البران تولو ادجو حکم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن امن بالله والیوم الاخر والملئکة والکتاب والنبین (البقرہ: ۱۷۷)“

آیت ہذا سے چار امر ثابت ہوتے ہیں۔ امر اول نماز۔ صرف نماز نجات کے لئے کافی نہیں تا وقتیکہ مفصلہ ذیل اشیاء پر ایمان نہ لاویں وہ یہ ہیں۔ اول خدا کو وحدہ لا شریک سمجھیں۔ دوم قیامت۔ سوم فرشتے۔ چہارم نبی۔ پنجم آسمانی کتابیں۔ امر دوم آیت مذکورہ سے خدا تعالیٰ نے فرشتوں کا وجود ثابت کیا ہے۔ معاذ اللہ اگر فرشتوں کا وجود نہ ہوتا جیسا کہ سرسید مرحوم صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ فرماتا جو کہ ایمان لانا آخر فرشتوں پر آیت مذکورہ میں گزرا ہے۔ امر سوم آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں میں سے بھی بعض ایسے تھے جو کہ فرشتوں سے انکار کرتے تھے۔ لہذا پروردگار نے آیت مذکورہ میں ایمان لانا فرشتوں پر فرمایا۔ امر چہارم۔ مقدس کتابیں توریت وانجیل جو کہ زمانہ حال میں بھی موجود ہیں ان میں بھی فرشتوں کا وجود ثابت ہے۔ خلاصہ بحث ہذا کا یہ ہوا کہ وجود فرشتوں کا کلام الہی سے ثابت ہے۔ بلکہ قرآن شریف میں فرشتوں کا صاحب پروں کا ثابت ہے۔ دیکھو: ”الحمد لله فاطر السموت والارض جاعل الملئکة رسلا اولی اجنحة مثنی وثلاث وربیع۔ یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شی قدیر (فاطر: ۱)“

مذکورہ آیت سے ایضا پانچ امر ثابت ہوتے ہیں اول فرشتوں کا وجود۔ دوم ایضاً کے لئے فرشتوں کا اپنی ہونا۔ سوم اور فرشتوں کا صاحب پر ہونا۔ تین تین چار چار۔ چہارم اس

سے بھی زیادہ۔ حدیثوں میں جبرائیل کے چھ سو پر بیان ہوئے ہیں۔ پنجم! سید مرحوم کی طرح پہلے بھی لوگ فرشتوں کے انکاری تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ”ان اللہ علی کل شیء قدیر“ فرمایا یہ ”جو امع الکم“ اسی مقام پر آیا کرتا ہے۔ جہاں یہ گمان مخالف کر سکتا ہے کہ یہ کام کیوں اور کس طرح ہو سکتا ہے۔ الغرض اختلافات قدیمہ سے فرشتوں کا اختلاف بھی تھا۔ بلکہ اہم امر نزول قرآن شریف کا ساتھ مسئلہ اختلافی ثبوت کرنا تھا۔ مسئلہ اذل لوگ توحید پر قائم نہ رہے تھے۔ جیسا کہ کافر بت پرست تھے۔ یہودی عزیز کو خدا کا بیٹا جانتے تھے اور نصاریٰ بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور بعض تثلیث کو مانتے تھے۔

مسئلہ دوم..... مختلف فیہ بعض فرشتوں سے سید مرحوم کی طرح انکار کرتے تھے۔ اور بعض فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں جانتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا جنوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ناطق کرتا ہے۔ معاذ اللہ چنانچہ یہی اعتقاد سورت الصفات رکوع ۴ میں اسی باطل خیال پر خدا تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو فرماتا ہے۔ دیکھو: ”فاستفتهم الربک البنات ولهم البنون۔ ام خلقنا الملئکة انا شاوہم شاہدون (الصافات: ۱۵۰، ۱۳۹) لارخ۔ ایضاً وجعلو ابینہ و بین الجنة نسباً (الصافات: ۱۵۸)“

مسئلہ سوم..... مختلف فیہ آسمانی کتابوں پر اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ یہود انجیل اور قرآن کے منکر ہیں۔

مسئلہ چہارم..... مختلف فیہ پیغمبروں کی رسالت سے بھی اکثر انکار کرتے تھے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام و محمد ﷺ سے یہودی و نصاریٰ اور مشرک انکاری ہیں۔

مسئلہ پنجم..... مختلف فیہ بعض لوگ دہریہ زمانہ قدیم میں بھی موجود تھے جو کہ تدبیر کے قائل اور تقدیر کے منکر ہیں۔ چنانچہ آج کل یہی اسی اعتقاد کے دہریہ کم و بیش موجود ہیں۔ فرعون کا بھی یہی اعتقاد تھا: ”فما بال القرون الا ولی (طہ: ۵۱) قال فمن ربکما یا موسیٰ (طہ: ۴۹)“

مسئلہ ششم..... مختلف فیہ قیامت تھا بعض یہود اعتقاد رکھتے تھے کہ عذاب قیامت چند روز ہوگا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کا قول بیان فرماتا ہے: ”وقالو الن تمسنا النار الا یا ما معدودة (البقرہ: ۸۰)“ اور بعض یہود اعتقاد رکھتے تھے کہ قیامت نہ ہوگی: ”یا ایہا الذین امنوا لاتتولوا قوموا غضب اللہ علیہم قدینسوا من الاخرة کما ینس الکفار من اصحاب القبور (سورہ متحنہ: ۱۳)“

مسئلہ ہلیم..... مختلف فیہ کفار بعض تو بے شکر کے مکر تھے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا آیت سے ثابت ہے اور بعض کفار حضور ﷺ کو استہزہ یا تعجباً کہا کرتے تھے کہ جب ہو جاویں گے ہم ہڈیاں گلی ہوئی کیا ہم پھر جاویں گے پہلی حالت میں۔ دیکھو یہی قول ان کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے:

”يقولون ء انالمرءودون في الحافره اذا كنا عظاما مخرجة (النازعات: ۱۱، ۱۰)“

اور فرعون کا قصہ بھی تمثیلاً انہیں کو سنا تا ہے کہ فرعون ہی تمہاری طرح اعتقاد رکھتا تھا۔ آخر اس اعتقاد کے بدلے فرق ہوا۔ تاخرین دیکھو سورت نازعات میں۔ پس یہی وجہ کمال ہے کہ ان سات مسئلہ مختلف فیہ کے یقین کرنے کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں میں ان کا جاننا اور یقین کرنا فرض ہے اور جو کوئی نہ جانے یا یقین نہ کرے اس کو بھی پہلے یہی پڑھاتے ہیں۔ اگر وہ پڑھ لے اور دل سے یقین بھی کر لے تو اسی کا نام مسلمان ہے اور وہ ایمان مفصل عربی عبارت میں یہ ہے:

امنن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم و الآخر و القدر خیره و شره من اللہ تعالیٰ و البعث بعد الموت“

پس ترجمہ بحث ہذا کا یہ ہوا کہ جو ملائکہ کا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ گو سید مرحوم نے مخالفوں کی تردید کی ہوگی تاہم مرحوم سید کا یہ اعتقاد صحیح نہیں۔

اعتقاد نمبر ۵..... سید مرحوم نے اپنی تفسیر میں انہیں اور جنوں سے بھی انکار ظاہر کیا ہے۔ مگر یہ اعتقاد بھی قرآن شریف۔ ہسون سے صحیح نہیں۔ بلکہ قرآن شریف میں جنوں کا وجود ثابت ہے اور جن قرآن پڑھتے رہے اور حضرت ﷺ سے سنتے رہے۔ دیکھو: ”و اذ نصرنا لیک نفرامن الجن یسمعون القران فلما حضروه قالوا انصتو مغلما قضی و لوالی قومهم منذرین (احقاف: ۲۹)“ اور جس وقت کہ پھر لائے ہم طرف تیری جماعت جنوں میں سے سنتے تھے قرآن میں جب حاضر ہوئے اس کو یعنی حضرت کہنے لگے؟ آپس میں چپ رہو۔ جب تمام ہوا پڑھنا پھر گئے طرف قوم اپنی کی ڈراتے ہوئے کہ ایسا پروردگار نے سورت النمل میں ایک جن کا نام بھی فرمایا ہے جو کہ سلیمان علیہ السلام کے مصاحبوں میں تھا۔ دیکھو: ”قال عفريت من الجن اننا انیک به قبل ان تقوم من مقامک و انسی علیہ لقوی امین (النمل: ۳۹)“ کہہ ایک دیو نے جنوں میں سے میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کو یعنی تخت بلیس کو پہلے اس سے کہ کھڑے ہو تم جگہ اپنی سے اور بے شک اوپر اس کے یعنی تخت لانے کے البتہ قوی امین ہوں یعنی کوئی خیانت نہ کروں گا۔

پس ثابت ہوا کہ وجود جنوں کا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر کوئی معترض یہ اعتراض کرے کہ وجود فرشتوں اور جنوں کا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ عالم دنیا میں ایسی بہت سی اشیاء ہیں جن کا وجود بھی محسوس ہا نظر نہیں ہوتا۔ مثلاً ہوا جب تیز ہوتی ہے تو درخت توڑ دیتی ہے۔ مکان گر ادیتی ہے۔ مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جسم ہوا کا اتنا لمبا ہے یا اتنا چوڑا یا سرخ یا سیاہ رنگ ہوتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ ہوا کا فصل تو محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کا فصل یا وجود کا مس کرنا وغیرہ کا ہی خاصہ ہے۔ وہ ان کے وجود کو دیکھتے ہیں اور ان کی آواز سنتے ہیں۔ لہذا منزلہ کتابوں میں فرشتوں اور جنوں کا جسم اور فصل بلکہ نام موجود ہے۔ جیسا کہ ہم قرآن شریف سے ثابت کر چکے ہیں۔ اصل میں ایسے سوالات کرنے محض فضول ہیں۔ انسانی عقل محدود ہے۔ فصل اس کا سلسلہ تمام قانون قدرت کو کیونکر سمجھ سکتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اپنے بدن کی بھی پوری کیفیت معلوم نہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے اعضاء لڑکے یا لڑکیاں ہوں گی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ روح جو بول رہی ہے۔ اس کی کیا صورت یا کیا رنگ ہے۔ پس جب اپنے بدن کی کیفیت ہی معلوم نہ ہوئی تو فرشتوں اور جنوں کی کیفیت کیونکر حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے سمجھنے کا علم دے دے وہ بے شک سمجھ سکتے ہیں۔ دور نہ جائیے انسان ہا وجود دعویٰ محض بعض باتوں میں حیوان سے بھی بیوقوف ہے۔ دیکھو حیوان اپنے مادہ حائلہ کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے نزدیک نہیں کرتا۔ مگر انسان کو یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ پس ثابت ہوا کہ فرشتوں اور جنوں کا دیکھنا وغیرہ کا خاصہ ہے۔ چونکہ اللہ جس بھی فرقہ جنوں میں سے ہے لہذا اس کے ثبوت کے لئے علیحدہ دلیل پیش کرنی بہ فائدہ ہے۔

اعتقاد نمبر ۲..... سرسید مرحوم بہشت اور دوزخ سے بھی انکاری ہیں۔ وہ اپنی نگہ میں بھٹ کرتے کرتے ہوئے آخر میں یہ لکھتے ہیں۔ ”پس یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ دونوں ہا فصل مخلوق و موجود ہیں۔ قرآن سے ثابت نہیں۔“

یہ اعتقاد سرسید مرحوم کا قرآن کی رو سے محض غلط ہے۔ کیونکہ قرآن میں دونوں کا وجود خدا تعالیٰ ثابت کرتا ہے۔ دیکھو: ”ولمن خاف مقام ربہ جنتان۔ فبای الاء ربکما تکذبن۔ ذواتا انسان فیہما عینان تجربین فیہما من کل فلکھما تزوجان متکلمین علی فرش بطلانہما من استبرق۔ وجنا الجنین دان (الرحمن: ۶۶ تا ۷۰)“ اور واسطے

اس شخص کے ڈرتا ہے آگے پروردگار کے کھڑا ہونے سے دو بہشت ہیں۔ پس ساتھ کون سی نعمت پروردگار اپنے کے جھلاتے ہو۔ وہ نو بہشت شاخوں والے ہیں۔ بیچ ان دونوں کے جسٹے چلتے ہیں۔ بیچ ان دونوں کے ہر میوہ سے دو قسمیں ہیں۔ نکیہ کئے ہوئے اوپر فرشتوں کے کہ استزان کے تاننے کے ہیں۔ اور میوہ دونوں بہشت کے نزدیک ہیں۔ کچھ ایسا ثبوت وجود دوزخ ناظرین کو یاد رہے۔ پہلے لوگوں میں سے بھی ایسے تھے جو کہ سرسید مرحوم کی طرح دوزخ بہشت سے انکاری تھے۔ لہذا پروردگار نے ”فسبای الا۔ ربکما تکذبن“ بہشت کے منکروں کے لئے فرمایا اور دیکھیں دوزخ کے منکروں میں سے بڑا منکر اس زمانہ میں ولید بن مغیرہ تھا۔ کافروں نے مشورہ کر کے کہا کہ یہ محمد کہتا ہے کہ یہ قرآن خدا کی کلام ہے۔ تو سن اس کو پھر انصاف کر۔ کیا یہ خدا کی کلام ہے یا نہ پس جب حضرت نے سنایا تب ولید بن مغیرہ کہنے لگا۔ یہ جاوہ ہے نقل کیا جاتا ہے نہیں، یہ قرآن مگر قول آدمی کا یعنی خدا کا کلام نہیں۔ دیکھو خدا تعالیٰ بھی مذکورہ بالا قول بیان فرماتا ہے: ”فقال ان هذا الا سحر یوثر ان هذا قول البشر (المدثر: ۲۵، ۲۶)“ اس قول ولید بن مغیرہ کے جواب پر پروردگار نے یہ فرمایا ”ساصلیہ سقر“ پھر ولید بن مغیرہ نے سقر پر بھی استہزا کی۔ لہذا پروردگار نے فرمایا: ”وما ادراك ما سقر لا یبقی ولا تذرا لواحۃ للبشر۔ علیہا تسعة عشر (المدثر: ۲۷، ۲۹)“ ﴿پس کہا ولید ابن مغیرہ نے نہیں یہ قرآن مگر جادو قدیمہ نہیں۔ یہ قرآن مگر قول آدمی کا، جواب باری تعالیٰ شتابی داخل کروں گا اس کو بیٹنے ولید بن مغیرہ کو دوزخ میں ”پھر کہا اللہ تعالیٰ نے“ اور کہا جانے تو کیا دوزخ ”پھر اللہ تعالیٰ نے خود دوزخ کی تعریف بیان فرمائی نہیں باقی رکھتی اور نہیں چھوڑتی۔ ساژ دینے والی ہے چہرے کو۔ اوپر اس کے یعنی دوزخ کے انیس فرشتے ہیں۔ پھر ولید ابن مغیرہ نے انیس فرشتے پر بھی استہزاء کی کہ ہم تو بہت آدمی ہیں۔ انیس فرشتے ہماری طاقت کے آگے کیا کر سکتے ہیں۔ الغرض دور تک یہی جھگڑا دوزخ کا چلا جاتا ہے۔ مگر ہماری گفتگو اس میں تھی کہ سرسید مرحوم نے جو یہ کہا کہ وجود دوزخ اور بہشت کا قرآن شریف سے ثابت نہیں۔ یہ قول ان کا ہم نے قرآن شریف کے رو سے غلط ثابت کیا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ سرسید مرحوم نے منزل آخر کو نہیں دیکھا کیونکہ انہوں نے یہ تمام بحث پہلی ہی سپارہ میں ہی کی ہے۔ یا کہ دانستہ دیدہ انہوں نے انکار کیا ہے۔ بہر حال ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو بخشے کیونکہ اکثر تخریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر سید مرحوم نے اپنے وہم میں مخالفین کی تردید کے لئے بتائی ہے۔



اعتقاد دُبر ہے..... سید مرحوم کے نزدیک قرآن شریف کی سورتوں کے نام نہ تو خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں اور نہ رسول نے بلکہ علماء نے خود بنا لئے ہیں۔ مگر یہ اعتقاد سید مرحوم کا بھی صحیح نہیں۔ ہم اپنے دعوے کو آخر میں بیان کریں گے۔ پہلے ہم سید مرحوم کا اعتقاد لکھتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے۔ وہ عبارت سید مرحوم کی یہ ہے: ”الم یعنی سورت بقرہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جن کو خدا نے ان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات ان سورتوں کے نام ہیں۔ پھر لکھتے ہیں علماء اسلام نے رفع التماس کے لئے ان سورتوں کے نام کے ساتھ جن کے متحد نام تھے۔ یا جن میں حروف مقطعات زیادہ تھے۔ یا کسی سورت کے اہم مضمون پر زیادہ وضاحت سے اشارہ کرنے کی غرض سے اور نیز ان سورتوں کے لئے جو کسی نام سے موسوم نہ تھیں۔ اسے یہودی قاعدہ کے مطابق اسی سورت میں سے کوئی لفظ اس سورت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے منتخب کیا۔ جو رفتہ رفتہ بطور ان سورتوں کے نام کے مقصد ہونے لگے۔ مگر درحقیقت وہ الفاظ ہیں جو علماء نے ان سورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اختیار کر لئے ہیں۔“ پھر لکھتے ہیں ”الم“ جو اس سورت کا نام ہے (یعنی بقرہ کا) اس سورت کا نام مبتداء ہے اور ذلک مبتداء ثانی ہے اور الکتاب اس کی خبر ہے اور یہ مبتداء وغیر ل کر خبر ہیں۔ یعنی ”الم“ کا مسے ذلک الکتاب پر محمول ہے۔“

ناظرین! کو سید مرحوم کی عبارت سے ثابت ہو گیا ہوگا کہ ان کے نزدیک سورتوں کے نام علماء نے یہودیوں کی طرح اپنی طرف سے اختیار کئے ہیں اور سید مرحوم کے نزدیک ان سورتوں میں جن پر حروف مقطعات ”الم“ آیا ہے۔ وہی ”الم“ ان کا نام ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ”الم“ ان سورتوں کے نام نہیں۔ اس بحث میں سید مرحوم نے سات غلطیاں کی ہیں۔

غلطی اول..... حروف مقطعات کو سورت کا نام لکھا۔ حالانکہ مقطعات کا لفظی معنی خود دلالت کرتا ہے کہ سورت کے ساتھ ان کو ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے ان کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے۔ پس جب ”الم“ مقطعات ہوئے تو سورت کا اسم کیوں کر بن سکتے ہیں۔

غلطی دوم..... ”الم“ تین حروف ہیں۔ ہر ایک جدا حرف ہے اور ہر ایک علیحدہ اسم ہے۔ مثلاً الف ایک اسم ہے۔ لام ایک اسم ہے۔ میم ایک اسم ہے۔ پھر یہ تین اسم ہوئے۔ پھر تین اسموں کا ایک سمجھنا علانیہ غلط ہے۔

غلطی سوم..... تمام قرآن شریف میں اکتیس سورتیں ہیں۔ جن پر حروف مقطعات ”الم“ آئے ہیں۔ اگر ہم سید مرحوم کے لکھے پڑھی یقین کریں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ تو یہ مشکل ہے کہ مخالفین کہیں گے کہ قرآن اچھی عدا کی کلام ہے کہ اکتیس سورتوں کے نام ایک ہی رکھ دیا۔ کیا خدا تعالیٰ کو کوئی دوسرا نام رکھنا بھی نہیں آتا۔ معاذ اللہ

غلطی چہارم..... لفظ ذال ام اشارہ واحد نہ کر غائب ہے۔ مشار الیہ اس کا مائل ہوتا ہے۔ اپنے مابعد الکتاب کو بتایا ہے۔

غلطی پنجم..... سورتوں کے نام حضرت ﷺ کے زمانہ میں ہی رکھے گئے تھے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ﷺ نے خود رکھے یا وحی جبرائیل علیہ السلام نے بتلائے۔ بہر حال حضرت کے زمانہ میں بھی نام سورتوں کے جو کہ آج کل مشہور ہیں، لئے جاتے تھے۔ اور منولیں بھی حضرت ﷺ کے زمانہ میں ہی بنی ہیں۔ دیکھو بخاری کتاب فضائل القرآن باب انزل القرآن علی سجدہ احراف عن عمر ابن الخطاب سے حدیث مروی ہے کہ ہشام ابن حکیم نے صبح کی نماز میں سورت فرقان پڑھی۔ اختلاف قرأت کے ساتھ پھر اصحابوں میں جھگڑا پڑ گیا۔ آخر حضرت ﷺ کے پاس جھگڑا پیش کیا گیا۔ حضرت ﷺ نے ہشام ابن حکیم کو فرمایا کہ سورت فرقان پڑھ تیجہ بحث ہذا کا یہ ہوا کہ اگر اس وقت سورتوں کے نام مقرر نہ ہوتے تو آنحضرت ﷺ ہشام ابن حکیم کو کیوں فرماتے کہ سورت فرقان پڑھ۔ پس ثابت ہوا کہ سورتوں کے نام زمانہ حضرت ﷺ میں مقرر ہو چکے تھے۔

غلطی ششم..... سید مرحوم نے حروف مقطعات ”الم“ کو مبتداء بنایا اور ذلک مبتداء ثانی اور الکتاب اس کی خبر جب حروف ”الم“ مقطعات ہوئے۔ یعنی ان کو مہارت سے کوئی تعلق ہی نہ ہوا تو ”الم“ مبتداء کیوں کریں سکتا ہے اور ذلک مبتداء ثانی کیونکر ہو سکتا ہے۔ پھر الکتاب اس کی خبر کسی صورت میں نہیں بن سکتی۔ سید مرحوم نے یہ سوچا کہ مبتداء اور خبر میں اسناد ہوتا ہے۔ حالانکہ کوئی اسناد نہیں۔

غلطی ہفتم..... حروف مقطعات ”الم“ حالانکہ اکتیس سورتوں پر آئے ہیں مگر ”ذلک الکتاب لاریب فیہ“ ماسواہر کے کسی اور سورت پر اکتیس سورتوں میں نہیں لکھے گئے۔ پس اگر یہ تمام سورتیں صحرا المضمون ہوئیں جیسا کہ سید مرحوم نے وہم کیا ہے تو ”ذلک الکتاب لاریب فیہ“ کا لانا بھی ضروری ہوتا۔ چونکہ ”الم“ حروف مقطعات ہی ہیں نہ اسم سورتوں کے۔ لہذا پروردگار نے باقی سورتوں ”الم“ والی میں ”ذلک الکتاب لاریب فیہ“ نہ فرمایا۔

اعتقاد نمبر ۷..... سید مرحوم نے حروف مقطعات ”الم“ کی فرض بیان فرمائی ہے۔ ہم طوالت کے لئے بعید عبارت نہیں لکھتے۔ صرف خلاصہ ان کی عبارت کا ناظرین کو دکھلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے۔ ”آپ نے (الف) سے مراد امر بالمعروف لیا ہے۔ (لام) سے مراد لیل و نهار لیا ہے۔ (م) سے مراد موت و حیات لیا ہے۔ مگر یہ استنباط سید مرحوم کا صحیح نہیں۔ کیوں کہ صورت روم، سورت لقمان، سورت عنکبوت، سورت بقرہ پر حالانکہ یہی حروف مقطعات موجود ہیں۔ مگر ان میں کوئی احکام امر بالمعروف نہیں بلکہ صرف توحید کا بیان ہے۔ لہذا سید مرحوم کا یہ استنباط بھی صحیح نہیں۔ اب یہاں سورت بقرہ پر پانچ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

سوال اول..... سورت بقرہ پر حروف مقطعات ”الم“ کس فرض کے لئے آئے۔

سوال دوم..... لفظ اسم اشارہ کا مشار الیہ کون ہے۔

سوال سوم..... ”ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ“ کس سے مراد ہے۔

سوال چہارم..... ”هٰدِيَ لِلْمُتَّقِينَ“ کس کی صفت ہے۔

سوال پنجم..... سورت بقرہ بعد فاتحہ کے کس فرض سے لائی گئی۔ کتنے ان میں کیا ارتباط ہے۔

جواب سوال اول..... ”الم“ یاد رہے کہ جن سورتوں میں یہ حروف آئے ہیں۔ سب میں تین

غرضیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمانہ نزول قرآن شریف میں تین گروہ تھے۔ بت پرست،

موسائی، عیسائی۔ پھر موسائی عزیز کو خدا کا بیٹا جانتے تھے۔ اور احکام اسلام میں کئی طرح کے

اختلاف کرتے تھے۔ رشوت کی وجہ سے جھوٹے فتوے دیا کرتے تھے۔ اور نصاریٰ بعض عیسائی علیہ

السلام کو خدا کا بیٹا اور بعض خود خدا اور بعض حکیمت پر یقین رکھتے تھے۔ چونکہ یہ تینوں فریق توحید پر

قائم نہ تھے۔ لہذا محمد رسول اللہ اور قرآن شریف کی ضرورت ہوئی۔ چنانچہ یہی صحت پروردگار نے:

”لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَ هُمُ

الْبَيْتَةَ (البینة: ۱)“ میں نزول قرآن شریف کے بیان فرمائی۔ پس آنحضرت ﷺ نے تینوں فریق

مشرك موسائی، عیسائی کو ہدایت توحید فرمانے لگے۔ تو ہر سہ فریق نے حضور ﷺ کی تکذیب کی۔

یہودی کہتے تھے کہ یہ قرآن پہلی کہانیاں ہیں۔ بت پرست کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے۔ الغرض بت

پرست ہو۔ موسائی ہو۔ عیسائی اپنے اپنے اعتقاد سے باز نہ آئے۔ گو آہستہ آہستہ تینوں فریقوں

میں سے بہت سے ایمان بھی لے آئے تاہم آج تک وہی فریق موجود ہیں۔ ناظرین! کو یہ ثابت

ہو گیا ہوگا کہ تین امروں کا مخالفین مذکورہ بالا کو منانا پروردگار کا اصل مقصد تھا۔ وہ تین امر یہ ہیں۔

امراقل ..... اللہ ایک ہے۔

امرووم ..... قرآن شریف منزل من اللہ ہے۔

امروسوم ..... یہ پیغمبر رسول اللہ ﷺ ہے۔ پس جن سورتوں میں انہی تینوں امور مذکورہ بالا کی مخالفوں کی منانے کی ضرورت تھی۔ ان سب سورتوں میں حروف مقطعات ”الم“ آئے ہیں۔ جو کہ الف سے مراد: ”والہکم اللہ واحد“ ہے۔ جن میں وہ تینوں فریق اختلاف کرتے تھے اور لام سے مراد ہذا کتاب ”من لدن“ ہے۔ جس کی نسبت وہ تینوں فریق اختلاف کرتے تھے۔ اور میم سے مراد ”محمد رسول اللہ“ ہیں۔

خلاصہ مضمون مذکورہ بالا کا یہ ہوا۔ اللہ ایک ہے۔ قرآن شریف سچ ہے۔ محمد برحق ہے۔ جو مراد حروف مقطعات ”الم“ کی ہم نے بیان کی۔ وہ عینہ سورت بقرہ کی آیات مفصلہ ذیل سے ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو الف، کا مصداق آیت ”والہکم اللہ واحد“ (بقرہ: ۱۶۳) لام، کا مصدقہ آیت: ”الکتاب لاریب فیہ ایضاً ولقد انزلنا لیک آیات بینات“ میم، کا مصدقہ آیت: ”انا ارسلناک بالحق بشیراً ونذیراً ایضاً وانک لمن المرسلین (بقرہ: رکوع ۲۲)“

سوال دوم ..... ذاء اسم اشارہ کا اشارہ الیہ کون ہے۔

جواب ..... یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ ہر ایک سورت ایک کتاب ہے۔ اور یہ بھی بلاشبہ تسلیم ہے کہ سورت فاتحہ اجمالی قرآن شریف ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سورت فاتحہ کا طرز کلام ایسا ہے کہ گویا بندہ کی کلام ہے مثلاً: ”ایک نعبد وایک نستعین“ سے بلاشبہ یہ شک ضرور پڑتا ہے کہ یہ کلام خدا کا نہیں بلکہ بندہ کا ہے۔ گو صاحب علم سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے طریقہ یاد کرنے اپنے کا سکھایا ہے۔ اور قل اس میں مقدر ہے لیکن تاواقفوں اور مخالفوں کو کہ جس طرح کہ زمانہ حال میں فاتحہ کی نسبت شک پڑتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ نزول قرآن شریف میں بھی مخالف کہا کرتے تھے۔ لہذا شروع سورت بقرہ میں پروردگار نے اسم اشارہ بیان فرمایا ہے جس کا اشارہ الیہ وہی کتاب سورت فاتحہ ہے۔ جس میں مخالفوں کو کلام الہی ہونے میں شک تھا۔ اس کی تصدیق کے لئے اسم اشارہ لانا ضروری تھا تا کہ سورت فاتحہ اور سورت بقرہ میں ارتباط پیدا ہو لہذا باقی سورتوں میں حروف مقطعات ”الم“ والی پر یہ طرز اختیار نہیں کی گئی۔

سوال سوم ..... ”الکتاب لاریب فیہ“ کس سے معاد ہے۔

جواب..... وہی کتاب جس میں مخالفین یہود و نصاریٰ شک کرتے تھے اور اب مخالفین کلام بندہ سمجھتے ہیں۔ الغرض خدا تعالیٰ اس کو قرآن فرماتا ہے۔ دیکھو: ”ولقد اتینا سبع من العثانی والقرآن العظیم“

سوال چہارم..... ”ہدی للمتقین“ کس کی صفت ہے۔

جواب..... وہی کتاب سورت فاتحہ کی صفت ہے جس میں مخالفین کا اعتراض تھا۔

سوال پنجم..... سورت فاتحہ اور بقرہ میں کیا ارتباط ہے۔

جواب..... سورت فاتحہ میں تین گروہ کے علاوہ دلائل توحید کے بیان ہے۔ مثلاً ”انعمت“ جو پیغمبروں اور نیک لوگوں سے مراد ہے اور ”مغضوب“ جو یہودیوں یا وہ لوگ جن پر واقعی عذاب وارد ہوا تھا۔ مثل قوم تبع۔ اس ثمودی قوم سے لوط مراد ہیں۔ سوم ”ضال“ جو کہ نصاریٰ یا قاسق قاجر عاصم معتد سے مراد ہیں۔ پس مضمون سورت فاتحہ سے چار امر ثابت ہوئے۔ ایک توحید اور تین گروہ انہیں چار امور اجمالی کی سورت بقرہ میں تفسیر ہے۔ دیکھو پروردگار نے اول رکوع میں ”مؤمنون“ کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد کافروں کی اور رکوع دوم میں منافقوں کا حال بیان کیا۔ رکوع سوئم میں اپنی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے۔ پس اسی ارتباط کی وجہ سے سورت بقرہ بعد فاتحہ کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اسی وجہ سے ”ذک الکتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین“ سورت بقرہ پر فرمایا اور باقی تین جن حروف پر مقطعات ”الم“ آئے تھے۔ ”ذک الکتاب لاریب فیہ“ نہ فرمایا۔ مرزا قادیانی! ہم نے یہ جتنے ورق سیاہ کر دیئے ہیں۔ یہ سب آپ کی خاطر ہی کئے ہیں کیونکہ آپ نے سید مرحوم کے اصولوں کو پکڑ کر اپنا دعویٰ اقرائی بنا بیٹھے۔ پس ہم اصل کتاب شروع کرتے ہیں۔

## فیصلہ قرآنی تکذیب قادیانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء والصلوة والسلام

علی رسوله المجتبیٰ . اما بعد!

احقر العباد وحکیم حافظ محمد الدین صانہ اللہ تعالیٰ عن المنکروہات الدنیاء والدین۔ ناظرین

کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ حقیقت قصہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کا موقوف ہے۔ علم نزول قرآن پر، لہذا ہم پہلی وجہ نزول قرآن شریف بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ زمانہ آنحضرت ﷺ

میں تین فریق تھے۔ اول کافر، دوم نصاریٰ، سوم یہود۔ پھر کافر بھی مختلف اعتقاد کے تھے۔ بت پرست، کوکب پرست، حیوان پرست۔ چنانچہ یہی فریق آج کل بھی کم و بیش موجود ہیں۔ فریق دوم، نصاریٰ اس کے تین فریق تھے۔ ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ دوم وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو فطر خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ سوم وہ جو تثلیث کو مانتے تھے۔ فرقہ سوم یہود تھے۔ یہ نہایت ہی مختلف اعتقاد کے تھے۔ بعض عزیز کو خدا کا بیٹا جانتے تھے۔ بعض عالموں اور روہتوں کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ بعض قیامت عذاب کو چند روز یقین کرتے تھے۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ احکام اسلام میں کئی طرح کے افتراء کرتے تھے۔ ایک رجم کے دو بچوں کو بعض کے لئے حرام اور بعض کے لئے حلال جانتے تھے۔ شہور حرام کو بدل دیتے تھے اور رشوت لے کر جموئے فتوے دیتے تھے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا اور مریم علیہا السلام کو زانیہ یقین کرتے تھے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تردید اختلاف مذکورہ بالا کے واسطے خدا کی طرف سے رسول تھے: ”ورسولا الی بنسی اسرائیل“ لیکن یہ ہونے بجائے رسالت ماننے کے قتل کرانے اور پھانسی چڑھانے کی تدبیریں کیں۔ مگر ان کی تدبیریں کارگر نہ ہوئیں۔ نہ پھانسی دیئے گئے۔ نہ قتل کئے گئے۔ چنانچہ ہم عنقریب اس بحث کو غرض مکر یہود میں بیان کریں گے۔

### وجہ نزول قرآن

الغرض ناظرین کو مذکورہ بالا مضمون سے ثابت ہو گیا ہوگا کہ ہر سہ فریق میں سے یعنی کافر۔ نصاریٰ اور یہود کوئی بھی توحید پر ثابت قدم نہ تھا۔ یہی وجہ نزول قرآن شریف کی ہوئی: ”لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تاتى ہم البینة رسول من اللہ یقولوا صحفًا مطهره فیہا کتب قیم (البینہ: ۳ تا ۱۰)“

پس جب آنحضرت ﷺ دعوت اسلام صراط الاستقیم ہر سہ فریق مذکورہ بالا کو کرنے لگے تب حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی طرح طرح کے الزام دینے لگے۔ مثلاً مفتری۔ شاعر۔ مجنون۔ کذاب اور آنحضرت ﷺ کو یہود اور نصاریٰ طرح طرح کے سوالات بھی کرنے لگے۔ مثلاً یہود عیسیٰ علیہ السلام نا جائز فطرتی اور بعض مقتول بیان کرتے تھے۔ اور برخلاف ان کے نصاریٰ بعض عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا اور بعض تثلیث کا اعتقاد کا اظہار کرتے تھے۔ چونکہ یہ دونوں فریق افراط و تفریط میں غرق تھے۔ کیونکہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام نا جائز فطرتی اور نہ مصلوب اور نہ مقتول ہوئے تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھا اور نہ خدا کا بیٹا اور نہ تین خدا تھے۔ جیسا کہ بعض نصاریٰ کا اعتقاد تھا۔ محاذ اللہ منہا۔ پس یہی اختلاف مذکورہ بالا کی وجہ سے قصہ عیسیٰ علیہ السلام

قرآن شریف میں مختلف مقامات پر مختلف اغراض کے لئے خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جن اغراض کی لہرست ہم ناظرین کو دکھلا چکے ہیں۔

اختلاف عقائد

الفرض چونکہ سب اعتقادات یہود اور نصاریٰ محض بہتان تھے۔ لہذا پروردگار نے کسی جگہ اعتقاد یہود اور کسی جگہ نصاریٰ کی تردید فرمائی۔ جو لوگ مذکورہ بالا اغراض کا علم نہیں رکھتے ان کو شکوک باطلہ یہودیہ یا نصاریہ پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی اسی یہودی اعتقاد کو پکڑ کر کلمات ناشائستہ بہتانیدہ تاویلہ افتزائیہ خود غرضیہ خیالیہ دہمیہ نسبت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کتابوں میں شائع کرتے ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی، زانی، فاحشہ عورتوں کا مال کھانے والا حتیٰ کہ ناجائز فطرتی بھی اپنے قلم سے لکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔

حصہ اول! اغراض قرآنی متعلقہ حضرت مریم علیہا السلام کے بیان میں فصل اول  
غرض اول..... حقیقت پیدائش مریم علیہا السلام میں۔

سوال..... بجناب باری تعالیٰ والدہ مریم علیہا السلام: ”اذ قالت امراة عمران رب انى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل منى انك انت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب انى وضعتها انثى (آل عمران: ۳۶، ۳۵)“ جس وقت کہا ہوی عمران کی نے اے رب میرے تحقیق میں نے نذر کیا واسطے تیرے جو کچھ بیچ بیٹ میرے کے ہے۔ پس قبول کر مجھ سے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پس جب جناس کو کہ اے میرے تحقیق میں نے جناس کو لڑکی۔ ﴿

جواب..... باری تعالیٰ آیت: ”والله اعلم بما وضعت“ ﴿ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ جناس نے اظہار والدہ مریم علیہا السلام آیت: ”ولینس الذکر کالانثى وانى سمعتها مریم“ ﴿ اور نہیں مرد مانند عورت کے امر تحقیق میں نے نام رکھا اس کا مریم ﴿ دعاء والدہ مریم علیہا السلام وقت آزادی مریم علیہا السلام: ”وانسى اعینها بك وذریتها من الشیطان السرجیم“ ﴿ اور بے شک میں نے پناہ دی اس کو ساتھ تیرے اور اولاد اس کی کو شیطان راندے ہوئے سے ﴿

جواب..... باری تعالیٰ آیت: ”فتقبلها ربهما بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا“ ﴿ پس قبول کیا اس کو رب اس کے ساتھ قبول اچھے کے اور اگایا اس کو اگانا خوب اچھا۔ ﴿ غرض دوم..... حقیقت پرورش مریم علیہا السلام کے بیان میں: ”وكتفلها زكريا“ ﴿ اور سوچ

دی وہ زکریا علیہ السلام کو ﴿

بیان حال ..... احسانات باری تعالیٰ ”وجد عندہا رزقا“ ﴿پایا نزدیک اس کے رزق﴾ خبر سوال تجھانہ زکریا علیہ السلام: ”قال یا مریم انی لک هذا“ ﴿اے مریم کہاں سے آیا واسطے تیرے یہ رزق﴾۔

جواب ..... مریم علیہا السلام: ”قالت ہومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب (ایضاً)“ ﴿کہا مریم علیہا السلام نے وہ نزدیک اللہ سے تحقیق اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار﴾ یہی سبب ہے واسطے اولاد کے دعائاً گناہ زکریا علیہ السلام کا: ”ہنا لک دعا زکریا ربہ (آل عمران: ۳۸)“ ﴿اس جگہ پکارا زکریا علیہ السلام نے پروردگار کو اپنے﴾۔ اے ارباب بصیرت آج کل جو لوگ مثلاً مرزا قادیانی بن باپ تولد ہوتا عیسیٰ علیہ السلام کا محال جانتے ہیں۔ حقیقت میں یہ قول یہود کا تھا۔ جس کو پروردگار نے زکریا علیہ السلام کی نظیر دے کر تردید فرمائی۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سدرست جوان تھی۔ لیکن یحییٰ کے والدین دونوں قابل اولاد نہ تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قول زکریا علیہ السلام کا بیان فرمایا: ”قال رب انسی یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر و امراتی عاقر (آل عمران: ۴۰)“ ﴿کہا اے رب میرے کیونکر ہوگا واسطے میرے لڑکا اور تحقیق پہنچا ہے مجھ پر بڑھا ہوا پاپا اور بیوی میری بانجھ ہے﴾۔

جواب ..... ”قال کذالك قال ربك هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئاً (مریم: ۹)“ ﴿کہا اسی طرح رب تیرے رب نے وہ اوپر میرے آسان ہے اور تحقیق پیدا کیا میں نے پہلے اس سے بے شک نہ تھا تو کچھ﴾۔

انسوس یحییٰ علیہ السلام بغیر قابلیت والدین خدا تعالیٰ کی قادریت سے پیدا ہوا اور مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس کے والدہ تو صحیح المزاج تھی۔ بن باپ ہونا نہیں مانتے بلکہ حکم باری تعالیٰ: ”یفعل ما یشاء“ جو کہ دعویٰ قادریت ایزدی ہے۔ چھوڑ دیتے ہیں۔ انسوس پھر انسوس آپ نے سمجھا بھی نہیں۔ یہ سب آیات مذکورہ بالا سورت آل عمران اور سورت مریم کی ہیں۔

غرض سوم تہمت یہود کے بیان میں

مرزا قادیانی کی طرح یہود بھی مریم علیہا السلام کو بدکار جانتے تھے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ یہود کا قول بیان کرتا ہے: ”قالوا یا مریم لقد جعلت شیئاً فریاً، یا اخت ہرون ماکان ابوک امراہ سوء و ملکانت امک بغیا (مریم: ۲۷، ۲۸)“ ﴿کہا انہوں نے اے مریم البتہ



تحقیق لائی تو ایک چیز عجیب اے بہن ہارون کی نہ تھا باپ تیرا برا اور نہ تھی ماں تیری بدکار، ہم بریت مریم علیہا السلام دوسرے موقع پر دکھادیں گے۔ یہاں صرف بہتان یہود اور مرزا قادیانی کا دکھانا مقصود ہے۔

غرض چہارم..... بریت مریم علیہا السلام کے بیان میں۔

یہاں مریم علیہا السلام کا قول اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے: ”انسی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا (مریم: ۲۰)“ ﴿ کیونکر ہوگا واسطے میرے لڑکا اور نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو کسی آدمی نے اور نہیں میں بدکار، آیت ہذا سے صاف دو امر ثابت ہوتے ہیں کہ نہ یوسف سے نکاح ہوا اور نہ کسی کے ساتھ بدکاری کی۔ معاذ اللہ! مرزا قادیانی یہود کی طرح دونوں عیب لگاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مذکورہ مریم علیہا السلام کی تصدیق کرتا ہے: ”کذالك قال ربك هو علیٰ هین، ولن جعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا (مریم: ۲۱)“ ﴿ کہا اسی طرح، کہا پروردگار تیرے نے وہ اوپر میرے آسان ہے اور تاکہ کریں ہم اس کو نشان واسطے لوگوں کے اور مہربانی اپنی طرف سے اور ہے کام مقرر کیا ہوا۔ ﴿ آیت مذکورہ بالا سے چار امر ثابت ہوئے۔ اول! کسی آدمی نے مریم کو س نہیں کیا اور نہ مریم علیہا السلام بدکار ہے۔ دوم! اللہ تعالیٰ پر بغیر باپ بیٹا پیدا کرنا آسان ہے۔ سوم! عیسیٰ علیہ السلام اس کی قادریت کا نشان ہے۔ چہارم! علم ازل میں یوں ہی ہوتا تھا۔ اے ناظرین مرزا قادیانی اعتقاد میں یہودیوں سے کم نہیں۔ مذکورہ بالا آیت سورت مریم کی ہیں۔

غرض پنجم اوصاف مریم علیہا السلام کے بیان میں

”واذ قالت الملكة يا مريم ان الله اصطفك وطهرك واصطفاك علیٰ نساء العالمین (آل عمران: ۴۲)“ ﴿ جس وقت کہا فرشتوں نے اے مریم تحقیق اللہ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو اور برگزیدہ کیا تجھ کو اور عورتوں عالمین کے ﴿ اے ارباب بصیرت آیت ہذا میں مریم علیہا السلام کو خدا تعالیٰ نے دو فضیلتیں بخشیں ہیں۔ ایک! پاکیزگی یعنی پاک دامن، دوم! برگزیدگی تمام عورت عالمین سے۔ یہ دونوں خطاب کسی عورت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اور انعام اور خوش خبری نہیں ملی۔ ہائے افسوس خدا تعالیٰ جس کی یہ فضیلت بیان فرما دے اور مرزا قادیانی اس پر تہمت لگادیں۔ سوائے ظلل دماغ یا بے طبعی کے اور کچھ نہیں۔

غرض ششم بشارت تولد عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں

”وانكر فسی الكتاب مریم اذا نتبذت من اهلها مکانا شر

قیاء فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحا فتمثل لها بشرا سويا  
 ، قالت انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، قال انما انا رسول ربك لاهب  
 لك غلاما زكيا (مریم: ۱۶ تا ۱۹) ﴿اور یاد کرنا کہ کتاب کے مریم علیہا السلام کو جب جا پڑی  
 لوگوں اپنے سے مکان شرقی میں پس پکڑا اورے ان سے وہ پس پہنچایا ہم نے طرف اس کے روح  
 اپنے کو یعنی فرشتہ پس صورت پکڑی واسطے آدی تندرست کے کہنے کی تحقیق میں پناہ مانگتی ہوں تجھ  
 سے اگرچہ تو پرہیزگار۔ کہنے لگا سوائے اس کے نہیں میں بھیجا ہوا ہوں رب تیرے کا تاکہ بخش  
 جاؤں تجھ کو لڑکا پاکیزہ ﴿اے ناظرین! یہاں بھی بہتان مرزا سیہ سے مریم علیہا السلام پاک ہیں۔

فصل دوم..... اغراض قرآنی متعلقہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں

غرض اول کیفیت تولد عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں

”فحملته فانتبزت به مکانا قصیاء فاجاءها المخاض الی جذع  
 النخلة قالت یالیتنی مت قبل هذا وکنت نسیاء منسیا . فنادها من تحتها الا  
 تحزنی قد جعل ربك تحتک سریا . وهزی الیک بذرع النخلة تساقط علیک  
 رطباً جنیا (مریم: ۲۲ تا ۲۵) ﴿پس حاملہ ہوئی ساتھ اس کے پس جا پڑی ساتھ اس کے  
 مکان دور میں پس لے آیا اس کو دروازہ کی طرف رخنے درخت خرما کے کہا اے کاش کہ میں مرگتی  
 ہوتی پہلے اس سے اور ہوتی بھولی بھولائی پس پکارا اس کو پیچھے اس کے سے یہ کہ مت غم کھا تحقیق کر  
 دیا رب تیرے نے نیچے تیرے چشمہ اور ہلائخ کھجور کے کو طرف اپنی ڈالے گی اوپر تیرے کھجور  
 تازی۔ ﴿

اے ارہاب بصیرت مانگی کی دو آجوں سے آپ کو ثابت ہو گیا ہوگا کہ دو احسان یعنی  
 تازہ خرما اور چشمہ آب بھی طاقت بشری اور مرزا کا دیا نی کے علم سے بعید ہیں۔ اگر خرما تازہ  
 اور چشمہ احسان الہی مانا جاوے تو تولد عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ ماننے میں کیا مشکل ہے۔ اصل  
 بات یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ اور رضائی السماء بحد عصری نہ مانا جاوے تو دو مشکل  
 پیش آتی ہیں۔ ایک تو تمام کھجوروں کا انکار کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ کھجور اور چشمہ کا یہاں خدا تعالیٰ  
 بیان فرماتا ہے۔ یا اور مقامات میں معجزے پیغمبروں کے بیان فرمائے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ  
 السلام کا دریائے نیل سے عبور کرنا اور فرعون کا فرق ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اڑنا و جاننا  
 ہاتھ مبارک کا سفید ہونا پتھر سے بارہ چشموں کا لکنا ابراہیم علیہ السلام کے وجود کا آتش نمودی کو  
 سرد کرنا سلیمان علیہ السلام کے مصاحبوں سے ایک شخص کا بقیس کو طرفہ العین میں لانا۔ صالح کی

اوشنی کا معدہ بچہ پیدا ہوتا۔ کشف سے حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کو سوراخ کرنا اور لڑکے کو قتل کر ڈالنا۔ سلیمان علیہ السلام کا غیر جنس جانوروں سے کلام کرنا۔ لشکر جن طیور کا بھرتی کرنا اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا شق القمر کرنا۔ معراج بجد عصری کرنا۔ ان تمام مذکورہ معجزوں سے انکار کرنا پڑے گا تو پھر قرآن کا کیسا حصہ رہا۔

مشکل دوم..... اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ اور رفیع الی السماء بجد عصری اور مریم علیہا السلام کو بے عیب پاک و اسن نہ سمجھاوے تو یہودیوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا اور نہ مہلبہ سورۃ آل عمران کا کوئی فائدہ۔

غرض دوم اوصاف عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں

”اذقالت الملكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويعلم الكتب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الی بنی اسرائیل (آل عمران: ۴۵ تا ۴۹)“ ﴿جس وقت کہا فرشتوں نے اے مریم علیہا السلام اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو ساتھ ایک بیٹے کے اپنی طرف سے نام اس کا مسیح عیسیٰ علیہ السلام بیٹا مریم کا آبرو والا بیچ دینا اور آخرت کے اور مقربوں میں سے ہے اور کلام کرے گا لوگوں سے بیچ جھولے کے بچنے طفولیت میں اور صالحین سے ہے اور سکھاوے گا اس کو لکھنا اور حکمت بچنے خواص الانبیاء اور تورات اور انجیل و رسول طرف بنی اسرائیل کے﴾

اے ارباب بصیرت یہ اوصاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہا السلام کے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آیات قرآنی نہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اوصاف جمیلہ نہیں؟ پس جب مرزا قادیانی ان اوصاف حمیدہ کو چھوڑ کر بہتان شراب، ناجائز فطرتی، فاحشہ خورتوں کے مال کھانے والا، یہودیوں کی طرح لگاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو قرآن شریف کے معانی سے کہاں تک واقفیت ہے۔ کیا ایسے کلمات کہنے والا دعویٰ اسلام میں صادق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

غرض سوم! دعوت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں

جب عیسیٰ علیہ السلام مامور بدعوت اسلام ہوئے۔ جب بنی اسرائیل کو دعوت اسلام کرنے لگے: ”انسی قد جئتکم بایة من ربکم انی اخلق لکم من الطین کھینتہ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ و ابری الاکمه والابرص امی الموتی

باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وماند خرون فی بیوتکم ان فی ذلک لایۃ لکم ان کنتم مومنین، ومصداقالمابین یدی من التورات ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم وحتکم بایۃ من ربکم فاتقواللہ، واطیعون، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه، هذا صراط مستقیم (آل عمران: ۴۹ تا ۵۱)“

﴿تحقیق آیا ہوں تمہارے پاس ساتھ نشانی رب تمہارے کی، یہ کہ میں بتاتا ہوں واسطے تمہارے مٹی سے مثل صورت جانور کی۔ پس پھونکتا ہوں میں سچ اس کے پس ہو جاتا ہے جانور ساتھ اذن اللہ کے اور اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے اور سخت برص کو اور زندہ کرتا ہوں مردے کو حکم اللہ سے اور خبر دیتا ہوں تم کو ساتھ اس چیز کے جو کھاتے ہو تم جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو تم سچ اپنے گھروں کے تحقیق سچ اس کے البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور سچ کرنے والا ہوں اس چیز کو جو آگے میرے ہے تورات سے اور تاکہ حلال کروں میں واسطے تمہارے بعض وہ چیز کہ حرام کی گئی ہے اور تمہارے اور لایا ہوں میں پاس تمہارے نشانی رب تمہارے سے پس ڈرو اللہ سے اور کہا ما تو میرا بے شک اللہ رب میرا ہے اور رب تمہارا پس عبادت کرو اس کی یہی راہ سیدھی ہے۔﴾

اے ناظرین دعویٰ دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غور فرمادیں جو کہ خدا تعالیٰ حال دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن شریف میں بیان فرماتا ہے۔ پھر مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہودیوں کی طرح کلمات ناشائستہ فرماتے ہیں دیکھیں انکار قرآن نہیں تو کیا ہے؟

غرض چہارم! امداد انصار کے بیان میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہود کو دعوت راہ مستقیم کی تو یہود نے ان کی تکذیب کی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انصار سے امداد طلب کی: ”فلما احس عیسیٰ منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، امننا باللہ اشهد باننا مسلمون، ربنا امننا بما انزلت واتبعنا الرسول فلکتبنا مع شہدین (آل عمران: ۵۲ تا ۵۳)“ ﴿پس جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار کہا کون ہے مددینے والا مجھ کو طرف اللہ کی کہا حواریوں نے ہم ہیں مددینے والے اللہ کی ایمان لائے، ہم ساتھ اللہ کے اور تو گواہ ہو ساتھ اس کے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے پروردگار ہمارے ایمان لائے ہم ساتھ اس چیز کے جو اتاری تو نے اور پیروی کی ہم نے رسول کی پس لکھ ہم کو ساتھ شاہدوں کے۔﴾

آیت ہذا سے مابعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ مکر یہود بیان فرماتا ہے جس کے معنی مرزا قادیانی کو ظلم و زامغ اور بے علمی کی وجہ سے فشاء قرآن شریف کے مطابق سمجھ میں نہیں آئے۔ اس بحث کو ہم دوسری جگہ مکر یہود میں دکھلاتے ہیں۔

غرض پنجم۔ مکر یہود کے بیان میں

غرض ہذا میں تین امور بحث طلب ہیں۔ جب تک ان کا علم نہ ہو قرآن شریف کا مطلب حل نہیں ہو سکتا۔ وہ امر یہ ہیں۔

امراؤں..... زمانہ نزول قرآن میں لوگوں کے اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا تھے۔

امردوم..... قرآن شریف میں قصہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آیا۔

امردوم..... ذکر مکر یہود سورہ آل عمران میں کیوں آیا۔

امراؤں..... زمانہ نزول قرآن شریف میں لوگوں کے تین فریق تھے۔ بت پرست، مویہود، عیسائی۔ پھر بت پرست مختلف اعتقاد کے تھے۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں ذکر کر چکے ہیں کہ بت پرست عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کچھ بحث نہ کرتے تھے۔ دوم موسائی ان کے بھی مختلف فریق تھے۔ بعض عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے تھے۔ بعض درویشوں کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ بعض اپنے آپ کو خدا کے دوست یا بیٹے سمجھتے تھے۔ الغرض یہود کے بے تعدا فریق تھے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں

آیا ہے: "ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون (النمل: ۷۶)" "بے شک یہ قرآن بیان فرماتا ہے اور پر بنی اسرائیل کے اکثر اس چیز کا کہ وہ سچ اس کے اختلاف کرتے ہیں۔" اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تہمت فطرت ناجائز و بدکاری لگاتے تھے۔ جس کو ہم غرض سوم تہمت یہود میں بیان کر چکے ہیں۔ اور بعض مقتول اور بعض مصلوب ہوا بھی یقین کرتے تھے۔ سوم عیسائی ان کے بھی بہت فریق تھے۔ ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے تھے۔ دوسرے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی مانتے تھے۔ تیسرے وہ جو تثلیث کے قائل تھے۔ چوتھے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف بن یعقوب کا بیٹا سمجھتے تھے۔ پانچویں وہ جو مریم علیہا السلام کا باپ ہی سمجھتے تھے۔ چھٹے وہ جو مریم علیہا السلام کا باپ عمران سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن مجید عمران ہی کو ثابت کرتا ہے۔ پس ناظرین کو دو امر ثابت ہو گئے ہوں گے۔ اول یہ کہ ہر سہ فریق مشرک، یہود، نصاریٰ کو حید پر کوئی بھی ثابت قدم نہ تھا۔ دوم اصل واقعہ عیسیٰ علیہ السلام میں کئی طرح کے اختلافات کئے ہوئے تھے۔ جن کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی

اصلیت بیان فرماوے۔ یہی وجہ نزول قرآن شریف ہے۔ ”لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، منفکین حتی تاتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو اصحفا مطہرة فیہا کتب قیمہ (البینہ: ۳ تا ۱)“ ﴿ نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب سے اور مشرک باز رہنے والے یہاں تک کہ سوائے اس کے پاس دلیل روشن پیغمبر خدا کی طرف سے پڑھتا ہو صحیفہ پاکیزہ ﴿ ان کے کتابیں قائم کرنے والی دین کو۔ ﴿

اب رہا مردوم۔ قصہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں کیوں آیا۔ اس کی وجہ اختلاف مذکورہ بالا ہے۔ امر سوم ذکر مکر یہود سورۃ آل عمران میں کیوں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ تمام اعتقادات باطلہ یہود و نصاریٰ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام کی نسبت رکھتے تھے۔ سورۃ آل عمران میں صفت حی القیوم اپنی بیان کی جو یہ صفت نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ ہی مریم علیہا السلام کو حاصل تھی۔ پس ثابت ہو گیا کہ ہر سہ اشخاص بندگان خدا میں سے تھے۔ اس کے بعد قرآن شریف کی تعریف فرمائی کہ یہ مصدق ہے تورات اور انجیل کا اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ فرقان ہے۔ یعنی فرق کرنے والا تحریفوں کا جو یہود و نصاریٰ نے تورات اور انجیل میں کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرمایا بے شک جو لوگ منکر ہوئے ساتھ حکم اللہ کے ان کے لئے عذاب سخت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بات آسمان زمین کی مٹتی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے بیچ رحم کے۔ جس طرح چاہتا ہے۔ یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہ دونوں تو میں یہود و نصاریٰ افراط اور تفریط کرتی تھیں۔ جتنے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز فطرتی اور مریم علیہا السلام کو بدکار سمجھتے تھے اور بعض نصاریٰ بہ خلاف ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور کوئی خدا کا بیٹا۔ کوئی حسیث کو مانتا تھا۔ نتیجہ بحث ہذا کا یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے رحم میں صورت دے دیتا ہے بن باپ یا باپ ہر طرح سے قادر ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام ناجائز فطرتی ہے اور نہ اس کا باپ یوسف ہے۔ غلط ہذا تین رکوع آل عمران تک مختلف طرح پر تردید یہود اور نصاریٰ بیان فرمائی ہے اور رکوع چہارم میں پروردگار نے اصل واقعہ عیسیٰ علیہ السلام و مریم شروع فرمایا۔ اس پر جس طرح تاریخ بیان کی جاتی۔ فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام لوگوں پر برگزیدہ کیا۔

ارباب بصیرت پر غلطی نہ رہے کہ اول آدم علیہ السلام جد پیغمبران تھے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بعدہ جتنے پیغمبر ہوئے آل ابراہیم سے ہوئے اور اس

کے بعد آل عمران کو بیان فرمایا۔ عمران نام ہے والد مریم علیہ السلام کا جس کو بعض یہودی و نصاریٰ یہی بھی سمجھتے ہیں جو آج کل بھی مریم علیہا السلام کے باپ کا نام یہی مشہور ہے۔ ایک اختلاف تو اللہ تعالیٰ نے نام والد مریم عمران کے نام سے رد کیا۔ اس کے بعد والدہ مریم علیہا السلام کا قول فرمایا اور اس میں تمام کیفیت نذر ماننے والدہ مریم کی جو کچھ کہ جواب و سوال اس وقت ہوئے تھے۔ معہ قبول نذر بیان فرمائی۔ اس کے بعد مریم علیہا السلام کی پرورش کا حال جو کہ ذکر یا علیہ السلام کفیل ہوا تھا۔ بیان فرمایا۔ نیز تولد یحییٰ کی بھی پوری کیفیت بیان فرمائی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کم نہیں۔ اس کے بعد رکوع پنجم میں مریم علیہا السلام کی تعریف شروع فرمائی اس کے بعد اپنے ماموز آنحضرت ﷺ کی تصدیق بیان فرمائی: ”ذالك من انبياء الغيب نوحيه اليك (آل عمران: ۴۴)“

اس کے بعد وہ زمانہ بیان فرمایا جس وقت مریم علیہا السلام کو بذریعہ وحی تولد عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی گئی تھی۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے۔ اس کے بعد دعوت بنی اسرائیل کی تکذیب دیکھو تو انصار سے مدد طلب کی۔ نیز انصار کی مدد کا حال بیان کیا۔ آخر اس آیت کے بیان فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرانے کی تدبیریں کیں مگر میں بہتر تدبیریں کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد رکوع ششم آل عمران میں وہ خبر دی جو کہ مکر یہود کے وقت پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی جس سے رفع الی السماء بجمہد عسری ثابت ہوتا ہے۔ جو عقرب ہم انشاء اللہ ناظرین کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد پھر مامور آنحضرت ﷺ کی تصدیق فرمائی: ”ذالك ننتلوه عليك من الايات والذکر الحکیم (آل عمران: ۵۸)“ اس کے بعد بیان فرمایا کہ پیدائش عیسیٰ علیہ السلام میرے نزدیک مثل بابا آدم علیہ السلام کے ہے۔

ارباب بصیرت پر تخیلی نہ رہے کہ بعض لوگوں نے آدم علیہ السلام کے معنی عام انسان کے لئے ہیں۔ مگر وہ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ جہاں ذکر انسان کا قرآن میں آتا ہے۔ وہاں لفظ انسان سے پروردگار یا فرماتا ہے۔ یہ لفظ آدم علیہ السلام سے: ”فاما الانسان اذا ما ابتلاه (الفجر: ۱۵) یا ایہا الانسان ما عرک (انفطار: ۶) هل اثنی علی الانسان حين من الدهر انا خلقنا الانسان من نطفاً (الدھر: ۲۰) ان الانسان لفی خسر (عصر: ۲) ان الانسان لربہ لکنود (عادیات: ۶)“

الغرض تمام قرآن میں پروردگار نے انسان کا لفظ عام آدمی کے واسطے بیان فرمایا اور لفظ آدم تمام قرآن میں بابا آدم کے واسطے استعمال کیا۔ اب ہم اس دعوے کو قرآن شریف سے ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ لفظ آدم علیہ السلام مخصوص ہی ساتھ بابا آدم علیہ السلام کے ہے۔ دیکھو قول اللہ تعالیٰ کا: "ان الله اصطفى آدم" اسی صورت اسی قصہ عیسیٰ علیہ السلام میں بیان فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران: "وعلم ادم الاسماء ايضاً قال يادم ايضاً واذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا. ايضاً وقلنا يادم اسكن ايضاً فلتقى ادم من ربه ايضاً يابنى ادم قد انزلنا عليك ايضاً يابنى ادم لا يفتننكم الشيطان ايضاً يابنى ادم خدا ازينتكم ايضاً يابنى ادم اما ياتينكم ايضاً ولقد عهدنا الي ادم ايضاً يادم ان هذا"

یہ تمام مثالیں اسم آدم علیہ السلام کی جو قرآن شریف میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا نے لفظ آدم کے لئے مذکورہ بالا مقامات میں بیان نہیں فرمایا۔ پس ثابت ہوا کہ جن لوگوں نے: "ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم" سے عام آدمی یا انسان غلطی خلقت سے مراد لیا ہے انہوں نے علانیہ غلطی ہی نہیں کی بلکہ تکفیر کی۔ کیونکہ ان کو اس غلطی پر یہ بھی کہنا پڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں بلکہ یوسف کا بیٹا ہے۔ معاذ اللہ۔ اب ہم پھر بحث وہی پہلی ناظرین کو دکھاتے ہیں: "ان مثل عيسى" کے بعد پروردگار نے فرمایا: "الحق من ربك فلا تكونن من المعترين (آل عمران: ۶۰)"

ناظرین! الحق کا الف لام جنس کا ہے جس سے مراد تمام قصہ عیسیٰ علیہ السلام جو بیان ہوا ہے حق اور سچ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن باپ پیغمبروں کے دکھانے والا نہ مقتول ہوا نہ مصلوب ہوا۔ لیکن یہود نے بھی مرزا قادیانی کی طرح انکار کیا۔ لہذا اس آیت کے بعد حکم مباہلہ ہوا۔ لیکن انہوں نے مباہلہ نہ مانا۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے آنحضرت ﷺ کو حکم فرمایا کہ کہہ دے مخالفوں کو کہ اگر اصل واقعہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مانتے اور اپنے اختلاف کو نہیں چھوڑتے اور مباہلہ کی طرف نہ آئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جھگڑنے لگے۔ کیونکہ یہود اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب پر سمجھتے تھے۔ علی ہذا عیسائی۔ اس کے جواب میں پروردگار نے فرمایا کہ ابراہیم نہ مذہب یہودی پر ہے نہ نصاریٰ پر۔ اس کے بعد جھگڑا اگلی طرح ہوتا ہوتا دس رکوع آل عمران تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار مسلمانوں کو مخاطب کر کے احکام بیان فرماتا



ہے۔ الغرض مجملہ اختلافات یہود و نصاریٰ میں مقتول و مصلوب ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کہ فی الحقیقت خلاف اصل بلکہ جھوٹ تھا۔ خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب ہم پہلے جھوٹ دینے اختلاف جھوٹ یہود و نصاریٰ کی قرآن شریف کا خلاصہ مضمون جو کہ ما قبل مکر یہود کے ہے۔ بیان کرتے ہیں پروردگار قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو کہ وہ یہود کو کرتے تھے۔ اسی طرح بیان فرمائی ہے۔ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشان پیغمبری کی رب تمہارے سے۔ وہ نشان ہے۔ بے شک میں پیدا کرتا ہوں واسطے تمہارے مٹی سے مثل صورت جانور کی پس پھونکتا ہوں میں بیج اس کے یعنی روح پس جب ہو جائے گا جانور خدا کے حکم سے (نشانی یعنی معجزہ) اور اچھا کرتا ہوں۔ ماورزا اندھوں کو اور سخت برس کو۔ بے شک زندہ کرتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے اور خبر دیتا ہوں تم کو تمہاری اور جو کچھ کہ ذخیرہ کرتے ہو تم گھروں میں۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک بیج مذکورہ معجزوں کے ضرور نشانی ہے واسطے تمہارے (یعنی نشانی پیغمبری میری کی) اگر تم ایمان لانے والے یعنی میری پیغمبری پر۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ تورات کا اور میں پیغمبر اس لئے ہوا ہوں تاکہ حلال کروں واسطے تمہارے بعض اس چیز کا جو حرام کی گئی ہیں اور تمہارے یعنی یہودی شریعت میں بوجہ بے فرمانی۔ ان کی کے خدا تعالیٰ نے احکام سخت کئے ہوئے تھے۔

جیسا کہ سورۃ الانعام میں خدا فرماتا ہے: "ذٰلِكَ جِزْيُنَا هُمْ بِبَيْعِهِمْ وَاِنَّا لَنَصَادِقُونَ (الانعام: ۱۰۶)" اسی طرح سورۃ نساء میں: "وَاخِذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِّمَا لَقَضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرَهُم بَايَاتِ اللّٰهِ (النساء: ۱۵۵، ۱۵۴)"

اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں لایا ہوں تمہارے پاس حکم رب تمہارے کے پس ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اس واسطے بے شک اللہ میرا اور رب تمہارا ہے۔ یعنی عبادت اس کی کرو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہ کہا کہ بعض یہود عزیز کو خدا کا بیٹا بعض درویشوں کو خدا بناتے تھے۔ اس کے بعد کہا یہی صراط مستقیم ہے۔ ناظرین یہ جو مذکور ہوا ہے پروردگار نے حال دعوت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرمایا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ وہ خبر بیان فرماتا ہے جو یہود کے انکار کی تھی:

"فَلَمَّا احْسَنَ عِيسٰى مِنْهُمْ الْكُفْرَ (آل عمران: ۵۲)"

یعنی انکار پیغمبری عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انصار کو کون مدد دینے والا ہے مجھ کو طرف اللہ کی۔ الغرض انصار نے اقرار کیا کہ ہم مددگار ہیں اور ایمان لانے

والے ہیں خدا پر اور تیری پیغمبری پر۔ اس کے بعد پروردگار وہ خیر بیان فرماتا ہے کہ جو یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرانے کے لئے تجویز کی تھی۔ اب ہم تجویز یہود بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت راہ مستقیم سے یہود نے انکار کیا۔ تب علماء یہود نے اس وقت کے بادشاہ کو کہا عیسیٰ علیہ السلام نا جائز فطرتی، کذاب دعویٰ پیغمبری کرتا ہے اور احکام تورات کو چھوڑتا ہے۔ پس بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیئے کا حکم دیا۔ لیکن پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں ایک اور شخص پکڑا گیا اور وہ سولی بھی دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بعض نصاریٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیئے جانے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کی انجیلوں میں لکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ اختلاف بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر فوت نہیں ہوئے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر بے ہوش ہو گئے اور میعاد مقررہ پر سولی سے اتار لئے گئے۔ تب ان کو دفن کیا گیا حسب حکم بادشاہ کے پھر حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت قبر سے نکال لیا۔ پھر وہ اپنی طبی موت سے مرے۔ مگر اس اعتقاد نصاریٰ پر تین اعتراض ہیں۔ اول اگر فی الواقع عیسیٰ علیہ السلام سولی دیئے گئے ہوتے تو خدا تعالیٰ: ”وما صلوه“ کیوں فرماتا۔ دوم ذکر مکر یہود میں کیوں فرمایا اور مر جانے اور دفن کا کیوں نہ فرمایا۔ پس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی و مرشد (مرسید احمد علی گڑھی) مرزا قادیانی جس کی کتابوں سے مرزا قادیانی نے اپنا مذہب خود تراش کیا ہے۔ غرض قصہ عیسیٰ علیہ السلام سے بلکہ قرآن شریف سے یقیناً ناواقف ہیں۔ اب ہم دلائل نہ مرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے اور بجد عنصری آسمان پر چڑھائے جانے کے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ وہ دلائل یہ ہیں۔

دلیل اول..... رکوع چہارم آل عمران جس میں قصہ عیسیٰ علیہ السلام شروع ہوتا ہے رکوع چھ تک جہاں قصہ عیسیٰ علیہ السلام کا ختم ہوتا ہے تمام وقف کافی ہیں۔ کافی وہ وقف ہوتا ہے جس کے ماقبل اور مابعد کا مضمون ملتا ہو۔ علی ہذا وقف: ”ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین (آل عمران ۵۴)“ پر وقف کافی ہے۔

دلیل دوم..... مکر یہود کے بعد اللہ تعالیٰ دعویٰ خیر الماکرین کا فرماتا ہے: ”واللہ خیر الماکرین“ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیئے جانے یا مر جانے کا یقین کیا جائے تو دعویٰ ایزدی واللہ خیر الماکرین کا کوئی معنی نہیں۔ (کیونکہ دشمنوں کی مراد تو خدا کے مارنے سے برآئی۔ دشمنوں نے نہ مارا تو۔ نحو ذالہ) (اللہ)

دلیل سوم..... جہاں آیت: ”واللہ خیر الماکرین“ ختم ہوتی ہے اور آیت: ”اذقال اللہ“ شروع ہوتی ہے۔ کوئی عطف نہیں بلکہ اذ (کیونکہ دشمنوں کی مراد تو خدا کے کارنے سے برآئی۔ دشمنوں نے نہ مارا تو۔ نعوذ اللہ! ظریفہ ہے۔ جس کا طرف وہ وقت ہے جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مکر یہود سے بچالیا۔

دلیل چہارم..... آیت: ”اذقال اللہ یا عیسیٰ“ میں آنحضرت ﷺ کو مکر یہود کی خبر دی ہے۔ یعنی ہذا: ”واللہ خیر الماکرین“ کی تفسیر ہے۔

دلیل پنجم..... ”انی متوفیک“ جو ایک جملہ خبریہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معنی اس کے اٹھانے کے ہیں۔ کیونکہ خدا نے آگے کسی پیغمبر کے مرنے کی اطلاع نہیں دی۔

دلیل ششم..... ”ورافعک“ میں واو عطف تفسیری ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں۔ یعنی اٹھالینے والا تجھ کو۔

دلیل ہفتم..... ”ورافعک“ میں کاف خطاب کا ہے۔ خطاب جسم مع الروح کو ہوتا ہے نہ صرف روح کو دیکھو مثال قرآنی والدہ عیسیٰ علیہ السلام: ”یا مریم ان اللہ اصطفک وطہرک وادعطفک (آل عمران: ۴۲) اسی طرح: ”اذوا حینا الی امک ما یوحی“

دلیل ہشتم..... کلمہ الی سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لئے ورنہ الی کی ضرورت نہ تھی۔

دلیل نہم..... مطہرک اس میں دو دلیلیں ہیں۔ اٹھالینے کی اول مطہرک کے اس مقام پر بچالینے کے ہیں۔ نہ پلیدی سے پاک کرنے کے۔ دوم کاف خطاب کا ہے۔ جسم مع الروح کے واسطے ہوتا ہے۔

دلیل دہم..... ”من الذین کفروا“ میں من نسبتیہ ہے الذی موصولہ ہے کفر واسے۔ وہ یہود مراد ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر یعنی تدبیر پھانسی کی کرائی تھی۔ ایضاً دیکھو: ”وجاعل الذین اتبعوک، فوق الذین کفروا الی یوم القیمة (آل عمران: ۵۵)“

آیت ہذا سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی آسمانوں پر ہیں اور پھر آئیں گے۔ کیونکہ آیت ہذا میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دیتا ہے کہ تیری بھڑوی کرنے والے لوگ تیرے مخالفوں پر قیامت تک غالب رہیں گے۔ اگر زندہ آسمان پر نہ چڑھائے جاتے تو آیت ہذا سے خوشخبری دینے کا کوئی معنی نہیں ضرور ہی آویں گے۔ تصدیق آیت ہذا

دیکھو: ”وانه لعلم للساعة، فلا تمترن بها واتبعون (الزخرف ۶۱)“ لہذا پروردگار نے پہلی آیت میں قیامت کا لفظ فرمایا۔

دلیل یازدہم..... عطف ثم۔ یہ عطف تراخی کا ہے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پروردگار نے خبر مکر یہود اور دعویٰ: ”اللہ خیر الما کرین“ سے ختم فرمایا اور وہ یہود جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ دربارہ مقتول و مصلوب عیسیٰ علیہ السلام کے جھگڑا کرتے تھے۔ ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے: ”ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون (آل عمران: ۵۵)“ آیت ہذا میں سب ضمیر مخاطب کے ہیں۔ اس سے ذرہ بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ آیت جس میں ہم بحث کر رہے ہیں۔ وہ یہود ہی مخاطب ہیں جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ مقتول یا مصلوب ہونے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جھگڑا کرتے تھے۔

دلیل دوازدہم.....: ”فیما کنتم فیہ تختلفون“ آیت ہذا میں فیہ جو ضمیر ہے مرجع اس کا مکر یہود ہے اور تختلفون سے صاف ثابت ہے کہ یہود نے اپنا اختلاف جو کہ وہ بعض مقتول ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا اور بعض مصلوب ہونا یعنی امر جانتے تھے۔ اس اعتقاد سے باز نہ آئے۔

دلیل سیزدہم..... ”فاما الذین کفروا“ سے صاف ثابت ہے کہ جو لوگ بعد سمجھانے آنحضرت ﷺ کے اپنے اعتقاد سے باز نہ آئے۔ ان کے لئے وعدہ عذاب کا پروردگار نے فرمایا۔ جیسے کہ آیت ہذا ”فاعذبہم عذابا شدید“

دلیل چھار دہم..... ”واما الذین امنوا“ سے مراد ایمان لانا اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ مصلوب۔

دلیل پانزدہم.....: ”فمن حاجک فیہ الخ“ آیت ہذا میں کوئی فرق نہیں اور نہ کوئی آیت ہذا کا فائدہ ہے۔ (معاذ اللہ)

دلیل شانزدہم.....: ”فمن حاجک فیہ“ آیت ہذا پہلہ کی آیت ہے اور فیہ کا ضمیر کا مرجع وہی اختلاف مکر یہود وغیرہ ہے۔ اگر یہود اپنے اعتقاد مقتول اور مصلوب سے باز آتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ سمجھتے تو پہلہ کی ضرورت نہ تھی۔

دلیل ہفدہم.....: ”ان هذا اللہ القمص الحق“ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ وہ سچے قصے ہیں ﴿

آیت ہذا ما بعد تمام واقعات تردید اختلاف یہود و نصاریٰ جو کہ نسبت عیسیٰ علیہ السلام

اور مریم علیہا السلام کرتے تھے۔ بطور فیصلہ کلی مقولہ منجانب باری تعالیٰ بیان ہوا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ اور مریم علیہا السلام مس شیطان سے پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب۔ بلکہ بحسد عصری آسمان پر چڑھائے گئے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا جانا یا قتل کیا جانا یا یوسف بن یعقوب کا بیٹا قرار دینا صحیح ہوتا تو آیت: ”ان حد القصاص الحق“ کا کوئی معنی نہ ہوتا۔ کیونکہ ہذا کا مشارالیه اور هو کا مرجع وہی بیان جو رکوع سوم سورہ آل عمران سے شروع ہو کر رکوع ششم تک یعنی آیت ہذا جس میں ہم بحث کر رہے ہیں۔ ختم ہوا ہے۔ حق اور سچ ہے۔

دلیل ہیروڈم.....: ”وماقتلوہ وماصلبوه الخ“ پروردگار فرماتا۔

دلیل نوزدہم.....: ”بل رفعه الله“ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بحسد عصری ”رفع الی السماء“ نہ سمجھا جاوے تو آیت ہذا کا کوئی معنی نہیں۔

دلیل ہستم.....: ”وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به من قبل موته (النساء: ۱۵۹)“ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر نہ سمجھا جاوے تو آیت ہذا کا کوئی معنی نہیں۔

دلیل بست دہم.....: ”واذکففت بنی اسرائیل عنک (المائدہ: ۱۱۰)“ آیت ہذا میں دو دلیلیں ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام مکر یہود سے بچ گئے۔ دوم زندہ ہیں۔ کیونکہ خدا ”عنک“ فرماتا ہے۔ کاف خطاب۔ جسم مع الروح کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ نہ صرف روح کے۔

دلیل بست دوم.....: ”وانه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون (الزخرف: ۶۱)“ آیت ہذا سے تین امر ثابت ہوتے ہیں۔ اول عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں۔ دوم ان کا پھر آنا قیامت کی نشانی ہے۔ سوم زمانہ آنحضرت ﷺ کے یہود عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اور پھر آنے پر مرزا قادیانی کی طرح انکار کرتے تھے۔ لہذا پروردگار نے ”فلا تمترون بها“ فرمایا۔ ضمیر بہا کا مرجع علامت ہے نہ نفس عیسیٰ علیہ السلام۔

دلیل بست سوم.....: ”وجعلناها وابنها لیت للعالمین (الانبیاء: ۹۱)“ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوا۔ اور زندہ آسمانوں پر ہے ورنہ آیت ہذا کا کوئی معنی نہیں۔

### توفی کی بحث

اب ہم لفظ ”متوفی“ پر بحث کرتے ہیں جس کے معنی مرزا قادیانی فوت ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا سمجھتے ہیں۔ لفظ ”متوفی“ کے بہت معنی ہیں۔ جیسا کہ: ”قل یتوفکم ملک الموت الذی الخ والذین یتوفون منکم ویزون ازواجاً (البقرہ: ۲۳۳)“ ان دونوں مقامات پر

صاف موت کا معنی ہے۔ ایضاً: ”وہو الذی یتوفکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار (الانعام: ۶۰)“ آیت ہذا سے ثابت ہے کہ لفظ ”توفی“ نیند کے معنی پر آیا ہے۔ ایضاً: ”فان شہدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفهن الموت (النساء: ۱۵)“ آیت ہذا میں صاف ثابت ہوتا ہے کہ لفظ ”توفی“ پورا لینے پر بولا گیا ہے جو حقیقی معنی میں۔ اگر موت کا معنی لیا جاوے تو لفظ موت لفظاً موجود ہے اور اگر ایک ہی معنی دونوں کا سمجھا جاوے تو بلاغت کے برخلاف ہے کیونکہ تکرار آتا ہے۔ الغرض تو فی کے تین معنی ثابت ہوئے۔ پورا لینا حقیقتاً، موت مجازاً، نیند مجازاً۔ اب ہم آیت مکر یہود بیان کرتے ہیں۔ ”مکروا“ معنی اس کے یہ ہیں اور تدبیر کی انہوں نے یعنی یہود نے قتل کرانے یا سولی چڑھانے یعنی علیہ السلام کی۔ ”وکمر اللہ“ اس کا معنی یہ ہے اور تدبیر کی اللہ نے یعنی علیہ السلام کے بچاؤ کی۔ ”واللہ خیر الماکرین“ اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت یہ ہے۔ ”اذ قال اللہ یاعیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیٰ مطہرک ..... الخ“

چونکہ متوفی کا معنی مارنے والا بھی ہے۔ لہذا پروردگار نے اس ابہام کو وادعطف تفسیری سے رفع کیا۔ جس کے یہ معنی ہیں یعنی اٹھانے والا ہوں تمھ کو۔ اور ”مطہرک“ کے معنی اس مقام پر پہنچانے کے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”واذ کففت بنی اسرائیل ایضاً من الذین کفروا (المائدہ: ۱۱۰)“ اس سے ثابت ہوا کہ حقیقت میں آیت: ”اذ قال اللہ یاعیسیٰ“ تفسیر ہے آیت قبل: ”مکروا وکمر اللہ، واللہ خیر الماکرین“ کی۔ یاد رہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں لفظ ”توفی“ پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ صحیح بخاری میں ابن عباس کا مذہب متوفی بمعنی ممیک ہے۔ بے شک یہ ٹھیک ہے۔ مگر گفتگو اس میں ہے کہ اپنی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ: ”متوفیک ورافعک“ میں تقدیم و تاخیر ہے۔ کیونکہ حرف وادع مطلق جمع کے لئے آتا ہے۔ ترتیب کے لئے نہیں۔ چنانچہ مختصر معانی و مطول وغیرہ کتب میں لکھا گیا ہے۔ پس ابن عباس کا مذہب متوفیک بمعنی ممیک درست ہوا کیونکہ خدا صبح کو آسمان پر سے نازل کر کے وفات دے گا۔ ابن عباس کا مذہب دربارہ نزول صبح از آسمان مرزا قادیانی کی تمام قلمی کو کھول دیتا ہے جس سے ان کی تمام شچی کرکری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی جاہل یوں بکنے لگے کہ خدا کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ تقدیم و تاخیر سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ دھوکہ صرف انہیں ہوتا ہے جو اصول عربیت سے ناواقف ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ دیکھو مریم

علیہا السلام کو حکم ہوتا ہے: ”واسجدی وارکعی“ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے: ”نموت ونحیی“ حالانکہ قیاس ہر دو مشالوں میں برخلاف تھا۔ واضح رہے کہ اس قسم کا تقدم و تاخر بھی کئی فوائد پر مشتمل ہوتا ہے۔ علم بلاغت والے جانیں۔ مرزا قادیانی کو کیا خبر لیکن مرزا قادیانی بوجہ بے علمی اپنی کے لفظ ”متونی“ کا معنی مارنے والا عیسیٰ علیہ السلام کالے کر دعویٰ مسیح موعود کا بنا بیٹھے۔ جب اس میں مرزا قادیانی کو یہ مشکل درپیش ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی کہیں تلاش کی جاوے تو بہتر ہے۔ عرصہ دراز تک آپ کو یہ تلاش دامن گیر رہی آخر آپ کو کہیں سے سراغ ملا کہ کشمیر میں ایک قبر بنام یوز آسف یعنی بکمان مرزا قادیانی یسوع مشہور ہے۔ اس پر آپ کو موقع مل گیا کہ اسی قبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مشتہر کیا جائے۔ چنانچہ اس بہتان کو شائع بھی کر دیا۔ افسوس جب کوئی انسان جھوٹا دعویٰ عدالت میں دائر کرتا ہے تب اس کو کئی جھوٹی شہادتیں اور مواقع بنانے ہی پڑتے ہیں۔

مرزا قادیانی آپ کی تحریک ایک میری نظر سے گزری ہے۔ جس میں ایک شخص مخاطب تھا۔ اس تحریر میں آپ نے اس کو لکھا ہے کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ قرآن شریف سے ثابت کر دو تو میرے سب دعوے باطل ہو جائیں گے۔ لہذا خاکسار عرض کرتا ہے کہ اب آپ مشتہر کر دیں کہ میرے سب دعوے باطل ہیں۔ دیکھو مرزا قادیانی: ”ویل لكل اقلک انیم یسمع آیات اللہ

تتلی علیہم ثم یصر مستکبرا کان لم یسمعها فبشره بعذاب الیم (الجماعہ: ۸۷)

ہم اب حواریوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے حواریوں میں حکیم مولوی نور الدین صاحب ہیں۔ انہوں نے دعویٰ حواریت مرزا قادیانی میں دو غلطیاں کی ہیں۔ اول لفظ ”حواری“ عبرانی ہے۔ معنی اس کا دھوبی ہے۔ بے شک دھوبی نہیں۔ لہذا حکیم صاحب کا یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ دوم مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نہیں جو حکیم صاحب ان کے حواری بن سکیں۔ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ ثبوت نہیں۔ کیا کوئی آج کل عیسائی مذہب اختیار کرے تو حواری بن سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ جو لوگ زمانہ موجودگی عیسیٰ علیہ السلام میں ان پر ایمان لائے تھے۔ ان کو بھی حواری نہیں کہا جاتا تھا۔ بلکہ حواری وہی دھوبی تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں مدد دی ان کا خطاب ہے۔ ہم اس خطاب کو قرآن شریف سے ثابت کرتے ہیں۔ دو حواری عیسیٰ علیہ السلام نے شہر اٹھانہ میں توحید پھیلانے کے لئے بھیجے: ”اذارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما (تین: ۱۳)“ لیکن شہر والوں نے اس کی تکذیب کی۔ پھر تیسرا حواری بھیجا گیا۔ ”فغزنا بثالث“ خلاصہ بحث ہذا کا یہ ہے کہ ایک آدمی اس شہر

میں اول اول حواریوں کی تلقین سے خدا پر ایمان لایا جس کی خبر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان فرمائی ہے۔ دیکھو آیت ہذا: ”وجاء من اقصاء المدينة رجل يسعى قال يقوم اتبعوا المرسلين الخ (تیس: ۲۰)“ مگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایمان لانے والے پر بھی لفظ حواری استعمال نہیں کیا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حواری وہی دعویٰ تھے نہ پچھلے جو اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور توحید پھیلانے میں مدد دی۔ پس ثابت ہوا کہ نہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام ہیں نہ حکیم صاحب حواریت کا کوئی استحقاق رکھتے ہیں۔ بلکہ بخیاں خود وہ مسیح ہیں اور حکیم صاحب حواری نیز حکیم صاحب بخیاں خود گروپ انصار مرزا قادیانی اور مہاجرین بھی ہیں لیکن مرزا قادیانی اور انصار کی برکت سے اسلام کو یہ فائدہ تو بے شک ہوا کہ پندتوں اور عیسائیتوں نے اسلام اور بزرگان اسلام کی اپنی تصانیف میں سخت جھوٹ لکھیں اور گالیاں دیں۔ میرے محسن حکیم صاحب دیکھو خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے: ”ومن اظلم فمن اقرن علی اللہ کذبا۔ او قال او حی السی ولم یوح الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما نزل اللہ (الانعام: ۹۳) میرے محسن حکیم صاحب دعویٰ حواریت تو آپ کسی طرح کر ہی نہیں سکتے۔ رہا دعوے انصاریت لیکن وہ بھی صحیح نہیں اس لئے کہ لفظ انصار جہاں قرآن شریف میں آتا ہے وہاں مراد ان لوگوں سے ہوتی ہے جو کہ وہ پہلے کافر تھے پھر وہ ایمان لائے۔ خدا اور رسول پر پھر انہوں نے پیغمبر صاحب کو مدد دی توحید پھیلانے میں۔ کس طرح کی مدد یا تو تلوار سے مخالفوں کو مارا یا مالی مدد دی۔ پھر کہ جبکہ حضرت ﷺ پر نہایت سختی کا وقت تھا۔ دیکھئے آیت: ”لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد ینزع قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم (التوبہ: ۱۱۷)“ چونکہ آپ مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ آپ کے والدین مسلمان خاندانی تھے۔ پھر آپ نے کوئی مدنی سبیل اللہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ کو مالی یا بدنی نہیں دی۔ پس ثابت ہوا کہ آپ کا دعوے انصاریت بھی غلط ہے۔ حکیم صاحب نے دعویٰ مہاجریت میں بھی دو غلطیاں کی ہیں۔ اول مہاجر اصطلاح اسلام یا یوں کہو کہ قرآن شریف میں ان غنصوں پر بولا جاتا ہے جنہوں نے پیغمبر صاحب ﷺ کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی۔ غلطی دوم جنہوں نے ہجرت آنحضرت ﷺ کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف کی ان کو اصحاب بھی بولا جاتا ہے۔ نہ تو حکیم صاحب نے حضرت کے ساتھ ہجرت کی۔ نہ اصحابی کا خطاب پایا نہ پہلے سے مکہ معظمہ کے رہنے والوں کی طرح کافر تھے۔ بلکہ قدیمی مسلمان خاندان



شہر بحیرہ کے باشندے نہ مکہ کے پر جموں سے قادیان میں آنا پہلا ہجرت اصحاب کے ساتھ کیا مشابہت رکھتا ہے۔ دیکھو تعریف مجاہدوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”والذین امنوا من بعد حاجر و او جاهد و امعکم فاولئک منکم (الانفال: ۷۵)“ کیا کوئی یواہوس اپنا نام احمد یا محمد مشہور کرے تو وہ پیغمبر ہو سکتا ہے۔ کیا حکیم نام رکھنے سے حکمت آ سکتی ہے۔ کیا مولوی نام رکھنے سے علم پڑھا سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

پس ثابت ہوا کہ نہ حکیم صاحب معانی قرآن شریف سمجھتے ہیں اور نہ آپ کے پیر مرشد اور دیکھئے شروع قرآن میں پروردگار فرماتا ہے: ”ایک نعبد و ایک نستعین“ اگر ہر دو صاحب ”ایک نعبد و ایک نستعین“ کے معانی سمجھے تو مرزا قادیانی دعاوی افتراء کرتے اور نہ حکیم دعوے حواریت انصاریت، مجاہدیت۔ ”تعالیٰ عما یقولون“ کوئی شک نہیں کہ آیات ہذا حکیم صاحب و مرزا قادیانی کے حسب حال ہیں: ”اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون (البقرہ: ۱۷۷)“ ”ایضاً: ”و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتُموا الحق انتم تعلمون (البقرہ: ۴۲)“

نوٹ: یاد رہے کہ ہم نے اس غرض کے متعلق آیات بلکہ تمام اغراض کے متعلق آیات کل بیان نہیں کئے۔ صرف بطور نمونہ دکھائے ہیں۔ اگر ایک غرض کی تمام آیات اور تفصیل بھی پوری کی جائے ہو جب نشاء قرآن شریف کے تو ایک غرض سے ہی کتاب بنتی ہے۔

غرض ششم اختلافات یہودی القتل والصلب کے بیان میں

ناظرین! گو غرض پنجم مکر یہود میں عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء بخشد عضری ثابت کر چکے ہیں۔ مگر یہ نہیں دکھلایا کہ دوسری جگہ قرآن شریف میں پارہ ۶ سورہ نساء رکوع اول میں: ”و ما قتلوه و ماصلبوه“ خدا تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمانہ آنحضرت ﷺ یہود مختلف اعتقاد رکھتے تھے۔ بعض یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہوئے اور اور بعض یقین رکھتے تھے کہ مصلوب ہوئے ہیں۔ شروع رکوع میں اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو متنبہ کرتا ہے کہ یہود تمھ کو سوال کرتے ہیں یہ کہ اتارے تو کتاب آسمان سے پس تحقیق سوال کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تیرے سوال سے زیادہ۔ یعنی یہودیوں سوال کرتے تھے کہ دکھاؤ ہم کو اللہ رو برو: ”یسئلون اهل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك..... الخ (النساء: ۱۵۳)“

اب ناظرین کو خلاصہ مضمون رکوع ہذا دکھاتے ہیں تاکہ: ”وما اقتلوه  
 وماصلبوه“ کا مطلب حل ہو جاوے۔ وہ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ  
 السلام کو سوال کرتے تھے کہ تو خدا ہم کو ظاہر دکھا دے تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ  
 السلام نے اس سوال کو قبول کیا اور چند آدمی یہودیوں کے منتخب کر لئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام  
 کے ساتھ خدا کے دیکھنے کے لئے کوہ طور پر گئے۔ یہ مفصل قصہ سورۃ اعراف میں ہے۔ پھر وہ تجلی  
 باری تعالیٰ سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہوش میں آئے۔ لیکن  
 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر خدا تعالیٰ نے ان پر پہاڑ طور کو اٹھا کر گرانے  
 لگا۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اگر یہ پہاڑ رک جاوے تو ہم تم پر ایمان  
 لے آئیں گے۔ علیٰ ہذا کئی ایک عہد ہلکیاں اسی قسم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں  
 نے کی تھیں۔ پس اسی واسطے اس رکوع میں پروردگار نے علت بیان فرمائی ہے کہ یہودی بیوقافوم  
 ہے۔ اس واسطے ان پر احکام شرعی سخت کئے گئے۔ پھر ان کی بے وفائیاں اور عیوب متعدد میں سے  
 وہ عیب عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بیان فرمائے۔

عیب اول .....: ”وبکفرهم وقولهم علیٰ مریم بہتاناً عظیماً (النساء: ۱۵۶)“ اے  
 ناظرین آپ کو یاد رہے کہ یہودیوں کے عیبوں میں اے اللہ تعالیٰ نے ایک عیب بیان فرمایا ہے  
 جس کو مرزا قادیانی نے یہودیوں کی طرح قائم رکھا ہوا ہے۔

عیب دوم .....: یہود کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کرایا۔ چنانچہ یہی اعتقاد ان کا  
 اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے: ”وقولهم انما قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول  
 اللہ (النساء: ۱۵۷)“ یہ اعتقاد یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھا۔ چونکہ یہ اعتقاد صحیح نہ تھا  
 لہذا پروردگار نے رد اعتقاد مذکورہ بالا پر یہ آیت فرمادی: ”وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه  
 لهم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، مالہم بہ من علم الاتباع الظن  
 وما قتلوه یقیناً بل رفعہ اللہ وکان اللہ عزیزاً حکیماً (النساء: ۱۵۸)“

آیت ہذا سے یہ امور ثابت ہوتے ہیں۔ اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا نہیں  
 گیا۔ دوم مصلوب بھی نہیں ہوا۔ سوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شک میں کوئی اور شخص پکڑا  
 گیا۔ چہارم جو لوگ مارے جانے یا قتل ہو جانے کا یقین کرتے ہیں۔ وہ تابع ظن کے ہیں یعنی ان  
 کے پاس کوئی سند نہیں اگر ہے تو وہ غلط ہے۔ پنجم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے اپنی طرف  
 اٹھالیا ہے۔ ششم: ”وکان اللہ عزیزاً حکیماً“ یہ آیت جو امع الحکم اس مقام پر آیا کرتی ہے

جہاں انسان یہ گمان کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا حکم کس واسطے بھیجا ہے۔ یا ایسا کیوں کیا ہے۔ یہی اعتراض بل رفہ اللہ میں ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ کیوں اٹھالیا تو اس کے جواب میں یہ جوامع الکلم آیا ہے کہ خدا تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ چڑھانے یا اٹھانے کی وہی حکمت جانتا ہے۔ اے ناظرین! آپ کو ثابت ہو گیا ہوگا کہ واقعی اعتقاد مرزا قادیانی اور یہود میں کوئی فرق نہیں: ”ویل یومئذ للمکذبین“  
 غرض ہفتم مبہلہ مخالفین کے بیان میں

ایک امر بحث طلب ہے جب تک اس امر کا بیان نہ کیا جاوے تب تک غرض مبہلہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ ہے مبہلہ کیوں ہوا۔ اس لئے کہ یہود بعض کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب اور بعض کہتے تھے مقتول ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناجائز فطرتی ہونے پر کامل یقین تھا۔ برخلاف یہود کے نصاریٰ بعض حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا اور بعض خدا کا بیٹا اور بعض تثلیث کو مانتے تھے۔ علیٰ ہذا یہود بعض عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے تھے اور بعض درویشوں کو ارباب بنا بیٹھے تھے۔ چونکہ غایۃ الغایۃ کتاب الہامی کا توحید سے ثابت کرنا تھا اور یہ دونوں تو میں کفر پر ثابت قدم نہیں لہذا پروردگار نے حضرت محمد ﷺ کو مامور کر کے دونوں قوموں کی تردید اعتقاد کے لئے مبعوث کیا۔ لیکن انہوں نے اپنے اپنے اعتقادات باطلہ کو نہ چھوڑا بلکہ کذاب مفتری شاعر مجنوں کا خطاب دیا۔ چونکہ آنحضرت ﷺ ای تھے۔ لہذا علماء یہود اور نصاریٰ نے اپنا اپنا اعتقاد مذکورہ بالا اظہار کیا۔ چونکہ یہ سب اعتقادات برخلاف اصلیت اور برخلاف توحید تھے۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے ان کے اعتقاد کو رد کیا۔ تب یہود اور نصاریٰ عالموں نے مشورہ کر کے اصلیت قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بحث کی۔ جو سوالات دونوں قوموں نے آنحضرت ﷺ پر جس جس بارہ میں کئے۔ ان کے جواب میں پروردگار نے بذریعہ وحی جبرائیل علیہ السلام نازل فرمائے۔ مگر پھر بھی انہوں نے حق کو اختیار نہ کیا۔ یعنی یہود بہتان سے باز نہ آئے اور نصاریٰ اپنے اعتقاد سے باز نہ آئے۔ ہر دو فریق اپنے اعتقاد افراط اور تفریط میں قائم رہے۔ لہذا پروردگار نے حکم مبہلہ کا آنحضرت ﷺ کو ارشاد فرمایا: ”فمن حاجک فیہ من بعد ماجاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابنہ نلو ابنہ کم ونسأنا ونسأکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین (آل عمران ۶۱)“، لیکن مخالفین نے مبہلہ کو بھی اختیار نہ کیا اور ساتھ ہی پروردگار نے قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی اور معبود واحد کی تصدیق کی۔ چنانچہ میرے مضمون مذکورہ بالا کی آیت ہذا صدق ہے: ”ان هذا لہو القصص

الحق ویا من الہ الا اللہ، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، فان تولوا فان اللہ علیہ بالالمفسدین (آل عمران: ۶۳، ۶۴)۔ جب دونوں قوموں نے مہلکہ کو اختیار نہ کیا اور اپنے اعتقادات باطلہ سے بھی باز نہ آئے۔ تب اللہ نے یہ فرمایا: ”قل یا اہل الکتاب نعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ و لانشرك به شیئا و لایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون (آل عمران: ۶۴)۔ یہی جھگڑا مختلف صورتوں میں دور تک چلا جاتا ہے۔ پس نتیجہ بحث ہذا کا یہ ہوا کہ دونوں قوموں میں یہود اور نصاریٰ نے اپنے اپنے اعتقادات باطلہ کو نہ چھوڑا۔ جس طرح مرزا قادیانی اب یہودیوں کی طرح اعتقاد نہیں چھوڑتے۔

غرض ہشتم اختلافات اعتقادات نصاریٰ بحق عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں اے ناظرین! یہاں آیت میں اعتقاد و نصاریٰ و روا اعتقاد بیان کئے جاتے ہیں۔

اول..... وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے تھے: ”وقالت النصارى المسيح ابن الله (التوبہ: ۳۰)“ جواب: ”ذلك قولهم بافواہم“

دوم..... جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتے ہیں: ”لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم (المائدہ: ۷۲)“ جواب: ”ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل (المائدہ: ۷۵)“

سوم..... اعتقاد تثلیث: ”لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة (المائدہ: ۷۳)“ جواب: ”لا تقولوا ثلثة“

غرض نہم احسان باری تعالیٰ کے بیان میں

”اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلی والدتك اذا ایدتك بروح القدس، يكلم الناس فی المهد وکھلا واذ علمتک الکتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين کھیة الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی وتیری الاکمه والابرص باذنی، واذ اخرج الموتی باذنی واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جنتهم بالبینات فقلل الذین کفروا منهم ما هذا الا سحر مبین (المائدہ: ۱۱۰)“

اے ارباب بعیرت مذکورہ بالا آیات سے آپ کو ثابت ہو گیا ہوگا کہ تمام معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح ہیں۔ کیونکہ اس موقع پر بطور احسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نیز ایک ان احسانوں میں سے احسان بندہ رکھنے بنی اسرائیل کا بیان فرمایا جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مطلوب ہوئے اور نہ منظور ہوئے: ”وَاذْكَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ“ آیت ہذا سے تین امر ثابت ہوئے اول مگر یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بچایا۔ دوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مجھ سے دکھائے۔ سوم یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجھڑوں کو سحر کہا۔ یہی عقیدہ تمام تصنیفات مرزا قادیانی میں پایا جاتا ہے۔ پھر ناظرین غور فرما سکتے ہیں کیا اعتقاد مرزا قادیانی اور یہود میں کچھ فرق ہے؟ بے شک مرزا قادیانی کو اگر علم ہوتا تو یہ دعویٰ ہرگز نہ کرتے۔

غرض وہم..... سوال باری تعالیٰ بروز قیامت

”وَاذْأَقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَاهِي الْهَيْبِنَ“ اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو پکڑو مجھ کو اور ماں میری کو دو موجود: ”مَنْ دُونَ اللَّهِ، قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ“ سو اللہ کے کہے گا پاکی تجھ کو نہیں واسطے میرے یہ کہ کہوں میں وہ چیز کہ نہیں واسطے میرے لائق: ”فَلَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْ كُنْتَ عَلَّمَ الْغَيْبُوبَ“ اگر میں نے کہا ہوگا یہ ان کو بس تحقیق جانتا ہوگا تو اس کو جانتا ہے تو جو کچھ خیال میرے کے اور: ”مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّاقِبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَيَّ كَلِمٌ شَيْءٌ شَهِيدٌ (المائدہ: ۱۱۷، ۱۱۸)“ اس کے یہ کہ عبادت کرو اللہ کو پروردگار میرے کو اور پروردگار اپنے کو اور نہیں اور پران کے شاید جب تک رہا میں سچ ان کے جب اٹھالیا تو نے مجھ کو تو ہے نگہبان اور پران کے۔

ناظرین پر عملی نہ رہے کہ مذکورہ بالا آیات جو کہ بطرز سوال و جواب یعنی سوال باری تعالیٰ اور جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذکور ہوئے ہیں۔ ان میں تین امر بحث طلب ہیں۔  
امر اول..... اسی رکوع سورۃ مائدہ میں یہ سوال جواب کیوں ہوئے۔

امر دوم..... پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام کو شروع میں یہ کیوں فرمایا تو نے کہا تھا لوگوں کو پکڑو مجھ کو اور والدہ میری کو دو موجود سو اللہ کے۔

امر سوم..... مضمون سوال جواب باری تعالیٰ کی غرض کیا ہے۔ اگر ہم ان کو مفصلاً بیان کریں تو یہ بھی ایک کتاب بن جائے گی۔ لہذا صرف لفظ ”تو جیسی“ کا مطلب ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ

معنی ”توفیقی“ کا اگر اس جگہ میں اٹھالینا عیسیٰ علیہ السلام کا جسدِ عسری نہ ہوتا تو ضرور لفظ موت کا بیان استعمال ہوتا۔ اس لئے کہ یہ لفظ مشتبه المعنی تھا۔ جیسا کہ ہم اسی لفظ کو بہت معنوں کے لئے قرآن شریف میں غرضِ پنجم مکر یہود میں مفصلاً دکھا چکے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ ”توفیقی“ کا معنی قصہ عیسیٰ علیہ السلام میں فوت ہونے کا نہیں۔ معاذ اللہ فوت ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں کا اعتقاد تھا۔ ذرا اہل اسلام کا۔ دوم رکوع ۱۶ جس میں ہم بحث کر رہے ہیں اور رکوع ۱۵ جو ماقبل ۱۶ کے ہے۔ اس میں پروردگار نے اپنے تمام احسانات جو عیسیٰ علیہ السلام پر کئے ہوئے تھے۔ بیان فرمائے۔ منجملہ احسانات میں سے ایک احسان عیسیٰ علیہ السلام کا مکر یہود سے پچنا ہے: ”اذ كففت بنی اسرائیل عنك“ پس آیت ہذا سے بھی ثابت ہوا کہ توفیقی کا معنی اٹھالینے کے ہیں۔ کیونکہ رکوع ۱۵ جہاں ختم ہوتا ہے اور رکوع ۱۶ شروع ہوتا ہے۔ وہاں وقف کافی ہے۔ یعنی مضمون ماقبل اور مابعد کا ملتا ہے۔

### حصہ دوم تکذیبِ قادینانی

#### فصل اول..... مسیح موعود بننے کی خود غرضیوں میں

خود غرضی اول دعویٰ مسیحیت میں۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ مسیحیت میں چار غلطیاں کی ہیں۔ غلطی اول..... مسیح کا لفظ عبرانی ہے۔ معنی اس کا جس کے ہاتھ لگانے سے لاعلاج مریض اچھے ہوں یا مردے زندہ ہوں۔ یہ اوصاف عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن شریف سے ثابت ہوتے ہیں: ”وابری الاکمه والابرص واحیى الموتى باذن الله (آل عمران: ۴۹)“ پس قرآن شریف سے مسیح کا صحیح معنی یہی ثابت ہوا جو ہم نے بیان کیا ہے۔ نہ سیاحت جو کہ مرزا قادیانی نے سمجھے ہیں۔ قرآن شریف سے ثابت نہیں اور نہ ہی سیاحت موصوف کے لئے صفت ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی میں مسیحیت کے اوصاف نہیں تو دعویٰ کیونکر کر سکتے ہیں۔ اب ہم اسمِ مسیح کی غرض بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے زمانہ مسیح میں طبیبوں کا بڑا زور تھا۔ اور اپنے علم و تجربات کا ان کو نہایت گھمنڈ تھا۔ حتیٰ کہ صفات الوہیت کو دعویٰ طلب سے چھوڑتے جاتے تھے۔ چونکہ پروردگار کو اپنی قدرتِ کاملہ کا اظہار اور طبیبوں کو عاجز کرنا منظور تھا لہذا خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دو خواص بر خلاف فطرتِ انسانی کے بخشے۔ اول بن باپ پیدا ہونا۔ دوم شفا بے علاج اودیہ ہونا۔ یہ دونوں خواص طبیبوں کے نزدیک غیر ممکن تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت میں ممکن کیا اور فرمایا کہ یہ میری قدرتِ قادریت کا نشان ہے۔ جیسا کہ: ”وجعلناها وابنها آية للعالمین (الانبیاء: ۹۱)“ سے ثابت ہے۔

علیٰ ہذا موافق ضرورت زمانہ کے ہر پیغمبر کو خواص جدا جدا دیئے گئے۔ جیسا کہ زمانہ موسیٰ میں ساحروں کا زور تھا۔ ان کے عاجز کرنے کے لئے خواص ید بیضا اور عصا حضرت موسیٰ کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ساحران کو عاجز کیا۔ دیکھو: ”فغلبوه هنالك وانقلب وصاغرين والقی السحرة ساجدين قالوا منا برب العالمین۔ رب موسیٰ و ہارون (الاعراف: ۱۲۲، ۱۱۹)“ اور زمانہ آنحضرت ﷺ میں شاعروں کا زور تھا اور ان کے عاجز کرنے کے لئے حضرت رسول اللہ ﷺ امی خدا نے پیدا کئے جو ایک بڑے تعجب کی بات تھی۔ اس پر بھی مخالف شک کرنے لگے۔ جیسا کہ آیت ہذا سے ثابت ہوتا ہے: ”وقال الذین کفروا ان هذا الا فک ن افتراه واعانه علیه قوم اخرون (الفرقان: ۴)“ فرمان واضح ہو کہ یہ قول اللہ تعالیٰ نے کفار کا بیان فرمایا ہے۔ یہودی برخلاف کفار کے کہتے تھے کہ یہ قرآن کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ جیسا کہ پروردگار یہود کا قول بیان فرماتا ہے: ”واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لونها لقلنا مثل هذا ان هذا الا ساطیر الاولین (الانفال: ۳۱)“ لیکن یہود کے رد میں پروردگار نے قرآن شریف میں بہت جگہ فرمایا ہے کہ ایک سورت لاؤ مثل اس کی۔ دس سورتیں لاؤ مثل اس کے۔ آخر یہ فرمایا کہ کہہ دے اے محمد ﷺ یہود کو کہ اگر اکٹھے ہوئیں تمام آدمی اور تمام جن اس غرض سے کہ بتاویں مثل اس قرآن کی۔ نہ بتا سکیں گے مثل اس قرآن کے۔ بے شک اگرچہ یہودی بعض ان کے واسطے بعض کے پروردگار۔ پھر کفار اور یہود تہمت شاعری کی آنحضرت ﷺ کو دینے لگے۔ اس کے جواب میں پروردگار نے تردید فرمائی کہ ہم نے اس محمد ﷺ کو شعر نہیں سکھایا اور نہ لائق ہے واسطے اس کے شعر کرے۔ نہیں وہ قرآن مگر نصیحت ظاہر: ”وماعلمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین (یس: ۶۹)“ ارباب بصیرت پر مخفی نہ رہے کہ معجزہ اور خواص میں صرف لفظی فرق ہے۔ مثلاً اگر امر غیر ممکن یعنی خارق عادت پیغمبر سے صادر ہو تو اس کا نام معجزہ ہے۔ اور اگر وہی کسی ولی اللہ سے ظاہر ہو تو اس کا نام کرامت ہے۔ اگر یہی فعل حکیم سے صادر ہو تو اس کا نام حکمت ہے۔ اگر یہی فعل عام آدمی سے صادر ہو تو اس کا نام دانائی ہے۔ اگر یہی فعل کسی مخالف شرع سے صادر ہو تو اس کا نام استدراج ہے یا سحر۔ پس جو لوگ معجزوں کے منکر ہیں۔ حقیقت میں ان کو علم خواص الاشیاء کا نہیں۔ جب اختلاف فطرت ہم مشاہدہ سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر معجزہ سے انکار کرنا علانیہ فطلی ہے۔ اب ہم اختلاف فطرتی بالمشاہدہ بیان کرتے ہیں مثلاً سنگ متناطیس کا حدید کو جذب کرنا بوٹی لاجوتی کا سیاہ مرد سے

مرجمانا۔ مچھلی کا خشکی میں مرنا۔ سم الفار کا حیوانات کے لئے قاتل ہونا۔ تریاق کا رفع سم کے لئے مفید ہونا۔ تمباکو ہر مہیہ کا منگھس ہونا۔ حب الملوک کا مسہل ہونا۔ الجنون کا قابض ہونا۔ پانیکا مبروآتس کا محرق ہونا۔ ایشیوں کا بغیر حج کے نمو کرنا۔ طوطا ینا کا کلام کرنا۔ عورت کا بے ریش مرد کا ریش دار ہونا۔ حیوان مکرور کا اپنے مادہ حاملہ کا تمیز کرنا۔ انسان کا تمیز نہ کرنا یہ سب بدیہی دلائل نقادوں فطرتی ہیں۔ اسی کا نام ہے۔ ”خناختہ الششی لوجد فیہ ولا یوجد فیہ غیرہ“  
 پس ثابت ہوا کہ مردوں کا زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا اور اژدھا عصا کا بنانا بدیہی کا خاصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اور شق القمر و معراج بجمد عصری کرنا حضرت محمد ﷺ کا خاصہ تھا۔ بے شک اللہ قادر ہے۔ ”ان اللہ علی کل شیء قدیر۔“  
 غلطی دوم..... مرزا قادیانی مسیح اسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبل از تولد خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ دیکھو آیت ہذا: ”یا مریم ان اللہ ینشئک بکلمۃ منہ سمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم (آل عمران: ۴۵)“

اور ساتھ ہی یہ صفات بھی خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بیان فرمائے ہیں۔  
 عزت والا دنیا و آخرت میں۔ مقرب تولد کے روز ہی بائیں کرنے والا۔ نیوکار واقف خواص الاشیاء۔ ثورات اور انجیل کو بغیر پڑھے پڑھنے والا پیغمبر نبی اسرائیل کا۔ خدا کے اذن سے جانور پیدا کرنے والا۔ مادرزاد اندھوں کو اچھا کرنے والا۔ سخت برص کو اچھا کرنے والا۔ بفضل اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا۔ بلفظ کھائی گئی چیزوں کا بتانے والا۔ بلفظ پوشیدہ چیزوں کو بتانے والا۔ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے یہ صفات عطا فرمائی ہیں۔ اسی واسطے نام مسیح رکھا ہے۔ جو اسم بائیس ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کا نام غلام احمد ہے۔ کیا آپ کے نام کوئی سورۃ ہے۔ کیا آپ کی والدہ کے نام کوئی سورۃ ہے۔ کیا آپ کی والدہ ماجدہ کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ ہم اس لئے پوچھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام کی خدا تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ تعریف بھی ایسی کی کہ کسی اور پیغمبر کی والدہ یا بیوی کی نہیں کی۔ دیکھئے آیت ہذا:  
 ”واذا قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفک وطہرک علی نساء العالمین (آل عمران: ۴۲)“  
 پس ثابت ہوا کہ آپ ہی اپنا نام رکھنے والے ہو۔ لیکن اپنے آپ نام رکھنے سے صفات نام کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس مسئلہ کو مثیلاً سمجھتے ہیں۔ مثلاً ایک بوالہوس اپنا نام واسرائے مشہور کرتا ہے۔ مگر نام واسرائے سے اختیار اصل واسرائے کے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ علی



ہذا! مرزا قادیانی دعوے مسیح سے صفات کے مدعی مسیح نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”ورسئولا الی بنی اسرائیل (آل عمران: ۴۹)“ بلکہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور جو کچھ اتاری گئی طرف ہمارے اور جو کچھ اتاری گئی طرف ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اولاد اس کی کے اور جو کچھ دے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور جو کچھ دی گئی پیغمبروں کو پروردگار اپنے سے اور کہو نہیں جدائی ڈالتے درمیان کسی کے ان میں سے اور کہو ہم واسطے ان کے فرمانبردار ہیں۔ دیکھو آیت ہذا: ”قولوا امننا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لانفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون (البقرہ: ۱۳۶)“

خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ ایمان اللہ کے ساتھ لایا جاوے پھر قرآن شریف کے ساتھ۔ پھر جو کچھ دے گئے تمام پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام اور کسی پیغمبر میں فرق بھی نہ کیا جاوے۔ سب کی اطاعت یکساں کی جاوے۔ مرزا قادیانی کیا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام پر بہتان لگانے کا حکم ہے جو آپ لگاتے ہیں؟

نظمی سوم..... مرزا قادیانی کو کوئی مشابہت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ نہیں جتنے نہ تو آپ قوم یہود میں سے ہیں۔ نہ آپ کا نام خدا کی طرف سے مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے۔ بلکہ نام غلام احمد ہے۔ غرض آپ کا دعویٰ قرآن شریف سے ہرگز سچا نہیں لہذا آیت ہذا کے آپ صدقاً ہیں۔ ”ویل یومئذ للمکذبین“

نظمی چہارم..... مرزا قادیانی! عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں خدا تعالیٰ فرمایا ہے۔ دیکھو آیت ہذا: ”ان هو الاعبدانعمنا وجعلناہ مثلابنی اسرائیل، ولونشاء لجعلنا منکم ملائکة فی الارض یخلقون۔ وانه لعلم للساعة فلا تمترون۔ بہا اتبعون هذا صراط مستقیم (الزمر: ۵۹، ۶۱)“ آیت ہذا سے پانچ امور ثابت ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان۔ یادگار بنی اسرائیل۔ صفات ملائکہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر آنا نشان قیامت ہے۔ اس زمانہ کے یہود پیغمبری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھر آنے کی نسبت مرزا قادیانی کی طرح منکر تھے۔ لہذا پروردگار نے: ”وانہ لعلم للساعة“ کے ساتھ: ”فلا تمترون بہا“ بھی فرمایا۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے

پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر آنا ضمیر بہا سے ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین کو مطلع رہے کہ ضمیر بہا کا مرجح علامت ہے نہ نفس عیسیٰ۔ یہی دلیل قوی ہے۔ پھر آنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لہذا پروردگار نے بعد اس کے: ”ہذا صراط مستقیم“ فرمایا۔ ناظرین غور کرو پھر غور کرو۔ مرزا قادیانی کے حق میں نہ تو خدا تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا۔ نہ منونہ واسطے بنی اسرائیل کے ہوئے اور نہ فرشتوں کی سی صفات دیئے گئے۔ نہ آپ کا آنا قیامت کا نشان ہو اور نہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی طرح خطاب کلمۃ اللہ و روح اللہ و صبح عطاء ہوئے۔ تو پھر آپ کا دعویٰ کیوں صحیح ہو سکتا ہے؟ ایضاً عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں کوئی اہل کتاب مگر ضرور ایمان لاوے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مرنے اس کے کے: ”وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته (النساء: ۱۵۹)“

مرزا قادیانی اپنے گریبان میں منہ ڈالو۔ آپ کے دعویٰ مسیحیت پر ابھی تک کوئی اہل کتاب بلکہ مسلمان بھی ایمان نہیں لائے۔ تقریباً آپ کی عمر ۶۰ یا ۶۱ سال کی ہوگی۔ نہ تو قیامت آئی نہ آپ پر کوئی ایمان لایا۔ بلکہ جب سے جناب کا دعویٰ مسیح موعود ہوا ہے تب سے طاعون آپ کی برکت کا نشان ہے۔ اور جو آپ کے الہاموں نے مسلمانوں کو فائدہ دیا ہے۔ خصوصاً الہام عبداللہ آتھم و لکھرام وہ تو اظھر من الشمس ہے۔ ناظرین کو مفصلاً سمجھایا جاتا ہے کہ جس روز عبداللہ آتھم تاریخ الہامی مرزا قادیانی فوت نہ ہوا۔ ہر شہر میں پادریوں اور پنڈتوں نے اسلام پر سخت ناجائز الفاظ استعمال کئے۔ خصوصاً گوجرانوالہ میں تو ایک مثل مرزا قادیانی بنا کر منہ سیاہ کیا اور اس کی پیشانی پر سفید حروف میں مرزا قادیانی تحریر کیا۔ پھر اس کو گدھے پر اٹھنے چڑھا کر تمام بازاروں میں باجوں کے ساتھ پھرایا۔ دوسرا الہام مرزا قادیانی لکھرام کی بابت اس الہام کا مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ہزاروں مسلمان بچوس لکھرام ناحق شہید ہو گئے اور مسلمان اور غیر صاحب دامل وغیرہ صاحب پر سخت ناجائز جھوکی گئی اور ہندوؤں اور عیسائیوں اور مسلمانوں میں سخت تفرقہ پڑ گیا جس کی بناء روز بروز ترقی پر ہے۔ دیکھو تصنیف امہات المؤمنین اور مکتب احمدیہ مؤلفہ لکھرام۔ ارباب بصیرت پر مخفی نہ رہے کہ بطنیل مرزا قادیانی اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر ضعف پہنچا ہے جس کو قلم تحریر نہیں کر سکتا۔ لیکن پادریوں اور پنڈتوں کو واضح رہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا یہ ہرگز منشاء نہیں جو مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ اگر قصور ہے تو مرزا قادیانی کا نہ مسلمانوں اور اسلام کا۔ کیونکہ مسلمان مولویوں نے تو مرزا قادیانی پر کفر کے فتوے دیئے ہوئے ہیں۔ مرزا قادیانی جی! اپنے گریبان میں منہ ڈالو۔ آپ کو کیا استحقاق ہے مسیحیت سے؟ آپ کے

دوست اور امان پر مرید حتیٰ کہ رشتہ دار جو کئی سال سے آپ کے جان فدا و مرضوں میں مبتلا ہیں۔ ایک تو ان کا پاؤں نہیں چلتا۔ دوسرا ایک آنکھ کی بصارت نہیں۔ جناب سے اتنے عرصہ میں ایک مرض بھی رفع نہ ہوئی۔ پھر افسوس ہے آپ کے دعویٰ مسیحیت پر اب آپ کو مناسب ہے کہ نفس امارہ کے برخلاف چلیں اور اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے مشہر کریں۔ میں صرف آپ کے دوزخ کے بچاؤ کے لئے کہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں کیا فرماتا ہے۔ ”ویل لکل افاک اثمیم . یسمع ایات اللہ تتلیٰ علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فیشرہ بعداب الیم (الجماعہ: ۸۷۷)“ ”ویل یومئذ للمکذبین“

خود غرضی دوم..... دعویٰ مہدویت مرزا قادیانی میں تین سوال پیدا ہوئے ہیں۔ اول اس وقت تین مدعی مہدی اور بھی سنے جاتے ہیں۔ مہدی سوڈان۔ مہدی کابل۔ مہدی کوسٹہ۔ چوتھا دعویٰ جناب کا ہے۔ نہ معلوم آپ سچے ہیں یا وہ۔ دوم۔ مرزا قادیانی کے معاچار دعوے ہیں۔ مسیحیت۔ مہدویت۔ امامیت۔ مجددیت۔ لیکن اس سے پہلے کسی نبی اور رسول نے نہیں کئے۔ سوم مرزا قادیانی کا بروزی طور پر رسولی دعوے بھی ہے اور ساتھ ہی قرآن شریف کا حوالہ دیتے ہیں۔ دیکھو: ”ومبشرا برسول یاتنی من بعد اسمہ احمد“ اسم احمد سے مرزا قادیانی اپنا اسم مبارک نکالتے ہیں۔ لیکن اس میں مرزا قادیانی نے تین غلطیاں کی ہیں۔ اول یہ کہ مرزا قادیانی کا نام غلام احمد ہے نہ کہ احمد۔ دوم مرزا قادیانی نے مانع اور مابعد آیت کا چھوڑ دیا اس لئے کہ دعویٰ میں نقص آتا تھا۔ ناظرین پر مخفی نہ رہے کہ یہ بحث جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ القف پارہ ۲۸ میں مذکور ہے۔ شروع سورۃ ہذا میں پروردگار مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ جو بات تم نہیں جانتے اس کا دعویٰ نہ کرو۔ دعویٰ کرنا بہت بری بات ہے نزدیک اللہ کے۔ اور بعد اس کے پروردگار نے قوم موسیٰ علیہ السلام کا حال تمثیلاً بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینی شروع کی تھی۔ بعض اس ایذا کے پروردگار نے قوم موسیٰ کو ایذا دی۔ یہ مفصل قصہ سورۃ اعراف و ماندہ و بقرہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام کی تمثیل بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمجھا رہے تھے کہ میں رسول اللہ کا ہوں۔ طرف تمہارے، ماننے والا ہوں واسطے اس چیز کے جو آگے میرے ہے تو رات سے اور خوشخبری دینے والا ہوں ساتھ اس پیغمبر کے جو آوے گا پیچھے میرے جو نام اس کا احمد ہے۔ پس جب آیا ان کے پاس پیغمبر ساتھ ظاہر دیلیوں کے کہا انہوں نے یہ جادو ظاہر ہے۔ دیکھو آیت ہذا: ”واذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول

اللہ الیکم مصداقاً لما بین یدی من التوراة ومبشراً برسول یاتی من بعدی  
اسمہ احمد (التف: ۶)“

ناظرین! یہ آیت خدا تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان کر رہا ہے کہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا۔ لیکن انکار عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سورہ مانکہ میں بیان ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو تہذیب سکھانے کے لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے پیغمبر کا انکار اور دعویٰ بے جا جس کا علم نہ ہو نہ کیا کریں۔ مابعد کی آیت میں پروردگار یہودیوں کو جو نیسائی مذہب رکھتے تھے ضمیر غائب کے ساتھ سمجھا یاد دلاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خردی تھی کہ میرے بعد پیغمبر احمد آئے گا جو کہ وہ محمد رسول ﷺ سے مراد ہے اور مابعد کی آیت کے حصہ میں اللہ تعالیٰ نصاریوں کو فرماتا ہے کہ جب پیغمبر احمد صلعم ان کے پاس احکام قرآن شریف لایا تو انہوں نے کہا کہ یہ سحر ظاہر ہے۔ یہ کیوں کہا۔ اس لئے کہ محمد ﷺ آی تھے۔ باوجود اُبی ہونے کے احکام قرآن شریف سناتے تھے۔ تو پیغمبر انکار پیغمبری آنحضرت ﷺ کو تہمت سحر کی دیتے تھے۔ دیکھو آیت ہذا: ”فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین“ آیت ہذا کی مابعد کی آیات پروردگار نے اس تہمت سحر کی تردید فرمائی اور اپنے مامور محمد ﷺ کی تصدیق فرمائی کئی ایک مثالوں میں۔ پس ثابت ہوا کہ اسم احمد سے مراد غلام احمد قادیانی نہیں ہے۔ ”ویل یومئذ للمکذبین“ غلطی سوم..... مرزا قادیانی اسم احمد، یس، ط، منزل، مدرّ حضرت ﷺ کے خدا کی طرف سے اسم خطابی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے ہیں۔ روح اللہ۔ کلمۃ اللہ۔ روح القدس۔ سبح۔ فرمادیں آپ غلام احمد کو ازا کر احمد کے مدعی بن بیٹھے۔ ایسے چھوٹے دعوے یہودی عالم کرتے تھے۔ دیکھو آیت ہذا: ”ویقولون ومن عند اللہ وما ہو من عند اللہ، ویقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون (آل عمران: ۷۸)“

خود غرضی سوم دعوے امامت میں

مرزا قادیانی نے دعویٰ امامیت تو کیا مگر غلط، کیونکہ امام کا معنی قرآن میں بھی ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”فنی انصام مبین“ پھر مرزا قادیانی قرآن کس طرح بن سکتے ہیں۔ دوم امام بمعنی پیغمبر بھی آیا ہے جیسا کہ: ”یوم فلا یدعو کل اناس بامامہم“ سے پیغمبر مراد ہے۔ بے شک مرزا قادیانی نے پیغمبری کا دعویٰ کیا مگر کوئی کتاب الہامی یعنی اسلامی کتاب نہیں لائے۔ لہذا دعویٰ صحیح نہیں۔ سوم بے شک نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اگر ان معنوں سے مرزا قادیانی امام ہیں تو بھی صحیح نہیں کیونکہ مرزا قادیانی تو کبھی جماعت کراتے ہی نہیں تھے۔ بلکہ

مرزا قادیانی کا امام مولوی عبدالکریم ہے لہذا بہت مناسب ہے کہ دعوے لامیت کو مولوی عبدالکریم کے حوالے کریں۔ چہارم ایک امام اور بھی ہوتا ہے جس کو مجتہد بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ امام اعظم۔ امام ابوحنیفہ۔ امام شافعی۔ امام مالک۔ امام احمد بن حنبل۔ چونکہ مرزا قادیانی نے بجز فساد کے شریعت محمدی میں کوئی اجتہاد نہیں کیا صرف دعویٰ نبی دعویٰ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تمام دعوے مرزا قادیانی کے چھوٹے ہیں۔ دعویٰ سچا وہ ہوتا ہے جس کو خدا سچا فرماوے۔ آؤ سچا مدعی دکھائیں:

”یسین . والقرآن الحکیم . انک لمن المرسلین (یسین: ۳۵۱)“

خود غرضی چہارم الہام دعائے بد میں

اے ناظرین! دشمن کی بددعا سے اگر خدا تعالیٰ اپنا قانون قدرت بدلنے لگتا تو جہاں فنا ہو جاتا۔ یہ مرزا قادیانی کے خلل دماغی کا نتیجہ ہے جو کہ وہ اپنے ناحق کو بددعائیں دیتے ہیں۔ افسوس کہ مرزا قادیانی خود غرضی کی وجہ سے حکم قرآن شریف کو بھول جاتے ہیں: ”والکاظمین الغیظ والعاظمین عن الناس واللہ یحب المحسنین (آل عمران: ۱۳۳)“ مرزا قادیانی کافر باطل لغو الہاموں سے اپنا اعمال نامہ کیوں خراب کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنا قانون قدرت نہیں بدلتا:

”ویدع الانسان باللبشر دعاه بالخبیر وکان الانسان عجولا (بنی اسرائیل: ۱۱)“

خود غرضی پنجم طاعون میں

مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ طاعون اس لئے ہندوستان و پنجاب میں پڑا کہ لوگ مجھے مسخ موعود نہیں مانتے۔ اس دعویٰ میں مرزا قادیانی نے تین، چار غلطیاں کی ہیں۔

غلطی اول ..... مرزا قادیانی کا دعویٰ قرآن شریف سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ وحی خود حکم:

”واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول“ کے برخلاف کر رہے ہیں۔

غلطی دوم ..... ہر بیماری کے لئے اسباب قدرتی ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ دیہات ہندوستان و پنجاب میں ایسے ہیں جہاں طاعون کا نام و نشان بھی ابھی تک نہیں ہوا اور انشاء اللہ بعض گاؤں ایسے محفوظ رہیں گے جو وہاں طاعون نہ ہوگا۔

غلطی سوم ..... مرزا قادیانی ہندوستان اور پنجاب میں ہزاروں گاؤں ایسے بھی موجود ہیں جو مرزا قادیانی کے نام و نشان سے بھی واقف نہیں لیکن طاعون سے تباہ اور ویران ہو گئے ہیں۔ مرزا قادیانی سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا خطا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں اپنے مریدوں کے محفوظ رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ حالانکہ ہر ایک شہر میں جہاں طاعون پڑا ہے۔ مرزائی لوگ بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ غالباً مرزا قادیانی اس کی وجہ تلاویں گے کہ وہ لوگ خالص الایمان نہیں

تھے۔ جیسا کہ وہ خود اس پیش گوئی میں بطور حفظ ماتقدم لکھ چکے ہیں۔ افسوس الغرض بیماری طاعون کے اصل اسباب سماوی اورارضی ہیں گو بعد اس کے کرم پیدا ہو جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی بددعا کا کوئی اثر نہیں۔ افسوس مرزا قادیانی خود غرضی کی وجہ سے دعوے قادریت خدا تعالیٰ کو بھی بھول گئے: "ان الله يفعل ما يريد۔ انه فعال لما يريد"

خود غرضی ششم وجہ تسمیہ دارالامان قادیان کے بیان میں

افسوس مرزا قادیانی نے یہ نہ سوچا کہ دارالامان کن معنوں میں بن سکتا ہے۔ موت حیات اور تکلیفات کا سلسلہ بدستور ہے۔ الغرض دارالامان اسم باکی نہیں۔ اے مرزا قادیانی اور دارالحرم ہے۔ وہ جس کو پروردگار نے دارالامان کے لفظ سے یاد فرمایا ہے۔ دیکھو: "واذ جعلنا البيت مشابہ للناس وامنا (البقرہ: ۱۲۵)" ایضاً: "ولامین البيت الحرام۔"

خود غرضی ہفتم اشاعت اشتہارات کے بیان میں

ہم اس کی تفصیل نہیں کرتے ناظرین خود غور فرما سکتے ہیں کہ اشاعت اشتہارات سوائے شہرت مرزا قادیانی کے مطلق کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟  
خود غرضی ہشتم چندہ مینار کے بیان میں

اے ارباب بصیرت مرزا قادیانی نے مسیح موعود کی تصدیق من گھڑت میں صرف اپنے آپ کو مصداق دوزخ کا نہیں بتایا۔ بلکہ مینار دینے والوں کو بھی ساتھ ہی زمرہ مبذین سے بنایا: "وان ذا القربیٰ حقہ والمسکین وابن لسبیل ولا تبنذرتبذیرا ان المبذیرین۔ کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لوبہ کفوراً (بنی اسرائیل: ۲۶، ۲۷)" اے مرزا قادیانی خدا کا حکم اول قرابتوں بعد مسکینوں بعد مسافروں کو خرچ کرنا فرماتا ہے۔ جناب کے قرابتیوں کی زمین بلکہ مکان بھی ان کے ڈپٹی مرزا عظیم بیگ مرحوم کے پاس رہن و بیع ہیں۔ اگر آپ خود غرض نہ ہوتے تو پہلے آپ قرابتوں پر احسان اور مروت فرماتے۔ یعنی آپ کے کذب و دعویٰ پر دلیل کافی ہے۔

خود غرضی نہم تصانیف کے بیان میں

اے ارباب بصیرت جائے غور ہے کہ احکام شرعی کے لئے مسلمانوں کو قرآن شریف حدیث فقہ کافی نہیں؟ پھر مرزا قادیانی کی تصنیف کی غرض وجہ معاش نہیں تو کیا ہے؟ بلکہ مرزا قادیانی بوجہ تصنیف خود حکم آیت کے مصداق ہیں: "ومن لم یحکم ما انزل اللہ فالنک ہم الکافرون (المائدہ: ۴۴)"

## خود غرضی وہم تجارت تصاویر کے بیان میں

اے مسلمانو! پروردگار نے قرآن مجید کو رفع شرک کے واسطے نزول فرمایا ہے۔ جا بجا قرآن شریف رفع شرک پر زور دیتا ہے۔ بلکہ سب گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کیا تصویر مرزا قادیانی بت۔ سواع یغوث۔ نر سے آپ لوگ کم سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی اور مرزا کے تصاویر پرستوں سے پوچھتا ہوں کہ سوائے مشرک بنانے کے تصویر مرزا قادیانی کیا فائدہ دیتی ہے؟ افسوس اگر مرزا قادیانی کو علم قرآن شریف ہوتا تو بذر ریہ تصویر اپنی کے لوگوں کو مشرک نہ کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے: ”یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان یشلبہم الذباب شیئا لایستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب (الحج: ۷۳)“ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ کو خلوص دل سے ایک جانو۔ خود مرزا قادیانی یا تصویر مرزا قادیانی نہ ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ وہ مکھی خدا کی پیدا کی ہوئی کوئی ان کی چیز لے جاوے تو چھڑا سکتے ہیں۔

## خود غرضی یا زہم کالج کاویانی کے بیان میں

صاحب بصیرت پر کیفیت کالج قادیانی مخفی نہیں۔ علاوہ تشہیر مذہب اختراعیہ۔ افتزائیہ۔ مرزائیہ کی تحم ریزی کی بناء ہے۔ اے اہل اسلام خود غرض عالم اور رویش خدا کیوں کہوں؟ کیونکہ یہ دونوں لوگوں کا مال کئی باطل طریقوں سے کھاتے ہیں۔ دیکھو خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: ”یا ایہا الذین امنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله (التوبہ: ۳۴)“

## خود غرضی دوازہم اتہام مریم علیہا السلام کے بیان میں

مرزا قادیانی مریم علیہا السلام کو اپنی قلم سے یہودیوں کی طرح لکھتے ہیں کہ: ”مس شیطان سے پاک نہیں۔“ دیکھو مقدر خلاصہ تکذیب میں۔ اور خدا تعالیٰ مریم علیہا السلام کے بارے میں فرمایا ہے برگزیدہ کیا تم کو اور پاک کیا تم کو جہان کی عورتوں پر۔ دیکھو آیت ہذا ”واذق الة الملائكة یمریم ان الله اصطفک ومطهرک واصطفک علی نساء العالمین (آل عمران: ۴۲)“ ناظرین! کیا مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے جس طرح مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں؟

## خود غرضی سیزدہم الہام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا قادیانی پیغمبر نہیں مانتے۔ ایک راست باز آدمی لکھتے

ہیں وہ بھی نیک باطنی کے لفظ سے نہ دلی اعتقاد ہے، اپنے رسالہ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ مس شیطان سے پاک نہیں۔ اور ریح السماء نہیں مانتے۔ بلکہ فوت ہو کر کشمیر میں مدفون قرار دیتے ہیں۔ یہی تمام اعتقادات یہود کے تھے۔ ان کی تردید ہم غرض پنجم، ششم حصہ اول میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ اعتقاد تو مرزا قادیانی کا ہے اور خدا تعالیٰ: ”وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین (آل عمران: ۴۵)“ ایضاً ”ورسولا الی بنی اسرائیل (آل عمران: ۴۹)“ فرماتا ہے۔

### فصل دوم..... مسیح موعود کی بے علمی کے بیان میں

مرزا قادیانی رسالہ دافع البلاء ورق اخیر جس پر کوئی نمبر نہیں دیا۔ متضاد کلمات اوصاف نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان فرماتے ہیں۔ جس کے پڑھنے سے ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو علاوہ بے علمی کے خلل دماغ بھی ہے۔ وہ متضاد کلمات یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں راست باز آدمی ہے۔ مگر راست بازی بھی ظنی طور پر نہ یعنی۔ شرابی۔ قاحشہ عورتوں کا مال کھانے والا۔ بے تعلق عورتوں سے تعلق رکھتا تھا۔ الغرض مش شیطان سے خالی نہیں۔ یہ کلمات تمام مرزا قادیانی کی عبارت رسالہ دافع البلاء کا خلاصہ ہے اور ساتھ ان بہتانوں کے یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت تحریر فرماتے ہیں: ”وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین (آل عمران: ۴۵)“ ارباب بصیرت غور فرمادیں افراط اور تفریط عبارت مرزا قادیانی سے خلل دماغ اور بے علمی آپ کو ثابت ہوگی۔ ایک طرف تو بہتانات مرزا قادیانی ہیں اور دوسری طرف شہادت باری تعالیٰ کی ہے۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ وہ: ”وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن مقربین“ فرماتا ہے۔ اگر مرزا قادیانی کو وجہا اور مقرب کے معنی آتے ہیں تو بہتان مذکورہ بالا نہ لگاتے۔ اے مرزا قادیانی مقرب کے معنی رسول کے ہیں۔ جیسا کہ شروع سورۃ واقعہ میں: ”اصحاب المیمنة واصحاب المشئمة (الواقفہ: ۸۰۹)“ اور مقربوں کی تقسیم سے صاف پیغمبری کے معنی ثابت ہوتے ہیں۔ ایضاً: ”ورسولا الی بنی اسرائیل“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مضمون بندے کی غلطی سے دوسرے نمبر میں دکھاتے ہیں۔

بے علمی دوم مسیح موعود از مضمون بندی قرآن شریف

ناظرین! کو ہم مرزا قادیانی کے متضاد تحریری بے علمی اول اور خلاصہ ترکیب میں دکھا



چکے ہیں۔ جس آیت کے حوالہ سے مرزا قادیانی کے نقطہ میں بے علمی ثابت کر چکے ہیں۔ اسی آیت سے پھر ہم مضمون بندی میں علمی پکڑتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے: ”وجيها في الدنيا والاخرة ومن المعزيين“ ختم آیت ہذا پر آیہ گول (کا) دائرہ کا نشان اور اس پر لا کا نشان ہے۔ یہ ”لا“ کا نشان دلالت کرتا ہے نہ ختم ہونے معنوں پر۔ اگر مرزا قادیانی کو علم ہوتا تو باقی صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے اور باقی صفات یہ ہے: ”يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (آل عمران: ۴۶)“ ایضاً ”ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل (آل عمران: ۴۸، ۴۹)“ یہاں تمام صفات ختم ہوتے ہیں۔

بے علمی سوم مسیح موعود اور قوا ائد قرأت

جس آیت میں ہم پہلے دو قسم کی بحث کر چکے ہیں۔ اسی آیت میں پھر مرزا قادیانی کی بے علمی قرأت میں دکھاتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے: ”وجيها في الدنيا والاخرة ومن المعزيين“ ختم آیت پر جو نشان گول ”و“ دائرے کا ہے۔ جس نشان کو نشان آیت اور وقف بھی کہتے ہیں۔ یہ وقف اور اس کے مابعد کے وقف کافی دور تک چلے جاتے ہیں۔ کافی وہ وقت ہوتا ہے جہاں معنی ختم نہیں ہوتے۔ اگر مرزا قادیانی کو علم قرأت ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں۔ تحریر کرتے۔ حضرت مرزا قادیانی کو مناسب ہے کہ پہلے دعویٰ مسیحیت کے علم قرآن سیکھیں۔ بعد اس کے استحقاق مسیحیت قرآن سے بیان کریں۔ ورنہ حیف ہے ایسے کذب دعوے پر کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”فنجعل العنة الله على الكاذبين (آل عمران: ۶۱)“

فائدہ: رفع شکوک عوام الناس کے بیان میں

عام لوگوں کا خیال ہے کہ مرزا قادیانی کے کئی عالم مرید ہیں۔ اگر فی الواقع مرزا قادیانی مسیح موعود نہ ہوتا تو مولوی مرید کیوں ہوتے۔  
جواب..... مولویوں کے مرید ہونے سے دعوے مسیح موعود کوئی قرآنی ثبوت نہیں۔

ناظرین! دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بعض مسلمان خود غرض عیسائی وار یہ ہو جاتے ہیں اور بعض ہندو عیسائی ہو رہے ہیں۔ غلطی ہذا آگے ایک مولوی خود غرض اور کئی بے علم اپنی بے علمی کی وجہ سے مرید مرزا قادیانی ہو رہے ہیں۔ لیکن جانے غور یہ ہے کہ دعویٰ مذکورہ بالا کی ہم قرآن شریف

سے تردید کر چکے ہیں اور ایسے عالموں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: ”یا ایہا الذین امنوا ان کثیرا من الاحبار والربیان بکالی کلکون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ (التوبہ: ۳۴)“ پس خود غرض مولویوں اور بے علم لوگوں کا مرید ہونا دعویٰ مسیحیت کا کوئی ثبوت نہیں۔ دیکھو حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی جو کہ بڑے حواری مرزا قادیانی کے ہیں۔ خاکسار نے ان کو سوال کیا کہ آپ مرزا قادیانی کو کس ثبوت سے مسیح موعود سمجھتے ہیں۔ جواب حکیم صاحب..... مرزا قادیانی کو الہام ہوتے ہیں۔

خاکسار..... الہام مسیحیت کی کوئی دلیل نہیں؟ اکثر لوگوں کی خواہیں بعض سچی اور بعض جھوٹی ہوتی ہیں۔ کئی الہام مرزا قادیانی کا ہم سنتے ہیں۔ کوئی اور دلیل جناب مسیحیت کی فرمادیں۔ حکیم صاحب مجھ کو قرآن شریف نہ آتا تھا۔ خصوصاً سورہ نجم۔ اگر ہم اب سورت نجم کو ۱۰۰ عالم میں بیان کریں تو دنگ ہو جائیں۔

خاکسار..... حضرت یہ تو کوئی مسیحیت نہیں۔ واقف قرآن ہندو ہو یا عیسائی سمجھا سکتا ہے جناب کوئی اور دلیل فرمادیں۔ حکیم صاحب کسوف اور خسوف رمضان شریف میں مہدویت مرزا قادیانی کا نشان ہے۔

خاکسار..... ممکن ہے کہ خدا کی زمین پر کوئی اور مہدی پیدا ہو گیا ہو۔ جناب کوئی اور دلیل فرمادیں۔ حکیم صاحب..... میں مرزا قادیانی کا عاشق ہوں۔

خاکسار..... حضرت میں نے اپنا اور آپ کا وقت ضائع کیا۔ عشق تو مرض ہے۔ میں دلیل مسیحیت پوچھتا ہوں۔

پس خاکسار یہ عرض کر کے رخصت ہوا۔ پس ناظرین کو ثابت ہو گیا ہو گا کہ مولوی مرید مرزا قادیانی کے بھی دعوے مسیحیت اور مہدویت کا کوئی ثبوت نہیں رکھتے۔

اعلان

چونکہ ہم دعاوی مرزا غلام احمد قادیانی کی تکذیب قرآن شریف سے ثابت کر چکے ہیں لہذا مرزا قادیانی کو مناسب ہے کہ دلائل استحقاق دعاوی قرآن شریف سے بیان کریں ورنہ عقیدہ یہودیہ، خیالیہ، وہمیہ، افتزاسیہ، اختزاسیہ، خود غرضیہ، بہتانہ سے توبہ کریں: ”وما ہون فی القرآن حق، وما علینا الا البلاغ“ فقط!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَنْ آمَنَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ كِتَابٍ غَيْرَ مُتَّبِعٍ  
مَنْ آمَنَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ كِتَابٍ غَيْرَ مُتَّبِعٍ

# حقیقت مرزا



حضرت مولانا محمد یعسوب رحمانی

### پسندیدہ اور نفی شدہ

برادران اسلام! صدمہ اور افسوس کی جگہ ہے کہ دشمنان اسلام آج اسلام کی فتح کئی کے لئے کس طرح اور کیسی کیسی ان تھک اور طبع کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف ہمارے بھائی مسلمان ہیں کہ خواب غفلت کی گہری نیند سو رہے ہیں۔ نہ ان کو اس کا خیال ہے کہ کتنے یتیم بچے ہمارے عیسائیوں کے شکار ہوئے اور کتنے جاہل مسلمان آریہ کے دام تزدیر میں پھنسے۔ کتنے بے خبر مسلمان قادیانیوں کے پرفریب جال میں آ کر گھس گھس گئے۔ غلامی کو چھوڑ کر مرزا قادیانی کے غلام بنے۔

مسلمانو! خواب غفلت سے بیدار ہو اور کمر باندھو اور اسلام کی خدمت کرو مسجد و انجمن دارالتلیخ قائم کرو۔ اور مبلغین ایسے علماء رہائی رکھے جائیں جو مذاہب باطلہ کا تقریر یا تحریر کریں اور مختلف زبانوں میں اسی کی اشاعت کریں اور اسلام کی سچی تعلیم پیش کریں۔

ان دشمنان اسلام کی سنی کو ملاحظہ فرمائیے۔ عیسائیوں کو دیکھے کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے صرف کر کے طبع اور لالچ دے کر جاہل اور مطلق مسلمان اور ان بچوں کے اور عورتوں کو عیسائی بنا رہے ہیں۔ حالانکہ جن کے مذہب کا اصل اصول تنکیت (یعنی تین خدا) اور کفارہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود مصوم اور نبی ہونے کے اپنی گناہ گار امت کے عوض صلیب دیئے جائیں۔ جس سے ان کی امت ہمیشہ کے لئے جہنم سے آزاد ہو کر جو چاہے کرے۔ نہ قیامت کا باز پرس۔ نہ جہنم کا ڈر) ہو ایسے عقیدے کے لوگ اسلام اور مسلمانوں اور خالص توحید پرستوں پر حملہ کریں۔ یہ ہمارے اسلام کی سچی تعلیم سے غفلت کا نتیجہ ہے۔

اسی طرح ہمارے پڑوسی آریہ ہیں جن کی بے اعتناء شرانگیزی نظر کیجئے۔ کہیں اپنا کالج بنا کر فن مناظرہ کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن مجید پر اعتراض کرنا سکھاتے ہیں۔ اور روپے صرف کر کے تبلیغ کے ذریعہ سے جاہل مسلمانوں کو شرمی کرتے ہیں۔ خدا کی شان نظر آتی ہے کہ جن کے مذہب کا بانی دیا بندہ سرتی اپنی مستند کتاب ستیا رتھ پرکاش میں یہ لکھا "۳۴ سوال انشور اپنے بھگتوں کے پاپ معاف کرتا ہے یا نہیں؟ جواب نہیں۔ کیونکہ اگر وہ پاپ معاف کرے تو اس کا انصاف جاتا رہے اور تمام انسان سخت پاپی ہو جائیں۔"

(ستیا رتھ پرکاش باب ساتواں ص ۲۳۹ مطبوعہ ستیا رتھ شریعتی آریہ پرتی ندھی سہیا پٹنا)  
اس مذہب کے پھر دوسروں کو شرمی کریں۔ تمہاری افسوس جن کا انشور اپنے بھگتوں

یعنی بزرگوں کے پاپ کو معاف نہیں کر سکتا اور معاف کرنے سے بے انصاف ہو جاتا ہے۔ یعنی پاپی ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو سدھی کر کے اس کے پہلے پاپ یعنی گناہ کو بائیسور سے معاف کر رہا انیسوری کو پاپی ٹھہراتا ہے۔

پھر تھوڑی دیر کے لئے مرزائیوں پر نظر ڈالئے اور ان کے جوش اور سرگرمی کو دیکھئے۔ اپنا کالج قائم کر کے انگریزی تعلیم کے ساتھ اپنے جدید مذہب کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا اپنے خیال خام کے موافق انگریزی ترجمہ کر کے اس کی اشاعت کرتے ہیں اور صرف کثیر کر کے یارپ وغیرہ میں اپنے جال پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر تبلیغ اسلام کے بہانے سے روئے وصول کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے جدید نجی مرزا قادیانی کے ایسے عقیدے اور اقوال ہیں۔ جو ہرگز کسی مسلمان کے نہیں ہو سکتے۔ اس جگہ میں مختصر امرزا قادیانی کے اقوال ان کی کتابوں کے حوالہ سے لکھتا ہوں۔

۱..... مرزا قادیانی خدا بھی ہیں اور اس کے بیٹے بھی اور انہوں نے نیا آسمان اور نئی زمین بنائی۔

(تذکرہ ص ۳۷۷ ص ۳۷۸)

”خدا قادیان میں نازل ہوگا“

(ابھرنی صد اول ص ۳۹)

اس ولدی (اسے میرے بیٹے میں)

”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عہد اللہ ہوں۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں وحی ہوں۔ اسی حال میں (جبکہ میں عہد خدا تھا) میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم کوئی نیا نظام دنیا کا بناویں۔ یعنی نیا آسمان اور نئی زمین بناویں۔ جس میں نے پہلے آسمان اور زمین اصالی میں بنائی۔ جن میں کوئی تفریق اور ترتیب نہ تھی۔ پھر میں نے اس میں جدائی کر دی اور جو ترتیب درست تھی۔ اس کے موافق ان کو مرتب کر دیا اور اس وقت اپنے آپ کو ایسا پاتا تھا۔ گویا میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے درلا (یعنی احمد والا) آسمان بنایا اور میں نے کہا: ”انسا زیننا السماء الدنيا بمصابیح“ پھر میں نے کہا ہم انسان کو نئی سے بنا دیں گے۔“

(آئینہ کلمات اسلام ص ۱۱۳ ص ۱۱۵ ص ۱۱۷ ص ۱۱۹ ص ۱۲۱ ص ۱۲۳)

۲..... ”مرزا قادیانی نے اہل دنیا کی تنگی دہدی لکھی اور خدا سے اس پر سرعہ رو شکاری سے وصل بھی کر لیا۔“

”ایک میرے نفس عبد اللہ نام پٹاری خوش گتہ رو ریاست پٹیلا کے دیکھتے ہوئے اور ان کی فکر کے سامنے یہ نشان الہی ظاہر ہوا کہ اول مجھ کو تنگی خود پر دکھایا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضاء و قدر کے اہل دنیا کی تنگی دہدی کے حلق اور تیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے

لئے لکھے ہیں۔ اور پھر مشیل کے طور پر میں نے خدائے تعالیٰ کو دیکھا اور وہ کاغذ جناب باری کے آگے رکھ دیا کہ اس پر دستخط کر دیں۔ مطلب یہ تھا کہ سب باتیں جن کے ہونے کے لئے میں نے ارادہ کیا ہے۔ ہو جائیں۔ سو خدائے تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کر دیئے اور قلم کے نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑا۔ اور معاً چھانٹنے کے ساتھ ہی اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے اور چونکہ کشفی حالت میں انسان بیداری سے حصہ رکھتا ہے اس لئے مجھے جبکہ ان قطروں سے جو خدائے تعالیٰ کے ہاتھ سے گرے۔ اطلاع ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے چشم خود ان قطروں کو بھی دیکھا اور میں رقت دل کے ساتھ اس قصے کو میاں عبداللہ کے پاس بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں اس نے بھی وہ تریتر قطرے کپڑوں پر پڑے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہ تھی جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی احتمال ہوتا اور یہ وہی سرخی تھی جو خدائے تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کپڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں جن پر وہ بہت سی سرخی پڑی تھی اور میاں عبداللہ زندہ موجود ہیں۔ وہ اس کیفیت کو حلقاً بیان کر سکتے ہیں کہ کیونکر خارق عادت اور اعجازی طور پر امر تھا۔“ (تزیان القلوب ص ۳۳، خزائن ج ۱۵ ص ۱۹۷)

ناظرین! یہ ہے مرزائیوں کے جدید نبی کا معجزہ اور ان کے خدا کے معجزہ خیر کرشمہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ بھی کسی کلکٹر وغیرہ کا اجلاس تھا جس میں پیشکار بن کر مرزا قادیانی درخواست ساتھ لیکر منظوری کے دستخط کرانے کو تشریف لے گئے اور حاکم بھی معاذ اللہ ایسے تمیز دار کہ قلم جھاڑ کر سرخی سے اس کے کپڑے تریتر کر دیئے پھر پیش کار پر جلدی سے دستخط کرانے کا رخ ہوا مگر عبداللہ بے چارے کا کیا قصور تھا۔ ”تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا“ خدا تعالیٰ ایسے خرافات سے بہت برتر ہے۔

اس پر بھی مولوی ثناء اللہ نے جب عبداللہ سے حلقاً پوچھا تو اس نے حلف سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔ ”۲۷ نومبر ۱۹۱۶ء کو اس میاں عبداللہ گواہ نے ہمارے سامنے اس کشف پر قسم کھانے سے انکار کر دیا۔“ (حاشیہ حقائق مرزا ص ۵)

### ۳..... مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت و رسالت

”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ اور مخاطبہ کرے کہ جو لحاظ کیت و کیفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہو اور اس میں پیشین گوئیاں بھی کثرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے پس ہم نبی ہیں۔ ہم پر کئی سالوں سے وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی انسان اس کے صدق کے گواہی دے چکے ہیں۔ اس

لئے ہم نبی ہیں۔“ (اخبار بدرقادیان مورخہ ۵ مارچ ۱۹۰۸ء ص ۲۱۸ کالم)

۴..... جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا

اس لئے وہ مومن نہیں ہے۔ ”جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیش گوئی موجود ہے۔ یعنی رسول کریم ﷺ نے خبر دی تھی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں بھی مسیح موعود آئے گا اور خدا نے میری سچائی کی گواہی کے لئے تین لاکھ سے زیادہ آسمانی نشان ظاہر کئے۔ اب جو شخص خدا اور رسول کے بیان کو نہیں مانتا اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نشانیوں کو رد کرتا ہے۔ تو وہ مومن کیونکر ہو سکتا ہے۔“

(حقیقت الوہی ص ۱۶۲، ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۸)

مرزا نیوشندے دل سے سوچا اور بتاؤ کہ وہ کون سی آیت کلام مجید کی مسیح موعود کے بارہ میں ہے کہ جس کی تکذیب سے مسلمان کافر ہو جائے اور جو مرزا قادیانی نے کسی آیت کو کھینچ تان کر اپنے اوپر منطبق کیا ہو تو ان کے من گھڑت معنی کے انکار سے کوئی کیونکر کافر ہو سکتا ہے۔ اور دکھاؤ کہ کون سی صحیح حدیث آنحضرت ﷺ کی ہے جس میں یہ پیش گوئی ہے کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام موعود اپنی امت میں آئے گا اور پھر وہ حدیث بھی متواتر ہونی چاہئے۔ جس کا منکر کافر ہو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم اسے ہرگز نہیں دکھا سکتے اور اسے بھی دیکھو کہ تمہاری تادیل ظلی و بروزی و امتی نبی کیسی بے معنی ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی مستقل نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں متوجہ ہو کر سنو۔ معجزات انبیاء علیہم السلام کے دعویٰ کے گواہ ہوتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے معجزات جو لوگوں نے جمع کئے ہیں۔ وہ بمشکل تین ہزار ہوتے ہیں اور جدید نبی اپنی زبان سے اپنے نشان یعنی معجزات کا تین لاکھ سے زیادہ ہونا بیان کرتے ہیں۔ زیادتی کو چھوڑ کر صرف تین لاکھ کو لو تو مرزا قادیانی آنحضرت ﷺ سے سو گنا بڑھ گئے۔ مرزا نیو کیا اب بھی امتی نبی کہو گے؟ ہرگز نہیں۔

مرزا قادیانی اور قرآن

مرزا قادیانی اور قرآن کے معنی صحابہ اور تمام امت محمدیہ کے خلاف بیان کئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیش گوئی کی تھی: ”مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد“ ﴿میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی کہ جو میرے بعد آنے والا ہے نام اس کا احمد ہوگا۔﴾

صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے آج چودہ سو برس تک تمام مسلمان یہ سمجھتے آئے اور لکھتے

آئے ہیں کہ یہ پیش گوئی آنحضرت ﷺ پر پوری ہوئی اور آپ کا نام احمد ہے لیکن مرزا قادیانی غلام احمد ہو کر یہ لکھتے ہیں کہ: ”وہ احمد میں ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے حق میں بشارت دی تھی۔“

ناظرین انصاف سے دیکھیں کہ کس قدر گستاخی مرزا قادیانی نے کی کہ غلامی کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے آقا کی جگہ پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہا! ”ان هذا لشیء عجیب۔“

اس جگہ میں نے صرف پانچ عقیدے مرزا قادیانی کے ان کی کتابوں سے دکھائے اور ایسے پختہ عقیدے ان کے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی کامیابیوں اور توہین ان کا شیوہ ہے۔ واضح البلاغ میں جیسا کہ ان سے مخاطب ہو کر مرزا قادیانی یوں کہتے ہیں۔

”اے جیسا تیری مشرتویا ربنا تسخ مت کوہ۔ دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس سجا سے بڑھ کر ہے۔“

(رواج البلاغ، ۱۳، خزائن ج ۸ ص ۲۳۲)

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ  
اس سے بجز غلام احمد ہے

(رواج البلاغ، ۱۳، خزائن ج ۸ ص ۲۳۰)

اور مرزا قادیانی نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ سید المرسلین عظیمین کی شان میں گستاخی کی اور ان کے عظیم الشان مجرہ قرآن مجید کی تہمت لگا دی (ابے گل اور بے گل ہوئے) کو توڑنا چاہا۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے۔ جس کا نام ابجاز احمدی رکھا ہے اور اس میں ایک عقیدہ پیش کیا ہے جس کا نام عقیدہ اتحاد ہے اس میں مشرک مرزا قادیانی کے تو جرم ہے۔

خسف القمور المنبوذون ان لسی

غسب القمور ان العسور لسن انتکور

اس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا

اب کیا تو انکار کرے گا۔ (۱۱۱۱ احمدی ص ۱۱، خزائن ج ۸ ص ۱۸۳)

ناظرین انصاف سے دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے آنحضرت ﷺ کے لئے چاند گرہن کا مجرہ لکھا اور اپنے لئے چاند گرہن اور سورج گرہن کا مجرہ جو بن کر تے ہوئے اپنے مخاطب یعنی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اب بھی تو انکار کرے گا۔ اب میں یہاں یہ دکھانا نہیں چاہتا کہ حقیقت میں خسوف آنحضرت ﷺ کا مجرہ تھا یا نہیں۔ صرف یہ دکھانا ہوں کہ مرزا قادیانی حضور ﷺ کی



شان میں کسی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ ترجمہ میں آپ کے لئے "ان کے لئے" نہیں لکھتے بلکہ "اس کے لئے" لکھتے ہیں اور آپ کی شان پر اپنی شان کو بیڑھا کر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جس کا ایک نشان ظاہر ہوا اس پر تو ایمان لاتے ہو اور اس کے دو نشان یکے با دیگرے ظاہر ہوئے ہوں اس سے انکار کرتے ہو۔

اب اس کو بھی دیکھئے کہ مرزا قادیانی قرآن مجید کی تحدی کو کس طرح نعوذ باللہ باطل کرتے ہیں۔ ذیل میں معائن کے ترجمہ کے لکھتا ہوں۔

وکلان کلام معجزایا

کذلک لس لول علی کل یبهر

اور اس کے معنوں میں سے مجوزان کلام بھی تھا اسی طرح مجھ کو کلام دیا گیا جو سب پر غالب ہے۔" (۱۸۳۱ء ہجری میں ماہ ذی القعدة ۱۲۵۰ھ میں ۱۸۳ء)

ناظرین امرزاد قادیانی کی گستاخی کو دیکھئے۔ پھر حضور کی شان میں اس کے "کلمہ اور کہتے ہیں کہ جس طرح حضور ﷺ کے مجوزان کلام قرآن مجید تھا اسی طرح میرے لئے یہ قصیدہ اچھا یہ ہے۔ قرآن کیا بلکہ تمام الہیاء کے مجوزان کلام ہوں تو مرزا قادیانی کا مجوزان کلام سب پر غالب ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک الہضوان۔ ہمارے محرم جناب مولانا تقی محمد صاحب قدیم بھی سو گھری (جو علماء فضل علمی کے بڑے شاہد ہیں۔ جن کی ادنی قابلیت تمام صوبہ بہار میں مسلم ہے۔ عربی کے مستند شاعر ہیں) آپ کا کلام بافت کلام قصائے عرب کی یاد دلاتا ہے۔ چنانچہ مولانا محمود نے مرزا قادیانی کے اس معنوی اچھا کرد و طرح پر باطل کیا ہے اور دونوں کو دو حصوں میں لکھا ہے۔ پہلے حصہ کا نام ابطل اچھا مرزا احمد اول ہے۔ اس میں تحویلی تمہید ہے جس میں قرآن مجید کا سپا اور ادنیٰ مجوزہ کلمے ہوئے مرزا قادیانی کا مجوزہ ظاہر کر کے پھر اس کے قصیدہ اچھا زبیر کی تمہید کی ہے اور اسی طرح پر ان کے اچھا کی قسمی کھول دی اور اس کی صریحی جوئی، بادی، عروسی اور ادنیٰ کی غلطیاں دکھائی ہیں اور سرگت حریرے آئی ہیں۔

چنانچہ مرزا قادیانی کے قصیدے کے پانچ سو تیس (۵۳۳) قصیدے ہیں اور غلطیوں کی تعداد بھی پانچ سو تیس (۵۳۳) ہی ہے۔ تقریباً کوئی شعر ان کا غلطی سے خالی نہیں ہے۔ قصیدہ کیا ہے چوتھی ہجرا کتاب ہے اور یہ حصہ اول ابطل اچھا مرزا اس کا ۱۳۳۳ء میں شائع ہوا ہے۔ اسے رجسٹری کر کے خلیفہ قادیان مرزا محمود کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اب ۱۳۳۲ء ہے کسی نے مرزا قادیانی کے اشعار سے ایک غلطی کو بھی نہ اٹھایا۔ دوسرے حصہ ابطل اچھا کی تمہید میں

مرزا قادیانی کے تینتیس (۳۳) جھوٹ گنائے ہیں اور یہ دکھایا گیا ہے کہ کن وجوہ سے مولانا کا قصیدہ مرزا قادیانی کے معنوی معجزہ پر فائق ہے۔ اس کے بعد چھ سو ستترہ (۶۱۷) اشعار کا قصیدہ عربیہ مع ترجمہ کے پیش کیا گیا ہے۔ جو ۱۳۳۷ھ میں چھپ کر شائع ہوا ہے۔ اسے بھی مرزا محمود خلیفہ قادیان کے پاس بھیجا گیا۔ اب تقریباً چھ سال ہوئے۔ اس پر بھی کسی نے کچھ نہ لکھا۔ چونکہ یہ دونوں حصے ضخیم ہو گئے اور لوگ پورا دیکھنے سے گھبراتے ہیں اور ان لوگوں کی ہمتیں بھی قاصر ہیں۔ اس لئے میں یہاں پہلے چند موٹی موٹی غلطیاں مرزا قادیانی کے قصیدہ اعجازیہ کی دکھاتا ہوں۔ پھر چند اشعار مرزا قادیانی کے اور اپنے مع ترجمہ مقابلہ سے لکھتا ہوں۔ حضرات علماء کرام اور ناظرین عظام انصاف سے اسے دیکھیں اور مرزا قادیانی کے اعجاز کی دادیں مرزائی بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری دردمندی اور ہی خواہی پر نظر فرما کر ٹھنڈے دل سے اسے دیکھیں اور غور کریں:

میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر

بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر

مرزا قادیانی کے قصیدہ اعجازیہ میں نحوی ادبی غلطی

..... مرزا قادیانی پیر مہر علی شاہ صاحب ساکن گلڑہ علاقہ پنجاب پر اپنے قصیدہ میں اظہار رنج و عتاب کرتے ہوئے گلڑہ کی زمین پر لعنت کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا شعر مع ان کے ترجمہ کے یہ ہے: "فقلت لك الويلات يا ارض جولد پس میں نے کہا اے گلڑہ کی زمین تجھ پر لعنت ہو۔"

"لعنت بملعون فاننت تدمر" (اعجاز احمدی ص ۷۵، جزائن ج ۱۹ ص ۱۸۸) تو ملعون

کے سبب سے ملعون ہو گئی۔ پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔"

عربی زبان میں ارض کا لفظ مونث ہے دیکھو۔ سورۃ ق (والارض

مددناہوا القینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل زوج بھیج) اور مرزا قادیانی ارض کے لئے صیغہ مذکر لائے ہیں۔ تو اس کی مثال یہ ہوئی اور اس کی ہاری آئی اور مان گیا۔

ناظرین! یہ ہے نئے نبی کا لوکھا معجزہ

..... ۳۸ "هناك دعوار بلكریما مؤیدا وقالوا احللتنا ارض رجز فنصبر"

(اعجاز احمدی ص ۳۲، جزائن ج ۱۹ ص ۱۵۳)

ارض رجز اضافت موصوف کی صفت کی طرف ہے اور یہ فصیح کلام میں نہیں آتا

اور ممنوع ہے۔ البتہ کوفیوں نے اسے جائز کہا ہے۔ جیسے صلوة الااولیٰ مگر اس جگہ یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ صفت موصوف میں مطابقت چاہئے۔ ارض مونث ہے اور رجز مکرر اس لئے کوفیوں کے

موافق بھی ارض رجز غلط ہے۔ گویا ”یوں ہونا شپاتی کی درخت۔“

۳.....۲۸ ”فصاروا بعد للرماح دریہ . ویعلمها احمد علی المدبر“

(اعجاز احمدی ص ۴۱، خزائن ج ۱۹ ص ۱۵۳)

علمہا میں ضمیر مونث مفعول ہے۔ اس کا مرجع کیا ہے اور جو پہلے مضمون کی طرف پھرتی ہو تو مذکر چاہئے۔ قائدہ یہی ہے اس لئے یہ غلط ہے۔

۴.....۵۰ وقیل لاملاہ الکتاب کمثله (اعجاز احمدی ص ۴۳، خزائن ج ۱۹ ص ۱۵۵)

قول کا صلہ لام کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن لام مقولہ پر نہیں لاتے بلکہ جس کو کہتے ہیں۔ اس پر لاتے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید: ”واذقلنا للملئکة اسجدوا واولنا لهم کونوا قردة خاسیئن“ اس لئے غلط ہو مرزا قادیانی یوں ہی کہہ دیتے: ”وقیل له امل الکتاب کمثله“ ایسی غلطیاں مرزا قادیانی کے قصدے میں سینکڑوں ہیں۔ نمونہ کے طور پر میں نے صرف چار دکھائے۔ جسے دیکھنا ہو وہ ابطال اعجاز حصہ اول دیکھے۔

مرزا قادیانی کے قصیدے میں قافیے کی غلطیاں

عیب اجارہ

۱۶۹..... ولاتحسب الدنیا کناطف ناطفی اتدری بلیل مسیره کیف تصبح

(اعجاز احمدی ص ۵۴، خزائن ج ۱۹ ص ۱۶۶)

مرزا قادیانی کے قصیدے کا قافیہ عمر مدثر وغیرہ ہے۔ اور آخر حرف ”را“ ہے۔ اس شعر میں ”را“ کو حرف بعید الخرج سے بدل کر حا کر دیا۔ اس غلطی اور عیب کو علم القوانی میں عیب اجارہ کہتے ہیں۔ اس سے تجھب اور پرہیز کرنا شعراء کے لئے ضروری اور فرض ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے حالی کی مشہور مناجات ہے۔ جس کا پہلا شعر یہ ہے۔

خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے

امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے

اس کا قافیہ دعا، پڑا، سدا، گدا، ہے۔ اب اگر شاعر کسی شعر میں آتے ہیں، جاتے ہیں،

کہہ دے تو کس قدر برا معلوم ہوگا۔

عیب اصراف

یعنی شعر کے آخر حرف کو جو پیش ہے وہ زبر سے بدل دیا۔ جیسے عمر مذکر ہے۔ اسے مجرا



مرزا قادیانی نے صرف دو شعر کہہ کر اپنا بتایا۔ پوری بھی عربی میں شعر کا صلہ علی نہیں آتا۔ بلکہ باکے ساتھ آتا ہے۔ شعراء یہ کہتے ہیں۔ جگ ہے صیہدہ امیرا ہا!

۲۰..... وکان طوی کشحا علی مستکنۃ۔ (۱۴۱۲ھ میں ۳۱ ذی الحجہ ۱۲۹۳ھ) اس کی اشوس مرزا قادیانی نے کہاں کہاں اپنا دست دراز کیا۔ ”لسان العرب“ (یہ لغت کی مشہور کتاب ہے) میں مسئلہ کی لغت میں عہدہ بن الطیب کا شعر اس طرح نقل کیا ہے۔

وکان طوی کشحا علی مستکنۃ۔ فلا هو ابدا ہا ولم یتحجم۔  
مرزا قادیانی نے مصرعہ اوٹی پورا چرایا۔ شاہاش! مرزا جنین کند۔

۱۵۲..... بلیل کموج البھر ارخی سدولہ تجلی وادری کل من کنان یبصر  
(۱۴۱۲ھ میں ۵۶ ذی الحجہ ۱۲۹۳ھ)

امراء اللیس صاحب مقلدہ والے کا شعر اس طرح ہے:

ولیل کموج البھر ارخی سدولہ۔ علی بانواع الہوم لیبتلہ!

مرزا قادیانی نے ”و“ کی جگہ ”ہا“ لکھ کر ایک حرف بدل کر اس المال کی صورت مسخ کر دی۔ اس پر بھی ہالگانے سے کلام مہمل ہو گیا۔ بلیل اگر مصرعہ سابقہ (فہم جھیل الوری لغز) کے جام کے متعلق ہے۔ تو معنی یہ ہونے کے قرآن مجید نعوذ باللہ تارکی کو لایا۔ یہ ہے مرزا قادیانی کا مجزہ اور اسی مجزہ پر دعویٰ ہے کہ قرآن کے اعجاز پر ان کا مجزہ غالب ہے۔ شرم، شرم، شرم۔ ناظرین نکل قیامت میں مرزا قادیانی کا دامن ہوگا اور ان شعراء کا ہاتھ اور بھی سرتے ہیں۔ اس مختصر تحریر میں کہاں تک لکھوں۔

مرزا قادیانی کا جھوٹ

۱..... ۳۸۳ ولو کنت کذابا لکما ہوزعمہم لقد کنت من دھراموت واقبر

(۱۴۱۲ھ میں ۶۵ ذی الحجہ ۱۲۹۳ھ)

ترجمہ مرزا قادیانی: ”اور اگر میں جھوٹا ہوتا۔ جیسا کہ ان کا گمان ہے۔ تو میں ایک مدت سے مرا ہوتا اور قبر میں داخل ہوتا۔“

ناظرین! انصاف سے بتائیے کہ آج دنیا میں جھوٹوں کو پیش و آرا م ہے۔ یا فوراً ہی تباہ و ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا۔ طاہرہ یورپ خدا کا انکار کرتے ہیں اور پھر بھی دنیا میں جہنم کرتے ہیں اور قرآن مجید میں آنحضرت ﷺ کو قسم ہوتا ہے: ”امہلہم ان کیدی میتن“ کافروں کو مہلت دیجئے۔ میں جلد باز نہیں۔ میرا داد گہرا ہے۔

ناظرین! غور فرمائیں کہ جب کافروں کو مہلت ملی تو جھوٹے اگر جھوٹ بول کر کچھ دن زندہ رہیں تو کیا تعجب ہے۔

۶۹۲.....۱ فان اک کذابا فکذبی یلبیدی نی وان اک من ربی فمالک تہجر  
(اعجاز احمدی ص ۶۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۷۸)

ترجمہ مرزا قادیانی: ”اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا جھوٹ مجھے ہلاک کرے گا اور اگر میں خدا کی طرف سے ہوں پس کیوں تو بے ہودہ گوئی کرتا ہے۔“

کس کو جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے لوگوں کی چشم بصیرت پر خاک ڈالنا چاہا ہے۔ اگر جھوٹے ہلاک ہوا کرتے تو آج دنیا میں جھوٹ کا وجود نہ ہوتا۔ یہ مرزا قادیانی تو طبیعی عمر کو بھی نہیں پہنچتے تھے۔ جو مرے بہت جھوٹے دنیا میں موجود ہیں اور ہوئے جو اپنی پوری عمر گزار کر یہاں سے رخصت ہوئے۔ ناظرین یہ ہے جدید نبی کا سیاہ جھوٹ۔

۲۹۸.....۳ تہام قتالی واجتنب ما صنعتہ واناذاجلنا فانک مدبر

(اعجاز احمدی ص ۶۶، خزائن ج ۱۹ ص ۱۷۸)

ترجمہ مرزا قادیانی: ”میری جنگ سے تو پرہیز کر اور اپنے بد کاموں سے الگ ہو جا اور جب ہم میدان میں آئے تو ہماگ جائے گا۔“

ناظرین! مرزا قادیانی مناظرہ میں ہمیشہ بھاگتے رہے۔ لاہور میں جب پیر مہر علی شاہ (جن کا ذکر اوپر ہوا ہے) نے مرزا قادیانی کو دعوت مناظرہ دیا اور فریقین نے تاریخ وغیرہ مقرر کی۔ جب تاریخ مقررہ پر شاہ صاحب لاہور پہنچے تو مرزا قادیانی غاردار، تارو یا گیا۔ مرزا قادیانی کے مریدین نے منت سماجت کی لیکن مرزا قادیانی ایسی چمکی لگائی کہ ”باید و شاید۔“ ملاحظہ ہو اخبار انجم مورخہ ۳۱ رمضان ۱۳۱۳ھ اور ایسا ایک ہی مرتبہ نہیں ہوا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب بھی حسب وعدہ مرزا قادیانی قادیان تشریف لے گئے۔ مرزا قادیانی کو بلایا گیا مگر یہ کب آنے والے تھے۔ جیلہ وحوالہ کر کے کھل گئے اور اپنی چار دیواری سے باہر تشریف نہ لائے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے۔

(الہامات مرزا ص ۱۲۳ تا ۱۲۹)

یہ ہیں مرزا قادیانی کے فرار اور بددیوار جھوٹ تعجب تو اس جرأت پر ہوتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی ہی میں مرزا قادیانی جھوٹ کی اشاعت کر کے چلے ہوئے۔ سچ ہے ”دروغ گوید بر دئے ایشان۔“ اور مرزا قادیانی نے بقول خود اپنی موت سے ثابت کر دیا کہ جھوٹے سچے کی زندگی میں اس طرح مرتے ہیں۔

۴۰۰..... وقد قيل منكم يلتين امامكم وذلك في القرآن نبأ مكرر

(اعجاز احمدی ص ۵۷، خزائن ج ۱ ص ۱۸۸)

ترجمہ مرزا قادیانی: ”اور تم سن چکے کہ تمہارا امام تم میں سے ہی آئے گا اور یہ خبر تو قرآن میں کئی مرتباً چکی ہے۔ مرزائی صاحبان بتائیں کہ یہ آیت قرآن میں کہاں ہے: ”یلتین امامکم منکم“ اور دعویٰ بھی مکرر ہے اور اگر نہیں ہے اور ضرور نہیں ہے تو میں آپ کو از روئے خیر خواہی کہتا ہوں کہ ایسے مفتزی علی اللہ پر ایمان لانے سے توبہ کیجئے: ”اللهم اهد قومی فاتهم لا يعملون“ ناظرین! یہ ہیں چودھویں صدی کے مسیح موعود کے سیاہ اور بد بودار جھوٹ اور خدا پر افتراء نعوذ باللہ من هذا الخرافات! صرف قصیدے میں مرزا قادیانی کے اور بہت جھوٹ ہیں۔ لیکن اس مختصر میں کہاں تک گنواؤں اور آپ کے قیمتی وقت کو برباد کروں۔: ”ابطال اعجاز مرزا حصہ دوم“

”ناظرین کرام! میں نے اس کی تمہید میں سولہ وجوہات لکھے ہیں۔ جن کی بنا پر ہمارا قصیدہ مرزا قادیانی کے قصیدہ اعجازیہ پر فائق ہے۔ اس سے پہلے مرزا قادیانی کا وہ شعر لکھ چکا ہوں کہ جس میں مرزا قادیانی نے اپنے مجزانہ کلام یعنی قصیدہ کو تمام کلام مجز نظام پر غالب کہا ہے اور اسی پر بس نہیں کیا۔ (ضمیمہ نزول المسح ص ۳۶، خزائن ج ۱ ص ۱۳۶) میں لکھتے ہیں: ”سو میں نے دعا کی کہ اے خدائے قدیر مجھے نشان کے طور پر توفیق دے کہ ایسا قصیدہ بناؤں اور وہ دعائیں منظور ہو گئی اور روح القدس سے ایک خارق عادت کی مجھے تائید ملی اور وہ قصیدہ پانچ دن میں ہی میں نے ختم کر لیا۔“

ناظرین مرزا قادیانی کے اقوال سے یہاں چند باتیں معلوم ہوئیں۔

۱..... مرزا قادیانی کا قصیدہ تمام مجززانہ کلام پر غالب ہے۔

۲..... مرزا قادیانی نے خدا سے دعا کی اور وہ ان کی مقبول ہوئی اور روح القدس سے خارق عادت کی تائید بھی ملی۔

۳..... ان کے دعویٰ نبوت کی صداقت کے لئے یہ قصیدہ عظیم الشان ہے۔

ناظرین اب آپ کو تعجب ہوگا کہ: ”بدان شورا شوری این بے نمکی۔“ پھر اس قصیدے میں سینکڑوں غلطیاں اس کے سوا سرافات اور جھوٹ کیوں لکھے گئے۔ مگر مجھے کچھ تعجب نہیں کیونکہ یہ انوکھا اعجاز ہے۔ چودھویں صدی کے مسیح موعود اور مہدی مسعود (مجنون مرکب کا) جیسی ان کے کہانیہ کی نبوت ویسا عاریت کا خدا اور بھائے روح القدس تھے۔ ویسا ہی مجزہ بھی: ”ما قدر اللہ حق قدرہ۔“

مرزا قادیانی نے اپنے قصیدہ میں حسن مطلع کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ حالانکہ عرب کی

عادت قدیم اور جدید بھی نہیں اور ہے کہ وہ ابتداء سے قصیدہ کو مرغوب اور خوش کن اور چلبے الفاظ اور مضامین دلہا سے مزین کرتے ہیں اور علم بیان میں اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ جس میں تعزول ہوتا ہے اور حسن و خفاقی کی دل فریب باتیں ہوتی ہیں۔ جس کی وجہ سے مخاطب کو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے اور جہتہ تن گوش میں کر اس کے سننے کا باعث مشتاق ہوتا ہے۔ عربی کے تمام مشہور قصیدے اسی طرز پر لکھے گئے ہیں۔ اہل عرب اس کو کمال عظیم شمار کرتے ہیں۔ عرب عربا سے لے کر مولدین کی قصاید ملاحظہ فرمائیں۔ جس قدر اعلیٰ درجہ کے قصیدے ہیں۔ کوئی اس سے خالی نہیں۔ مرزا قادیانی نے اس کا خیال ہی نہ کیا اور صدر قصیدے میں واقعہ کو الفاظ ہیچہ سے لکھ مارا۔ جس سے فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہے۔ مثلاً مرزا قادیانی نے اپنے قصیدہ کو ان الفاظ سے شروع کیا:

”دفنا مدمروار داک خلیل وانرا کموغر“ (۱۴۱۱ھ میں ۱۳۹۹ھ بمطابق ۱۵۰۰ء)

جس کے معنی ہوئے زخمی کو مارا۔ ہلاک شدہ ہلاک کیا۔ برا ہیچتہ کیا۔ خسرہ دلانے والا۔ ناظرین دیکھئے اور غور فرمائیے کہ جب قصیدے کے اول شعر میں چھ الفاظ ہیچہ موجود ہیں تو حسن مطلع کا کیا ذکر اور اسی پر مرزا قادیانی کی بدزبانی کو تمام قصیدہ میں قیاس کیجئے:

قیاس کن ز مجلسستان او بہار اورا۔ اور صدر قصیدہ میں اس قسم کے الفاظ معیوب شمار کئے جاتے ہیں۔ کما بین فی موضعہ

تخلاف اس کے بھرا اللہ ہمارا قصیدہ نہایت دلچسپ اور تعزول پر مبنی ہے۔ جن حضرات کو ادب کا مذاق اور اشعار عربیہ کا ذوق سلیم ہے۔ وہ اس کے دل فریب مضامین کی داد دیتے ہوئے ہمارے قصیدہ کو مرزا قادیانی کے مصنوعی مجرہ پر فوقیت دیں گے۔ ناظرین ترجمہ کی طرف بھی توجہ مبذول رہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے قصیدہ کا ترجمہ لفظی کیا ہے اور ہمارے قصیدہ کا مطلب سلیس اردو میں ہے۔ اب میں دونوں قصیدوں کو مع ترجمہ کے پیش کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی کے اشعار	مولوی صاحب کے اشعار
(۱) ایلارض منقدنفک مدمر وارداک ضلیل وانراک موغر زمین ایک ہلاک شدہ نے حیرتی تنگی کی حالت میں تھے ہلاک کیا اور سخت گمراہ کرنے والے نے تھے مارا اور ایک خسرہ دلانے والے نے تھے برا ہیچتہ کیا۔ (۱۴۱۱ھ میں ۱۳۹۹ھ بمطابق ۱۵۰۰ء)	الاهل رسول من سعاد یبشر بانجاز وعدکا دبالیاس ینذر کیا محبوبہ کا کوئی ایسا قاصد ہے جو اس کی وعدہ کی مسرت بخش خبر دے۔ جس کی ناکامی کا خوف ڈراتا ہے



<p>الاهل لبانات المتيم تنقصه وهل تنجلي عنه الخطوب وتدحر کیا بندہ عشق کی حاجتیں کبھی پوری ہوں گی اور کیا اس کی مصیبتیں کبھی دور ہوں گی۔</p>	<p>(۲) كعوت كذوباً مسدوباً صيبه الذي كحوت غير اخذ الا يعذر تو نے ایک جموں نے مسدیرے شکار کو بلا لیا جس کا پکڑنا ذہاب کی پھلی کی طرح بڑا کام نہیں۔ (ایضاً)</p>
<p>امالتسا ريخ الغرام نهـايت ومالدياحي الصبب صح فلسفر کیا محبت کی مصیبتوں کی کوئی انتہا ہے اور کیا عاشق کی تیرہ جہی کے لئے صبح ہے۔</p>	<p>(۳) وجاءك وصجي ناصحين كما خوة يقولون لاتبغوا هوے وتصبروا اور میرے دوست تیرے پاس آئے جو بھائیوں کی طرح نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہوا وہوس کی طرف میل مت کرو اور صبر کرو۔ (ایضاً)</p>
<p>فوادت مالها نغم اليه بالها معنى وقلبي لم يزل يتفطر اعلل نفسى بالسرسول وانثى لاعلم حقاً انه متعذر محبوبہ کے فراق سے سخت مصیبت میں ہوں اور ہمیشہ شکستہ خاطر رہتا ہوں۔ معشوقہ کے قاصد کی آمد سے میں اپنے جی کو بہلاتا ہوں۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ یہ امر دشوار ہے یعنی کہ محبوبہ قاصد بھیجے۔</p>	<p>(۴) افضل اسراكم اسارى تعصب يريدون يعوى كذئب ويختر فجافا بذئب بعد جهدا ذابهم ولغنى ثناء الله منه تظهر یعنی تم میں سے وہ لوگ جو تعصب کے قیدی ہے انہوں نے چاہا کہ ایسا شخص تلاش کریں جو بھیڑیے کی طرح چیخے اور فریب کرے پھر بہت کوشش کے بعد ایک بھیڑیے کو لائے اور مراد ہماری اس سے ثناء اللہ ہے اور ہم ظاہر کرتے ہیں۔ (اعجاز احمدی ص ۳۹، خزائن ج ۱۵۰، ۱۵۱)</p>

ناظرین میں نے مشقے نمونہ از فرورے دونوں قصیدے کے پانچ پانچ شعر مقابلہ سے  
نقل کر کے آپ کو دکھائے ہیں۔ اب آپ خود غور کریں اور انصاف سے دیکھیں کہ ہمارا قصیدہ کس  
قدر مرزا قادیانی کے مصنوعی اعجاز سے بلند اور بالاتر ہے۔ اور چونکہ مرزا قادیانی کے قصیدے میں  
تہذیب (صدر قصیدے کو ٹھٹھے الفاظ سے فراق وصال کے مضامین سے مزید کرنا) نہیں ہے تو

محسن محاسن تہذیب سے مطلب کی طرف گریز کرنا کہاں سے آئے اور محاسن شعر یہ میں سے ہے۔ اس کے خلاف ہمارے قصیدے میں حسنِ تخصص اس خوبی سے آیا ہے جسے ماہرین فن ادب سمجھ کر داد دیں گے۔ ناظرین کرام چلتے چلاتے چار شعر اور سن لیجئے۔

۱..... عجبت لہا تدری بحالی وباللقا۔ معشوقہ سے تعجب ہے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے اور وصل۔

تو اعدنی تتری وفی الحال تعذر۔ کے وعدے ہار بار کرتی ہے اور فوراً نکر جاتی ہے۔

۲..... وتزعم ان الوصل عیب یشیہا اور کہتی ہے کہ اصل اسے بدنام کر دے گا  
وتوصل غیرى خفیه ثم تنکرا اور اغیار سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ پھر انکار کر جاتی ہے۔

۳..... واعجب من ہذا نبوة شاعر اور اس سے بھی عجیب تر اس شاعر کی نبوت ہے  
یرى الشعر اعجاز او بالنظم یفخر جس کو شعر اور نظم پر فخر ہے اور اس کو معجزہ سمجھتا ہے۔

۴..... الم یدران اللہ نزه رسله کیا اس احمق کو اس کی بھی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو۔

عن الشعر فی التنزیل جاء یکور شعر گوئی کی آلودگی سے پاک اور صاف رکھا ہے۔ علم تو قرآن میں کئی جگہ ہے۔

اب آخر میں اتناں ہے کہ ہلکا عیب بھی قصیدہ کو اعلیٰ پایہ سے گرا دیتا ہے۔ چہ جائیکہ معجزہ اس کی تو بڑی شان ہے اور کسی عیب کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ اٹخ!

(نوٹ) مولانا سید غنیمت حسین موگیٹی کے مرزا قادیانی کے جواب میں قصیدہ کے دونوں حصے (ابطال اعجاز مرزا، حصہ اول، حصہ دوم) انشاء اللہ العزیز! عنقریب احتساب قادیانیت کی کسی آنے والی جلد میں یکجا شائع ہوں گے۔ ثم انشاء اللہ! (مرتب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ  
ثُمَّ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ بِإِذْنِهِ فَكَبَّرَ وَقَدَّمَ  
إِلَى رَبِّهِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُ أَنِ يَحْكُمِ  
بِأَنَّاسٍ

# الكلام الفصيح

فى تحقيق الحيات المسيح

(الملقب به اسم تاريخى)

البواب ترديد غلام احمد قاديانى ۱۹۳۰ء



حضرت مولانا سيد محمد عربى

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على  
اشرف خلائقه خاتم النبيين سيدنا محمد ﷺ وعلى آله واصحابه  
اجمعين . اما بعد!

اہل اسلام پر مخفی نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس فرقہ قادیانیہ سے جس قدر معزیتیں پہنچیں ہیں وہ عرصہ تیرہ سو سال میں کسی فرقہ سے نہیں پہنچیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بھیس میں غلامان محمد ﷺ کو کفر و کمرائی کی تبلیغ کرتے ہیں اور صراطِ الاستقیم سے بہکا کے قعر مذلت میں لے جانے کی سعی کرتے ہیں۔ اس لئے ہر ذی علم فرقہ اہل سنت والجماعت کا فرض ہے کہ وہ ہر پہلو سے اور ہر کوشش سے اپنے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں کو اس فرقہ احمدیہ، مرزائیہ، قادیانیہ کے پھندے سے بچائے اور ان کے تزویر سے رہائی دینے کی سعی و کوشش کرے اور اس فرقے کے پوست کندہ حالات مسلمانوں کے سامنے رکھ کر بتلا دے کہ اہل اسلام کے عقائد و خیالات ایسے نہیں ہو سکتے اور اسلامی دلائل کے تحت جو شبہات انہوں نے پیدا کئے ہیں۔ ان کے منصفانہ جوابات سے بھولے بھالے اور سیدھے سادھے مسلمانوں کو مطلع کر دے۔ اسی فرض کو محسوس کرتے ہوئے یہ تصنیف عمل میں آئی ہے۔ امید ہے کہ اہل انصاف اس رسالہ کو نظر غور سے ملاحظہ کریں گے۔ و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب!

العاجز محمد امجدی غفر عنہ تنزیل دارچنگ

مورخہ یکم جمادی الاخر ۱۳۳۹ھ

مرزا غلام احمد کے الہامات کا ذبہ و مذہب قادیان کے مختصر حالات

رہبر قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں ہوئی۔ مولوی گل علی شاہ سے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ حاصل کیا اور اپنے والد مرزا غلام مرتضیٰ کے ساتھ انگریزی عدالتوں میں اپنے اجداد کے بعض دیہات کو دوبارہ لینے کے لئے مقدمات میں مشغول رہے اور زمینداری کی نگرانی میں لگے رہے اور ان چند سال انگریزی ملازمت میں بھی بسر ہوئے۔ ان کے والد کے مرنے سے قبل ان کو تھوڑی سی غنودگی ہو کر یہ الہام ہوا: "والسماہ والطارق" یعنی قسم ہے آسمان کی جو قضاء قدر کا مبداء ہے اور قسم ہے اس حادثے کی جو فروب کے بعد نازل ہوگا۔

(حقیقت الہی میں ۲۰۹، جزاں ج ۲۲ ص ۲۱۸)

اور ان کو سکھایا گیا کہ یہ الہام بطور عزا پر ہی خدا کی طرف وحی ہوا اور حادثہ یہ ہے کہ آج ہی تمہارے والد غروب آفتاب کے بعد فوت ہو جائیں گے جب ان کو اپنے والد کی وفات کے نسبت یہ الہام ہوا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بعض وجوہ آمدنی والد کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ پھر نہ معلوم کیا کیا ابتلاء پیش آئے۔ اس وقت یہ دوسرا الہام مرزا قادیانی کو ہوا۔ (حقیقت الوہی ص ۲۱۰، خزائن ج ۳۲ ص ۲۱۰) ”الیس اللہ بکاف عبده“ یعنی کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ پھر جب چودھویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا نے ان کو الہام کے ذریعہ سے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا: ”الرحمن علم القران لتنذر قومًا منذر ابلہم، لتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المومنین“ (حقیقت الوہی ص ۳۳۵، ۳۳۶، خزائن ج ۳۲ ص ۳۵۸، ۳۵۷)

”یعنی خدا نے تجھے قرآن سکھایا اور اس کے صحیح معنی تجھ پر کھول دیئے۔ یہ اس لئے ہوا کہ تو ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرائے۔ جو باعث پشت در پشت کی غفلت اور نہ متوجہ کئے جانے کی غلطیوں میں پڑ گئے۔ اور تاکہ ان مجرموں کی راہ کھل جائے جو ہدایت پہنچنے کے بعد بھی راہ راست کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ ان کو کہہ دے کہ میں مامور من اللہ اور اول المومنین ہوں۔ گویا آپ سب سے پہلے مومن ہیں۔“

مگر الہامات میں جناب مرزا قادیانی کے والد و دادا کے مومن ہونے کا کہیں ثبوت نہیں پایا جاتا ہے لہذا معلوم نہیں وہ کیا تھے۔ جب کہ مرزا قادیانی اول المومنین بنے تو کیا ان سے قبل اور کوئی مومن نہ تھا؟ اس کے بعد مرزا قادیانی نے مسیحیت کا دعویٰ کیا اور اللہ پاک نے الہام میں اس کا نام عیسیٰ اور مسیح موعود رکھا جیسا کہ عبارت (حقیقت الوہی، ازالہ اوہام ص ۶۳۳، خزائن ج ۳ ص ۲۳۲) عبارت الہام یہ ہے: ”جعلناک المسیح ابن مریم“ ہم نے تجھے مسیح بن مریم بنایا اور پھر یہ الہام ہوا: ”الحمد لله الذی جعلک مسیح بن مریم“ (حقیقت الوہی ص ۸۸، خزائن ج ۳ ص ۲۳۲) ”انت شیخ المسیح الذی لا یضاع وقتہ کمثلک در لا یضاع“ (حقیقت الوہی ص ۹۰، خزائن ج ۳ ص ۲۳۲)

”یعنی خدا کی سب حمد ہے جس نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا۔ تو وہ شیخ مسیح ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تیرے جیسا موتی ضائع نہیں جاتا۔“ (اقول) مرزا قادیانی کے معتقدین ان کے نام کے ساتھ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لفظ بھی کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ

میرے دل میں اس دعویٰ کی بنیاد حدیث نہیں۔ بلکہ قرآن اور وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی۔ اقول کیا نبی آخر الزمان خاتم النبیین ﷺ کا یہ مسلہ اہل اسلام کے نزدیک معجزہ نہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں ان پر اترا اور ملک عرب میں اور وہ بھی عرب تھے۔ اگر یہ امر معلوم ہے تو پھر یہی قرآن مجید عربی اور عجمی النسل پر کیونکر اترا سکتا ہے؟ جن کی تعلیم بھی ہر طرح سے محدود اور دوسرے حضرات اہل علم کو ہر طرح محتاج ہوں۔ قرآن مجید تو اس اُمی نبی کا معجزہ ہے جس نے بشر سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ پھر مرزا قادیانی فرماتے ہیں: ”ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میرے وحی کی معارض نہیں۔“

(اعجاز احمدی ص ۳۰، خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۰)

اقول لازم تو یہ تھا کہ ان پر وحی ان کی زبان میں ہوتی جس کو وہ جانتے تھے۔ یعنی پنجابی زبان میں۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کتاب (حقیقت الوحی ص ۳۰۳، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو انگریزی میں بھی وحی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے:

*I love you. I am with you. yes, i an, happy life of pain. I shall help you. I can, what i will do. We can, what we will do. God is coming by His army. He is with you to kill enemy. The days shall come when God shall help you. Glory be to the Lord. God maker of earth and heaven.*

ترجمہ: وحی انگریزی (حقیقت الوحی ص ۳۰۳، خزائن ج ۲۲ ص ۳۱۶) ”میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں میں خوش ہوں۔ زندگی دکھ کی (یعنی موجودہ زندگی تمہاری تکالیف کی زندگی ہے) میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔ ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے۔ خدا تمہاری طرف ایک لشکر کے ساتھ چلا آتا ہے۔ وہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔ وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ خدائے ذوالجلال آفرینندہ زمین و آسمان ہے۔“ حضرات ناظرین مقام غور ہے کہ مرزا قادیانی کس قدر لغو و افتراء باری تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں ”اللهم احفظنا من شرور انفسنا“ (اقول) جتنے نبی و رسول تشریف لائے ہر ایک پر خدائے تعالیٰ نے ان کی زبان میں

کتاب یا صحیفے اتارے تاکہ وہ کسی بشر کے محتاج نہ ہوں۔ مگر مرزا قادیانی کی وحی باوجود ادعائے نبوت اس کے برعکس ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ زندہ ہیں۔ وہ اپنے قول کی تائید میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز اور قرآن مجید میں ان کو متوفیوں کی جماعت میں داخل کر چکا ہے اور سارے قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی ان کی خارق عادت زندگی اور ان کے دوبارہ آنے کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ ان کو صرف فوت شدہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ لہذا ان کا زندہ بجمدہ العصری ہونا اور پھر دوبارہ کسی وقت دنیا میں آنا نہ صرف اپنے ہی الہام کی رو سے خلاف واقع سمجھتا ہوں بلکہ اس خیال حیات مسیح کو نصوص بینہ قطعہ قرآن مجید کی رو سے لغو اور باطل جانتا ہوں اور نہ کوئی حدیث صحیح مرفوعہ متصل موجود ہے جس نے متونی کے لفظ کی کوئی مخالفت تفسیر کر کے مسیح کی حیات جسمانی پر گواہی دی ہو۔ بلکہ بخاری میں بجائے ان باتوں کے: ”اما مکم منکم“ لکھا ہے اور حضرت مسیح کی وفات کی شہادت دی ہے۔ اس زمانہ میں باری تعالیٰ نے چودھویں صدی کے سرے پر مجھے مبعوث فرما کر اس پیشین گوئی کی معقولیت کو بھی کھول دیا اور ظاہر ہے جیسا کہ ایلیا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا ملا کی نبی کی کتاب میں لکھا گیا تھا۔ پس میں جو نزول مسیح کے معنی کرتا ہوں۔ وہ نئے معنی نہیں ہیں بلکہ وہی معنی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے پہلے نکل چکے ہیں۔ کیونکہ نزول مسیح ابن مریم علیہ السلام کا مقدمہ نزول ایلیا نبی کے مقدمے سے بالکل ہم شکل ہے۔ پس جس حالت میں آج تک یہودیوں کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی کہ ایلیا نبی آسمان سے اترے اور اسی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منکر رہے۔ تو مولویان اسلام کی تمنا کیونکر پوری ہو سکتی ہے۔ ہمارے مخالف اپنی جہالت سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو حقیقی طور پر انتظار کرتے ہیں اور ہم بروزی طور پر۔ ہم مانتے ہیں کہ نزول مسیح کی پیشین گوئی ہو گئی۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ جب تک مجھے خدا نے اس طرف توجہ نہ دی اور بار بار نہ سمجھایا کہ تو مسیح موعود ہے اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا ہے۔ تب تک میں اسی عقیدہ پر قائم تھا جو اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے کمال سادگی سے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی نسبت براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ جب خدا نے مجھ پر اصل حقیقت کھول دی تو میں اس عقیدہ سے باز آیا۔ میں نے بجز کمال یقین کے جو میرے دل میں محیط ہو گیا اور مجھے نور سے بھر دیا۔ اسی رسمی عقیدہ کو نہ چھوڑا۔ حالانکہ اسی براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا تھا اور مجھے خاتم الخلفاء ٹھہرایا گیا تھا اور میری نسبت کہا گیا تھا کہ تو ہی کسر صلیب کرے گا اور مجھ سے بتلایا تھا کہ تیری خبر قرآن

اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کے مصداق ہے: ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“ تاہم یہ الہام جو براہین احمدیہ میں کلمے طرز پر درج تھا۔ خدا کی حکمت عملی نے میری نظر سے پوشیدہ رکھا اور اسی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے آمد ثانی کا عقیدہ لکھ دیا اور قریباً بارہ برس تک اس رسمی عقیدہ پر جمارہا۔ جب وہ وقت آ گیا کہ مجھ پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو اتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے اور مجھے حکم ہوا: ”فاصدع بما توہ مر“ یعنی جو تجھے حکم ہوتا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دے اور یہ بھی کہ مہدی آخر الزمان میں ہی ہوں۔

ابن مریم ہوں مگر آیا نہیں میں چرخ سے  
نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ اور بے کارزار

### انتہی ملتقطاً من تصانیف القادیانی

(اقول) مرزا قادیانی نے اپنے مقابلہ کے لئے دجال کی بھی ایجاد کی۔ ان کا بیان ہے کہ حدیثوں میں دو قسم کے صفات دجال معبود کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور دوسرا یہ کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ان دونوں باتوں میں اگر حقیقت پر عمل کیا جائے تو کسی طرح تطبیق ممکن نہیں۔ کیونکہ نبوت کا دعویٰ ان بات کو مستلزم ہے کہ شخص مدعی آپ ہی خدا کا قائل ہو اور خدائی کا دعویٰ ان بات کو چاہتا ہے کہ شخص مدعی آپ ہی خدا میں بیٹھے اور کسی دوسرے خدا کا قائل نہ ہو۔ پس یہ دونوں دعوے ایک شخص سے کیونکر ہو سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ دجال ایک شخص کا نام نہیں۔ بلکہ وہ دجال کے معنی دہل سے اس طرح لیتے ہیں کہ لغت عرب کی رو سے دجال اس گروہ کو کہتے ہیں جو اپنے تئیں امین اور متدین ظاہر کرنے اور دراصل نہ امین ہونہ متدین۔ بلکہ اس کی ہر ایک بات میں دھوکہ اور فریب دہی ہوں۔ سو یہ صفت عیسائیوں کی اس گروہ میں ہے جو پادری کہلاتے ہیں۔ یہ گروہ چونکہ اصل آسمانی انجیل کو گم کر کے محرف اور منقوش مضمون بنام نیا ترجمہ انجیل کے دنیا میں پھیلاتا ہے۔ یہ فصل امر دوسرے لفظوں میں گویا نبوت کا دعویٰ ہے۔ کیونکہ انہوں نے جعل سازی سے نبوت کے منصب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ جو چاہتے ہیں ترجمہ کے بہانے سے لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ طریق ان کا نبوت کے دعویٰ کے مشابہ ہے اور اس دام میں عیسائی گرفتار ہیں اور دجال کا دوسرا گروہ جن کے افعال خدائی کا دعویٰ سے مشابہہ ہیں۔ یورپ کے فلاسفوں اور کلموں



کے ایجاد کرنے والوں کا گروہ ہے جنہوں نے اسباب و علل کے پیدا کرنے کے لئے اپنی کوششوں کو اجنباء تک پہنچا دیا ہے اور بہت سی کامیابیوں کی وجہ سے آخر اس ردی اعتقاد تک پہنچ گئے ہیں کہ خدا کی قدرت اور اس پر ایمان رکھنا کچھ چیز نہیں ہے اور وہ رات دن اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ خود ہی کسی طرح اس راز کے مالک ہو جائیں کہ جب چاہیں پانی برسائیں اور جب چاہیں کسی کے گھر میں اولاد پیدا کر دیں اور جب چاہیں کسی کو عقیم بنا دیں۔ پس کچھ شک نہیں کہ یہ طریق دوسرے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ ہے اور اس گروہ کے تابع اکثر یورپ کے خواہن جیسائی ہیں۔ غرضیکہ دراصل یہی لوگ دجال ہیں۔

(اقول) مرزا قادیانی نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرار دیا تو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے مقابلہ میں دجال کا آنا بھی ضروری ہے۔ لہذا دجال کے لئے بھی تاویلیں بنا لیں اور پھر ایک دجال نہیں بلکہ کئی ایک دجال ٹھہرائے۔ وہ خود کہیں مصنوعی عیسیٰ علیہ السلام بن رہے ہیں اور کہیں موسیٰ علیہ السلام اور کہیں تمام انبیاء عظام کا اپنے آپ کو مظہر اتم قرار دے رہے ہیں۔ جو رسالہ کتاب (حقیقت الوحی ص ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷) سے معلوم ہوتا ہے۔

گاہ عیسیٰ گاہ موسیٰ گاہ فخر الانبیا

گاہ ابن اللہ گاہ خود خدا خواہ شدن

نسبت فخر غلامی مریناہ مرزا

میرزا ایک غلام بیوفا خواہ شدگان

انہوں نے دنیا سے علم و اہل انصاف اٹھ گئے ان کے قہقہے معتقدین اور ایمان پر ایمان لانے والوں میں کوئی ایسا نہیں کہ کم سے کم ان کے اقوال پر غور کرتا۔

دجال کی آمد اور اس کے کوائف

ہم مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب دجال خروج کرے گا۔ اس کا کلنا اور آنا حق ہے۔ سنی و شیعہ کی تمام کتب عقائد میں دجال کا آنا تسلیم کیا گیا ہے۔ دجال ایک آدمی عجیب الخلق ہے۔ ایک آنکھ سے کانا۔ سرخ چشم۔ اس کے بال کثرت سے اور گھونگھروالے ہوں گے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم و ابوداؤد وغیرہ نے مختلف صحابہ سے روایتیں کی ہیں اور ابوداؤد نے عبادہ ابن صامت سے جو دجال کا پست قد ہونا روایت کیا ہے۔ یہ عظیم الخلق ہونے کے معنی نہیں ہو

سکتا ہے کہ کھٹنا بھی ہو اور موٹا تازہ بھی ہو اور اس کی سواری میں سفید گدھا ہوگا۔ جیسا کہ یحییٰ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے۔ مکملۃ میں اسماء بنت یزیدؓ سے مروی ہے کہ وہ جال کے نکلنے سے تین برس پہلے لوگ قحط میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے سال تھائی حصہ مینہ اور روئیدگی ہوگی اور دوسرے سال دو تھائی تم ہوگی اور تیسرے سال کچھ بھی مینہ نہیں برے گا اور کچھ روئیدگی نہیں ہوگی۔ اور تمام حیوانات اور چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ جال خراسان سے ظاہر ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے روایت کی ہے کہ سحر اور شعبدے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے حکم میں ہوں گے حتیٰ کہ جب ایک شخص کو کہے گا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو تو اس وقت مجھ کو رب جانے گا؟ اس وقت شیاطین اس کے ماں باپ کی صورت بن جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اے فرزند! اس کی متابعت کر کہ یہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس سبب سے بہت خلق اس کی متابعت کر کے کافر ہو جائے گی۔ مگر جن کو اللہ تعالیٰ چمائے۔ بخاری و مسلم نے حدیث سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک بہشت اور ایک دوزخ یا ایک پانی اور ایک آگ ہوگی جس کو وہ بہشت یا پانی دکھائے گا۔ وہ حقیقت میں دوزخ یا آگ ہوگی اور جس کو وہ دوزخ یا آگ دکھائے گا وہ بہشت یا شیریں پانی ہوگا۔ اچھی

اگر کوئی مومن گرفتار اس کا ہوگا تو جانے گا کہ وہ کافر ہے خدا نہیں ہے۔ اس لئے کہ خدا بشر کا سا جسم نہیں رکھتا اور کانا نہیں۔ بخاری و مسلم نے ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے کہ اسی انکار پر وہ جال ایک مومن پر گزیدہ کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ مگر وہ مردہ باخدا اس کی خدائی کا اعتراف نہ کرے گا۔ یہی کہنا رہے گا کہ تو وہی مسیح کذاب ہے جس کی خبر ہم کو محمد ﷺ نے دی ہے اور یہ بھی بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ وہ جال مشرق کی طرف سے خردج کر کے مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوگا اور وہ احد کے پیچھے اترے گا۔ ملائکہ اس کو شام کی طرف متوجہ کریں گے اور شام ہی کی طرف روانہ ہوگا۔ نو اس بن سمانؓ سے مسلم نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ ہنوز وہ جال بدماں اپنے شغل میں مصروف ہوگا کہ دفعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا اور وہ نزدیک منارہ سفید جانب شرقی دمشق کے اتریں گے اور پھر وہ جال کی طلب میں روانہ ہوں گے۔ باب لد (جو ایک موضع ہے دلابت شام سے) میں پہنچ کر اس کو قتل کریں گے اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں اتریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اردن میں اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے کھمپ میں اتریں گے۔ ان روایات

میں کوئی منافات نہیں۔ اس لئے کہ بیت المقدس دمشق کی شرقی جانب ہے اور مسلمانوں کا کیمپ وہیں ہوگا اور اردن نواح بیت المقدس کا نام ہے۔ کمانی الصحاح وغیرہ اور بیت المقدس اس میں داخل ہے اور بیت المقدس میں اگرچہ منارہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے پہلے بنے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بعد میں اترنے ان کے زمین پر سات برس ٹھہریں گے اور ابن جوزی نے عبد اللہ بن عمر سے کتاب الوفا میں روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور ۳۵ برس تک زندہ رہیں گے پھر وفات پائیں گے اور قبر مبارک رسول اللہ ﷺ میں دفن ہوں گے۔

علماء نے دونوں روایتوں کی تطبیق میں گفتگو کی ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور ﷺ کے اس قول میں: ”الانہ لانبی بعدی“ کی دلیل ہے۔ اس مطلب پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو امت محمدیہ میں سے ایک حاکم ہو کر اتریں گے۔ لوگوں کو شریعت محمدی کی طرف بلائیں گے۔ نبی صاحب شریعت ہو کر نہیں اتریں گے۔ میرے نزدیک اس میں کوئی منافات نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر اتریں اور محمد رسول ﷺ کی شرع کے احکام بیان کرنے میں ان کے تابع ہوں۔ گویا احکام ان کی وحی کے ذریعہ سے پہنچیں اور: ”الانہ لانبی بعدی“ کے معنی یوں کئے جائیں گے کہ نیا کوئی نبی ﷺ کے بعد پیدا نہ ہوگا۔ اس لئے کہ آنحضرت ﷺ خاتم پیغمبران ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس موقع پر اپنے رسالہ الخطاب السلیح میں بہت اچھی تقریر فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تابع شرع محمدی ہو کر تشریف لانا یقینی ہے۔ اس میں نہ ختم نبوت میں قدرح لازم آتا ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت سے معزول ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت نبی بھی ہوں گے اور تابع دوسرے نبی یعنی ہمارے حضور ﷺ کے بھی ہوں گے۔ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام خود بھی نبی تھے اور شریعت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے۔ پھر بھی تابع ہونے سے معزول ہونا لازم نہیں آیا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت صاحب شریعت مستقلہ ہوتے تو حضور ﷺ کو اسی وقت نبوت عطا ہوتی۔ پہلے زمانہ میں نبوت نازل چکتی تو حضور ﷺ پر نبوت کا ختم نہ ہونا بے شک لازم آتا۔ مگر جب ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ایسے نبی جن کو حضور ﷺ کے زمانے سے پہلے نبوت مل چکی ہے۔ حضور ﷺ کے تابع شرع ہو کر آئیں گے تو اس صورت میں نہ حضور ﷺ کی ابدیت شریعت میں کوئی خلل ہو اور نہ ختم نبوت میں کوئی قدرح ہو۔ اگر صرف اجاب کا نام معزولی ہے تو

حدیث صاف تصریح ہے: ”لو كان موسى حيا لما وسعه الاتباعي“ اس بناء پر معنی حدیث کے یہ ہونا چاہئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے وقت میں زندہ ہوتے تو نبوت سے معزول ہو جاتے۔ پس یہی سوال ہم کرتے ہیں کہ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی کیا خطا تھی جو وہ نبوت سے معزول کر دیئے جاتے۔ اٹھی۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ”میں مسیح ابن مریم ہوں۔“ (حقیقت الوحی ص ۸۸، ۸۹، خزائن ج ۳۲ ص ۹۲، ۹۱)

اصل عبارت یہ ہے: ”الحمد لله الذي جعلك المسيح ابن مريم لا يستل عباي فعل وهم يستلون“ یعنی اس خدا کی تعریف ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور لوگ پوچھے جاتے ہیں۔“

اہل اسلام پر مخفی نہ رہے کہ یہاں مرزا قادیانی مسیح ابن مریم ہونے کا صریح دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہو کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے: ”من امر ربی“ جو دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ لہذا مرزا قادیانی علیہ ما علیہ ابن غلام مرتضیٰ کسی نامعلوم نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ باپ غلام مرتضیٰ سے صریح انکار کرتے ہوئے دعویٰ مسیح ابن مریم ہونے کا رکھتے ہیں۔ چونکہ شاید مرزا قادیانی بن غلام مرتضیٰ کو یہ معلوم نہ تھا کہ عرب کا یہ مقولہ ہے کہ: ”من ادعی الی اب غیرہ فهو ابن حرام“ یعنی جو اپنے باپ سے انکار کرے وہ ابن حرام ہے۔ یعنی حرام زادہ ہے: ”او من انکر نسب ابيه فهو بن لقطه“ یہ دونوں مقولے عرب میں حرامی النسل کے لئے ضرب المثل ہیں۔ اس بارے میں چند احادیث بھی کتب احادیث میں وارد ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے وہ ملعون چمنی ہے۔

الغرض مرزا غلام احمد قادیانی کتاب حقیقت الوحی وغیرہ میں کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر اٹھالئے گئے اور وہ زندہ ہیں اور پھر لوٹ کر دنیا میں آئیں گے۔ کیونکہ اس زمانہ میں خدائے تعالیٰ نے چودھویں صدی کے سر پر مجھے مبعوث فرمایا کہ اس عیشیہ کوئی کی مقبولیت کو بھول دیا اور ظاہر فرمایا کہ مسیح ابن مریم یعنی مسیح موعود تو ہی ہے۔

پھر مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ ہرگز ربح جسمانی مسیح ابن مریم کا نہیں ہوا۔ ہاں ایک سو بیس برس کے بعد ربح روحانی ہوتی اور نہ صلیب کے دنوں میں ربح روحانی ہوئی۔ کیونکہ پیلاطس گورنر قیصر کے ہاتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کی کارروائی تھی۔ اس کی بیوی نے

خواب دیکھا کہ اگر یہ شخص مر گیا تو پھر اس میں تمہاری تباہی ہے۔ اس لئے اس نے اندرونی طور پر کوشش کر کے مسیح کو صلیبی موت سے بچا لیا اور اس زمانہ میں صلیب پر چڑھ جانے کا یہ دستور تھا کہ صلیب سے ملا کر ہاتھوں میں لوہے کی میخیں ٹھونک دیتے تھے اور تین دن تک اسی طرح لٹکا ہوا رہنے دیتے تھے۔ اس عرصہ بھوک اور پیاس کے صدمہ سے وہ شخص مر جاتا تھا۔ جس دن مسیح علیہ السلام کو صلیب کی سزا دی گئی۔ اس کے دوسرے دن یہودیوں کی عید تھی۔ تین گھڑی کے بعد گورنر کے اشارے پر مریدوں نے مسیح کو مرنے کے قبل صلیب سے اتار لیا اور چالیس دن تک علاج کئے جانے سے انہوں نے صلیب کے زخموں سے شفاء پائی اور ۸ برس زندہ رہے اور اپنے وطن سے پوشیدہ طور پر نکل کر ملکوں کی سیر کرتے ہوئے نصیبین میں آئے اور وہاں سے افغانستان پہنچے۔ اس کے بعد پنجاب میں آئے اور وہاں سے کشمیر چلے گئے اور بقیہ عمر سری نگر میں گزاری اور ایک سو پچیس برس کی عمر میں وہیں فوت ہوئے۔ محلہ خان یار کے قریب دفن کئے گئے اور اب تک قبر یوز آسف نبی کی قبر اور شہزادہ نبی کی قبر اور عیسیٰ نبی کی قبر مشہور ہے۔

فرقہ مرزائیہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی دلیل یہ آیت کریمہ ہے

”اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الی ومطهرک من الذین

کفروا..... الخ“

یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں۔ تجھ کو اپنی طرف اور تجھ کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے۔ یہ آیت صریح اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ موت کے بعد ان کا رفع ہوگا۔ پس دو امر قابل تصریح ہیں۔ اول رفع، دوسرا واقعہ وفات۔ اللہ تعالیٰ کے بیان سے بخوبی ثابت ہے کہ موت اول ہے اور رفع بعد میں۔ اس صورت عام محاورہ قرآن کے لحاظ سے رفع روحانی مراد ہے نہ کہ جسمانی اور لفظ توفی قرآن کے محاورہ میں جب اس طرح مستعمل ہو کہ اس کا فاعل خدا یا ملائکہ ہوں تو صرف قبض روح کا فائدہ بخشتا ہے اور باستقراء قرآن ۲۳ مواضع سے ثابت ہے۔ اس لئے سوائے موت کے دوسرے معنی مراد لیتا قرآن کے خلاف ہے اور موافق روایت بخاری کے جو ابن عباسؓ سے ”متوفیک“ کے معنی ممیک کے ثابت ہیں اور دوسرے مفسرین مثلاً صاحب کشاف و مدارک وغیرہ سے اسی کی تائید ہوتی ہے اور بعض علماء نے متوفیک کے معنی ممیک کے لئے کربھارت قرآن میں تقدیم و تاخیر مانی ہے۔ یہ ان کی سخت غلطی ہے۔ تقدیم و تاخیر ماننے کی صورت میں حکم خداوندی

کے خلاف لازم آتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”اتبعوا ما انزل الیکم“ یعنی جو کچھ تمہاری طرف اترا ہے اس کی اتباع کرو اور تقدیم و تاخیر کی حالت میں جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے اس کی اتباع نہ ہوگی۔ بلکہ قرآن کو اپنی رائے کا تابع بنانا ٹھہرے گا اور موت کا حصر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ لفظ اتنی سے ثابت ہے اور یہ لفظ اس پر گواہی دیتا ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مار سکتے۔ اس جگہ موت کو اپنی ذات کی طرف نسبت کرنے سے مراد موت طبعی ہے۔ جس کی اسناد غیر کی طرف نہیں ہو سکتی۔ انتہی کلام المرز اغلام احمد علیہ ماعلیہ!

### الجواب ..... مرزائیوں کی پہلی دلیل کا جواب قاطع

اقول ..... فرقہ مرزائیہ نے اس بحث میں دو باتیں پیش کی ہیں۔ اول لفظ رفع دوسرے تونی۔ پچھلے لفظ کے معنی حقیقی پورا لینے کے ہیں اور مجازاً موت اور نیند کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جو لوگ اس کو موت کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ”تونی“ اگرچہ باعتبار ترتیب ذکر کے رفع سے مقدم ہے۔ لیکن ترتیب وقوعی کے لحاظ سے مؤخر ہے اور ادعطف کے لئے ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ترتیب وقوعی کو بیان کرے۔ جیسے اس جگہ: ”یا مریم اقمی لربک واسجدی وارکعی“ بعدہ کو رکوع سے پہلے بیان کیا۔ مگر وقوع کے لحاظ سے مقدم نہیں ہے اور جو نیند کے معنی میں لیتے ہیں۔ وہ متوفیک کے معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ میں تجھ کو سوتے میں اٹھانے والا ہوں تاکہ تجھ کو خوف پیدا نہ ہو اور تو ایسی حالت میں بیدار ہو کہ آسمان پر امن و تقرب کے ساتھ موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکبر ایسے بندوں کو جن کو زمانہ آئندہ میں آنے کے لئے محفوظ رکھتا ہے۔ نیند کے ذریعہ سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں یہ ثابت ہے کہ اصحاب کہف تین سو نو برس تک غار میں نیند کی وجہ سے محفوظ رہے: ”وبشوا فی کہفہم ثلاث ماقۃ سنین واردادوا اتسعاً“ اور حقیقی معنی کی تقدیر پر متوفیک سے یہ مراد ہوگی کہ تجھ کو روح اور جسد کے ساتھ آسمان پر اٹھالوں گا۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ مرزائیوں کا استدلال آیت سے درست ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی موت اور قبض روح کے معنی اس آیت سے ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اہل دانش جانتے ہیں کہ معانی نصوص کے لگانے میں دو باتوں کا لحاظ ضرور ہوتا ہے اور موارد نصوص کا لحاظ کرنا پھر معانی کے ساتھ الفاظ کی مناسبت کا لحاظ کرنا ضرور ہے۔

پس ”انسی متوفیک“ سے موت کے معنی بغیر تقدیم و تاخیر کے لیں گے تو مناسب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو اس آیت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل دیتا ہے اور ظاہر

ہے کہ موت کی خبر دینے سے کسی کو تسلی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی کے دوست کو اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے ہلاک کا خوف ہو اور وہ شخص اپنے دوست سے کہے کہ تم مت گھبراؤ میں تم کو مار کر تمہاری روح کو اپنے پاس بلند کر لوں گا۔ تو ایسی بات کہنے سے اس کو کیسے تسلی ہو سکتی ہے۔ بلکہ پریشانی اور بھی بڑھ جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توفی کے معنی موت کے لئے کر رفع کو روحانی قرار دینا بالکل سیاق کے مخالف ہے۔ کیونکہ آیت مذکورہ تسلی و اطمینان کے لئے نازل ہوئی ہے۔ اس لئے مقتضائے مقام یہ ہے کہ اس رفع سے ایسا رفع مراد لیا جائے جو باقی ابنائے جنس میں عموماً نہ پایا جاتا ہو اور رفع روحانی تو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء اولیاء اللہ میں پایا جاتا ہے۔ اس بناء پر ضرور ہے کہ توفی کے معنی موت کے سوا کوئی دوسرے لئے جائیں اور رفع کو رفع جسمانی قرار دیا جائے تاکہ امتنان خداوندی کے لئے وجہ معقول پیدا ہو جائے۔ الفاظ قرآن کی ترکیب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رفع سے رفع روحانی مراد نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا عیسیٰ اس قول میں خطاب عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اور عیسیٰ روح مع الجسد کا نام ہے نہ صرف روح کا۔ تا صرف جسد کا۔ بعد اس کے فرمایا ہے: ”انسی متوفیک“ یہاں بھی کاف خطاب سے روح مع الجسد مراد ہے۔ بعد اس کے فرمایا: ”رافعک الیٰ.....“ روح مع الجسد مراد ہے۔ ورنہ یوں فرماتا۔ رافع روحک الی اورک کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اس سے بھی رفع مع الجسد ہی سمجھا جاتا ہے اور جہاں رفع سے رفع روحانی مراد ہے۔ وہاں قرینہ پایا جاتا ہے۔ جیسے: ”یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات“۔ اللہ اونچا کرتا ہے ان کے درجے کو جو تم میں ایمان رکھتے ہیں اور جان کہ وہاں قرآن رفع روحانی کے خلاف موجود ہیں اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف خطاب ہے نہ روح کی طرف۔

اسی طرح اکابر علماء کرام جیسے امام فخر الدین رازی اور جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت تحقیق سے لفظ ”توفی“ کے معنی صاف کئے ہیں اور اس سے رفع جسمانی ثابت کیا ہے اور بعض مفسرین جیسے ابوالسعود اور خازن وغیرہ نے رفع روحانی کو نصاریٰ کے معومات سے بیان کیا ہے اور ابوالسعود نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بغیر موت اور نیند کے ثابت ہے اور یہی قول حسن اور زید کا ہے اور طبرانی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور یہی ابن عباسؓ سے صحت کو پہنچا ہے اور کاف خطاب وغیرہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ یہی معنی مراد لئے جائیں اور یہی توفی کے معنی لغوی کے مناسب ہیں۔ جو پورا لینے کے معنی میں آیا ہے اور پورا لینا ضرور اسی میں ہے کہ

رفع جسمانی قرار دیا جائے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ: ”انی متوفیک“ سے مراد موت ہی ہے تو یہ بھی رفع جسمانی کے مخالف نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں جن میں معنی کی تقدیم و تاخیر الفاظ کے برخلاف ہے اور مخالفین کا کہنا کہ تقدیم و تاخیر کے ماننے میں قرآن کو غلط کرنا ہے۔ اس لئے کہ خدا موافق واقعہ کے بیان کرتا ہے۔ درست نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یسریم اقصیٰ لربک واسجدی وارکعی“ اس میں سجدہ کا ذکر پہلے ہے۔ حالانکہ پہلے رکوع مقصود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر میں فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں۔ پس یہاں بھی رفع مقدمۃ المعنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر کی ہے اور موافق واقعہ کے الفاظ کو بیان نہیں کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے: ”وادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة نغفر لکم“ یعنی دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو گناہ اترے اور سورہ اعراف میں ہے: ”وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا“ کجلی آیت کی ترتیب کے خلاف ہے اور واقعہ ایک ہی ہے۔

پس جب کہ ”متوفیک“ کے معنی ”ممیتک“ کے لیس گے تو اسی کی یہی توجیہ ہو سکتی ہے کہ الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے اور اب رفع کے بعد موت قرار دی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ صلیب سے قبل جسدِ عنبری کے ساتھ آسمان پر اٹھالیا۔ پھر قرب قیامت میں ان کو زمین پر نازل کر کے مارے گا اور ابن عباسؓ نے ”متوفیک“ کے معنی میجک لئے ہیں۔ مگر انہوں نے یہ تصریح نہیں کی کہ اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نے مارا پھر رفع روحانی کی۔ حالانکہ ابو نعیم کی روایت کتاب المغنن میں اور اسحاق ابن بشر کی روایت درمنثور میں ہمارے مدعا کے موافق ہے اور فتح الباری اور تفسیر شرح صحیح بخاری میں آیت: ”وان من اهل الكتاب الا لیسوا منن بہ قبل موتہ“ میں سند صحیح سے ابن عباسؓ سے ”ہو ضمیر قبل موتہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے اور اس کے خلاف پھیرنے کی تضعیف کی ہے۔ یعنی اہل کتاب حضرت مسیح علیہ السلام کے مرنے سے قبل ان پر ایمان لائیں گے اور یہ ذکر اس وقت کے ایمان کا ہے جب کہ زمانہ آخر میں مسیح علیہ السلام دنیا میں نزول فرمائیں گے اور مرزائی یہ جو کہتے ہیں کہ ”توفی“ قرآن میں استقرآ کے ساتھ قبض روح کے معنی میں ۲۳ مواقع سے ثابت ہوتا ہے۔

پس بموجب اس استقرآ کے موت کے معنی میں لینا چاہئے اور دوسرے معنی میں لینا



قرآن کے خلاف ہے۔ (اقول) جواب اس کا یہ ہے کہ معنی مجازی ہے جو بغیر قرینہ کے مستعمل نہیں ہوتا۔ ”توفسی“ اس معنی میں قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ اس لئے اسے استقراء نہیں کہہ سکتے۔ قرینے کی مجبوری ہے اور اس آیت میں چونکہ قرینہ نہیں ہے۔ اس لئے حقیقی معنی میں لیا جائے گا اور یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔

مرزائیوں کی دوسری دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے

اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے: ”وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ وماقتلوه واصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وماقتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وكان اللہ عزیزاً حکیماً“

یعنی یہودیوں کا قول ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبر اللہ کا تھا مار ڈالا اور نہ اس کو مارا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا ہے۔ لیکن مشتبہ کر دیا گیا۔ اس کے لئے جن لوگوں نے اختلاف کیا۔ اس معاملہ میں وہ اس جگہ شک میں پڑ گئے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں صرف گمان کرتے ہیں اور ان کو بے شک قتل نہیں بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا ہے۔

مرزائی کہتے ہیں کہ جب کہ تمام عوارض بشری مسیح میں پائے جاتے ہیں۔ تو پھر کون سا امر ان کو موت طبعی سے روک کر رفع روحانی سے رفع جسمی کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے۔ خود تو ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے اور روم کی سلطنت ان کے اختیار میں نہ تھی۔ اس لئے ان پر یہ الزام لگایا کہ بغاوت اور بادشاہی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس الزام کا ثبوت دیا تاکہ ان کو صلیب کے ذریعہ سزا دی جائے۔ مارا جانا یہودیوں کے خیال میں بروے توریت مدعی کا ذب اور طعون کے لئے مقرر تھا ورنہ قتل انبیاء اور اولیاء کے لئے علوم و ارج اور درجات شہادت کا باعث ہے۔ اس لئے خدا نے مسیح علیہ السلام کی تشریح صلیب کی موت سے کی۔ تاکہ یہودیوں کا زہم باطل ہو جائے اور یہ مراد نہ تھی کہ مسیح علیہ السلام کو کسی قسم کی موت واقع نہ ہوگی۔ صرف لعنت کی موت سے مسیح علیہ السلام کو بری کرنا مقصود تھا اور لفظ ”شبهہ لهم“ یہاں صرف یہ جتانے کیلئے ہے کہ حضرت مسیح محتول اور مصلوب کی طرح ہو گئے اور اصلی طور پر مصلوب اور محتول نہیں ہوئے اور اس کلام سے خدا کی دو اغراض تھیں۔ ایک تو نصاریٰ کے کفارہ کا خیال باطل کرنا۔ دوسرے یہودیوں کا یہ فاسد عقیدہ باطل کرنا کہ جو مصلوب ہوتا ہے وہ طعون ہوتا ہے۔

پس ”شبه لهم“ کہہ کر دونوں گروہ کے خیالات کی تردید کر دی: ”وما قتلوه  
 وما صلبوه“ میں یہ بات جتلانا ہے کہ صلیب پر چڑھانے کا واقعہ ظہور میں آیا اہل واقع نہیں  
 ہوا۔ پھر ”ما قتلوه“ تاکید کرتا ہے کہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے مگر مرنے سے بچ گئے۔ لیکن  
 اس واقعہ صلیب کی نفی ثابت نہیں ہوتی غرض اس سے یہودیوں کے خیال کا باطل کرنا تھا کہ نبی  
 کاذب مقتول ہوتا ہے اور ”رفعه الله الیہ“ اس لئے بیان کیا کہ یہود کہا کرتے تھے کہ اس قسم  
 کے مقتول کی روح شیطان کے پاس چلی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ واقعہ صلیب کے بعد مسیح علیہ  
 السلام کی روح میرے پاس چلی آئی تو اس سے رفع روحانی ثابت ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے  
 نزدیک علودرجہ کا موجب ہے۔ چونکہ قرآن کو اہل کتاب کے خیالات فاسد کی تردید منظور تھی۔ اس  
 لئے لفظ لفظ سے ان کے خیالات کو باطل کیا: ”السی ہناتم کلام المرزائیة نقلًا من کتاب  
 حقیقت الوحی وغیرہ!

### الجواب ..... مرزائیوں کی دوسری دلیل کا جواب

اقول: جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ صریحاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ  
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع جسم کے اٹھائے گئے۔ اس آیت میں مرزائیوں کی تاویل کا میدان  
 بالکل کوتاہ ہے۔ اس آیت سے اتنے امور ثابت ہوتے ہیں: (اولاً)..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا  
 مقتول و مصلوب نہ ہونا۔ (ثانیاً)..... یہودیوں کو اس واقعہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل  
 و شاخت کی بابت شبہ پیدا ہو جانا اور ان کا شک میں پڑ جانا۔ (ثالثاً)..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا  
 مع جسد کے آسمان پر اٹھایا جانا۔

مرزائیوں کو پہلے امر سے انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سولی چڑھائے گئے اور تین ساعت  
 تک وہ اس پر آویزاں رہے۔ چونکہ سولی پر مرے تو نہیں بلکہ شش آ گیا تھا۔ معالجہ کے بعد صحت  
 پا کر یہودیوں سے چھپ کر رہنے لگے اور پھر ہندوستان کی طرف چلے آئے۔ مگر قرآن مجید سے یہ  
 مطلب کسی طرح سے ثابت نہیں ہو سکتا جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کو مسیح کا صلیب پر چڑھنا  
 مقبول نہ ہوگا اور نہ ایسا کسی مسلمان کو عقیدہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے  
 گئے۔ ان کا یہ کہنا کہ صلیب دیا جانا یہودیوں کے نزدیک طعن کا موجب تھا۔ بالکل غلط اور لغو ہے۔  
 قرآن شریف سے ثابت ہے کہ انبیاء کا مقتول ہونا عار کا باعث نہیں ہے۔ کیونکہ تواریت کے زمانہ  
 میں بھی اکثر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مقتول ہوئے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بدتر طور پر انبیاء کو نبی  
 اسرائیل نے قتل کیا ہے اور یوں تو یہودیوں کے طعن سے اب تک حضرت مسیح علیہ السلام سبکدوش

نہیں ہوئے۔ حالانکہ آیت: ”انسی متوفیک“ ان کی تطہیر کے باب میں نازل ہوئی ہے اور تطہیر سوائے رفع جسمانی کے ممکن نہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں یہ جو تحریر کرتے ہیں کہ صلیب موت سے بچ کر اور صلیب کے زخموں سے شفاء پا کر ۸۷ برس زندہ رہے اور اپنے وطن سے پوشیدہ طور پر نکل کر ملکوں کی سیر کرتے ہوئے نصیحتیں میں آئے اور وہاں سے افغانستان پہنچے اور ایک مدت تک اس جگہ جو کہ نعمان کہلاتا ہے اس کے قریب سکونت پذیر رہے۔ اس کے بعد پنجاب میں آئے اور ہندوستان کا بھی سفر کیا اور غالباً بنارس اور نیپال میں بھی پہنچے۔ پھر پنجاب کی طرف لوٹ کر کشمیر کا قصد کیا اور کوہ سلیمان پر ایک مدت تک عبادت کرتے رہے اور وہیں رہے۔

اقول: یہ باتیں کسی طرح نقل صریح اور شرع سے ثابت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں عزیز و حکیم فرمایا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت مسیح کو اتنی معصیت اور تکلیف جھیلی پڑی کہ بے چارے دار پر چڑھے۔ زخموں کی تکلیف اٹھائی اور وطن چھوڑنا پڑا۔ اس سے موت ہزار درجہ بہتر واہلی ہے اور چالیس دن تک جراحات کی تکلیف اٹھانا موت سے سخت تر ہے۔ کیونکہ جان تھوڑی سی دیر میں نکل جاتی ہے اور یہ عجیب ہے کہ مرزا قادیانی پوری بیرونی نہ تو قرآن کی کرتے ہیں نہ اناجیل کی اور نہ احادیث کی۔ کچھ واقعات اناجیل سے، کچھ قرآن سے اور کچھ احادیث سے لے کر اپنی رائے و مرضی کے موافق ایک فرضی سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے نہ وہ تمام و کمال اناجیل سے ملتا ہے۔ نہ قرآن و احادیث سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کچھ ادھر سے لیتے ہیں۔ کچھ ادھر سے اس طرح اپنی تاویلات کو پھیلاتے ہیں۔ قرآن نے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مقتول اور مصلوب ہونے کی نفی کی ہے۔ واقعہ صلیب کا قرآن سے ثبوت کب پہنچتا ہے۔ خداوند کریم اس آیت سے دو چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ ایک حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل ہونے کی۔ دوسرے ان کو مصلوب ہونے کی۔ قتل عام ہے جو ہر طرح کی موت کو شامل ہے۔

پس قتل نے ہر طرح کی موت کی نفی کی۔ چونکہ پھر بھی شک باقی تھا کہ مقتول نہ ہوئے ہوں۔ مصلوب ہوئے ہوں اور ان کو صلیب پر چڑھانے کی سزا ملی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کی بریت ثابت کی: ”ماصلبوه“ صاف پکار کر کہتا ہے کہ وہ صلیب کے صدمے سے ہر طرح امن میں رہے۔ سولی دینے کے لئے مرنا شرط نہیں۔ پس مرزا کا یہ کہنا کہ ”ماصلبوه“ سے سولی پر چڑھنے کی نفی نہیں ہوتی بلکہ مرنے کی نفی ہوتی ہے۔ یہ کہنا بالکل لغت کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ دار چڑھا کر مرنے سے قتل اتار لئے جاتے اور ”ماصلبوه“ سے صرف اس بات کی نفی مقصود

ہوتی کہ وہ دار پر مرنے نہیں پائے تو ”ماقتلو“ کا لفظ بے جا ہوتا۔ کیونکہ دوسری قسم پر حضرت مسیح علیہ السلام کے مقتول ہونے کا شبہ اہل کتاب کے عقائد میں ہرگز نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت: ”وجیہا فی الدنیا والآخرۃ“ فرمایا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ان کو دار پر نہیں چڑھایا گیا۔ اگر صرف دار پر چڑھائے جاتے تب بھی ان کی وجاہت جاتی رہتی اور جھوٹے الزام سے وجاہت میں فرق نہیں آسکتا۔

ہاں! الزام صحیح البتہ ذلت کا سبب ہے اور یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے کہ نبی کو غیر وجیہ جانا جائے یا غلط طور پر خدا اس کو وجیہ فرمائے۔ اور فرمایا: ”مطہرک من الذین کفروا“ یعنی تجھ کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے یہ بھی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ کفار کے جس ہاتھ ان تک نہ پہنچے ورنہ تطہیر نہیں ہو سکتی اور تطہیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کفار کے الزام سے پاک کیا۔ کیونکہ الزامات کفار سے ان کو جھولے میں بولنے اور مردوں کو زندہ کرنے سے پاک کر دیا ہے۔ بلکہ یہاں تطہیر سے مراد یہودیوں کے مکروکید سے حفاظت جان کے موقع پر بچایا جاتا ہے اور یہ مراد نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے خیالات فاسدانہ سے قرآن پاک نے تطہیر کی۔ کیونکہ قرآن شریف کی تطہیر کو یہود نہیں مانتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت قرآن سے کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ بلکہ ماننا پڑے گا کہ تطہیر سے مراد قتل اور صلیب کے حادثے سے بچانے کا دوسرا امر یعنی یہود کے شبہ میں پڑ جانے کی نسبت جو تفصیل مرزا نیوں نے لکھی ہے۔ اس پر دلائل اسلام سے کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ انجیل اور اس کی تفسیر کی باتیں درج کر دی ہیں اور ”شبه لهم“ سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہودیوں کے سامنے کوئی دوسرا آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت پر ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا۔ کیونکہ اگر یہ جائز ٹھہرے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت پر کر دیتا ہے تو اس سے سسطے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لئے کہ ہم نے زید کو دیکھا۔

پس یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید زید نہ ہو کوئی اور شخص ہو کہ اس کی صورت زید کی سی ہو۔ اس صورت میں نہ طلاق کا نہ نکاح کا نہ ملکیت کا اعتبار ہے گا۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اس سے تو اثر میں نقصان لازم آتا ہے۔ اس لئے کہ خبر متواتر سے علم کا قاعدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ وہ محسوس پر منتہی ہو اور جب کہ محسوسات میں یہ شبہ پڑ گیا تو متواترات پر بھی اعتبار نہ رہے گا اور اس سے تمام شرائع میں خرابی واقع ہو جائے گی اور اس سے انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر طعن لازم آتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ صورت کے بدلنے سے اصول بگڑتا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں۔ اس امر میں جو طریق بہت متکلمین کا مختار ہے یہ ہے کہ یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھالیا۔ سرداران یہود کو عوام میں فتنہ پیدا ہونے کا خوف ہوا۔ اس لئے ایک آدمی کو پکڑ کر قتل کیا اور سولی دے دی اور لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے۔ لوگ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرہ شناس نہ تھے۔ صرف نام ان کا سنتے تھے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے میل جول کم رکھتے تھے۔ اس لئے ان کو یقین آ گیا اور نصاریٰ کی طرف سے اگر اس بات کا دعویٰ پیش ہو کہ ہم کو اپنے بزرگوں سے تو اتر کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالضرور مصلوب ہوئے تو یہ خبر متواتر ان کی اس لئے نامعتبر ہے کہ اس کا تو اتر تھوڑے سے آدمیوں پر منتہی ہوتا ہے۔ جن کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ صحیح نہیں۔ انہوں نے کذب پر اتفاق کر لیا ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ”شبه لهم“ سے یہ مراد نہیں کہ کسی اور شخص کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہوگئی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ شبہ ڈالا آسمان کے لئے۔ وہ شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھائے گئے تو سرداران یہود نے دانستہ طور سے ایک غیر آدمی کو عوام کے دھوکا دہی کی غرض سے سولی دے دی۔ تیسری بات یعنی رفع جسمانی کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر یہ مراد نہ لی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے تو غور کرنا چاہئے کہ نہ صرف روح قتل ہوتی ہے نہ محض جسم بلکہ دونوں مقبول ہوتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ نہ ان کو صلیب دی ہے اور صلیب بھی روح مع الجسم کو دی جاتی ہے۔ نہ دونوں میں سے ایک ایک کو۔ بعد اس کے فرمایا: ”وماقتلوه یقیناً بل رفعه اللہ الیہ“ یہاں بھی قتل کا محتاج روح و جسم کا مجموعہ ہے ان میں سے ہر ایک تمہا اور ضمائر ماقتلوه و ماصلیوہ بل رفع اللہ کا مرجع ایک ہے۔ پس ازر دئے علم و انصاف ماننا پڑے گا مسیح علیہ السلام کو یہودیوں کے قتل کرنے اور صلیب دینے سے بچا کر آسمان پر اٹھالیا۔ فصاحت و بلاغت اور قواعد عربی اس بات کے تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کیونکہ کلمہ بل کے اول میں جو کلام متضاد ہوتا ہے۔ وہ محقق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔

مرزائیوں کی تیسری بولیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ثبوت میں

پیش کرتے ہیں

”اذقال اللہ یعیسیٰ ابن مریم اننت قلت للناس اتخذونی وامی“

الھین من دون اللہ۔ قال سبحانک ما یكون لی ان اقول مالیس لی بحق۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم مافی نفسی ولا اعلم مافی نفسک۔ انک انت علام الغیوب۔ ما قلت لهم الا ما مرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔“ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تو آدمیوں سے کہتا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو خدا، سوائے خدا کے سمجھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا:۔ تیری ذات پاک ہے مجھ کو یہ لائق نہیں کہ وہ بات کہوں جو میرے لائق نہیں ہے۔ اگر میں نے کہا کہ تو وہ چیز جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے۔ اور میں وہ نہیں جانتا ہوں جو تیرے نفس میں ہے۔ تحقیق تو غیب کا جاننے والا ہے۔ ان سے میں نے وہی کہا ہے جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے اور ان پر میں گواہ تھا جب تک ان میں تھا اور جب کہ تو نے مجھ کو موت دئی تو تو ان پر نگہبان ہے اور تو ہی سب پر گواہ ہے۔

اقول: ”آیت کریمہ میں لفظ ”توفیتی“ واقع ہے مرزائی اس کے معنی موت کے لیتے ہیں اور تا سید اس کی بخاری شریف کی حدیث جو ابن عباسؓ سے حشر کے بارے میں مروی ہے۔ کرتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا: ”فاقول كما قال البعد الصالح وکنت علیہم شہیداً ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم“ یعنی میں کہوں گا جیسا کہ بندہ صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان میں تھا۔ ان کے حال سے واقف تھا اور جب تو نے مجھ کو ان میں سے اٹھالیا تو تو ان کا نگہبان اور ان کے حال سے واقف ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ یہ سوال و جواب عالم برزخ میں واقع ہوئے۔ اگر حشر میں ان کا واقع ہونا مانا جائے گا تو درست نہ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے حضرت محمد ﷺ نے تو اپنا جواب لفظ مضارع کے ساتھ دیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ ماضی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے اول حساب لے کر اس کے بعد سرور کائنات بلائے جائیں گے تاکہ مسیح علیہ السلام کے مطابق جواب دیں اور ایسا کسی عالم نے نہیں کہا ہے اور نہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ (اتھی کلام المرزائیہ)

### الجواب مرزائیوں کی تیسری دلیل کا جواب

اقول: مرزائیوں نے اس آیت سے استدلال غلط طوط پر وجہ کیا ہے اور اس کے معنی موت کے لئے ہیں۔ جو خصوصاً صریحہ اور احادیث صحیحہ اور آئمہ سلف و خلف کے خلاف ہے۔ یہاں

بھی ”توفیتنی“ کے لغوی معنی مراد ہے۔ پورا لیتا اور غرض اس سے آسمان پر اٹھالیتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث سے: ”قال العبد الصالح“ ”میغہ ماضی کے ساتھ آیا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ”قال“ کے ماضی ہونے سے استدلال کرنا محض ضعیف ہے۔ اول تو اس لئے کہ ماضی بمعنی مضارع بکثرت قرآن پاک میں وارد ہے۔ ”ونفخ فی الصور۔

واشرقت الارض۔ وضع الكتاب۔ جی بالنبیین۔ قضی بینہم وغیر ذلک“

پس قال بمعنی یقول یعنی مضارع کے معنی میں ہے۔ چنانچہ شواہد اس کے صحیح بخاری میں

بھی موجود ہیں۔ رہا یہ امر کہ ماضی سے کیوں تعبیر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ

نے جو اپنی حکایت بیان فرمائی کہ میں قیامت میں اس طرح کہوں گا۔ اس بیان سے پہلے صحابہؓ

آیت سن چکے تھے: ”ان تعذبہم فانہم عبادک“ پس متقاضی بلاغت کا ہوا کہ حکایت کے ماضی

ہونے کا بمنزلہ محکی عنہ کے ماضی ہونے کے ظہر کر میغہ ماضی استعمال فرمایا۔ یا یوں کہا جائے کہ

قیامت کے دن حضرت ﷺ علیہ السلام کا یہ قول پہلے ہو چکا گا۔ پھر ہمارے حضور ﷺ کا یہ قول

صادر ہو گا تو حضور کے قول کے وقت چونکہ وہ قول ماضی ہو چکا ہے اس لئے میغہ ماضی سے تعبیر فرمایا

۔ اگر آیت مذکورہ میں: ”توفیتنی“ کے معنی موت کے لئے جائیں گے۔ تو بڑی غلطی و خرابی پڑ

جائے گی۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کا عقیدہ نصاریٰ میں مسیح کے

مصلوب ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ اور یہ عقیدہ یہود سے نکلا ہے اور مرزا قادیانی کے زعم کے

مطابق حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب سے ۸۷ سال کے بعد مرے ہیں۔ کیونکہ ۳۰ برس کی عمر

میں ان کو نبوت اور کار تبلیغ رسالت عنایت ہوا۔ تین برس تک تبلیغ فرمائی تھی کہ واقعہ صلیب پیش

آیا۔ تو مرزا انہوں کے عقیدہ کے موافق ”توفیتنی“ کے معنی ہوں گے کہ جب کہ تو نے مجھے واقعہ

صلیب سے مار ڈالا تو ان پر تکہبان تھا۔ گویا حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کے واقعہ سے مرے

ہیں۔ ۸۷ برس کے بعد نہیں مرے ہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ ان آدمیوں میں پیدا ہوا تھا۔ جو قبل واقعہ

صلیب کے مسیح سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ مسیح علیہ السلام ملک شام سے

نکل کر افغانستان اور پنجاب اور ہندوستان اور شہر بتارس اور نیپال اور کشمیر میں آ کر تبلیغ کرنے لگے

تو یہاں کے رہنے والوں میں تو ذرا بھی نصرانیت کے آثار زمانہ قدیم میں نہیں تھے اور نہ اب تک

نصرانیت کے آثار کچھ زیادہ ہیں۔ بلکہ ہندو مذہب کا غلبہ ہے اور نہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے۔

بلکہ بعد میں ہوئے تاکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ مسیح کی موت کے بعد یہ لوگ الوہیت مسیح علیہ السلام کے

معتقد ہو گئے۔ یہ عقیدہ تو بلا دشام کے آدمیوں میں تھا: ”مادمت فیہم“ اور ”فلما توفیتنی“ بالکل باہم متصل ہیں۔ پس جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں تھے۔ وہ زمانہ صلیب کے واقعہ کا تھا۔ اس کے بعد مسیح علیہ السلام ان میں سے چلے آئے۔ پس یا تو موت کو صلیب کے ساتھ ہی ماننا پڑے گا یا: ”توفیتنی“ کے معنی موت کے نہ لئے جائیں گے۔

فرقہ مرزائیہ کی چوٹی دلیل کہ توفی موت کے معنی میں ہے

مرزائی اپنے زعم باطل کے لئے احادیث و لغات سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ

ابن سعد سے مروی ہے: ”ما توفی اللہ نبیاً الا دفن حیث یقبض روحہ“ یعنی انبیاء جس مقام پر مرتے ہیں، وہیں دفن ہوتے ہیں۔“ اور ابن عباس سے مروی ہے: ”ان النبی ﷺ بکفی وبکفی اصحابہ حین توفی سعد بن معاذ“ یعنی سعد بن معاذ جب مرے تو حضرت اور آپ کے اصحاب روئے۔

الجواب ..... مرزائیوں کی چوٹی دلیل کا جواب

جواب اس کا یہ ہے کہ ”توفی“ جب موت کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ قرینہ معنی موت کے لئے موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ احادیث مستدلہ مرزائیہ میں بعد لفظ ”توفی“ کے لفظ ”دفن“ اور لفظ ”بکفی“ کا قرینہ موجود ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے۔ وہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے۔ اس لئے حقیقی معنی لینا ضرور ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح مع الجسد کے اٹھائے گئے اور وفات نہیں پائی۔ اگر ”توفی“ بمعنی اخذ اشیء بالتمام کے ہو۔ جیسا کہ بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں اور اس بناء پر ”توفی“ بمعنی مفہوم رفع عیسیٰ مع الجسد والروح ہوگا۔ تب تو ظاہر ہے کہ کوئی اشکال نہیں اور اگر بمعنی وفات ہی لیا جائے تو ممکن ہے کہ قبل رفع تھوڑی دیر کے لئے آپ کو وفات دی گئی ہو اور پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے ہوں۔ جیسا کہ بعض سلف اس کے بھی قائل ہوئے ہیں۔ چنانچہ: ”الثانی متوفیک ای ممیتک وهو مروی عن ابن عباس ومحمد بن اسحاق قالوا والمقصود ان لا یصل اعداء من الیہود الی قتله ثم انه بعد ذلك اکرمہ بان رفعه الی السماء ثم اختلفوا علی ثلثة اوجه احدھا قال وہب توفی ثلث ساعات ثم رفع، ثانیھا قال محمد بن اسد ’ق توفی سبع ساعات ثم احياء اللہ تعالیٰ ورفعه الثالث قال الربیع بن انس انه تعالیٰ توفاه حین رفعه الی السماء“ بہر حال میٹک کے ساتھ تفسیر کرنا بھی کسی طرح منکر رفع کو مفید نہیں اور نہ رفع جسمانی کے منافی ہے۔



## قبر یوز آسف کی تحقیق

اور مرزا قادیانی یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ایک قبر ہے جسے یوز آسف نبی اور شہزادہ نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہزادہ نہ تھے۔ پھر کس طرح شہزادہ مشہور ہو سکتے ہیں اور نہ یوز آسف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ یوز آسف جمہور بن دیو جہاں بن ہوشنگ پرسیا تک بن گیومرز بن آدم اور بقولے ہوشنگ بن قرداء بن سیا ملک بن میث بن گیومرز بن آدم کا ہم عصر تھا اور اعلیٰ درجہ کے حکماء ایران سے ہوا ہے۔ اسی نے کواکب پرستی کا رواج دیا تھا اور کواکب پرستی کو معبود حقیقی کی عبادت سمجھتا تھا۔ جیسا کہ آثار الباقیہ اور دوسری کتب تواریخ میں مذکور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تھے نہ ایرانی اور اس سے زمانہ دراز کے بعد گزرے ہیں: ”کما لا یخفی علی من بطالع کتب التواریخ“ دوسری بات یہ ہے، یوز آسف یوسف کا تغیر بلفظ عیسیٰ یا یسوع کا تغیر تلفظ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ عجب نہیں کہ کوئی صاحب یوسف ہوں ان کی قبر ہو۔ جس کو یوز آسف بھی کہنے لگے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد والہامات و پیشین گوئیوں پر نظر غور

مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے سے انبیاء کی شان میں تنقیص لازم آتی ہے۔ ختم نبوت کا ابطال اور ضروریات دین کا انکار ہوتا ہے۔ جو درود سلام قرآن مجید حضور انور ﷺ کے واسطے خاص کرتا ہے۔ وہ مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور آپ کے دوست رضی اللہ عنہم لکھے جاتے ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی (ازالہ ادہام ص ۶۹۱، خزائن ج ۳ ص ۴۷۲) میں لکھ بیٹھے ہیں کہ: ”جو حقائق قرآن وحدیث (یا جوج ماجوج ابن مریم، وابت الارض، وجال، خردجال وغیرہ) کا علم مجھے دیا گیا ہے وہ رسول خدا ﷺ کو نہیں تھا۔“ اور مرزا قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ: ”میں حضرت امام حسینؑ سے بہتر ہوں۔“

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے برتر ہوں۔“ (دافع البلاء ص ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

ان کی جماعت والوں کی تو یہاں تک تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے باورچی خانہ اور پانچخانہ بھی بنانا پڑا ہوگا۔ اس سے ان کی بہشت ہی میں بھیج دیا ہوتا کہ نجاری کا کام کرتے۔

حضرات ناظرین! یہ سوہ او بیان مرزا یہ جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے تئیں کس صلیب کی پشیمین گوئی کا مورد اس استدلال کی بناء پر قرار دیتے تھے کہ انہوں نے وفات مسیح کے مسئلہ پر روشنی ڈال کر عیسائیوں کے خدا کو مردہ ثابت کر دیا ہے۔

اقول..... اگر بھی وجہ مرزا کے مامور من اللہ ہونے کی ہے تو پھر سر سید احمد خان کو اس پشیمین گوئی کا مصداق کیوں نہ سمجھا جائے جو مرزا قادیانی سے بہت پہلے اس مسئلہ پر اپنی فطری قابلیت سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنے خیال میں یورپ کی صلیب بھی توڑ دی ہے اور اسلام کا پوز اعلیٰ کر دیا ہے اور قرآنی احکام یورپ کی عدالتوں میں نافذ کر دیئے ہیں۔ حالانکہ غور کیا جائے تو ان کے برعکس رہا سہا اقتدار بھی مسلمانوں کا یورپ ہضم کر کے اپنا مشن عیسائیت پھیلانے کا قائم کر چکا ہے اور صرف یورپ ہی نہیں بلکہ شاید ہی دنیا میں کوئی علاقہ ایسا ہوگا جس میں عیسائی مشینری نہ پہنچی ہو۔ برخلاف اس کے اسلام کا یورپ بھر میں باقاعدہ ایک مشن اب تک نہیں۔ پھر غلبہ کیسا۔ یورپ میں اس وقت جو کچھ اسلام پھیلا ہے۔ اول تو وہاں قتل ہی سے تبلیغی آثار اسلامی باقی تھے۔ اس کے علاوہ مسٹر امیر علی صاحب مرحوم کی چند معرکہ آرا کتب تواریخ نے زیادہ توحید اسلام کو روشن کیا۔ جس کے باعث کچھ اور مسلمان ہوئے۔ مرزائیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کے مشن نے یورپ میں تبلیغ اسلام کیا۔ اول تو حقیقی معنی میں ان کی یہ تبلیغ اسلام نہیں ہے۔ بلکہ یہ فرقہ بندی، نفاق و گمراہی کی شاخ ہے۔ کیونکہ اول اصول اسلام نبوت کا ماننا ہے۔ مگر مرزائی سرے سے نبوت و خاتم پیغمبران حضرت محمد ﷺ کے منکر ہیں۔

لہذا ان کی تبلیغ و دیگر اقوام دہر سے زیادہ وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاسکتی اور نہ ہی اس کو تبلیغ اسلام کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کا مشن مرزا قادیانی کو نبی ماننا ہے۔ خاتم النبیین محمد ﷺ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ماننا یہ اعتقاد کو ذوالہ اہل اسلام کے نزدیک باعث انکار ختم نبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ کمال الدین وغیرہ نے مرزائیت کو چمپا کو خالص اہل سنت والجماعت کے مسلک و مشرب کی تبلیغ یورپ میں شروع کر دی ہے۔ لندن وغیرہ میں مرزائیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جو باخبر حضرات پر حتمی نہیں۔ اقول مرزا قادیانی اور ان کے قلعین نے صرف ایک مسئلہ وفات مسیح اور آدھ مسیح پر زور خرچ کر دیا ہے اور اس ایک مسئلے کے متعلق کتابوں پر کتابیں، رسالوں پر رسالے

لکھے چلے جاتے ہیں اور باقی اجزاء اسلام کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر انصاف پذیر دل نے کفرور کیا جائے تو سرسید قانون فطرت و نیچر کی حمایت میں مسیح علیہ السلام کو مارتے ہیں۔ مرزا قادیانی اس لئے ان کی ہلاکت کے درپے تھے کہ اسامی خالی ہو اور ہمیں ملے۔ مرزا قادیانی کو معلوم نہیں کیا لعل لگ گئے ہوئے تھے کہ اسلام کی حیات کا دار و مدار صرف ان کی ذات پر منحصر تھا جو آج تیرہ سو سال کے بعد پیدا ہوئے اور بقول مرزا قادیانی کے اللہ نے ان سے فرمایا کہ جس طرف تیرا منہ ہے اسی طرف میرا منہ ہے اور تو میری مراد ہے۔ (کتاب البریہ ص ۷۶، ۷۷، خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۱، ۱۰۲) یہ نہایت گستاخانہ کلمات ہیں جو حقیقت الہی و غیرہ میں موجود ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید کو نور اور حیات بخش فرماتا ہے اور مرزائی اس کو مردہ تعلیمات اور بے اثر کلام قرار دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر قرآن مجید کی اور توہین نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ کہ مرزا قادیانی کے مانے پر نجات منحصر ہے۔ ایسا عقیدت ہے کہ اس سے ساری خدائی باطل ٹھہرتی ہے۔ کیونکہ ربوبیت باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ جس قدر کسی شے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی قدر رب العالمین نے وہ چیز زیادہ عام کی ہے۔ تمام قوانین رحمت و مغفرت ایک مرزائی کے تابع ہوئے۔ خداوند عالم اور اسلام کی توہین اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے قرآن اور اسلام کی ہدایت کے مطابق عمل صالح کرنا اور بدی سے بچنا موجب نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ تاہنیکہ مرزا کو ساتھ ساتھ نبی نہ مانا جائے۔ مرزا قادیانی نے اہل اسلام پر سب سے زیادہ بڑھ کر ظلم یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کو حکم عام دے دیا ہے اور تحریر کر گئے ہیں کہ وہ باقی تمام مسلمانوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور نہ ان کے جنازے اور نماز وغیرہ میں شامل ہوں اور نہ انہیں السلام علیکم کہیں۔

جیسا کہ حقیقت الہی اور ان کے خلیفہ کی کتاب انوار خلافت ص ۹۲ میں ہے۔ مرزا قادیانی کا الہام یہ ہے کہ: ”خدا مجھ سے ہے اور میں خدا سے ہوں۔“ (حقیقت الہی ص ۷۳، خزائن ج ۲۲ ص ۷۷) ”اور اگر خدا مجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان وزمین کو نہ پیدا کرتا۔“

(حقیقت الہی ص ۹۹، خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۲)

حالانکہ خاتم النبیین سرور کائنات محمد ﷺ کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا اور یہ جو مشہور ہے: ”لولاک لما خلقت الافلاک“ یہ حدیث موسومہ ہے۔ اسے حدیث قدسی

قراردینا اور آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں۔ گو مصباح ہے۔ جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تحفہ اثناء عشریہ وغیرہ میں تصریح کی ہے۔ پادریوں کی پہیلی ایک میں تین اور تین میں ایک کے حل کرنے میں اتنی وقت نہیں جتنی مشکل مرزا قادیانی کے معمار اراہام : "انت منی وانامنک" کے سلجھانے میں پیش آتی ہے۔ امور ان الہی مبعوث ہو کر ایک ہی مرکز پر ٹھہرتے ہیں اور لوگوں کو دائرہ ہدایت میں لاتے ہیں۔ کوئی ان میں سے اپنے نصب العین کو چھوڑتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔

مرزا قادیانی کہیں عیسیٰ ہیں اور کہیں مثل مسیح۔ کہیں مہدی ہیں کہیں کرشن، مرزائی اسلام نے لوگوں کے دلوں سے رہے سبے ایمان کی جڑ کھوکھلی کرنی شروع کر دی لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس لئے کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں اور الہامات پڑھ پڑھ کر غور پسندوں میں کیا یہ نہیں گزرتا ہوگا کہ جب اس ہوشیاری اور روشنی کے زمانہ میں اچھے اچھے نوجوانوں کی عقل مار کر معتقد بنانے والے اور کلمہ پڑھانے والے چالاک آدمی ہو گئے تو حضرت محمد ﷺ کے زمانے کے سیدھے سادے لوگوں کا چہرے میں لے آنا کیا ہی مشکل ہوگا۔ ان کے معجزات و پیشین گوئیاں بھی اپنے وزن اور حقیقت کی ہوں گی۔

مرزا قادیانی نے بڑے شہدود سے دعویٰ کیا تھا کہ میرا ایک عورت (محمدی بیگم) سے نکاح ہونا ضرور ہے۔ جو آسمان پر ان سے پڑھا جا چکا ہے۔ مگر وہ بی بی باوجود ہزار کوششوں کے ان کے نکاح میں نہ آئیں۔ بلکہ اسی زمانہ میں ایک دوسرے شریف انسان کی بی بی ہوئیں۔ مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ اب آسمانی منکوحہ کے ملنے کی کوئی امید نہیں تب انہوں نے حقیقت الوحی میں لکھ دیا کہ خدا جس خبر اور وعدے کو چاہے پورا کرے اور جس کو چاہے باطل کر دے۔ اس پیشین گوئی کے پورا ہونے سے قبل مرزا قادیانی نے ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ کو لاہور میں عارضہ ہیضہ یا دورہ گرہ سے انتقال کیا۔

(الذوالہام داربعین نمبر ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶) میں مرزا قادیانی کا الہام یہ ہے کہ میری عمر ۸۰ سال کی ہے۔ مرزا قادیانی کی سوانح عمری جو ان کے خاص مرید نے (مصلح معصی ج ۲ ص ۶۳۶) میں لکھی ہے۔ اس میں سال پیدائش ۱۸۳۹ یا ۱۸۴۰ء لکھا ہے۔ اس حساب سے مرزا قادیانی کی عمر ۶۹ یا ۶۸ سال ہوتی ہے اور قاضی فضل احمد نے اپنی کتاب کلمہ فضل رحمانی میں

قرآن کی آیت: ”الافى الفتنة سقطوا“ کے اعدادِ جمل سے ۱۶۵۹ء سال پیدائش نکالا ہے۔ اس حساب سے مرزا قادیانی کی عمر صرف ۶۷ سال کے قریب ہوتی ہے۔ جس پر مرزا قادیانی کو بھی اعتبار ہے۔ (برکات الدعائے ج ۳، خزائن ج ۶ ص ۳) پر بھی مرزا قادیانی نے اپنی عمر ۵۲ سال تحریر کی ہے۔ جو کہ ۱۸۹۳ء میں چھپی تھی۔ اس طرح سے بھی ان کی عمر ۶۷ سال کی بنتی ہے اور مرزا قادیانی کے الہام سے جو رجسٹری جائیداد مندرجہ کتاب فضل رحمانی میں مندرج ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر ۹۵ سال کی بڑی جدوجہد و تکرار و اصرار سے ہاتھ پائی کر کے ایک صاحب قبر کی دعا سے منظور کرائی تھی۔ مگر یہ سب باتیں لغو ثابت ہوئیں اور بہت سی پیشین گوئیاں مرزا قادیانی کی موت سے باطل ہو گئیں۔ مثلاً:

.....۱ ”مولوی ثناء اللہ میری زندگی میں فوت نہ ہوا تو میں دجال اور کذاب ہوں۔“

(اشہار مرزا قادیانی مورخہ ۱۱۵ اپریل ۱۹۰۷ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸)

.....۲ ”ڈاکٹر عبدالحکیم میری آنکھوں کے رو برو اصحابِ قیل کی طرح پوست و نابود ہو جائے گا۔“

(تبرہ مورخہ ۵ نومبر ۱۹۰۷ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۹۱)

.....۳ ”عالم کباب کی پیدائش جس کے پیدا ہوتے ہی تمام عالم کے لئے تباہ ہو جاتا تھا اور پھر مرزائیوں کی فتح اور خوشی ہوتی تھی۔“

(الحکمہ جون ۱۹۰۸)

.....۴ ”دو خواتین مبارکہ تیری نکاح میں آئیں گی۔ جن کو تو نصرت جہاں بیگم کے بعد پائے گا اور ان سے تیری نسل بکثرت ہوگی۔“

(اشہار مرزا قادیانی مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء، مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۰۲)

ان پیشین گوئیوں کے وقوع میں آنے سے جو شتر ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو چل دیئے۔ مرزا

قادیانی کے اولد الہامات و پیشین گوئیاں بقدر ضرورت ان کے مصنفہ کتب سے نقل کئے گئے ہیں۔

نظر غور فرمائیں کہ مرزا نے علمائے اہل سنت و الجماعت کو جن الفاظ میں اپنی زبان و

تصانیف میں یاد کیا ہے۔ اس سے زیادہ گندے الفاظ سے کسی انسان کو میسر نہیں آسکتے۔ چنانچہ

ملاحظہ فرمائیے۔ - اعجاز احمدی وغیرہ میں (۱) خبیث (۲) شیطان (۳) مصل (۴) کذاب

(۵) ناری (۶) غوی (۷) جہل (۸) احمق (۹) شقی (۱۰) ذیب (۱۱) ملائین (۱۲) اشرار لام

(۱۳) نمان (۱۴) دجال مفتری (۱۶) ادہاش بے ایمان (۱۷) بے حیا (۱۸) کلب وغیرہ وغیرہ

جس کی انتہا نہیں۔

مرزا قادیانی کے کشفی حالات از کتاب حقیقت الوحی وغیرہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ”ایک رات کشفی حالت میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا۔ مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے۔ اس نے مجھ کو ایک جگہ لٹا کر میری آنکھیں نکالیں اور صاف کیں اور میل و کدورت ان میں سے پھینک دی اور ہر ایک بیماری اور کوتاہی کا مادہ نکال دیا اور مصفا لور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا۔ مگر بعض مواد کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس کو ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح بتا دیا ہے اور یہ عمل کر کے پھر فرشتہ غائب ہو گیا۔“  
(تزیان القلوب ص ۹۵، خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۲)

اور مرزا قادیانی اس کشفی حالت سے بیداری کی طرف منتقل ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ایک بار مجھ پر کشفی طور پر دکھایا گیا کہ: ”میں نے بہت سے احکام قضاء و قدر کے الہی دنیا کی نیکی و بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے لکھے ہیں اور پھر تمثیل کے طور پر میں نے خدا کو دیکھا اور وہ کاغذ جناب باری تعالیٰ کے آگے رکھ دیا کہ وہ اس پر دستخط کر دے۔ سو خدا نے سرفخی کی سیاہی سے دستخط کر دیئے اور قلم کی نوک پر جو سرفخی زیادہ تھی۔ اس کو جھاڑ دیا۔ اس کے قطرے میرے کپڑوں پر پڑے جن کو میں نے بہ چشم خود دیکھا۔“

(حقیقت الوحی ص ۲۵۵، خزائن ج ۲۲ ص ۲۶۷)

دیگر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ”میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ میں نے بشیر داس کھتری کے نوشتہ قضا و قدر کی نصف قید کو اپنے قلم سے کاٹ دیا۔ مگر بری نہیں کیا۔“

(سراج منیر ص ۳۱، ۳۲، خزائن ج ۱۲ ص ۳۷)

”ایک بار کشف میں دیکھا کہ تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں۔“ (تذکرہ ص ۶۷ طبع سوم) ایک نبی کی شان اور یہ گندی نسبت ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“  
دیگر قول مرزا کشفی الہام ”ایک بار حالت کشف میں اللہ کی روح ان پر غالب ہو گئی اور اس نے اپنے وجود میں مرزا قادیانی کو پنہاں کر لیا اور انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ نئے نظام اور نئے آسمان اور نئی زمین کے پیدا کرنے پر قادر نہیں پھر انہوں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا۔  
الی آخرہ“ (تذکرہ ص ۱۹۰، ۱۸۹، طبع سوم)

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ ایک بار مجھ کو خدا نے مخاطب کر کے فرمایا: ”یلاش“ خدا کا نام ہے۔ یہ ایک نیا الہامی نام ہے اور لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن وحدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا۔ اس کے معنی مجھ پر یہ کھولے گئے کہ: ”یلا لا شریک“ (تذکرہ ص ۷۹ طبع سوم) ”الہام میں بارہا میرا نام ابراہیم رکھا ہے۔“ جیسا کہ (براہین احمدیہ کے ص ۵۶۱، خزائن ج ۱ ص ۶۷۷ حاشیہ در حاشیہ) میں الہام ہے: ”سلام علی ابراہیم صافیناہ..... الخ“

### مرزا قادیانی کے لغو خیالات و بے معنی دعویٰ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ”قرآن کریم میں مسیح کے جو معجزات ہیں وہ مسریم ہیں۔“ (ازالہ ص ۵۰، خزائن ج ۳ ص ۵۰۴ فص) مرزا قادیانی اپنی دعا کے ضمن میں خدا سے خطاب کرتے ہیں۔ ”تو نے ہی اسی چودھویں صدی کے سر پر مجھے مبعوث کیا اور فرمایا کہ اٹھ کہ میں نے تجھے اس زمانہ میں اسلام کی صداقت پوری کرنے کے لئے اور اسلامی سچائیوں کو دنیا میں پھیلانے کے لئے اسلام کو زندہ اور قوی کرنے کے لئے چنا ہے اور تو نے ہی مجھ سے کہا کہ تو میری نظر میں منظور ہے۔ میں اپنے عرش پر تیری تعریف کرتا ہوں تو نے ہی مجھے فرمایا کہ تو وہ مسیح موعود ہے جس کے وقت کو ضائع نہیں کیا جائے گا اور تو نے ہی مجھے مخاطب کر کے کہا تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید اور تو نے ہی مجھ سے فرمایا کہ تو میری درگاہ میں وجیہ ہے۔ (حقیقت الہوی ص ۸۰، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰۶) میں نے اپنے لئے تجھے اختیار کر لیا۔ (حقیقت الہوی ص ۸۲، خزائن ج ۲۲ ص ۷۰۹)

اقول خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اول اول دعویٰ مجددیت کا کیا۔ پھر ظلی طور پر مسیح موعود ہوئے۔ پھر مردی مسیح موعود بن گئے۔ جب ترقی ہوئی تو حضور اقدس ﷺ کے ظل ہو گئے۔ اسی اثناء میں مہدی، حکم، کاسر الصلیب، امام الزمان وغیرہ وغیرہ بنتے رہے۔ حتیٰ کہ کرشن ہونے سے بھی نہ چکے۔ شدہ شدہ ان کے لئے یہاں تک بڑھی کہ اصلی مسیح موعود ہو گئے۔ جب کہ دعویٰ بھی فیاضی کے ساتھ ان کی جماعت نے تسلیم کر لیا تو پھر حضرت مسیح سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔

مرزا قادیانی کا شعر ملاحظہ ہو:

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دائع البلاص ۲۰، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

جب خوش اعتقادوں نے اس پر بھی اف نہ کی تو مرزا قادیانی تھے آدمی ہوشیار۔ انہوں نے خیال کیا کہ جب مصدقین اس بری طرح اپنی عقلوں کو ہم اور ہمارے کلام پر شکار کر رہے ہیں تو اب کوئی کسراٹھار کھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ چنانچہ انہوں ان کی ضرورت کے مطابق ان کو فوراً الہام ہوا:

”انت منیب بمنزلة ولدی“ (حقیقت الہی ص ۸۶، جزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

لڑکے بننے کے بعد اب خدائے تعالیٰ کے ہاں بے تکلف دوستی ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے رسالہ (ضرورت الامام ص ۱۳، جزائن ج ۱۳ ص ۲۸۳) میں لکھ دیا ہے کہ: ”خدا تعالیٰ اس عاجز سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے روشن چہرہ سے اتار دیتا ہے اور میں اپنے تئیں ایسا پاتا ہوں کہ گویا مجھ سے ٹھٹھا کر رہا ہے۔“

اقول..... جب ٹھٹھے بازی کی نوبت پہنچ گئی تو اب برابر کی دوستی میں کیا شبہ رہا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی عین خدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ الحکم مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۵ء میں مرزا قادیانی کا الہام لکھا ہے: ”انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون“ اور (حقیقت الہی ص ۱۰۵، جزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) میں بھی ہے۔

اقول: مرتبہ: ”کن فیکون“ حاصل ہونے کے بعد ان میں اور خدائے تعالیٰ میں کیا فرق رہا؟ نعوذ باللہ!

دیکھئے پیارے ناظرین سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کا خاتمہ کہاں ہوا۔ پھر لطف یہ ہے کہ اس کے بعد مجددیت کے پردے کی آڑ لیتے رہے اور مثیل مسیح موعود اور مثیل مصطفیٰ ﷺ اپنے کو لکھتے رہے۔ غرض کہ مرزا قادیانی اپنی تحریرات کے بموجب خدا بھی تھے۔ خدا کی اولاد بھی تھے اور خدا کے دوست بھی تھے۔ کرشن بھی تھے۔ مہدی بھی تھے۔ مجدد بھی تھے۔ مسیح بھی تھے اور علی نبی بھی تھے اور نامعلوم کیا کیا تھے۔ ان پر ایمان لانا بھی فرض تھا۔ کیونکہ نبی تھے اور بالکل فرض نہ تھا۔ کیونکہ صرف مجدد تھے۔ غرض کہ مرزا قادیانی سب کچھ تھے اور کچھ نہ تھے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ!

خاتم پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

خاتم پیغمبران علیہ الصلوٰۃ والسلام باعتبار اہل ملت اسلام ایک سے زیادہ نہیں اور نہ



ہوسکتا ہے اور وہ صرف ذات پاک حضرت احمدؑ کی ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی یا رسول بحیثیت نبی یا رسالت نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے محل کی ہے کہ تمام مکان تیار ہوا۔ صرف اس میں ایک اینٹ کی کمی تھی۔ پھر اس محل کے گرد دیکھنے والے پھرنے لگے اور وہ اس دیوار کی خوبی سے تعجب کرتے تھے۔ مگر اس اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ سو میں نے اس اینٹ کی جگہ جو خالی تھی بند کر دی۔ میرے ساتھ دیوار ختم ہو گئی اور میرے ساتھ رسول ختم کئے گئے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں ہی نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں اور بہت سی حدیثیں اس باب میں آئی ہیں۔

علامہ محدث قاضی عیاض (شفا شریف) میں انہیں نقل کیا ہے بوجہ خوف تطویل صرف حوالہ پر اکتفا کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے۔ وہ بھی بعنوان رسالت نازل نہ ہوں گے۔ بلکہ دین محمدی ﷺ کے تابع ہوں گے اور اسی دین محمدی کو رواج دیں گے۔ باوجودیکہ وہ نبی ہیں اور اپنی نبوت پر باقی ہیں اور اس سے کچھ نقصان نہیں ہوا اور نہ کوئی شریک آنحضرت ﷺ کا نبوت و رسالت میں ان کے زمانہ میں تھا اور آئندہ کوئی نیا نبی مبعوث ہو سکتا ہے اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ہے: ”مَلِكًا مُحَمَّدًا ابًا أَحَدًا مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“

”اقول والخاتم اسم الة لما يختم به كالطابع لما يطبع به فمعنى خاتم النبيين الذي ختم النبيون به وما له اخر النبيين وقال المبرد خاتم فعل مامن على فاعل وهو في معنى ختم النبيين فالنبيين منصوب على انه مفعول به وليس بذاك وقراء الجمهور وخاتم بكسر التاء على انه اسم فاعل اي الذي ختم النبيين والمراد به اخرهم. ايضاً وفي حرف ابن مسعود ولكن نبيا ختم النبيين والمراد بالنبى ما هو اعم من الرسول فيلزم من كونه صلة الله عليه واله وسلم ختم النبيين والمراد بكونه عليه اصوله والسلام ختمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في احد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلوة والسلام بها في هذه النشأة ولا يقدح في ذلك ما اجتمعت الامة عليه

واشتهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوي ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكر كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان لانه كان نبيا قبل تحلى نبينا ﷺ بالنبوة في هذا النشأة ومثل هذا يقال في بقاء الخضر عليه السلام على القول بنبوته وبقاءه ثم انه عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال لكنه لا يتعبد بها لنسخها في حقه وحق غيره وتكليفه باحكام هذه الشريعة اصلا وفرعا فلا يكون اليه عليه السلام وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة لرسول الله ﷺ وحاكما من حكام ملته بين امته بما علمه في السماء قبل نزوله من شريعة عليه الصلوة والسلام كما في بعض الآثار او ينظر في الكتاب والسنة وهو عليه السلام لا يقصر عن رتبة الاجتهاد المؤدى الى استبناط ما يحتاج اليه ايام مكثه في الارض من الاحكام وكسره الصليب وقتله الخنزير ووضعه الجزية وعدم قبولها مما علم من شريعتنا صوابيته في قوله ﷺ ان عيسى ينزل حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، كما في الصحاح فتروله عليه السلام غاية لاقرار الكفار ببذل الجزية على تلك الاحوال ثم لا يقبل الا الاسلام لانسخها قاله شيخ الاسلام ابراهيم اللقاني في هداية المرید الجوهرية التوحيد وقوله انه عليه السلام حين ينزل باق على نبوة السابقة لم يعزل عنها بحال لكنه لا يتعبد بها الخ احسن من قول الخفاجي الظاهر ان المراد من كونه على دين نبينا عليه الصلوة والسلام وكذلك يتقدم لامام الصلوة مع المهدي ولا اظنه غنى بالانسلاخ عن وصف النبوة والرسالة عزله عن ذلك بحيث لا يصح اطلاق الرسول والنبي عليه السلام فمعاذ الله ان يعزل رسول اونبي عن الرسالة او النبوة بلا كاد لا تعقل ذلك لعله اراد انه لا يبقى له وصفات بلوغ الاحكام عن وحى كما كان له قبل الرفع فهو عليه السلام نبي رسول قبل الرفع وفي السماء وبعد النزول وبعد الموت ايضا وبقاء النبوة والرسالة بعد الموت في

حقہ وحق غیرہ من الانبیاء والمرسلین علیہم السلام حقیقۃ ما مذہب الیہ غیر وواحد فان المتصف بہما وکذا بالایمان ہوا الروح وہی باقیۃ لاتتغیر بموت البدن نعم ذہب الاشعری کما قال النفسی الی انہما بعد الموت باقیان حکما وما افادہ کلام اللقانی من انہ علیہ السلام یحکم بما علم فی السماء قبل نزولہ من الشریعۃ قد افادہ السفارنبی فی البحور الزاخرۃ وهو الذی امیل لہ واما انہ یجتہد ناظر فی الکتاب والسنتۃ فبعید وان کان علیہ السلام قد اوتی فوق ما اوتی مجتہدو الامم بما یتوقف علیہ الاجتہاد بکثیر ان قد ذہب معظم اہل العلم الی انہ حین ینزل یصلی وراء المہدی صلاۃ الفجر وذلك الوقت بضیق عن استنباط ما تضمنتہ تلك الصلوۃ من والاقوال والافعال من الکتاب والسنتۃ علی الوجه المعروف نعم لا یعدان یكون علیہ السلام قد علم فی السماء بصفاء وکل الی الاجتہاد والاخذ من الکتاب والسنتۃ فی بعض اخر و قبل انہ علیہ السلام یاخذ الاحکام من نبینا صلی اللہ علیہ وسلم شفاہا بعد نزولہ وهو فی قبرہ الشریف علیہ الصلوۃ والسلام واید بحديث ابی یعلی والذی نفسی بیہدہ لی نزلن عیسے ابن مریم ثم لئن قام علی قبری وقال یا محمد لا جیبتنہ وجوز ان یكون ذلك بالاجتماع معہ علیہ الصلوۃ والسلام روحانیۃ ولا بدع فی ذلك فقد وقعت رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ بغير واحد من الکاملین من ہذہ الامۃ والاخذ منہ یقظۃ قال الشیخ سراج الدین بن الملقن فی طبقات الاولیاء قال الشیخ عبدالقادر الکیلانی قدس سرہ رايت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظهر فقال لی یابنی لم لاتتکلم النخ والروایۃ طویلة“

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ لیکن وہ خداوند تعالیٰ کے رسول اور سب نبیوں کی مہر ہیں کہ ان پر پیغمبری ختم ہوئی۔ ان کے بعد اور کوئی پیغمبر نہ ہوگا اور بہت سے احادیث بھی اس پر شاہد ہیں۔ مرزا قادیانی نے لاہور کے وعظ میں اپنے انتقال کے دن سے قبل اپنی نبوت کے ثبوت میں کہا تھا کہ کیا خدا بڑھا ہو گیا ہے؟ مر گیا ہے؟ یا اس کے قومی محفل ہو گئے ہیں کہ وہ

اب حسب عادت سابقہ نبی پیدا نہیں کر سکتا؟ اقول بالفرض واقعہ یہ جیسا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا یا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوگا۔ تو ان کے پہلے کتنے مجدد آئے اور ان کے نام کیا ہیں؟ یا نبی آئے تو مرزا قادیانی کے پہلے کتنے نبی آئے اگر نہیں آئے اور یقیناً نہیں آئے تو آج تیرہ سو برس کے بعد مرزا قادیانی قادیان میں کہاں سے نبی پیدا ہوئے۔ اگر مرزا قادیانی کا استدلال برائے چندے صحیح مان لیا جائے تو آخر اس عرصہ طویل میں کیوں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا؟ ”ہا برہانکم ان کنتم صادقین والانما اللہ والی علیکم من الملک المتعال واللہ علی ما قول وکیل“ مرزا قادیانی کی یہ گستاخانہ تقریر و کفریہ کلمات ہیں۔ خداوند تعالیٰ بقول ان کے نہ مرا ہے نہ اس کے قومی معطل ہوئے ہیں۔ مگر وہ وعدہ کر چکا ہے کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ بھیجے گا۔ اس لئے اب اگر نبی پیدا کرے تو اللہ کے کلام میں کذب لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ ”وما علینا الا البلاغ۔“

مرزا غلام احمد قادیانی علیہ مایستحیہ کے عقائد و باطل

ہم یہاں مرزا قادیانی کی کتابوں سے ان کے اقوال، باطل اور عقائد مشتمل نمونہ ازخودارے نقل کرتے ہیں۔ جو وہ عوام الناس میں چھوڑ گئے ہیں۔ جس سے مرزا قادیانی کا گمراہ ہونا روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گا۔ نیز اس امر کی بھی توضیح و تشریح ہو جائے گی کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ صرف نبوت کا ہی نہیں بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں تمام انبیاء و رسل کے افضل ہوں۔ یہ اقوال ایسے بدیہی الابطال ہیں۔ جس پر رد و قدح کی ضرورت نہیں۔ اس لئے صرف ان کے الفاظ نقل کر دینے پر اکتفا کیا گیا۔

۱..... مرزا قادیانی کا اپنی وحی پر قرآن شریف کی طرح ایمان لانا: ”جبکہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور قرآن کریم پر، تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کی عظیماں بلکہ موضوعات کے ذخیرے کو سن کر اپنے یقین کو چھوڑ دوں، جس کی حق القین پر مانتا ہے۔“ (اربعین نمبر ص ۱۹، خزائن ج ۷ ص ۳۳۳)

۲..... مرزا قادیانی کا اپنے الہامات پر قرآن شریف کی طرح ایمان لانا: ”میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن کریم کو نبی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو نبی جو میرے پر نازل ہوا ہے۔“ (حلیات الوبی ص ۱۱۱، خزائن ج ۳ ص ۱۳۰)

۳..... دعویٰ نبوت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت کا دعویٰ: ”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور ان کا نام غلام احمد رکھا۔“ (دافع البلاء ۱۳، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳) ”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں، وہ ہرگز نہیں کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں، وہ ہرگز نہ دکھلا سکتا۔“ (حقیقت الوحی ص ۱۳۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲)

۴..... کھلے کھلے الفاظ میں نبوت کا دعویٰ: ”میں نبی ہوں اور اس امت میں نبی کا نام میرے لئے مخصوص ہے۔“ (حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶) سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ (دافع البلاء ۱۱، خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

۵..... دیگر انبیاء پر فضیلت کا دعویٰ: ”کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستانا ہمارے نبی ﷺ کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے۔“ (تحریر حقیقت الوحی ص ۱۳۶، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۷)

۶..... مرزا قادیانی کا خدائی دعویٰ: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہو ہوا اللہ ہو گیا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ بنی ہوں۔ پھر میں نے زمین و آسمان پیدا کیا۔“

(آب حیات اسلام ص ۵۶۳، ۵۶۵، خزائن ج ۵ ص ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۶۷)

۷..... مرزا قادیانی کا جیٹن آنا: ”باذیالی جیٹن چاہتا ہے کہ حیرا جیٹن دیکھے، جھٹھ میں جیٹن دیکھو۔ پھر ہو گیا ہے، اور ایسا چھوڑو بھولو لہ اطفال اللہ کے ہے۔“

(تحریر حقیقت الوحی ص ۱۳۳، خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

۸..... مرزا قادیانی کا اٹل بیت پر حملہ: ”پوانی طاقت کا جھڑوا چھوڑو، اب نبی طاقت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔ اس کو چھوڑو، ہو اور مردہ علی کی طاقت کرتے ہو۔“

(اخبار القلم نمبر ۳، جلد ۳، سورہ ۱۰، الومبر ۱۹۰۰، طوٹا ج ۱ ص ۲۰۰، تاریخ جدید)

کر بلا بیست میرزا آثم صد حسین است در گریانم  
(القلم نمبر ۱۹۰۳، بڑول ج ۱ ص ۹۹، خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

- ۹..... توہین انبیائے کرام: ”بلکہ اکثر پیشین گوئیوں میں ایسے اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں کہ خود انبیاء کو بھی جن پر وہ وحی نازل ہو سبھ میں نہیں آسکتے۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۴۰، خزائن ج ۳ ص ۱۷۱)
- ۱۰..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ناپاک حملہ اور آپ کے اجداد و جدات کی سخت توہین: ”آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین داویاں اور تینائیاں آپ کی زنا کار اور کبھی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، آپ کا کبھیوں سے میلان شاید اس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے۔ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کبھی کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ ان کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدہ عطر اس کے سر پر ملے۔“ (حاشیہ حیدرآباد ج ۱ ص ۲۹۱)
- ۱۱..... حضور سرور عالم ﷺ کے معراج جسمانی سے انکار: ”نیا اور پرانا فلسفہ بالاتفاق اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس جسم خاکی کے ساتھ کرۂ زمہریر تک بھی پہنچ سکے۔ پس اس جسم کا کرۂ ماہتاب و آفتاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۲۷، خزائن ج ۳ ص ۱۲۶)
- ۱۲..... قرآن شریف میں سخت زبانی: ”قرآن شریف جس بلند آواز سے سخت زبانی کے طریقے استعمال کر رہا ہے، ایک نہایت درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔“ (ازالہ اوہام ص ۲۵، خزائن ج ۳ ص ۱۱۵ حاشیہ)
- ۱۳..... قرآن شریف کا نزول قاریان میں: ”انا انزلنا قریبا من القادیان۔“ (حاشیہ ازالہ اوہام ص ۳، حاشیہ خزائن ج ۳ ص ۱۳۸)
- ۱۴..... قرآن شریف کے معجزات مسمریزم ہیں: ”قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مردے زندہ ہو گئے تھے۔ جیسے وہ مردے زندہ ہو گئے تھے۔ جیسے وہ مردہ جس کا خون نبی اسرائیل نے چمپا لیا تھا۔ جس کا ذکر ”واذا اقتلتم“ کی آیت میں ہے کہ اس گائے کے گوشت کی بوٹیوں سے جس کے ہاتھ سے متول کے جسم پر لگنے سے زیادہ ہو گیا تھا یا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس قصہ سے واقعی ظہور زندہ ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ صرف دھمکی تھی تاکہ چور بے دل ہو کر اپنے تئیں ظاہر کر دے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق عمل الترب یعنی مسمریزم کا ایک شعبہ تھا۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۸ تا ۵۰، خزائن ج ۳ ص ۵۰۳، ۵۰۴)
- ۱۵..... حضرت مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے: ”محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۵، خزائن ج ۳ ص ۳۳۳)
- ۱۶..... دجال سے مراد پادری ہیں: ”مسح دجال جس کے آنے کی انتظار تھی۔ یہی پادریوں کا گروہ ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۹۶، ۳۹۷، خزائن ج ۳ ص ۳۶۵)

۱۷..... ریل گاڑی دجال کی سواری یا گدھا ہے: ”وہ گدھا دجال کا اپنا ہی بنا یا ہوا ہوگا، پھر اگر وہ ریل نہیں تو اور کیا ہے۔“  
(ازالہ صفحہ ۶۸۵، خزائن ج ۳ ص ۳۷۰)

۱۸..... یا جوج ماجوج درحقیقت کوئی چیز نہیں: ”یا جوج ماجوج سے دو قوتیں انگریز و روس مراد ہیں اور کچھ نہیں۔“  
(ازالہ ص ۵۰۲، ۵۰۸، خزائن ج ۳ ص ۳۷۳)

۱۹..... آفتاب قرب قیامت میں مغرب سے نہیں نکلے گا: ”مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی آفتاب سے منور کئے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔“  
(ازالہ ص ۵۱۵، خزائن ج ۳ ص ۳۷۷، ۳۷۶)

۲۰..... مرزا قادیانی کا فتویٰ، مرزائیوں کی نماز دوسرے مسلمانوں کے پیچھے صحیح نہیں: ”اس لئے کہ وہ اس لائق نہیں کہ میری جماعت سے کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ کیا زندہ مردہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پس یاد رکھو جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے اوپر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی ملکر اور مکذب اور متردد کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ وہی تمہارا امام ہو جو تم میں سے ہو۔“  
(تحدہ گلازویہ ص ۸۱، اربعین نمبر ۳ ص ۲۸، حاشیہ، خزائن ج ۱ ص ۴۷)

۲۱..... غیر مرزائیوں سے مناکحت حرام ہے: ”میرے مرید کسی غیر مرید سے لڑکی نہ بیٹھا کریں۔“  
(فتاویٰ احمدیہ ص ۷، خزائن ج ۲ ص ۱۶۷)

۲۲..... مرزا قادیانی کا ملکر کافر ہے: ”میرا ملکر کافر ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲ ص ۱۶۷)

### خاتمہ مفیدہ درمہدی و مسیح علیہما السلام

جو شخص خالی الذہن ہو کر ان احادیث کو جو حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی شان میں وارد ہیں۔ یا اگر اصل احادیث نہ سمجھ سکے تو ترجمہ فارسی یا اردو منکلوۃ شریف میں ان ابواب کو فہرست میں صفحہ دیکھ کو نکال کر ترجمہ ان کا دیکھے گا۔ وہ یقین کے ساتھ سمجھ لے گا اور اس کے نزدیک کا معائنہ متیقن ہو جائے گا کہ ابھی تک ان صفات و علامات کا مصداق ظاہر نہیں ہوا اور کھینچ تان کر کسی کا مصداق بن جانا یا مانا دینا تو تمام شریعت مطہرہ سے امن و اطمینان انشاء دیتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کے احتمالات تو نصوص صلوٰۃ و زکوٰۃ میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور ملاحظہ نے نکالی بھی ہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ اعمال میں تو ان احتمالات کو فاسد و باطل قرار دیا جائے اور عقاید میں

ان کو صحیح و حق سمجھا جائے۔ مختصی تدین و تقویٰ کا تو یہ ہے کہ غرض نفسانی و ہوا پرستی کو چھوڑ کر نظر حق طلبی سے کتاب و سنت کو دیکھ کر عقاید و اعمال میں ان کا اجماع کیا جائے۔ ورنہ غلبہ ہوائے نفسانی سے حق ہرگز واضح نہیں ہوتا۔

باقی رہا مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اگر کاذب ہوتا تو میں اب تک ہلاک کر دیا جاتا اور اس باب میں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: ”ولو تقول علينا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمن ثم لقطعنا منه الوتین، فمانکم من احد عنہ حاجزین (الماعز: ۳۳-۳۴)“ میں کہتا ہوں کہ اس آیت میں اگر مراد مطلق ”تقول“ ہے تو تمام کفار اپنے کفر و شرک میں مقبول علی اللہ ہیں۔

چنانچہ ظاہر ہے اور قرآن مجید میں بھی ان کو مقبول علی اللہ کہا گیا ہے: ”واذا افعلوا افاحشة قالوا وجدنا علیہا اباہنا۔ واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لایامر بالفحشا اتقولون علی اللہ ما لا تعملون (الاعراف: ۲۸)“ (وغیر ذلک) حالانکہ بہترے ان کے ہلاک نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی شان میں جا بجا اس قسم کی آیتیں فرمائی گئی ہیں: ”سنستدرجہم من حیث لایعلمون، واملی لهم ان کیدى متین (الاعراف: ۱۸۳، ۱۸۴) قل من کان فی الضللة فلیمدد له الرحمن (مریم: ۷۵)“

پس یہ تو یقیناً ثابت ہو گیا کہ مطلق تقول مراد نہیں۔ کوئی خاص تقول ہے۔ پھر یہ کہ وہ خاص کیا ہے۔ سو ظاہر ہے کہ جس دعویٰ کے باب میں یہ آیت آئی ہے۔ یعنی نبوت کے دعویٰ جو حضور ﷺ نے کیا اور جس حالت میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یعنی اس وقت شریعت کی تکمیل نہ ہوئی تھی اور اس لئے دلائل شرعیہ سے ایسے امور میں اتمام حجت نہ ہو سکتی تھی۔ ویسا ہی دعویٰ اور اسی حالت کی مراد ہے۔ پس حاصل آیت کا یہ ہوا کہ جو شخص ایسے وقت میں کہ اور حج شرعیہ سے لوگوں کا التباس رفع نہ ہو سکے۔ نبوت کا دعویٰ کرے۔ وہ بمقتضائے حکمت و رحمت خداوندی کے خلق گمراہ نہ ہو ضرور ہلاک کیا جائے گا۔ سو اگر اب کوئی شخص تقول کرے اول تو وہ نبوت کا دعویٰ اگر بالفرض کوئی ایسا بھی کرے جیسا کہ مرزا قادیانی نے، تو بوجہ تکمیل اصول و فروغ شرعیہ کے اس پر بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور لوگوں کو بھی بوجہ وضوح دلائل شرعیہ کے التباس و اشتباہ واقع نہیں ہو سکتا۔ پس ایسا ”تقول“ مستلزم ہلاک نہیں ہے۔ جب ہلاک لازم ہی نہیں تو اس کی نفی میں ”تقول“ کی نفی پر استدلال کرنا باطل ہے۔ پس یہ دلیل بھی گاؤ خورد و باطل ہے۔ واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم!